خزینۃ الاسرار



گنجینہ مجربات





مولفہ

مولانا احمد علی بن شاہ دوست
پنجگوری

بلیمہ تعالیٰ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ پ۱۵ بنی اسرائیل ع۹

خزینۃ الاسرار

مجربات علماء و مشائخ

معالجات روحانی و طبی پر مشتمل ایک نادر کتاب

جس میں ہند و پاک کے اکابرین علماء و مشائخ کے خصوصی عملیات مجربات اوراد و وظائف اور مجرب تعویذات کا نادر مجموعہ۔ زندگی کی اہم ضرورتوں سے متعلق مکمل مدلل جسمانی اور روحانی امراض کا شافی و کافی علاج۔ علاوہ ازیں مؤکلین عاملین کا ملین جنات کے مجربات بھی شامل کر دیئے گئے ہیں۔ غرضیکہ بے شمار کتب عملیات کا لب لباب ہے۔

مؤلفہ

مولانا احمد علی بن شاہ دوست بنجگوری

خلیفہ مجاز مرشد عالم حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی چکوال والے و خطیب مکی مسجد و مقیم میکران المعروف بلوچ سٹیشن بلدیہ ٹاؤن نیو سلطان آباد منگھوپیر کراچی

ناشر: المکتبۃ الحبیب نیو سلطان آباد منگھوپیر کراچی

جملہ حقوق غیر محفوظ ہیں

نام کتاب	خزینۃ الاسرار، مجرباتِ علماء و مشائخ
مؤلف	مولانا احمد علی پنجگوری
بار اول	شوال المکرم ۱۴۱۲ھ
صفحات	۴۸۸
مطبع	ایجوکیشنل پریس کراچی
سرورق	عبد الرؤف
ناشر	المکتبۃ الحبیب
کتابت	عیسٰی سربازی
قیمت	

ملنے کے پتے

۱- المکتبۃ الحبیب دکھنی مسجد پاکستان چوک کراچی

۲- ایجوکیشنل پریس پاکستان چوک

۳- المعہد العلمی مفتاح العلوم سوردو پنجگور بلوچستان

19 ذی الحجہ ۱۴۳۴ھ بمطابق 25 اکتوبر 2013ء بروز جمعۃ المبارک، مولانا احمد علی پنجگوری، منبر رسول پر دورانِ خطبہ، حرکت قلب بند ہونے سے وصال ہوا۔

انا للہ و انا الیہ راجعون۔

فہرست مضامین مجرباتِ مشائخ

حصہ اول

عملیات و تعویذاتِ مولانا احمد علی پنجگوری

خلیفۂ مجاز مرشدِ عالم حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی مجددی قدس سرہ

تعارف

خزینۃ الاسرار مجربات علماء و مشائخ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

امابعد

اس کتاب کا نام خزینۃ الاسرار مجربات علماء و مشائخ رکھا گیا ہے جو قرآن و حدیث کے علاوہ بھی متعدد کتب بلکہ پچپن کتب کا لب لباب ہے جس میں (۱) حیوٰۃ الحیوان مصنفہ علامہ دمیریؒ (۲) مجربات امام غزالی (۳) مجربات امام سیوطی (۴) آکام المرجان فی غرائب الاخبار واحکام الجان مصنفہ قاضی بدرالدین (۵) شمس المعارف مصنفہ علامہ بونیؒ (۶) اصلی جواہر خمسہ کامل مصنفہ قدوۃ الکاملین حضرت شیخ محمد غوث گوالیاریؒ (۷) فتاویٰ شامی مصنفہ علامہ شامیؒ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ غرضیکہ خزینۃ الاسرار مجربات علماء و مشائخ عملیات کے مشہور و معروف خورد و کلاں کتب کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ خزینۃ الاسرار تین حصوں پر مشتمل ہے اور تینوں حصوں کو یکجا کر کے ایک حسین و جمیل جلد میں بند کر دیئے ہیں ویسے ہر حصہ الگ بھی دستیاب ہے۔ تینوں حصوں کا مختصر تعارف ملاحظہ فرمائیں

(۱) حصہ اول بنام مجربات مشائخ جس میں اکابر علماء دیوبند کے ممتاز ترین شخصیتوں کے مجربات قلمبند کر دیئے گئے ہیں۔ اسی طرح علماء باطن مشائخ عظام کے مجربات بھی بطور تبرک شامل کر دیئے گئے ہیں۔

(۲) حصہ دوم کا نام گنجینۂ مجربات رکھا گیا ہے جس میں بڑے بڑے بزرگان دین عاملین کرام اور مشائخ عظام، علماء کرام کے روز آزمودہ ورد و وظائف و تعویذات کا تذکرہ ہے

(۳) حصہ سوم کا نام مجربات عاملین کاملین رکھا گیا ہے جس میں پاکستان کے ممتاز ترین عامل کامل محترم جناب محی الدین قریشیؒ کے روزمرہ کے زود اثر ورد و وظائف اور مجربات تعویذات جن کو انہوں نے بذریعہ مؤکلین جنات جمع کر دیئے تھے۔ عاجز واثیم از حضرت قریشی کے مجاز ہونے کے بعد ان مجربات کو جو ڈاکٹری اور طبی اصولوں کے مطابق تجویز کئے گئے ہیں کتابی شکل میں لانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ مجربات عاملین کاملین کے اندر انسانی جسم و جسد کے ہر ہر جزو کے امراض کیلئے الگ الگ ورد و وظائف اور شرعی تعویذات تجویز کر دیئے گئے اور بعض اعضاء و جوارح کی جائز تصاویر بھی دی ہوئی ہیں۔ دیگر ہر عضو کے علاج کے لئے کئی تعویذات تجویز کر دیئے گئے بلکہ تمام اعضاء و جوارح کے جمیع امراض کیلئے کئی تعویذات و وظائف کو نمبر واری سے درج کر دیئے گئے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اگر ایک نمبر کا تعویذ و وظیفہ تیر بہدف ثابت نہ ہو تو دو نمبر کا انشاء اللہ یقیناً تیر بہدف ثابت ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ضرورت پڑی تو دوسرا نسخہ تیسرا نسخہ الخ بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ چونکہ مؤکلین حضرات کے نمبر واری سے مجربات ہیں اسلئے انشاء اللہ تعالیٰ حتماً ان میں اثرات نمایاں طور پر پائے جائیں گے اس لئے علاج کا یہ طریقہ کار مؤکلین جنات کے نزدیک بہت ہی مشہور و معروف اور مقبول و مرغوب ہے۔ اول تو انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہی نسخہ سے تشفی اور تسلی ہوگی

اور دیگر نسخہ جات کے استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آیئگی۔ حضرت قریشی کی اس بیاض میں بلا ترتیب تھی عاجز راقم نے از ابتداء تا انتہا اس میں ترتیب قائم کی پھر آیتوں کی نشاندہی کر کے پارہ سورہ اور رکوع متعین کر دیئے اور موکلین جنات عاشقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلبر اور دلآویز عربی اشعار جو بیاض میں غلط سلط اور بے ڈھنگسا اور بلا ترتیب کے تحریر تھے ان تمام عربی اشعار کو راقم الحروف نے جمع کر کے صحیح اور درست کر دیئے جس کو حضرت قریشی صاحب دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت قریشی صاحب کی بیاض مٹ کر غائب ہوگئی اور مجھ سے ایک نقل طلب کی بندہ نے ان کے لیے ایک نقل بھیج دی، مگر دوبارہ معلوم ہوا کہ نقل کو بھی شیاطین نے مٹا دیا۔ الحمد للہ وہ بیاض عاجز کے پاس تااکنون بالکل محفوظ ہے۔ اور بار بار آپ نے اس بیاض کے چھاپنے کی خواہش ظاہر کی الحمد للہ ثم الحمد للہ عاجز راقم نے کافی اضافہ کے ساتھ بیاض مکمل کر کے اپنی ضخیم کتاب بنام خزینۃ الاسرار، مجربات علماء و مشائخ کا مستقل ایک جزء بنا دیا تاکہ مجربات مشائخ کی برکت سے اس کی افادیت پر چار چاند لگے اللہ تعالیٰ کی بڑی سپاس گزاری ہے کہ کتاب چھپ کر منظر عام پر پہنچ کر ہدیۂ ناظرین ہے۔ باری تعالیٰ سے دعاء ہے کہ وہ اس کتاب کو مؤلف اور قارئین کرام کی نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے

نوٹ: اس کتاب کے مضامین جمع کرتے وقت کامل وضوء کا اہتمام کیا گیا ہے لہٰذا بلا وضوء کے نہ کتاب کو ہاتھ لگانا مناسب اور نہ اس سے تعویذ لکھنا جائز۔ فقط

ملتمس دعاء:
مولانا حاجی احمد علی بن شاہ دوست پنجگوری
خلیفۂ مجاز مرشد عالم حضرت مولانا حافظ
غلام حبیب صاحب مدیر دار العلوم حنفیہ چکوال

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد

راقم عاجز واثیم اپنے حضرت شیخ، مرشد عالم حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی مجددی کے مجرب فرمودہ چندے ورد و وظائف اور اپنے اکابر علماء سلف کے مجرب عملیات و تعویذات و وظائف کو سپرد قلم کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے تاکہ امت مسلمہ کو سلف صالحین کے معتبر شدہ عملیات و وظائف سے فائدہ حاصل ہو جائے۔

ایک تو عام عاملین کے اوراد و وظائف، عملیات اور تعویذات ہوتے ہیں اور دوسرے علماء ربانیین کہ در حقیقت ظاہری اور باطنی طور پر عامل شریعت ہیں ان دونوں کے عملیات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو حضرات عامل شریعت نہیں ان کے تعویذات میں وہ قوت باطنی نہیں پائی جاتی جو عامل شریعت کے عملیات و تعویذات میں پائی جاتی ہے۔ باقی تعویذ و نقش بذات خود تاثیر نہیں رکھتے۔ ہاں حکم ربی ہوگا یقیناً اس میں اثر پایا جائیگا۔ اسلئے عامل ہمہ تن باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، عاجزی و انکساری کو اپنا شیوہ بنائے اور ساتھ ساتھ مریض کے حق میں دعا گو اور دعاء جو بھی ہو اور رضائے الٰہی ہر وقت مد نظر ہو، ہر قسم کے دعوے سے اجتناب کرے۔ صاحب نسبت ہونا ضروری ہے تاکہ قانع بن کر طمع و لالچ کے مرض سے محفوظ ہو۔ دیگر تعویذ لکھتے وقت حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا از حد ضروری ورنہ اثر نمودار نہ ہوگا۔ فقط دعا گو اور دعا جو

احمد علی بن شاہ دوست
خلیفۂ مجاز مرشد عالم حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مجرب عمل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ

اگر کسی کو کوئی مہم پیش آئے تو سورۂ یٰسٓ شریف پڑھیں اور ہر مُبین پر پہنچکر ستا بار سورۂ فاتحہ مع تسمیہ اول آخر درود شریف کیساتھ پڑھیں

مُجرّب عملیات وتعویذات

حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ

سابق مہتمم دار العلوم دیوبند

نقش برائے فتح مقدمہ وغیرہ بر دشمن وتسخیرِ حکام (بہت مجرب ہے)

۷۸۶

۸	۹۴	۹۷	۱
۹۶	۲	۷	۹۵
۳	۹۹	۹۲	۶
۹۳	۵	۴	۹۸

یا اللہ جل جلالہ بہ برکتِ این نقش ہر بلا دفع شود جملہ حکام مسخر شوند۔

برائے دردِ زہ (بچہ کی ولادت کے لئے)

یہ تعویذ لکھ کر عورت کے ہاتھ میں دیدے انشاء اللہ تعالیٰ فوراً بچہ پیدا ہوگا۔ وہ نقش یہ ہے

ز	ب
ھ	ط
ج	د

دیگر برائے ولادتِ طفل

ایک نقش لکھ کر حاملہ عورت کو کھلاوے انشاء اللہ تعالیٰ فوراً بچہ ہوگا۔

خَلَقَ النفس مِنَ النفس خَلَقَھَا وَالَّتِی مَافِی بَطنِھَا

بچہ کو ضد اور رونے سے باز رکھنے کا عمل

اس عبارتِ ذیل کو لکھ کر بچے کے گلے میں باندھیں انشاء اللہ تعالیٰ ضد، شرارت اور رونے سے باز رہے گا۔

ط ط ط ط ط ط ھی ھی ھی ھی ھی قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس یا سم فلان بن فلان

نوٹ: پہلے فلاں کی جگہ بچے کا نام اور ابن کے بعد فلاں کی جگہ بچے کے باپ کا نام لکھے

برائے عقیمہ (بانجھ)

(حصولِ اولاد کے لئے)

حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر اجودھنی رحمۃ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات کاغذ کے سات ٹکڑوں پر لکھے اور ہر روز ایک ٹکڑا کاغذ

شکر کے ساتھ باوضو بانجھ عورت کو کھلائے انشاء اللہ لڑکا ہوگا۔

سر جمع سر سر جمع	سر سر شر سر جمع

مجرب عملیات

حضرت الحاج سید عابد حسین صاحب دیوبندی

برائے فراخی رزق

مندرجہ ذیل عمل خلوص نیت اور حصول مقصد کے لئے تیر بہدف ہے لیکن اکلِ حلال اور صدقِ مقال، نیز ظاہری و باطنی طہارت ضروری ہے۔ درود شریف گیارہ مرتبہ، سورہ فاتحہ مع بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اکتالیس مرتبہ۔ بعد ازاں اکتالیس بار یہ دعا پڑھے یَا اللّٰہُ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لِیْ اَبْوَابَ رِزْقِكَ۔

مذکورہ دعا کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔

تعویذ برائے تپ ولرزہ (سردی کے بخار کے لئے)

ھاروت	ھاروت	گس	ل
ماروت	ماروت	مع	ف
۲۰۵۸	۷۸۶	یاشافی	یاکافی

یا شافی الامراض شفا عطا فرما مریض کو تپ ولرزہ وغیرہ سے

مندرجہ بالا تعویذ مریض کو اس طرح پہنایا جائے کہ اس کے گلے سے ملا ہوا رہے

عملیات

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتویؒ

برائے ادائے قرض

اَلَمْ نَشْرَحْ پوری سورۃ الکہف ایک مرتبہ بوقتِ مقررہ پڑھے انشاء اللہ قرض سے جلد خلاصی ہوگی۔

نقش برائے آسیب زدہ۔ ہاتھ میں یا گلے میں باندھے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۷۸۶ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۱	۱۴	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۱۳
۶	۹	۱۶	۳
۵	۴	۵	۱۰

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

۶۱۱۱۵ ۶۱۱ ۱۱

نقش برائے آسیب زدہ (بلانے کے لئے)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۶	۷	۲
۱	۵	۹
۸	۳	۴

وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

فتیلہ آسیب از منقولاتِ حضرت مولانا محمد اسحٰق صاحبؒ

جن فتیلوں سے آسیب جل جاتا ہے ایسے فتیلوں میں یہ عبارت بڑھا دینا چاہیے اگر نہ گریزد سوختہ شود

فرعون بے عون هامان شر مار
عاد ثمود نمرود ابلیس کلهم
فی النار

نقش برائے استحاضہ (لکھ کر پلائیں)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سلامٌ	قولاً	من	رب
قولاً	من	رب	رحیم
من	رب	رحیم	مشکل
رب	رحیم	مشکل	کشاید

نوٹ: جن فتیلوں سے آسیب جل کر راکھ ہو جاتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں ملاحظہ ہوں۔

فتیلہ آسیب زدہ مریض کے دھونی دینے کے لئے

فاما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادرٰک ماهیه نار حامیة

الله	العجل	١٩	١٧	٢٦	٨	٢٩	١	العجل	الله
باق	العجل	٢١	١١	١٤	٢٨	١٢	٦	العجل	باق
من	العجل	١٣	٢٢	١٦	٢٤	٧	١٠	العجل	من
کل	العجل	٢٧	٤	٣	٢٠	١٥	٥	العجل	کل
فان	العجل	١٦	٢	٩	١٨	٢٣	٢٥	العجل	فان

اس نقش کے فتیلہ کو نیلے رنگ کے سوتی کپڑے میں لپیٹ کر مریض کو بوقت گھبراہٹ دھونی دیں

برائے مسحور وجنّات۔ سات رات تک مندرجہ ذیل فتیلہ جلانا ہے

۷۸۶

١٦	٢	٣	١٣
٥	٧	٦	٨
٩	١١	١٠	١٢
٤	١٤	١٥	١

یہ نقش فتیلہ برائے بھوت، آسیب وغیرہ کے لئے کڑوے تیل و دیہ میں ڈال کر چراغ میں آسیب زدہ کے سامنے روشن کرے انشاء اللہ مریض صحت یاب ہوگا۔

مُجرّب عملیاتِ

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی قدس سرہٗ

بچوں کی بدخوابی، دودھ نہ پینا اور زیادتی گریہ سے نجات کیلئے

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ بچے کے گلے میں باندھیں

برائے ردِّ سحر

سُبْحَانَ اللهِ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْقَائِمُ الْكَافِي اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ

شَرِّ عَدُوٍّ وَهُوَ اَقْوٰى مِنِّيْ بِرَبٍّ هُوَ اَقْوٰى لِيْ مِنْهُ مریض خود اپنے اوپر دم کرلے یا
دوسرا پڑھ کر اس پر دم کردے تعداد ایک سو گیارہ بار بوقت دفع ہر بلا اور ردِ سحر
کے لئے بہت ہی نافع ہے۔

مرضِ لاعلاج کے لئے

سفید طشتری پر سورۂ فاتحہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یَا حَیُّ
حِیْنَ لَا حَیَّ فِیْ دَیْمُوْمَةِ مُلْکِهٖ وَبَقَائِهٖ یَا حَیُّ لکھا جائے
اور آبِ زمزم میں گھول کر قبل طلوعِ آفتاب چالیس دن متواتر
مریض کو پلایا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مریض کامل طور پر صحتیاب ہوگا۔

بے روزگاری یا قرض کی شکایت دور کرنے کیلئے

یَا مُغْنِیُ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے اول آخر گیارہ گیارہ بار
درود شریف پڑھے۔

مقدمہ وغیرہ کی پریشانی

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ بعد نمازِ عشاء پانچسو (۵۰۰) مرتبہ
روزانہ پڑھے۔

سنگین مقدمہ میں کامیابی کے لئے

کچہری یا عدالت میں جانے سے قبل تین یا سات مرتبہ سورۂ قریش
پڑھ کر سینہ پر دم کرے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اندر قدم رکھے
انشاء اللہ تعالیٰ مقدمہ میں کامیابی ہوگی۔

عملیات حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

ہر مقصد کے لئے یہ تعویذ

ہر مقصد کے لئے یہ تعویذ لکھ کر دیں
۵ ۱۱۱ ج ‡‡ ۱۱۱ ھ ٦

نقش برائے ہر مرض

نقش برائے ہر مرض حضرت مولانا رشید احمد
گنگوہیؒ و حضرت مولانا رفیع الدین صاحبؒ
ح ++ ۱۱۱۱ ھ ٦

۱۱۱۵

۸	۱۱	۱۴	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱٦	۹	٦
۱۰	۵	۴	۱۵

یہ نقش لکھ کر مریض کے گلے میں باندھیں

عملیات و تعویذاتِ
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہٗ

سر کا اور دانت کا درد اور ریاح کے لئے

ایک پاک تختی پر پاک ریت بچھا کر ایک میخ سے اس پر یہ لکھو
اَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّیْ اور میخ کو زور سے الف پر دباؤ اور درد والا

اپنی انگلی زور سے درد کی جگہ پر رکھے اور تم ایک دفعہ الحمد آخر تک پڑھو اور اس سے درد کا حال پوچھو اگر اب بھی درد ہو رہا ہو تو اسی طرح ب کو دبا وَ غرض ایک ایک حرف پر اسی طرح عمل کرو انشاء اللہ تعالے حروف ختم نہ ہونے پائیں گے کہ درد جاتا رہے گا۔ یہی عمل دیگر تمام اقسام کے درد کے لئے کارآمد اور شافی وکافی ہے

سر کا درد خواہ آدھا سیسی کا یا دوسری طرح کا

آیت ذیل لکھ کر درد کے موقع پر باندھ دیں بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰہِ (پوری سورت) لَا یُصَدَّعُوۡنَ عَنۡهَا وَلَا هُمۡ یُنۡزِفُوۡنَ اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنۡ شَرِّ کُلِّ عِرۡقٍ نَعَّارٍ وَمِنۡ شَرِّ حَرِّ النَّارِ۔

سر کے درد کی مجرب جھاڑ

ایک پرچہ پر بسم اللہ پوری لکھ کر اس کے نیچے موٹے قلم سے حرف (س) لکھے اور اس کے پہلے شوشہ پر میخ گاڑ کر کسی لکڑی سے بسم اللہ پڑھ کر سات مرتبہ اس میخ پر لکڑی مارے چند مرتبہ ایسا کرنے سے بہت نفع ہوگا۔ مجرب ہے

مرضِ ناسور کا علاج

اگر کوئی شخص مرضِ ناسور میں مبتلا ہو جو اکثر گلے میں ہو جاتا ہے اس کے علاج سے ڈاکٹر اور طبیب عاجز ہیں۔ اس کے واسطے عمل

ایک فقیر کا فرمودہ ہے بہت مجرب ہے وہ یہ ہے کہ اول کچی زمین پر مریض مصلّٰی بچھا کر سجدہ میں پڑ کر عجز و انکساری کے ساتھ بارگاہِ الٰہی میں دعا کرے اور پھر یہ اسماء بہت کثرت سے پڑھنا شروع کرے جس حالت میں بھی ہو بیٹھا ہو لیٹا ہو ہر وقت پڑھتا رہے انشاء اللہ تعالے چند روز میں خود بخود بہت نفع ہوگا۔ کئی آدمیوں کو اس سے نفع ہو چکا ہے وہ اسماء یہ ہیں

یَا اَللّٰہُ یَا رَحۡمٰنُ یَا رَحِیۡمُ

سانپ. بچھو یا بھڑ وغیرہ کا کاٹ لینا

ذرا سے پانی میں نمک گھول کر اس جگہ ملتے جائیں اور قُلۡ یٰۤاَیُّهَا الۡکٰفِرُوۡنَ پوری سورت پڑھ کر دم کرتے جائیں بہت دیر تک ایسا ہی کریں انشاء اللہ تعالے بہت ہی فائدہ ہوگا

باوٴلے کتے کا کاٹ لینا

آیت اِنَّهُمۡ یَکِیۡدُوۡنَ کَیۡدًا وَّاَکِیۡدُ کَیۡدًا فَمَهِّلِ الۡکٰفِرِیۡنَ اَمۡهِلۡهُمۡ رُوَیۡدًا تک ایک روٹی یا بسکٹ کے چالیس ٹکڑوں پر لکھ کر ایک ٹکڑا روز اس شخص کو کھلانا چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہڑک نہ ہوگی۔

ہر وقت بیداری کے لئے قرآنی ٹائم پیس

اگر وقتِ مقررہ پر اٹھنے میں دشواری ہو تو مندرجہ ذیل آیت ایک

مرتبہ پڑھ کر سو رہے (یہ عمل شب و روز دونوں کے لئے ہے) انشاء اللہ تعالیٰ وقتِ مقررہ پر ضرور بیدار ہوگا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ٥ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ٥ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ٥ پ ١٦ آخر سورۂ کہف ع ١٢

نوٹ: یہ ایک مرتبہ پڑھ لے جس وقت کو ذہن میں متعین کردیگا کہ وقتِ مقررہ پر بیدار ہوجاؤں انشاء اللہ سو فیصد یقینی طور پر ضرور بیدار ہوجائیگا۔

برائے سہولتِ نکاح

بعد نمازِ عشاء یَا لَطِيْفُ يَا وَدُوْدُ گیارہ سو گیارہ بار اول و آخر درود شریف چالیس روز تک متواتر پڑھے اور اس کا تصور کرے انشاء اللہ تعالیٰ مقصود بر آویگا۔ چالیس دن سے پہلے کام ہوجائے تب بھی چالیس دن پورے کرے، چھوڑے نہیں

ناف کے ٹلنے کے لئے

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

٨	١	٦
٣	٥	٧
٤	٩	٢

اس نقش کو ناف پر باندھیں۔

تسخیرِ حکام کے لئے مجرب ہے

اس اسماء کو حاکم کے سامنے پڑھتا رہے انشاء اللہ تعالیٰ حاکم نرم ہوجائے گا يَا سُبُّوْحُ يَا قُدُّوْسُ يَا غَفُوْرُ يَا وَدُوْدُ

حکّام کو نرم کرنے کا عمل

ان چاروں حروف کو اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ کر حاکم کو سلام کرے اور فوراً مٹھی بند کرے حاکم مطیع ہو انشاء اللہ تعالیٰ الفؔ یاؔ سینؔ میمؔ

برائے اصلاحِ زوجین مجرب ہے،

میاں بیوی میں باہم سلوک کرانے کے لئے یہ لکھ کر دے یا دم کرکے کھلادے یا پلادے انشاء اللہ فوراً محبت ہوگی مجرب ہے۔ ناجائز جگہ اس کا استعمال کرنا نقصان کا باعث بنتا ہے يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ اَلِّفْ بَيْنَ فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان كما اَلَّفْتَ بين موسٰى وهارون مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

نوٹ: اس میں فلان ابن فلان کی جگہ پر شوہر کا نام لکھے اور فلانۃ

بنت فلاں کی جگہ پر بیوی کا نام لکھے

استخارہ مجرّب

اول گیارہ سو مرتبہ اسم الرَّحِیْمُ پڑھے اور بعد ختم ڈیڑھ آنہ دس پیسے نئے کی شیرینی بچیوں میں تقسیم کرے اور یہ نیت کرے کہ اس کا ثواب اولیاء اللہ کو پہنچے بس اب اس کے عامل ہو گئے۔

بوقت ضرورت ایک پرچہ پر صرف الرَّحِیْمُ لکھ کر رات کو سر کے نیچے رکھے انشاء اللہ تعالیٰ خواب میں جو معاملہ دیکھنا ہوگا ضرور معلوم ہو جائے گا۔ (مجرب ہے)

مجرّب عملیات

حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ

سابق محدث دارالعلوم دیوبند

برائے ادائے قرض

اَللّٰھُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَیْتَ وَلَا مُعْطِیَ لِمَا مَنَعْتَ

مندرجہ بالا دعا کو اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ روزانہ ایک سو ستر مرتبہ پڑھی جائے

برائے قوت حافظہ

مندرجہ ذیل آیات زعفران سے چینی کی طشتری پر تحریر کریں اور

جمعہ کے روز طلوع آفتاب سے قبل اس کو پانی سے دھو کر اور اس میں ایک قطرہ شہد ڈال کر پیا جائے بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَکَذٰلِکَ اَوْحَیْنَآ اِلَیْکَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا کُنْتَ تَدْرِیْ مَا الْکِتٰبُ وَلَا الْاِیْمَانُ وَلٰکِنْ جَعَلْنٰہُ نُوْرًا نَّھْدِیْ بِہٖ مَنْ نَّشَآءُ

برائے اضافہ شیر دودھ میں اضافہ کے لئے

دودھ میں اضافہ کے لئے زیرہ سفید پر چالیس مرتبہ سورۃ کوثر اور چالیس مرتبہ یَا رَزَّاقَ الطِّفْلِ الصَّغِیْرِ پڑھ کر دم کر دیں اور عورت کو کھانے کے لئے دیدیں

تعویذ برائے افزائش رزق و مشاہرہ یعنی تنخواہ

۷۸۶

۱۲۲	۹۴	۱۱۴
۱۰۲	۱۱۰	۱۱۸
۱۰۶	۱۲۶	۹۸

مندرجہ بالا تعویذ دائیں بازو پر باندھنے کے لئے دیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ رزق میں برکت اور ترقی ہوگی۔ (مجرب ہے)

مُجرّب عملیات

حضرت مولانا محمد یٰسین صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند

آسیب یا سحر وغیرہ کے معلوم کرنیکا طریقہ

نیلا دھاگہ سوت کا سات تار مریض کے

قد کے برابر لیکر اس پر سات مرتبہ یہ آیت قبل از مغرب پڑھے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ یہ نیلا دھاگہ رات کو مریض کے سرانے یا تکیے کے نیچے رکھا جائے صبح پھر ناپا جائے اگر بڑھ جائے تو آسیب کی علامت ہے۔ گھٹ جائے تو سحر کی۔ اور اگر برابر رہے تو عام مرض ہے

مجرب برائے کشائش رزق حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں کوئی وقت معین کر کے ہر روز اسی مقررہ وقت پر ۱۱۰۰ مرتبہ یَا بَاسِطُ پابندی سے پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔

کشائش رزق کے لئے طلوع صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے ایک سو مرتبہ یہ دعا پڑھے سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

مجرب شدہ برائے ادائے قرض اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

برائے منظوری درخواست وعرضی لکھی ہوئی درخواست پر بغیر روشنائی یعنی سیاہی کے خالی انگلی سے یہ کلمات لکھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَ الصَّابِرِيْنَ نَصْرًا وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَيْهِ يُسْرًا كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ

نقش برائے مقہوری اعداء

ق	ا	ھ	ر
ھ	ر	ق	ا
ر	ھ	ا	ق
ا	ق	ھ	ر

بچے کے غیر معمولی رونے کا علاج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ

یہ لکھ بچے کے گلے میں ڈال دیں

جو بچہ ماں کا دودھ نہ پئے اس کا علاج

یہ آیات لکھ کر اس کے گلے میں باندھیں

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

برائے گریہ طفل

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا

یہ لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالا جائے۔

دفع متلی و قے واضطراب قلب

مندرجہ ذیل کلمات زبان سے کہیے انشاء اللہ تعالیٰ تکلیف دور

ہو جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے ہاشم کے، ہاشم بیٹے عبدمناف کے

نیند میں بڑبڑانے کا علاج

اسماء الٰہیہ میں سے یہ چودہ نام لکھ کر گلے میں باندھ لے خواب اور نیند میں بکواس اور بڑبڑانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ وہ نام یہ ہیں
اَللّٰہُ اَلْغَفَّارُ۔ اَلْوَہَّابُ۔ اَلْقَہَّارُ۔ اَلْفَتَّاحُ۔ اَلْقُدُّوْسُ۔ اَلرَّحْمٰنُ اَلرَّحِیْمُ۔ اَلشَّہِیْدُ۔ اَلصَّمَدُ۔ اَلْمَلِکُ۔ اَلْعَظِیْمُ۔ اَلْکَرِیْمُ اَلْاَکْرَمُ

برائے قوتِ حافظہ اور دفعِ نسیان کے لئے

تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۰۸ میں حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آیۃ الکرسی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر زعفران سے لکھ کر چاٹنا اور سات مرتبہ لکھ کر چاٹنے کا عمل کرنا بہت نافع اور مفید ہے۔

برائے تحصیلِ علم اور امتحان طلبہ

یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فعلم علمك یا علیم اس دعا کو صبح کی نماز کے بعد پچیس مرتبہ باقی نمازوں کے بعد تین تین مرتبہ پڑھا کریں۔

ایضاً امتحان میں کامیابی کے لئے

بعد نماز صبح سو مرتبہ آیت کریمہ لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ

كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ پابندی سے پڑھا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔

زہر خوردہ کا علاج

جس شخص نے کوئی زہر کھالیا ہو اس کو مندرجہ ذیل نقش اور دعا لکھ کر پانی میں گھول کر پلا دیں انشاء اللہ تعالیٰ زہر اثر نہ کریگا

طه	طه	طه	طه
طه	طه	طه	طه
طه	طه	طه	طه
طه	طه	طه	طه

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

عملیات

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثمانی قدس سرہٗ

سابق مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند

برائے دردِ سر

هو	هو
هو	هو

اس تعویذ کو کپڑے میں لپیٹ کر سر پر باندھیں انشاء اللہ تعالیٰ درد فوراً موقوف ہوگا۔

برائے تپ ولرزہ

ء طططط ططط ططط

مذکورہ نقش مریض کے گلے میں باندھیں۔ جس وقت سردی سے بخار شروع ہو اس وقت ایک تعویذ پانی میں گھول کر پلائیں اور جب لرزہ پوری شدت پر پہنچ جائے اس وقت دوسرا تعویذ گھول کر پلائیں تیسرا تعویذ لرزہ ختم ہونے کے بعد پلائیں پھر دوسرے روز اسی طرح تین تعویذ لکھ کر گلے میں باندھیں اول تو انشاء اللہ تعالیٰ بخار نہیں چڑھے گا لیکن اگر بخار کی نوبت آئے تو تینوں تعویذ حسب ترکیب گھول کر پلا دیں۔ اسی طرح تین روز عمل کریں انشاء اللہ تعالیٰ پہلے ہی روز کامیابی ہوگی۔ اگر اول دن ہی بخار سے نجات مل جائے تو تعویذوں کو گلے میں باندھا رہنے دیں بعد ازاں ان کو کسی جنگل کے کنویں یا دریا وغیرہ میں ڈال دیں۔

عملیات

حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی قدس سرہٗ

گنڈہ برائے آسیب

گیارہ تار نیلا یا سیاہ سوت کچا ڈیڑھ گز لمبا لیکر اکتالیس بار آیت ذیل پڑھیں اور ہر دفعہ گرہ لگا کر اس کے اندر دم کر کے بند کر دیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (پ ۳۰ سورۂ طارق)

گنڈہ برائے حفاظتِ حمل

گیارہ تار نیلا یا سیاہ سوت ڈیڑھ گز لمبا لیکر سورہ یسین پوری پڑھیں اور ہر مُبین پر ایک گرہ لگا کر دم کر دیں پھر اس کو حاملہ کے پیٹ پر باندھ دیں کُل سات گرہیں ہوں گی حمل اسقاط سے محفوظ رہے گا۔

گنڈہ برائے بواسیر خونی

کچا سوت سرخ رنگ ڈیڑھ گز لمبا اکیس تار لیکر سورہ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ پوری اکیس بار پڑھ کر گرہ لگاتا اور دم کرتا ہے پھر الٹی طرف سے گرہ پر لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ایک بار دم کر دے پھر سیدھی طرف سے ایک بار ہر گرہ پر وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ دم کرتا چلا جائے اور بواسیر والے کی کمر پر باندھ دیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ باذن اللہ بہت آرام ہو جائے گا

برائے حفاظت از مار و کژدم وغیرہ جانورانِ موذیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ گیارہ بار صبح اور شام اول و آخر درود شریف گیارہ بار پڑھا جائے

لیکن اعتقاد کامل کا ہونا ازحد ضروری ہے

ایضاً برائے حفاظت از جانورانِ موذیہ

بِسْمِ اللّٰہِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِہٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ تین بار صبح و شام پڑھا کریں

ازالہ سحر


سات پتے بیری کے لیکر ان کو پیسیں اور سات کنوؤں نلوں کا پانی لے اور اس میں گھول لیں اس پانی پر اکیس اکیس مرتبہ آیۃ الکرسی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر پانی پر دم کردیں اور اس پانی کے تین گھونٹ مریض کو پلائیں اور بقیہ سے مریض غسل کریں۔ غسل کا پانی ایسی جگہ گھر سے باہر دفن کردیں جہاں ناپاکی (پیشاب پاخانہ) نہ گرتے ہوں۔ یہ عمل چودہ دن کیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مکمل افاقہ ہوگا غسل صبح کو قبل زوال کیا جائے۔

عملیات

حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ

تعویذ برائے چیچک

مندرجہ ذیل تعویذ کو لکھ کر موم جامہ کرکے بچے کے گلے میں ڈالدیں اور سوا روپے تعویذ لینے والا بنامِ خدا خیرات کرے (اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)



تعویذ برائے حفاظت از ہیضہ

اس تعویذ کو لکھ کر بازو پر باندھے اور تعویذ باندھنے والے کی طرف سے سوا روپے خیرات کردے۔ تعویذ یہ ہے

الٰہی بحرمت حضرت شیخ محمد صادق اکابر اولیاء
ولد حضرت شیخ احمد سرہندی مجددی الف ثانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہما از شرِ بلائے وبا نگہ دار
اللہ شافی اللہ کافی

تعویذ برائے حفاظت اطفال

اس سے بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے اس تعویذ کو لکھ کر موم جامہ کرکے بچوں کے گلے میں ڈالدے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفاظت میں رکھے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ تعویذ یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰہِ التَّامَّاتِ کُلِّھَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللّٰہِ خَیْرِ الْاَسْمَآءِ بِسْمِ اللّٰہِ رَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ السَّمَآءِ بِسْمِ اللّٰہِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِہٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

مجرب عملیات وتعویذات

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ

مایوس العلاج مریض اور تپِ دق اور ٹھہرے ہوئے بخار کیلئے مفید عمل

نماز عصر کے بعد سورۂ مجادلہ (پارہ ۲۸ کے شروع کی سورت) تین بار پڑھ کر ہر مرتبہ مریض پر پھونکا کریں یہ بھی متواتر چالیس روز تک عمل میں لائیں ۔ یہ عمل حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنیؒ کے تجربہ میں رہا ہے اور الحمدللہ متعدد مایوس العلاج حضرات شفایاب ہوتے ہیں ۔

سحر کے دفعیہ کا عمل

سفید مرغ کو باوضو ذبح کرکے اس کے تازہ خون سے ایک کاغذ پر "جادو بر سرِ جادوگر" موٹے حروف میں لکھ کر جہاں وہ مریض سویا کرتا ہے اس کاغذ کو چھت پر لٹکا دیں اس طرح سے کہ کاغذ مذکورہ اس مریض کے سینہ پر رہے ۔

رَدِّ سحر کا عمل

جاری پانی دریا یا نہر کا یا سات کنوؤں کا پانی ایک مٹکا بھر کر اس پر باوضو مندرجہ ذیل آیات گیارہ گیارہ مرتبہ اور سورۂ فلق اور

سورہ ناس گیارہ مرتبہ پڑھ کر پھونکیں اور مریض کو اس پانی میں سے تین گھونٹ پلائیں اور باقی ماندہ (بچے ہوئے) پانی سے سر پر پانی ڈال کر نہلائیں ۔ بلاناغہ چالیس دن تک یہ عمل کریں آیات یہ ہیں :

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰی مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ (۸۱) وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ (۸۲)

سورۂ یونس کی آیت ۸۱-۸۲

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۚ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۚ (سورہ اعراف)

اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۚ

سورہ طٰہٰ

نوٹ : یہ عمل اتوار کے دن سے شروع کیا جائے جاڑے میں دوپہر کو نہلایا جائے ۔

جادو وسحر سے شفا کا عمل

کھانے کے نمک کو پیس کر اس پر باوضو، مندرجہ ذیل آیات ایک ہزار ایک (۱۰۰۱) مرتبہ پڑھ کر پھونکئے اور کھانے میں صرف یہی نمک ملا کر دیا کیجئے ۔ چالیس دن متواتر ایسا ہی کھانا کھلایا کریں ۔ جس میں یہی نمک ڈالا گیا ہو ۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کا کھانا علٰحدہ پکایا جائے اور اس میں یہ نمک ڈالا جایا کرے یا گھر میں جو سالن

بکتا ہے اس میں ابتداء سے نمک نہ ڈالا جائے جب سالن پک جائے تو مریض کے لئے علیحدہ نکال کر پڑھا ہوا نمک ملا دیں اور گھر کے کھانے میں بے پڑھا ہوا نمک حسب عادت ڈالا جائے۔ آیات حسب ذیل ہیں

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

دودھ کی کمی دور کرنے کا عمل

پسے ہوئے نمک پر وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ اور آیت اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ با وضو گیارہ گیارہ بار پڑھ کر پھونکیں اور نمک ارہڑ کی دال میں ڈال کر عورت کو کھلایا کریں انشاء اللہ تعالے سو فیصد کامیابی ہوگی۔

تنگ دستی اور قرض سے سبکدوشی کیلئے

(۱) بعد نماز عشاء تنہا بیٹھ کر یَا وَھَّابُ چودہ سو چودہ بار پڑھ کر ذیل کی دعا ایک سو مرتبہ پڑھا کریں

یَا وَھَّابُ ھَبْ لِیْ مِنْ نِّعْمَةِ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَھَّابُ اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مداومت کریں۔

تنگدستی دور کرنے کا عمل

بعد نماز صبح	سورۃ	اِذَا جَآءَ	نَصْرُ اللّٰهِ (آخر تک)	۲۱	مرتبہ
بعد نماز ظہر	″	″	″	۲۲	″
بعد نماز عصر	″	″	″	۲۳	″
بعد نماز مغرب	″	″	″	۲۴	″
بعد نماز عشاء	″	″	″	۲۵	″

اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیے مداومت پر انشاء اللہ تعالے ضرور کامیابی ہوگی۔

تنگدستی سے نجات حاصل کرنے کا عمل

روزانہ مغرب یا عشاء کے بعد سورۃ مزمل گیارہ مرتبہ اول آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھا کریں اور جب فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا پر پہنچا کریں تو پچیس مرتبہ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ پڑھا کریں انشاء اللہ تعالے تنگدستی رفع ہو جائے گی۔ یہ عمل دائمی ہونا چاہیے

قرضہ کی ادائیگی کے لئے

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ روزانہ کسی وقت ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ پڑھ لیا کریں۔

مزاروں پر حاضری کے وقت مسنون طریقہ کیا ہے

قبرستان میں پہنچنے ، ایصالِ ثواب کرنے والا پُشت قبلہ کی طرف کرے اور رُخ چہرہ صاحبِ مزار کی طرف ۔ پھر پڑھے اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِیْنَ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰہُ بِکُمْ لَلَاحِقُوْنَ یَغْفِرُ اللّٰہُ لَنَا وَلَکُمْ اَجْمَعِیْنَ وَصَلَّی اللّٰہُ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَبَارَکَ وَسَلَّمَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ۔ پھر درود شریف تین بار سورۂ فاتحہ تین بار سورۂ اخلاص بارہ بار۔ درود شریف تین بار پڑھ کر صاحبِ مزار کو بخش کر اس کے تمام گرد و پیش کے مدفونین کے لئے دعائے مغفرت کریں۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔

تقریر میں زبان کھلنے کے لئے

چھوٹے مجمعوں میں خود بخود کھڑے ہو جایا کریں۔ تقریر سے پہلے سات پانچ یا تین دفعہ سُبْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ اور رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَیَسِّرْ لِیْ اَمْرِیْ وَاحْلُلْ عُقْدَۃً مِّنْ لِّسَانِیْ یَفْقَہُوْا قَوْلِیْ پڑھ کر سینہ پر دم کر لیا کیجئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اعانتِ خداوندی شاملِ حال ہوگی نیز خالی کمرہ بند کر کے یہ تصور کرتے ہوئے کہ مجمع حاضر ہے تقریر کرنے کی مشق کچھ دنوں کی جائے۔ البتہ مضامین کو غور سے

مطالعہ کیا جائے اور جس موضوع پر تقریر کرنی ہو اگر ممکن ہو تو اوّلاً تنہائی میں اس پر دو تین مرتبہ یا کم از کم ایک دفعہ تقریر کر لی جائے۔ الفاظ کی چمک دمک کی طرف متوجہ ہونا سخت غلط ہے۔ نیت کی درستی ضروری ہے۔ اپنی شہرتِ تقریر، لوگوں کی واہ واہ، ریا و سمعہ وغیرہ مقصود نہ ہونی چاہئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ تعالیٰ اعانت ہوگی۔ ڈرنا اور مرعوب ہو کر پیش قدمی سے جھجکنا سخت غلطی ہے۔

مُجرّب عملیات

حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
سابق شیخ الادب و الفقہ دار العلوم دیوبند

برائے گمشدہ چیز یا شخص

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

کوری ٹھیکری پر یہ نقش لکھے اور دوسری طرف گم شدہ شئ یا شخص کا نام لکھے دو پتھروں کے درمیان کونڈے سے بند کر کے رکھ دے انشاء اللہ ضرور کامیابی ہوگی

ایک نایاب تعویذ از بعض عارفین

جو شخص اس نقش کو اپنے پاس موم جامہ کر کے رکھے اگر قتل و غارت

بھی ہوری ہوگی اور وہاں سے گزریگا تو کوئی دشمن انشاء اللہ تعالیٰ نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا اور ہر مقصد میں اس کی برکت سے کامیابی ہوگی۔ اس نقش کو لکھ کر بازو پر باندھے مرد سیدھے بازو پر باندھے اور عورت اُلٹے (بائیں) بازو پر باندھے اگر گلے میں باندھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ بہت ہی مجرب ہے۔ وہ نقش محترم یہ ہے۔

۷۸۶

۱۶۵۶۱۱	۱۶۵۶۲۵	۱۶۵۶۲۱	۱۶۵۶۱۸
۱۶۵۶۲۲	۱۶۵۶۱۷	۱۶۵۶۱۲	۱۶۵۶۲۴
۱۶۵۶۱۶	۱۶۵۶۱۹	۱۶۵۶۲۷	۱۶۵۶۱۳
۱۶۵۶۲۶	۱۶۵۶۱۴	۱۶۵۶۱۵	۱۶۵۶۲۰

عملیات

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ سابق مفتی دارالعلوم دیوبند

حافظہ تیز ہونے کے لئے

سات سو چھیاسی (۷۸۶) مرتبہ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر پانی پر دم کرکے طلوع آفتاب کے وقت پیے تو ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہو جائے گا

حفاظتِ اولاد کے لئے

جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اکسٹھ (۶۱) مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو انشاء اللہ تعالیٰ بچے محفوظ رہیں گے۔

کھیتی کی حفاظت کے لئے

ایک سو مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھ کر کھیت میں دفن کردے تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے اور اس میں برکت ہو انشاء اللہ تعالیٰ

برائے حُبّ مجرّب عطا فرمودہ حضرت مفتی اعظم ھند مولانا عزیز الرحمٰن صاحبؒ

نوٹ: ان اسماء کو مغرب و عشاء کے درمیان لکھے اور محبت کا نام اور اس کی والدہ کا نام مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لکھے اور گھر میں دفن کرے

۹۱۹ ۱۱ ۱۱ سحہا و یا مرید اجعلہا ما اللاخذ حتی تاتی فلانة بنت فلانة الی فلان بن فلان وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ۔ عجل اللہ الوحا للہ الطور انہم سابقون

ایضاً للحبّ

یکتب یوم الاحد ویلقیہ فی النار۔ صلح صلح صلح صلح صلح صلح صلح صلح صحح عسح عسح انس لہ تراھنا ای الآ الحق اماز عساد العجل العجل مھدیس ک فلان بن فلان علی حبّ فلان بن فلان

مجرب عملیاتِ حضرت مولانا مفتی دین محمد صاحبؒ

برائے ملازمت

اگر کسی عہدے کے لئے کثیر تعداد میں درخواستیں گزر چکی ہوں اور کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی درخواست منظور ہو تو تین روز تک مندرجہ ذیل آیت سات ہزار مرتبہ روزانہ پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ہوگی

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

برائے دردِ سر

ازالۂ دردِ سر کے لئے چودہ مرتبہ یَا وَھَّابُ ایک سانس میں پڑھ کر دم کرلے اور پیشانی ہاتھ سے پکڑے انشاء اللہ تعالیٰ درد فوری جاتا رہے گا۔

تسکینِ قلب اور نیند کے لئے

بَعْدَ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا کو ایک سو ستر مرتبہ پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ قلب کو سکون حاصل ہوگا اور نیند آجائے گی۔

رشتہ اور نسبت میں کامیابی کے لئے

جس شخص کی کنواری لڑکی ہو اور کوئی شخص اس کی نسبت کے لئے پیغام نہ دیتا ہو تو وہ تازہ وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھے

اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے مقصد کو پیشِ نظر (دل میں) رکھتے ہوئے سو مرتبہ یَا لَطِیْفُ پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ ایک ماہ میں مقصد پورا ہو جائے گا۔ کم از کم ایک ماہ عمل جاری رکھے۔

امتحان میں کامیابی کے لئے

اگر کسی طالب علم کو نتیجۂ امتحان کے بارے میں تشویش ہو تو وہ تین روز ایک نشست میں روزانہ باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور گیارہ ہزار مرتبہ یَا حَسِیْبُ پڑھے تو انشاء اللہ تعالیٰ نتیجہ حسبِ مراد نکلے گا

چور وغیرہ سے مکان کی حفاظت کیلئے

رات کو سوتے وقت یہ آیت پڑھ کر سو جائے اگرچہ چور گھر میں داخل بھی ہو جائیگا تو مالی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا۔

ازالۂ تفکرات کی دعاء

روز و شب میں ایک سو ایک مرتبہ مندرجہ ذیل دعا پڑھی جائے

یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ

نظرِ بد کے ازالہ کے لئے

یہ آیت پڑھ کر بچے پر دم کیا جائے یا زعفران سے لکھ کر گلے میں ڈالا جائے مَآ اُغْنِیْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَیْهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ (پ ۱۳ ع ۲ سورہ یوسف)

مُجرّب متفرق عملیات وتعویذات
از بیاض محمد شاہ صاحب پھلتی

برائے شناخت مرض

اگر مرد ہے تو اس کا رات کا چادر یا کرتہ اور اگر عورت ہے تو اس کا اوڑھنا دوپٹہ وغیرہ لے کر پہلے اس کو ناپے اور مندرجہ ذیل عزیمت پڑھ کر اس پر دم کر دیں

(۱) سورہ فاتحہ ۳ مرتبہ
(۲) آیۃ الکرسی 〃 〃
(۳) شروع سورہ صافات تا لَازِب ۱ 〃
تینوں قُل ، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَق قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاس ایک ایک مرتبہ
(۴) قُلْ لَّآ اَمْلِكُ پوری آیت ایک بار سورۂ اعراف پ ۹ تا یؤمنون - اور دوبارہ ناپے اگر ایک انگل گھٹے یا بڑھے اثرِ ہمزاد ہے

اور اگر دو انگل گھٹے یا بڑھے تو اثرِ شیطان ہے - تین یا چار انگشت گھٹے یا بڑھے تو اثرِ سحر ہے

برائے ازالہ اثرِ جادو و سحر

یَا اللّٰهُ یَا حَیُّ حِیْنَ لَا حَیَّ فِیْ دَیْمُوْمَةِ مُلْكِهٖ وَبَقَائِهٖ یَا حَیُّ

جس پر سحر یا جادو کا اثر ہو تو اس عزیمت کو کسی چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر اکتالیس روز نہار منہ صبح کو پلائیں انشاء اللہ تعالیٰ سحر کا اثر اتر جائے گا اگر کوئی مریض باہر کا ہو تو اکتالیس نقش لکھ کر بھیج دیں۔

علاجِ سحر مکمل

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰی مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَیُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِیْنَ وَیُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِیْنَ وَاُلْقِیَ السَّحَرَةُ سٰجِدِیْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ رَبِّ مُوْسٰی وَهٰرُوْنَ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَیْدُ سٰحِرٍ ؕ وَلَا یُفْلِحُ السّٰحِرُ حَیْثُ اَتٰی

آیاتِ مذکورہ بالا کو گیارہ مرتبہ تازہ پانی پر پھونک کر اس پانی میں سے تین گھونٹ مریض کو پلا دیں اور باقی ماندہ سے مریض کو نہلا دیں نہاتے وقت پانی کو سر پر ڈالا جائے یہ بھی عمل کم از کم گیارہ دن تک کرے۔

۲- آیت مذکورہ بالا ایک ہزار ایک مرتبہ لاہوری نمک پر جو کہ پسا ہوا ہو پڑھ کر دم کریں - اور مریض کو کھانے میں چالیس دن تک

کھلادیں

٣- وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۔ آیتِ مذکورہ بالا کو اکتالیس مرتبہ پانی پر پڑھ کر پھونکے اور مریض کو روزانہ یہی پانی پلاویں یہ عمل اور پانی ہر صبح کو تجدید کرلیا کریں

برائے آسیب زدہ بے حد مجرب است

این نقش آیۃ الکرسی در گلو بندد یا در بازو، مجرب است برائے حب الزوجین بمشک و زعفران نوشتہ بر بازو بندد۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ			
٣٥٠٩	٣٥٢٣	٣٥١٩	٣٥١٦
٣٥٢٠	٣٥١٥	٣٥١٠	٣٥٢١
٣٥١٤	٣٥١٧	٣٥٢٤	٣٥١١
٣٥٢٢	٣٥١٢	٣٥١٣	٣٥١٨

فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

الٰہی بحرمتِ ھٰذا النقش فلاں بن فلاں را از آسیب و بھوت وغیرہ محفوظ دار

برائے جملہ امراض بخوراند مجرب است

برائے ہمہ امراض این نقش مفید است

٧٨٦

١	١٤	١١	٨
١٢	٧	٢	١٣
٦	٩	١٦	٣
٥	٤	٥	١٠

این نقش سورۂ فاتحہ مفید است برکاغذ یا طشتری چینی نوشتہ وشستہ بخوراند مجرب است

صحت شو کل بلا دور شو

برائے ہر مرض

برائے ہر مرض این نقش بسم اللہ اور حب الزوجین کے لئے باندھیں اور پینے کے لئے دے اور بخار کے واسطے اگر دے تو اوپر آیت سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ مع بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لکھے اور نیچے فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

٧٨٦

١٨٩	٢٠٢	١٩٩	١٩٦
٢٠٠	١٩٥	١٩٠	٢٠١
١٩٤	١٩٧	٢٠٤	١٩١
٢٠٣	١٩٢	١٩٣	١٩٨

مجرب برائے ازالہ مرض غیر اہل الاسلام

یہ مندرجہ ذیل نقش لکھ کر پلاسٹک میں لپیٹ کر تین ٹکڑے کپڑے میں سی کر غیر مسلم اپنے سیدھے بازو پر یا گلے میں باندھے انشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مرض کا ازالہ ہوجائے گا۔

> اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ
> اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ

مجرب برائے ازالہ مرض

تین پیپل کے پتوں پر كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ لکھ کر تین روز

ایک ایک پتہ چباوے انشاء اللہ تعالیٰ مریض شفا پائے تینوں پتوں پر پورا لکھا جائے کوئی حرف باقی نہ رہے۔

(عملِ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

تعویذ مجرّب برائے دردِ زہ

اس نقش کو لکھ کر عورت کے داہنے ہاتھ پر رکھ دے اور عورت اس کو غور سے دیکھے جلد لڑکا پیدا ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ نقش یہ ہے

ج ح خ ط ظ ع ق ق ی ک ل
۱۲ اشم د ہ ہ ا سو ل ل و ۰

برائے آسیب زدہ بے حد مجرّب است

این نقش آیت کرسی در گلو بند یا در بازو مجرب است و برائے حبِ زوجین بمشک و زعفران نوشتہ بر بازو بندد۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ

۳۵۰۹	۳۵۲۲	۳۵۱۹	۳۵۱۶
۳۵۲۰	۳۵۱۵	۳۵۱۰	۳۵۲۱
۳۵۱۴	۳۵۱۷	۳۵۲۴	۳۵۱۱
۳۵۲۳	۳۵۱۲	۳۵۱۳	۳۵۱۸

فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

الٰہی بحرمۃ هٰذا النقش فلاں بن فلاں را از آسیب و بھوت وغیرہ محفوظ دارد

برائے دفعِ مسان

جن کے بچے اکثر تلف اور ضائع ہو جاتے ہیں یعنی جن بچوں کو سوکھے کا مرض ہو جاتا ہے اور وہ سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ ان کا علاج مندرجہ ذیل ملاحظہ فرماویں (مجرب ہے) اس نقش کو آٹے کے دھوؤں میں دھو کر گرم توے پر ڈال کر اس کی دھونی والدہ اور بچہ دونوں کو دیں

اس نقش کو دھو کر زن و طفل دونوں کو پلائیں۔

ا۱۱ ح H ۱۱ ۱۱ ما   ا۱۱ H ۱۱ ۱۱ ۵ ع

فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

برائے نظرِ بد حیوانات

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ الخ

آٹے کے پیڑے پر دم کریں اسی طرح دو مرتبہ کریں اور حیوانات کو کھلائیں۔

برائے درد سر درد چشم و آشوب چشم این نقش مجرب است از حد

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۱ یا بدوح	۶۰۲ یا بدوح	۱۱ یا بدوح	۸ یا بدوح
۱۲ یا بدوح	۷ یا بدوح	۲ یا بدوح	۶۰۱ یا بدوح
۶ یا بدوح	۹ یا بدوح	۶۴ یا بدوح	۳ یا بدوح
۶۰۳ یا بدوح	۴ یا بدوح	۵ یا بدوح	۱۰ یا بدوح

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ

مُجرّب عملیاتِ قاری عبدالرحمن صاحب مرادآبادی

برائے رحم دلی حاکم و برائے روزگار مجرّب ہے

یہ نقش آیت کریمہ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ کا ہے بوقت پیشی روبروئے حاکم یا عدالت تعویذ مذکورہ اپنے پاس رکھے بازو پر باندھے یا دوپٹہ میں باندھ لے یا پگڑی میں رکھ لے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ اس نقش کے اصل اعداد ۱۵۰۱ ہیں

۷۸۶

٣٦٧	٣٨١	٣٧٨	٣٧٥
٣٧٩	٣٧٤	٣٦٨	٣٨٠
٣٧٣	٣٧٦	٣٨٣	٣٦٩
٣٨٢	٣٧٠	٣٧٢	٣٧٧

مصیبت سے نجات کے لئے

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۔ جو شخص کسی مصیبت و بلا میں مبتلا ہو اس آیت کو پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ مصیبت دور ہوجائیگی اول آخر ایک ایک تسبیح درود شریف کی اور پانچسو مرتبہ اس دعاء کو پڑھا کرے۔

مُجرّب عملیاتِ

از بیاضِ حضرت مولانا عبدالحفی دائمی صاحب رحمۃ اللہ

دریافتِ دزد چور معلوم کرنا

برگِ ترنج لاکر ہر ایک پر اس آیت کو لکھے اور ہر ایک متہم (جن پر چوری کا الزام ہو، تہمت اور شبہ ہو) کا نام آیت کے نیچے لکھے اور آگ میں جلادے۔ چور کے شکم (پیٹ) میں درد ضرور شروع ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ آیت یہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ السارق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ

نوٹ: برگِ ترنج سے مراد ترنج کے پتے

برائے کامیابی در مقدمہ مجرّب ہے

از حضرت مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ

اس نقش کی زکوٰۃ یہ ہے کہ مقدمہ والے سے پچاس روپے لئے جائیں تب فائدہ ہوگا ورنہ فائدہ کچھ نہ ہوگا

		٣٧٩	٣٧٤	٣٧٥
	٣٧٢	٣٧٦	٣٨٠	
٣٧٧	٣٧٨	٣٧٣		

نقش برائے روزگار

یہ نقش روزگار کے واسطے بازو میں یا گلے میں باندھے اور دکان کے واسطے بھی مفید ہے ایک صندوق گلہ (پیسوں کی پیٹی) میں رکھے اور ایک نقش دکان میں لگائے۔

۷۸۶

۳۱۶۴	۳۱۶۷	۳۱۷۳	۳۱۵۷
۳۱۷۱	۳۱۵۸	۳۱۶۳	۳۱۶۸
۳۱۵۹	۳۱۷۵	۳۱۶۵	۳۱۶۲
۳۱۶۶	۳۱۶۱	۳۱۶۰	۳۱۷۴

نقش دردِ سینہ وصحتِ دل وجگر

یہ نقش دردِ سینہ، صحتِ دل وجگر کے لئے انتہائی مفید ہے

۷۸۶

۸۲	۱۱	۱۴	۱
۱۳	۲	۸۱	۱۲
۳	۱۶	۹	۸۰
۱۰	۷۹	۴	۱۵

نقش دافع نظرِ بد

۷۸۶

۴۷۷	۴۸۰	۴۸۴	۴۷۰
۴۸۳	۴۷۱	۴۷۶	۴۸۱
۴۷۲	۴۸۶	۴۷۸	۴۷۵
۴۷۹	۴۷۴	۴۷۳	۴۸۵

زن وشوہر میں محبت کے لئے

یہ نقش زن وشوہر کے واسطے مفید ہے۔ ایک نقش اپنے پاس (زن یا شوہر جس کو ضرورت ہو) رکھے اور ایک نقش درختِ انار میں لٹکا دے تاکہ ہوا سے ہلے۔

۶۰۰۹	۶۰۱۳	۶۰۱۶	۶۰۰۲
۶۰۱۵	۶۰۰۳	۶۰۰۸	۶۰۱۴
۶۰۰۴	۶۰۱۸	۶۰۱۱	۶۰۰۷
۶۰۱۲	۶۰۰۶	۶۰۰۵	۶۰۱۷

نقش آسیب ومرض کے واسطے

یہ نقش آسیب کے لئے ہے۔ ایک سر میں، ایک بازو اور ایک گلے میں باندھیں۔

ایضاً برائے سحر وجادو

۷۸۶

۱۴	۱۷	۱۱۷۷۵	۷
۱۱۷۷۴	۸	۱۳	۱۸
۹	۱۱۷۷۷	۱۵	۱۲
۱۶	۱۱	۱۰	۱۱۷۷۶

برائے مرضِ ناسور

اگر کوئی شخص مرضِ ناسور میں مبتلا ہو جو اکثر گلے میں ہو جاتا ہے۔ اس کے علاج سے اکثر اطباء و ڈاکٹر عاجز ہیں۔ اس لئے یہ عمل ایک فقیر کا حل فرمودہ ہے۔ بہت مجرب ہے۔ وہ یہ ہے کہ اول کچی زمین پر ریشمی مصلیٰ بچھا کر سجدہ میں پڑ کر نہایت عجز و انکساری کے ساتھ بارگاہِ الٰہی میں دعا کرے اور پھر یہ اسماء بہت کثرت سے پڑھنا شروع کرے جس حالت میں بھی بیٹھا ہو یا لیٹا ہو ہر وقت پڑھتا رہے انشاء اللہ تعالیٰ چند روز میں انشاء اللہ تعالیٰ خود بخود نفع ہوگا وہ مبارک اسماء یہ ہیں:

یَا اَللّٰہُ یَا رَحْمٰنُ. یَا رَحِیْمُ

برائے ذہن و قوتِ حافظہ

سورۃ اعلیٰ لکھ کر اپنے گلے میں باندھے یا کسی سے لکھوا کر باندھ لے (موم جامہ کر کے) ذہن اور حافظہ قوی ہوگا۔

بچے کا رونا

مندرجہ ذیل نقش چار عدد لکھیں ایک بچے کے گلے میں ڈالیں اور تین نقش تین روز تک پانی یا ماں کے دودھ میں گھول کر پلائیں بچہ چپ ہو جائیگا۔ نیز آسیب جادو اور نظرِ بد سے محفوظ رہے گا۔

٨	١٩	٢٢	١
٢١	٢	٧	٢٠
٣	٢٤	١٧	٦
١٨	٥	٤	٢٣

عملیات حضرت مولانا عبد الغنی پھولپوری رحؒ

رفعِ قبضِ باطنی اور دفعِ ظلمت کیلئے مجرب ہے

یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَا لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ کے ورد کو تین سو ساٹھ بار اول و آخر درود شریف تین تین بار کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے انشاء اللہ تعالیٰ قلب انوار سے بھر جائے گا۔

دشمن کی شکست کے لئے

نقشِ ذیل بازو پر باندھنا دشمن کو شکست دیتا ہے اور مغلوب کرتا ہے ظالم کے شر سے حفاظت کے لئے مجرب ہے۔ نقش یہ ہے:

ر	ھ	ا	ق
ا	ق	ر	ھ
ق	ا	ھ	ر
ھ	ر	ر	ا

مظلوم کی فتح اور کامیابی کے لئے

حکام دنیا کے سامنے یہ نقش عمامہ یا ٹوپی میں رکھ کر جانا بفضلہ تعالیٰ مجرب ہے۔ نقش یہ ہے:

٣٧٥	٣٧٤	٣٧٩		
	٣٨٠	٣٧٦	٣٧٢	
		٣٧٣	٣٧٨	٣٧٧

ظاہری و باطنی فتوحات کے لئے

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ آٹھ سو بار ہر روز پڑھنا عجیب کیمیا ہے۔ تمام ظاہری و باطنی فتوحات اس کی برکت سے کھل جاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر جیلانیؒ نے غنیۃ الطالبین میں اس ورد کو بہت مجرب لکھا ہے۔ بعض کا قول اس کے اسم اعظم کے متعلق بھی ہے۔

ناف ٹلنے کا عمل

ناف ٹلنے کا یہ عمل نہایت مجرب ہے الم ترکیف آخر تک دس بار اول آخر تین تین بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پہلے ناف پر دم کریں پھر ہاتھ پر دم کر کے تمام بدن پر مَل لیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ناف اپنی جگہ پر آجائے گی۔

عملیات حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

مچھروں سے حفاظت کے لئے

اگر کہیں مچھروں کی کثرت ہو تو چار کاغذوں پر الگ الگ یہ عدد لکھ کر مکان یا باغ یا کمرہ کے چاروں کونوں پر چپکا دیں انشاء اللہ سب بھاگ جائیں گے

" ١٢ ١٢ ١١١١١ "

سہولت ولادت کے لئے

دردزہ کے وقت عورت کے بائیں ران پر یہ لکھ کر باندھنے سے ولادت

بالکل ہی سہولت سے ہوگی وہ دعا یہ ہے یَا خَالِقَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَیَا مُخْرِجَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ خَلِّصْهَا ولادت کے فوراً بعد اس دعا کو کھول کر پاک جگہ میں دفن کر دیں

کتے کے کاٹے کا زہر ختم کرنے کیلئے

اگر کسی کو کتے نے کاٹ لیا ہو تو یہ عمل کسی نئے برتن پر لکھ کر روغن زیتون سے دھو کر اس شخص کو پلانے سے انشاء اللہ تعالیٰ کتے کا زہر ختم ہو جائے گا مجرب ہے۔ ا ب ج ا ع ہ ہ د یا ب اللہ

درد سر کے لئے

اگر کسی کے سر میں درد ہو تو یہ حروف لکھ کر سر میں باندھا جائے انشاء اللہ تعالیٰ درد جاتا رہے گا مجرب ترین عمل ہے د م ہ م ل ہ

دمہ[1] کے مریض کے لئے

سورہ فاتحہ چینی کی رکابی پر زعفران سے لکھ کر سات یوم تک مسلسل دمہ کے مریض کو پلایا جائے۔ بہت مفید ہے۔

عمل برائے استخارہ

اول گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے پھر یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ یَا کَاشِفَ الْغَرَائِبِ گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر بوریہ پر سو جائے۔ غسل کرنا اور کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا اس میں ضروری ہے۔

[1] خشخاش اور سونف ایک ہی مقدار میں کوٹ کر صبح و شام ایک ایک چمچ استعمال کیا جائے انشاء اللہ دمہ

عمل برائے استخارہ

بعد نماز عشاء دو رکعت نماز نفل پڑھ کر اس کا ثواب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ اور اپنے باپ دادا کی روح کو پہنچائے اس کے بعد سورہ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اور پندرہ مرتبہ یہ پڑھے یَا عَلِیْمُ عَلِّمْنِیْ مِنَ الْحَالِ الْفُلَانِیْ تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرکے سو جائے

عملِ استخارہ

اس نقش کو لکھ کر سر کے نیچے رکھ کر سو رہے خواب میں ہر بات کا جواب ملیگا

۸	۱۱	۸۸۳	۱
۸۸۲	۲	۷	۱۲
۳	۸۸۵	۹	۶
۱۰	۵	۴	۸۸۴

عملِ خاص

ازحجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ

وسعتِ رزق کے لئے خاص ورد

وسعتِ رزق کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا یہ

ایک خاص ورد ہے۔ بعد نماز عشاء گیارہ سو بار یَا مُغْنِیْ (گیارہ تسبیح) پڑھیں اور سورۂ مزمل سات بار روزانہ پڑھیں کہ ہر پانچوں نمازوں کے بعد ایک بار اور صبح کی سنت اور فرض کے درمیان دو بار پڑھیں۔ اس طرح دن رات میں سورۂ مزمل سات بار ہوگئی۔ اگر صبح کی سنت اور فرض کے درمیان وقت کی کمی کے باعث نہ پڑھ سکے تو فرض کے بعد تین بار سورۂ مزمل پڑھ لے۔

عملیاتِ متفرقات از علماء کرام

عملیات برائے مسان

نوٹ: مسان یہ ایک مرض ہے جو بچوں کو عام طور سے لاحق ہو جاتا ہے جس کو سوکھے کا مرض کہا جاتا ہے جس سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد روزانہ سوکھتا ہوا چلا جاتا ہے اور سوکھے ہوئے کانٹے کی طرح بن جاتا ہے اور پھر زیادہ زندہ نہیں رہتا رفتہ رفتہ موت کا شکار ہو جاتا ہے اس کا اکسیر علاج یہ ہے کہ اس نقش کو لکھ کر تعویذ بنا کر مریض کے گلے میں ڈالا جائے انشاء اللہ تعالیٰ مسان کے مرض سے شفاء کاملہ عاجلہ پائے گا۔

۷۸۶

۸	۱۱	۶۲۴۷	۱
۶۲۴۶	۲	۷	۱۲
۳	۶۲۴۹	۹	۶
۱۰	۵	۴	۶۲۴۸

برائے مسان

ترکیب :۔ یہ نقش مسان اور آسیب والے کے لئے بھی مفید اور مجرب ہے دونوں مریضوں کے لئے چاہے وہ مسان کا ہو یا آسیب کا چالیس روز برابر ہر روز کاغذ پر لکھ کر مریض کو پانی میں گھول کر نہار منہ صرف فجر کے وقت پلائے انشاء اللہ تعالےٰ مسان والے بچے اور آسیب والے مریض کو شفا ہوگی۔ مسان والے بچے کو نقش گھول کر اس کا پانی پلائیں اور نقش کے کاغذ کو ہر روز بحفاظت رکھتے رہیں اور چالیس روز پورے ہونے پر آٹے میں گولیاں بنا کر دریا میں جہاں مچھلیاں ہوں ڈال دیں اور آسیب والا مریض نقش کو دھو کر اس کے کاغذ کو چبا کر اوپر سے وہ پانی پی لے۔ ہر روز یہی عمل کرے مجرب ہے۔

بحق بسم اللہ العلی العظیم

برائے مسان

ترکیب : اس نقش کو لکھ کر مسان والے بچے کے گلے میں ڈالدے۔ انشاء اللہ تعالےٰ مسان کی شکایت جاتی رہے گی۔

دوسرا طریقہ : اس نقش کا یہ ہے کہ اس نقش کو کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر رکھ لے اور جب روٹی پکا چکے تو گرم توے پر اس پانی کے چھینٹے دے اور جب اس میں سے دھواں نکلے تو بچے کی ماں اس بچے کو اس دھوئیں کی دھونی دے۔ یعنی چھینٹوں سے نکلنے والا دھواں بچے کے جسم پر لگائے گیارہ روز تک ایسا کیا جائے پانچ یا سات یا نو دن بھی کیا سکتا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بچے کو شفاء کاملہ عاجلہ ہوگی مجرب ہے۔

برائے مسان

جس بچہ کو مسان کے دورے پڑتے ہوں۔ ہاتھ پاؤں کے ٹھنٹ بندھ جاتے ہیں۔ منہ سے جھاگ آتے ہوں۔ آنکھیں چڑھ جاتی ہوں اس نقش کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے انشاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی دورہ نہ پڑے گا۔ اور بچہ صحت یاب ہو جائیگا۔ یہ دونوں طریقے اس نقش کے نہایت مجرب ہیں۔

۱۰۲۰	۱۰۲۴	۱۰۱۰	۱۰۳۶
۱۰۱۲	۱۰۳۴	۱۰۳۲	۱۰۲۲
۱۰۴۰	۱۰۱۴	۱۰۲۰	۱۰۲۶
۱۰۱۸	۱۰۲۸	۱۰۳۸	۱۰۱۶

برائے علاج مسان

ترکیب : اس عبارت کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے تو انشاء اللہ مامون و محفوظ رہے گا مجرب ہے

اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا بَدُّوْحُ یَا غَفُوْرُ۔ اِنَّہٗ مِنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْہِمَا السَّلَامُ اِھْیَا اَشْرَاھِیًا فِی الشَّعَرِ خَالِدٍ اَوْ مُخَلَّدٍ اَوْ بِاسْمِہٖ دَرَکَاتٍ بِعَوْنِ اللّٰہِ تَعَالٰی فِیْ کُلِّ شِفَاءٍ وَّ عَلَیْہِمْ یَا حَافِظُ یَا اَللّٰہُ یَا اَللّٰہُ یَا اَللّٰہُ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ۔

علاج مسان برائے خورد وکلان

اگر کوئی بچہ یا بڑا آدمی سوکھتا چلا جائے اور بظاہر کوئی مرض معلوم نہ ہوتا ہو تو اس مریض کے لئے ایک ہزار تیرہ مرتبہ اس آیت شریفہ کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پاؤ بھر چنبیلی یا سرسوں کے تیل پر دم کر کے رکھدے پھر اس تیل سے تھوڑا تھوڑا ہر روز مریض کے بدن پر مالش کیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ گیارہ دن میں مریض قوی اور تندرست ہو جائیگا آیتِ شریفہ یہ ہے فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

مُجرَّبُ المجرَّب عملیاتِ وَتعویذات
مرشدِ عالم حضرت مولانا غلام حبیب صاحب
چکوال والے قدس سرہ العزیز

حضرت شیخ کی طرف سے نسخہ اکسیر برائے حفاظتِ گاڑی اور برائے روزگار وغیرہ کے لئے

میرے بھائی کی گاڑی کی خیر و برکت اور حفاظت کے لئے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے ۱۹۸۶ء کو یہ تعویذ عنایت فرمائے۔ اس تعویذ کو پلاسٹک میں لپیٹ کر گاڑی کے اگلے حصے میں کیل کے ساتھ ٹھونکا جائے انشاء اللہ تعالیٰ روزگار بھی ملے گا اور گاڑی کی حفاظت بھی ہوگی۔ (تعویذ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ع ن ۶ — ع ن ۸ — ع ن ۷

ع ـ ـ ـ ـ ـ ع

حم حم حم حم حم حم حم وجاء الله النصر فعلینا لا ینصرون

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اللہ اللہ وآلہ واصحابہ اجمعین

ھ ھ ھ ھ ھ ھ ۷

ی ی ی ی

ء ء ء ء ء ء ع ع ع ف ف ف

الٰہی بحرمۃ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام
آفات وبلیات وجنات وسحر ونظر بد دفع کن
آمین

دماغی قوت اور حافظہ تیز کرنے کے لئے

حضرت مولانا احمد علیؒ فرماتے تھے کہ کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا قوتِ حافظہ کے لئے تیر بہدف ہے۔

قوتِ حافظہ کے لئے حضرت شیخ مرشدِ عالم فرماتے تھے کہ کثرت سے ذکر اللہ کی وجہ سے حافظہ قوی ہو جاتا ہے

توپ و تفنگ سے حفاظت کے لئے گھر سے نکلتے ہی یا آفس سے نکلتے ہی سات مرتبہ یا کم از کم ایک مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھ کر تصوراً اپنے اوپر دم کیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ حفاظت رہے گا

دشمن سے پوشیدہ ہونے کے لئے دشمن سے حفاظت کے لئے

اور پوشیدہ ہونے کے لئے یہ آیت پڑھ کر دشمن کی طرف تھوڑا پھونک ماریں انشاء اللہ دشمن کے سامنے گزرنے سے اس کو پتہ تک نہ ہوگا

لَا تُدْرِکُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ

مجربِ المجرب عمل برائے استقرارِ حمل

حضرت شیخ مدظلہ العالی کا عطیہ کیا ہوا عمل

نو دانے یعنی نو عدد چوہارے لیا جائے سب سے پہلے تین عدد ہاتھ میں لے کر اول آخر میں پانچ پانچ مرتبہ درود ابراھیمی پڑھ کر پھر اصحاب کہف کا اسم[1] پانچ مرتبہ لیا جائے۔ پانچ پانچ مرتبہ پڑھنے کے بعد ان تین والے چوہاروں کے اوپر دم کیا جائے اسی طرح سے تین دانہ چوہارے کو تین رات تک مسلسل کھایا جائے۔ وہ اس طرح سے کہ پہلی رات کو ایک چوہارے کو آدھا آدھا کیا جائے میاں بیوی آدھا آدھا کھا کر پھر حقوق زوجیت ادا کریں۔ غرضیکہ اسی طرح دوسری رات اور اسی طرح تیسری رات میں اس طرح کریں پھر مہینہ کو پورا ہونے دیا جائے اگر استقرار حمل ہوا تو بقیہ چوہارے کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر استقرار حمل نہ ہو تو پھر دوسرے مہینہ میں اسی طرح ابتدائی تاریخ میں ماقبل جیسا کرے۔ اگر خدانخواستہ دوسری مرتبہ بھی استقرار حمل نہ ہوا تو تیسری مرتبہ بھی بقیہ چوہارے دم شدہ کھالیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ استقرار حمل ضرور ہوگا۔ غرضیکہ یہ نو عدد چوہاروں کا استعمال صرف تین مہینے تک کا کورس ہے۔

---

[1] اصحاب کہف کے اسماء ملاحظہ ہو ① یَمْلِیْخَا ② مَکْسَلْمِیْنَا ③ کَشْفُوطَطْ ④ میلسنامردوش ⑤ دبدونش ⑥ شادنوئل ⑦ مرطونس ⑧ اسم کلبھم قطمیو

نوٹ: حضرت شیخ مرشدِ عالم نے راقم کو پوری طرح اجازت دی ہے اور متعدد مرتبہ عاجز راقم سے چوہارے دم کراتے رہے اور اب بھی حاجت والے دم کے لئے عاجز کے پاس پہنچتے ہیں

حافظہ تیز ہونے کے لئے

اول آخر درود شریف ایک ایک مرتبہ اس کے بعد مندرجہ ذیل دعا نو مرتبہ پڑھ کر اپنے سینہ پر دم کیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ ذہن تیز ہوگا۔ دعا یہ ہے اَللّٰھُمَّ نَوِّرْ قَلْبِیْ بِعِلْمِكَ وَاسْتَعْمِلْ بَدَنِیْ بِطَاعَتِكَ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ اور اس عمل کو ہمیشہ معمول بنایا جائے۔

برائے دفع ہر مصیبت

حَسْبِیَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

سات سات مرتبہ صبح و شام

حضرت شیخ کا نسخہ اکسیر برائے روزگار

یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَا غَنِیُّ یَا مُغْنِیْ یَا فَتَّاحُ

کی روزانہ ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ پڑھا کریں۔ کوئی بھی وقت ملے وقت کی پابندی بالکل نہیں۔ انشاء اللہ روزگار جلد از جلد مل جائے گا

غائبانہ حصار اعظم (از حضرت شیخ)

اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراھیمی، چاروں قل اور سورۃ فاتحہ

اور آیۃ الکرسی ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر حصار کیا جائے اور اسطرح ہزاروں میل دور جس چیز کو چاہو حصار کرو اس طرف دم کرو انشاءاللہ اگر انسان ہے تو بھی حصار و محفوظ رہے گا اگر گاڑی وغیرہ ہے تو بھی محفوظ و مامون رہے گی۔

برائے خاتمہ بالخیر اَللّٰھُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ سات مرتبہ یا یا تین مرتبہ صبح شام اگر صبح کا پڑھنے والا شام کو مرجائے تو مغفرت ہوگی یا اس کا برعکس

برائے درجہ شہادت اَللّٰھُمَّ بَارِکْ لِیْ فِی الْمَوْتِ وَفِیْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ جو شخص دن میں کسی وقت ۲۵ مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت موت واقع ہو شہادت کا درجہ پائے گا۔

حضرت شیخ کو حضرت لاہوری کا تیر بہدف عطیہ کردہ وظیفہ

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ وظیفہ درحقیقت ایک چیک تھا جو بمنزلہ کشش کے مجھے ملا اسکی برکت سے جو چاہا حاصل ہوتا اور حج کے موقع پر کھول کر اپنے راہ خدا خرچ فرماتے۔ وظیفہ یہ ہے ہر نماز کے بعد اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف اور درمیان میں سات مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں۔

عملیات و تعویذات محدثِ کبیر بقیۃ السلف حجۃ الخلف قائدِ جمعیۃ علماء اسلام حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب درخواستی مدظلہ (خانپور والے)

نس بندی کھولنے کے لئے

نس بندی کھولنے کی غرض سے اس آیت کو لکھ کر تعویذ بنا کر مرد کے گلے میں لٹکایا جائے انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ (آیت اگلے صفحہ پر)

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ۔

اولادِ نرینہ کے لئے

جس عورت کے یہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں لڑکا نہ ہوتا ہو تو یہ دعا لکھ کر دھو کر حاملہ کو پلائے انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لاء لا الاوس واللہ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ حیث یلون بالحق دہ فاہ ح ص د

چوپایہ کی سرکشی

اگر کوئی جانور سرکشی کرتا ہو تو یہ دعا پڑھ کر اس کے کان میں پھونکے انشاءاللہ وہ تابع ہو جائے گا۔ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ؕ

آسیب سے نجات کے لئے

آسیب زدہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ فوراً اچھا ہو جائیگا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الٓمّٓ المٓصٓ طٰهٰ طٰسٓ طٰسٓمّٓ كٓهٰيٰعٓصٓ يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ حٰمٓ عٓسٓقٓ قٓ نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝

خوف سے نجات کے لئے

اس دعا کو بکثرت پڑھنا خوف و ڈر کے واسطے نہایت مفید ہے
فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

دشمنوں سے حفاظت کے لئے

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت دشمنوں سے حفاظت کے لئے اکسیر ہے حٰمٓ عٓسٓقٓ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

نظر بد کے لئے

دو تین ہلدی کی گرہ پر تین تین مرتبہ یہ کلمہ پڑھ کر پھونکے اور پھر آگ میں ڈال کر اس کی دھونی اس شخص کو دے جسے نظر بد لگ گئی ہو انشاء اللہ تعالے اچھا ہو جائے اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ

ترقی حافظہ کے لئے ورد

حافظہ میں زیادتی کے لئے آیاتِ ذیل اور دعا تین تین بار صبح و شام پڑھا کرے۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قَلْبِيْ وَزِدْ قُوَّةَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَحِفْظِيْ۔

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قَلْبِيْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ وَاسْتَعْمِلْ بَدَنِيْ بِطَاعَتِكَ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ ۔

کسی شہر میں داخل ہو

اگر کسی شہر میں داخل ہوتے وقت باہر آتے وقت یہ پڑھے تو ہر شر سے محفوظ رہے گا۔
رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ ۔

کسی جگہ اترے

اگر مسافر کسی جگہ اترے تو یہ دعا پڑھے۔ رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ۔

جان و عزت کا خطرہ ہو

دشمن کا خوف ہو یا جان یا عزت کا خطرہ ہو تو یہ آیات ایک ایک بار پڑھے

۱۔ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝
۲۔ وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝

سحر، درندے یا انسان کے حملہ سے حفاظت کے لئے

ساحر کے سحر سے، شیر کے حملہ سے یا کسی جانور یا آدمی کے حملہ سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دو آیات سات سات بار پڑھیں (اگلے صفحہ پر)

١۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى

٢۔ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا ۝

گناہوں کی معافی، خواص کے لئے وِرد

ایک وظیفہ خواص کے لئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہر روز سو بار یہ کہا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ تو اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اس کے سو گناہ معاف ہوں گے اور اُس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہیگا (انسان کو چاہیئے کہ شام کو بھی سو بار پڑھ لے تاکہ صبح تک شیطان سے محفوظ رہے) اور اس سے بڑھ کر کوئی شخص نیک عمل نہ لائے گا سوائے اس کے کہ جو اس سے بڑھ کر عمل و ورد کرے۔

گناہوں کی معافی، عوام کے لئے ورد

ایک وظیفہ عوام کے لئے۔

جناب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایک دن میں سو بار سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ کہا اُس کے (صغیرہ) گناہ معاف ہو گئے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے صبح و شام کی تو (صبح کو بھی اور شام کو بھی) تو سو بار سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ کہا تو قیامت کو اس سے بڑھ کر کوئی ثواب لے کر نہیں

آئے گا۔ سوائے اس کے کہ جس نے اسی قدر یہی وِرد پڑھا۔ یا اس سے زیادہ پڑھا۔

ہر ضرورت بغیر مانگے پوری ہو

حافظ الحدیث حضرت مدظلہ العالی نے فرمایا: ایک خاص وظیفہ بتاتا ہوں، مندرجہ ذیل اشعار روزانہ سات دفعہ پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمام ضروریات کا بِن مانگے ہی انتظام فرما دیگا۔ بہت ہی مجرب ہے اول آخر تین تین بار درود شریف بھی پڑھ لے۔

يَا مَنْ يَرٰى مَا فِي الضَّمِيْرِ وَيَسْمَعُ
اَنْتَ الْمُعِدُّ لِكُلِّ مَا يُتَوَقَّعُ

اے وہ جو باطن کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے
تو ہی عطا کرنے والا ہے ہر وہ چیز جس کی توقع کی جاتی ہے

يَا مَنْ يُّرْجٰى فِي الشَّدَائِدِ كُلِّهَا
يَا مَنْ اِلَيْهِ الْمُشْتَكٰى وَالْمَفْزَعُ

اے وہ کہ جس سے تمام مصیبتوں میں امید رکھی جاتی ہے،
اے وہ کہ جس کی طرف فریاد ہے اور جائے پناہ ہے

يَا مَنْ خَزَائِنُ رِزْقِهٖ فِيْ قَوْلِ كُنْ
اُمْنُنْ فَاِنَّ الْخَيْرَ عِنْدَكَ اَجْمَعُ

اے وہ ذات کہ اس کی روزی کے خزانے اُس کے کُن کے فرمان میں ہے
احسان فرما اس لئے کہ تمام بھلائی تیرے پاس ہے

مَالِیْ سِوٰی فَقْرِیْ اِلَیْكَ وَسِیْلَةٌ
فَبِالْاِفْتِقَارِ اِلَیْكَ اَیْدِیْ اَرْفَعُ

تیری طرف محتاج ہونے کے سوا میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں
تیری طرف محتاجی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہوں

مَالِیْ سِوٰی قَرْعِیْ لِبَابِكَ حِیْلَةٌ
فَلَئِنْ رُدِدْتُ فَاَیَّ بَابٍ اَقْرَعُ

تیرے دروازے کو کھٹکھٹانے کے سوا میرے پاس کوئی حیلہ نہیں
اگر مجھے رد کر دیا گیا تو کس دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا

اِنْ کَانَ لَا یَرْجُوْكَ اِلَّا مُحْسِنٌ
فَالْمُذْنِبُ الْعَاصِیْ اِلٰی مَنْ یَرْجِعُ

اگر صرف نیکو کار ہی تیری (رحمت) کا امیدوار ہو،
تو گناہ گار سیاہ کار کس طرف رجوع کرے

حَاشَا لِجُوْدِكَ اَنْ تُقَنِّطَ عَاصِیًا
فَالْفَضْلُ اَجْزَلُ وَالْمَوَاهِبُ اَوْسَعُ

تیری سخاوت سے بہت بعید ہے کہ تو کسی گنہگار کو نا امید کرے
تیرا فضل بہت زیادہ ہے اور تیرے کرم وسیع ہیں۔

وَمَنِ الَّذِیْ اَدْعُوْا وَاَهْتِفُ بِاسْمِهٖ
اِنْ کَانَ فَضْلُكَ عَنْ فَقِیْرِكَ یُمْنَعُ

اور کون ہے جس کو پکاروں اور جس کے نام کے ساتھ مانگوں،
اگر تیرا فضل تیرے محتاج سے روک دیا جائے گا تو کس کو پکاروں گا

ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَی النَّبِیِّ وَاٰلِهٖ
خَیْرِ الْاَنَامِ وَمَنْ بِهٖ یُتَشَفَّعُ

پھر حضور نبی اکرم اور آپؐ کی آل پر صلوٰۃ ہو،
سب مخلوق سے بہتر ہیں اور جن کے ذریعہ شفاعت حاصل کی جاتی ہے

دعائے خضری

ہر دینی و دنیاوی مقصد میں کامیابی کے لئے مجرب ہے۔
پہلے تین بار درود شریف پڑھیں پھر یہ دعا پڑھیں۔

۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
۲۔ مَاشَآءَ اللّٰهُ لَا یَصْرِفُ السُّوْٓءَ اِلَّا اللّٰهُ
۳۔ مَاشَآءَ اللّٰهُ مَا کَانَ مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ
۴۔ مَاشَآءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

اس کے بعد دعا کرے

نمبر ۱۔ پڑھے تو دل میں خیال کرے کہ یا اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں
نمبر ۲، اور نمبر ۳ پڑھے تو خیال کرے کہ میں بے بس ہوں۔ تمام ضروریات
کا انتظام آپ ہی کریں گے۔
نمبر ۴۔ پڑھے تو یہ دھیان رکھے کہ اے اللہ میں نے سب کچھ آپ کے
حوالے کر دیا۔ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں۔

اسم اعظم

ہر دعا کے قبول ہونے کے لئے پہلے اسم اعظم پڑھے اور پھر دعا کرے

پہلے تین بار درود شریف پڑھے پھر یہ کہے: ایک بار یا اللہ کہے اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے اور پھر تین بار کہے اَللّٰہُ وَاحِدٌ لَاشَرِیْكَ لَهٗ ایک بار یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ کہے اور پھر تین بار کہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ۔ ایک بار یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ کہے پھر تین بار کہے كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَّیَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ایک بار کہے یا اِلٰهَنَا وَاِلٰهَ كُلِّ شَیْءٍ اِلٰهًا وَّاحِدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔ پھر ایک بار یہ پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ تُوْلِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیْلِ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝

اس کے بعد رزق کی فراوانی، امتحان کی کامیابی، عزت، جرأت پیدا کرنے اور بزدلی دُور کرنے وغیرہ کے لئے جو چاہے دعاء کرے۔ آخر میں پھر تین بار درود شریف پڑھے۔

ہر مصیبت کے دُور کرنے کے لئے

ہر قسم کے مصائب کے دفعیہ کے لئے ہر نماز کے بعد سَو دفعہ یہ آیت شریفہ پڑھنا مجرب ہے۔ رَبِّ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ۔

دشمنوں کے مقابلہ میں فتح یابی کے لئے

دشمنوں کے مقابلہ میں فتح یابی کے لئے یہ دعاء پڑھے

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتٰبِ مُجْرِیَ السَّحَابِ سَرِیْعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْاَحْزَابِ اِهْزِمْهُمْ

دشمن کی زبان بندی اور اس کے مقابلہ میں فتح

دشمنوں کی زبان بندی کے لئے اور دشمنوں کے مقابلہ میں فتح حاصل کرنے کے لئے سات سات بار یہ دعاء پڑھے۔

۱- وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۔

۲- اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَیْدِیْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ۝

ہر حاجت و رزق کے لئے سورہ یٰسین کا خاص ورد

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے قرآن کا دل یٰسین ہے۔ اور علمائے کرام نے فرمایا جو شخص صبح اور شام سورۂ یٰسین پڑھے گا اس کی اسّی ضروریات پوری ہوں گی اور ادنیٰ ضرورت فقر اور محتاجی کی ہے۔

قضائے حاجات کے لئے نماز جمعہ کے بعد رُو بقبلہ ہو کر سورۂ یٰسین تین بار اس طریق پر پڑھے پہلے مُبِیْن پر پہنچے تو سورۃ اخلاص تین بار پڑھے دوسرے مُبِیْن پر پہنچے تو سورۂ کوثر تین بار پڑھے۔ تیسرے مُبِیْن پر پہنچے

توسورۃ الانشراح تین بار پڑھے۔ چوتھے مُبِیْن پر پہنچے توآیۃ الکرسی تین بار پڑھے پانچویں مُبِیْن پر پہنچے تو یہ دعا تین بار پڑھے

اَللّٰہُ لَطِیْفٌ بِعِبَادِہٖ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ٥

اور چھٹے مُبِیْن پر پہنچے تو تین بار درود شریف پڑھے اور یہ دعا سات بار کرے اَللّٰھُمَّ وَسِّعْ رِزْقِیْ وُسْعَۃً لَا اَحْتَاجُ اِلٰی اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ اور پھر سورۃ مکمل کرلے۔

تنگدستی اور سبکدوشی قرض کے لئے

مندرجہ ذیل عمل ہمیشہ جاری رکھیں

بعد نماز عشاء تنہا بیٹھ کر یَا وَهَّابُ چودہ سو بار پڑھ کر یہ دعا اکیس مرتبہ پڑھا کریں

یَا وَهَّابُ هَبْ لِیْ مِنْ نِعْمَةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

اول آخر تین مرتبہ درود شریف ہو۔ (از ملفوظات شیخ الاسلام ص۱۲۳)

حبِّ جاہ اور حبِّ مال کا علاج

حبِّ جاہ اور حبِّ مال کے مرض کو دور کرنے کے لئے اور دینی شوق پیدا کرنے کے لئے صبح و شام تین تین بار سورۃ کوثر پڑھا کریں۔

ہر بیماری سے شفاء کا تعویذ

ہر بیماری کے لئے لکھ کر گلے میں ڈالیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ٥ یُرِیْدُ اللّٰہُ اَنْ یُّخَفِّفَ عَنْکُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِیْفًا۔ اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰہُ عَنْکُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِیْکُمْ

ضَعْفًا ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ٥

ہر بیماری سے شفاء کا تعویذ

ہر بیماری سے شفا کے لئے یہ چھ آیات لکھ کر پلائے یا پانی پر دم کرکے پلائے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ (۲) وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ (۳) يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

(۴) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

(۵) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

(۶) قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ

نیند نہ آنے کا علاج

اگر پریشانی یا خشکی کی وجہ سے نیند نہ آئے تو سات دفعہ سر پر ہاتھ رکھ کر یہ آیت پڑھے فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ اس سے آگے نہ پڑھے

نسیان کا علاج

کوئی چیز بھول جائے یا نسیان کا غلبہ ہوجائے تو نسیان کو دور کرنے کے لئے ابن تیمیہ نے فرمایا کہ یہ ورد مجربات میں سے ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اور حدیث شریف کا مفہوم حل نہ ہوتا ہو ۴۱ بار یہ دعا

روزانہ پڑھا کرے یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ

ترجمہ: اے زندہ اے قائم رکھنے والے تیرے بغیر کوئی معبود نہیں تیری رحمت کے واسطے سے مدد مانگتا ہوں۔

اسی طرح مبلغ تقریر سے پہلے اور کتاب پڑھنے سے پہلے مندرجہ بالا دعا سات بار پڑھے تو تقریر کی آمد ہو جائے اور کتاب حل ہو جائے

شادی اور اہل و عیال کے نیک ہونے کی دعا

اگر شادی کرنے کا خواہشمند ہو یا چاہے کہ اہل و عیال نیک بن جائیں تو یہ دعا کثرت سے پڑھے رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّیّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خاص ورد

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے مجرب ورد جمعہ کی شب کو صاف لباس پہنے خوشبو لگائے اور بعد از نماز عشاء دو رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد ایک ہزار بار سورۃ الکوثر اور ایک ہزار بار درود شریف بھی پڑھے۔ تین جمعرات کے اندر اندر زیارت ہوگی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ
وَعَلٰی اٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

عملیات و تعویذات مولانا احمد علی پنجگوری

خلیفۂ مجاز مرشدِ عالم حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب
نقشبندی مجددی قدس سرہ العزیز

برائے حصارِ اعظم

باوضوء رات کو سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر رُخ قبلہ کی جانب کر کے سورۃ مزمل پوری ایک مرتبہ اور آیۃ الکرسی وھو السمیع العلیم تک سات مرتبہ اور سورۃ بقرہ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ سے آخر تک، ایک مرتبہ اور سورۃ حشر پارہ ۲۸ کے بالکل آخر کی تین آیتیں، ایک مرتبہ پڑھ کر۔ پھر یہ پڑھے: بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ[1] پڑھ کر اپنے قلب اور روح کی طرف تین تین مرتبہ پھونک مار کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیا جائے، سر کے بالوں سے لیکر پیر کے ناخن تک ہاتھ پھیرتے جائیں انشاء اللہ ساری رات ہر قسم کے شیاطین سے حفاظت ہوگی۔ مجرب المجرب ہے۔

حصار کی ترکیب عامل کو چاہیے کہ جب کوئی عمل جلالی یا جمالی پڑھے یا کوئی خوف کی جگہ ہو تو اپنے چوگرد آیۃ الکرسی کا حصار کرے اور حصار کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے اکتالیس مرتبہ اللہ پھر اکتالیس مرتبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ پھر اکتالیس بار الحی القیوم

لہ فَاللّٰهُ خَیْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ پ۱۳، یوسف، آیت ۶۴

روزانہ پڑھا کرے یَاحَیُّ یَاقَیُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ

ترجمہ : اے زندہ اے قائم رکھنے والے تیرے بغیر کوئی معبود نہیں تیری رحمت کے واسطے سے مدد مانگتا ہوں۔

اسی طرح مبلغ تقریر سے پہلے اور کتاب پڑھنے سے پہلے مندرجہ بالا دعا سات بار پڑھے تو تقریر کی آمد ہو جائے اور کتاب حل ہو جائے

شادی اور اہل وعیال کے نیک ہونے کی دعا

اگر شادی کرنے کا خواہشمند ہو یا چاہے کہ اہل وعیال نیک بن جائیں تو یہ دعا کثرت سے پڑھے رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خاص ورد

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لئے مجرب ورد جمعہ کی شب کو صاف لباس پہنے خوشبو لگائے اور بعد از نماز عشاء دو رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد ایک ہزار بار سورۃ الکوثر اور ایک ہزار بار درود شریف بھی پڑھے۔ تین جمعرات کے اندر اندر زیارت ہوگی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ
وَعَلٰی اٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

عملیات و تعویذات مولانا احمد علی لاہوری

خلیفہ مجاز مرشدِ عالم حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی مجددی قدس سرہ العزیز

برائے حصارِ اعظم

باوضو، رات کو سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر رخ قبلہ کی جانب کر کے سورۃ مزمل پوری ایک مرتبہ اور آیۃ الکرسی وھو السمیع العلیم تک سات مرتبہ اور سورۃ بقرہ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ الخ سے آخر تک، ایک مرتبہ اور سورۃ حشر پارہ ۲۸ کے بالکل آخر کی تین آیتیں، ایک مرتبہ پڑھ کر۔ پھر یہ پڑھے : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ پڑھ جائے اپنے قلب اور روح کی طرف تین تین مرتبہ پھونک مار کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے بدن پر ہاتھ پھیرا جائے، سر کے بالوں سے لیکر پیر کے ناخن تک ہاتھ پھیرتے جائیں انشاء اللہ ساری رات ہر قسم کے شیاطین سے حفاظت ہوگی۔ مجرب المجرب ہے۔

حصار کی ترکیب عامل کو چاہیئے کہ جب کوئی عمل جلالی یا جمالی پڑھے یا کوئی خوف کی جگہ ہو تو اپنے چوگرد آیۃ الکرسی کا حصار کرے اور حصار کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے اکتالیس مرتبہ اللہ پھر اکتالیس مرتبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ پھر اکتالیس بار الحی القیوم

[1] فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ پ۱۳، یوسف، آیت ۶۴
اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا پ۲۸، تحریم ۲۶

حِفْظُهُمَا تک پڑھے پھر اکتالیس مرتبہ ھو العلی العظیم پڑھے
اور اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے سر سے لیکر پاؤں تک دم کرے
پھر سات سو چھیاسی مرتبہ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھے
اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر تمام بدن پر دونوں ہاتھ پھیرے کوئی
جگہ باقی نہ رہے اور بعضوں نے لکھا ہے کہ الحی القیوم کو
بھی علٰحدہ اکتالیس مرتبہ پڑھے

دوسری ترکیب حصار کی یہ ہے کہ آیۃ الکرسی ایک دفعہ
اور قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور قُلْ
اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ایک ایک
دفعہ پڑھ کر اپنے چاروں طرف حصار کرے اور چاقو سے خط کھینچے۔

تعویذ برائے عرق النساء

(گلے میں یا بازو پر باندھے)

بسم الله الرحمن الرحیم

لا الہ

الله

بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله

الله

ش ش ش

نه نه نه

مسحور اور آسیب والے کا علاج

طبی طور سے

(۱) خمیرہ گاؤزبان سادہ کم از کم ۲۰۰ گرام آدھ چمچہ، نہار منہ
(۲) شہد کم از کم " " " "
پانچوں آذان کے بعد۔
(۳) گل قند۔ کم از کم ۲۰۰ گرام۔ پانچوں اذان کے بعد
(۴) معجون سورنجان۔ رات سوتے وقت آدھ چمچہ
(۵) سمندر کا پانی ایک کنستر لا کر رات کو بیمار کے پاس دائیں
طرف رکھ دیا جائے اور صبح ہٹا دیا جائے۔ پھر روزانہ ایک ایک
لوٹا پانی کا صبح نہار منہ اپنے بدن پر ڈالے۔
(۶) اور سمندری کشتی کے چار میخ پر دم کر کے بیمار کے چاروں
کونوں پر رکھ دیا جائے۔

ان مذکورہ اشیاء اور دواؤں پر سورۂ فاتحہ اور معوذتین
وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ اور تعویذ والے کلمات اٰمَنْتُ
بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ سات سات مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے اور مذکورہ
طریقہ پر استعمال کیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

برائے عرق النساء، فالج و دردِ کمر

عرق النساء فالج اور دردِ کمر کے واسطے الحمد شریف ایک پاک برتن
میں لکھے اور روغنِ بلسان سے اُسے دھو کر اور سات بار اُس

تیل پر سورۂ فاتحہ پڑھ کر دم کرے اور تیل کو تمام بدن اور کمر پر دو تین روز ملا کرے۔ بہت ہی مفید ہے۔

(شاہ عبدالعزیز اور ان کی تعلیمات ص۸۵)

برائے ردِ سحر

سورۂ بقرہ روزانہ پڑھ کر یا پڑھوا کر مریض پر دم پھونک ماریں اور پانی پر دم کر کے پلائیں اور کچھ پانی ملا کر غسل کرائیں چالیس ایام تک یہ عمل کیا جائے۔ سحر انشاء اللہ ٹوٹ جائے گا

آسیب کے لئے سورہ فاتحہ، آیۃ الکرسی، چاروں قل پانی پر دم کر کے تین گھونٹ پی لیا جائے باقی پانی میں اور پانی ملا کر غسل کیا جائے چالیس ایام تک یہ عمل کیا جائے

برائے دفع آوارگی و شوقِ تعلیم کے لئے

بچہ آوارہ ہو جائے اور تعلیم چھوڑنے کی شکایت دور کرنے کے لئے سورۂ فاتحہ آیۃ الکرسی، چاروں قل پانی پر دم کر کے پلایا جائے جس کی خبر نہ کی جائے کہ یہ پانی پڑھا ہوا ہے

آسیب زدہ اور دفع سحر کے لئے

اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ الْعَظِیْمِ وَکَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَکْتُ بِالْعُرْوَۃِ الْوُثْقٰی لَا انْفِصَامَ لَہَا وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ

اللہ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ح ۵ ۱۱۱۵ ۱۱۱۱ ۱۱ ح

دفعِ جنات کے لئے اسماء اصحاب کہف

جنات کے دفع اور اثرات کے زائل ہونے کے لئے اصحاب کہف کے اسماء کا نقشہ بنا کر گھر میں لگایا جائے انشاء اللہ تعالیٰ تمام اثرات دور ہوں گے

اثرات جنات و جادو کو زائل کرنے کے لئے ذاتِ احد کی گولیاں

جنات کے اثرات کے زائل ہونے کے لئے لفظ اللہ یا رحمٰن یا قدیر۔ قوی کی گولیاں بنا کر مریض کو صبح شام کھلایا جائے۔ انشاء اللہ مریض جلدی شفایاب ہوگا

خواب اور قرآنی ایٹم بم

(مجرب عمل)

جس کو رات نیند نہ آئے اس کو چاہئے سورۃ واللیل سات مرتبہ، سورۃ الشمس سات مرتبہ، آیت الکرسی سات مرتبہ، اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ پڑھنے سے قبل اس کو پوری نیند آئے گی اور رات کو اچھے اچھے خواب دیکھے گا، بزرگانِ دین کی ملاقات سے بہرہ ور ہوگا، بشیرات سے نوازا جائے گا۔

(مجرب عمل)

خواب سے بیدار ہونے کا قرآنی ٹائم پیس

سورۂ کہف کی آخری تین آیتیں اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝ (پ کہف ع ۳)
پڑھ کر سو جائے کسی سے پھر بات چیت نہ کرے جس وقت کے اٹھنے کا ارادہ کرے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور بیدار ہوگا

بچہ کا دل پڑھنے کیلئے لگ جائے

اس تعویذ کو بچے کے گلے میں ڈالا جائے یا زعفران سے لکھ کر اکیس ایام تک پلایا جائے انشاء اللہ تعالیٰ بچہ بڑے شوق وذوق سے خود بخود پڑھنا شروع کرے گا۔

طلــ
طلــ
طلــ

مجرب للمجرب المجرب

نسخۂ اکسیر برائے اطمینان قلب وروح وسکون بخش برائے اعضاء وجوارح

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۭ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝ پ۱۳ رعد ع ۴

خلاصہ یہ ہے کہ اطمینانِ قلب سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں اور یہ نعمت اللہ اللہ کرنے سے ملتی ہے اور اللہ اللہ کرنے والوں کی مجلس اور صحبت سے ملتی ہے۔ اطمینان دل میں ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں زبان میں نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام چوبیس گھنٹے میں ذاکر رہتے تھے اور اطمینان وسکون کی نعمت سے آپ سرشار تھے۔

عن عائشة رضی الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله كل احيانه

قرآن وحدیث کی آیات وروایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سکون قلب صرف اور صرف ذکر اللہ میں ہے۔

سورۂ انشراح تمام جسمانی امراض کے لئے عموماً اور ہمہ اقسام بخار کے لئے خصوصاً شافی کافی ہے

راقم الحروف نے تو اس کو بسیار استعمال میں لایا۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ بفضل الٰہی سو فی صد کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورۂ انشراح پڑھتے جائیے ہر کاف پر نو عدد دھاگے کے مجموعہ پر دم کرکے

ایک ایک گرہ لگاتے جایئے۔ جیسے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ، لَكَ پر دم کرکے گرہ لگایئے۔ صَدْرَكَ پر گرہ لگایئے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ پر گرہ لگایئے۔ اَلَّذِیْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ پر گرہ لگایئے وَرَفَعْنَا لَكَ پر گرہ لگایئے ذِكْرَكَ پر گرہ لگایئے فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ۔ اب اِلٰى رَبِّكَ پر گرہ لگایئے۔ کل آٹھ کاف ہیں۔ اس کے بعد تین مرتبہ پوری سورت پڑھ کر مجموعہ دھاگہ پر دم پھونک مار کر مریض کو گلے میں ڈالنے کے لئے دیا جائے

نوٹ: دھاگہ سیاہ یا سرخ رنگ کا ہونا ضروری ہے۔

ہر درد و مرض اور ہر قسم کے سحر و آسیب کے لئے اکسیر علاج

ہر قسم کے امراض و آلام، سحر، جادو اور آسیب کے لئے مندرجہ ذیل دعا کا تعویذ بنا کر تین ٹکڑے کپڑے کے نیلے رنگ والے میں سے لیکر گلے میں ڈالا جائے۔ دعا یہ ہے جو آکام المرجان فی احکام الجان ؒ میں مذکور ہے:

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ الْعَظِيْمِ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ۔

حدیث میں اٰمنت باللہ العظیم کی بجائے اٰمنت باللہ وحدہٗ ہے۔ یہ ہے درد بند تعویذ ❀

برائے ازالہ سحر و جادو دیگر امراض وغیرہ

مندرجہ ذیل نقش کو اکیس ایام تک عرقِ گلاب یا سادہ پانی یا آبِ زمزم میں ڈال کر صبح نہار منہ ایک پیالہ پانی پیا جائے سحر، جادو و آسیب کے ازالہ کے لئے اکتالیس ایام تک مسلسل پیا جائے۔ دیگر امراض کیلئے صرف ایک ہفتہ تک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

یَا حَفِيْظُ	یَا رَحِيْمُ	یَا حَافِظُ
یَا كَرِيْمُ	یَا حَیُّ	یَا قَيُّوْمُ
یَا رَحِيْمُ	یَا رَحِيْمُ	یَا رَحِيْمُ

معمول برائے کاٹنے یرقان یعنی پیلیا کے

بروز یکشنبہ (اتوار) چند برگ یعنی نیم کے درخت کے تازہ پتے لے کر ایک طرف مریض یرقان کے دائیں ہاتھ میں دیں کہ وہ پکڑے اور دوسری طرف خود بائیں ہاتھ میں لے کر اپنے داہنے ہاتھ میں چاقو لے کر ایک دفعہ سورۃ قریش با تسمیہ پڑھ کر چاقو سے ان سبز پتوں کو کاٹیں اس طرح ۳۳ دفعہ کریں۔ لیکن اول و آخر درود شریف کا اضافہ کریں۔ اس معمول کو بھی تین اتوار تک عمل میں ضرور لائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ پیلیا رفع دفع ہو جائیگا۔

دُنیا کی بڑی سے بڑی بلا و مصیبت کے پاش پاش ہونے کے لئے دعاء حزب البحر کا ایٹم بم

الحمد للہ ثم الحمد للہ دعاء حزب البحر کو بندہ نے اپنا معمول بنالیا ہے اور اگر سمندر پار کرنا پڑے تو بھی اس کی برکت سے آسان ہو جاتا ہے اس سے ہر ظالم، فرعون و دجال سرنگوں ہو جاتا ہے اور ہر دجال کا دجل کٹ کر خاک در اک ہو جاتا ہے

جملہ امراض کے لئے شفاء

اگر کسی بچہ یا جوان کو کالی کھانسی ہو یا چیچک یا خسرہ یا ام الصبیان یا مرگی یا نظر بد یا بخار کھنڈے اسہال یا آسیب یا مہلک امراض طاعون ہیضہ وغیرہ ہو جائے کچے سوت کا سیاہ یا سرخ رنگ کا دھاگہ نو تار لے کر سب کو یکجا کر کے سورۃ الم نشرح لک پڑھنا شروع کریں۔ پھر بعد ازاں مکرر تین بار سورہ مذکور پڑھ کر دم کریں پھر اس ڈورے کو مریض کے گلے میں باندھیں انشاء اللہ تعالیٰ جو بھی مرض ہو گا دور ہو جائے گا۔

دافع اثر سحر ہر قسم

چینی کی صاف پاک طشتری میں یہ آیت سیاہی سے لکھ کر گھی مجوعی ملا کر کے مسحور کو چٹا دیں خواہ قدرے شکر بھی چھڑک لیں انشاء اللہ تعالیٰ اثر سحر زائل ہو جائے گا اور پھر مرتے دم تک نہ ہو گا۔ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ

ملہ دعائے حزب البحر کا متن مع ترجمہ صفحہ ۱ پر ملاحظہ فرمائیں۔

بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (پ نساء ع ۴)
با وضو لکھے۔ صبح چٹائیں ۳-۵-۷ ایام تک یہ عمل کریں۔

عمل برائے زبان بندی دشمن

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (بحق) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

پ ۱ - بقرہ - ع ۲ - آیت ۱۸

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ — پ ۲ - بقرہ - ع ۱۱ - آیت ۱۷۱
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَمْكُرُوْنَ
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ

نوٹ: یہ عمل بروز ہفتہ بوقت صبح شروع کرے اور تصوراً ان کے دلوں اور دماغوں پر دم پھونک مارے دشمن کی زبان بند ہو جائے گی۔
(مجرب ہے)

دیگر برائے زبان بندی عدو

ترکیب: دشمن کی زبان بند کرنے کے لئے یہ آیتیں نہایت مجرب ہیں يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝

مندرجہ بالا آیتوں کی ترکیب و خواص

ان آیتوں کو کسی کاغذ پر لکھ کر جس کی زبان بندی کرنی ہو اس کا نام اس کی والدہ کا نام نیچے لکھ کر تعویذ کو کسی پرانے درخت میں لٹکانا مخالف کی زبان بند ہونے کے لیے مجرب ہے۔

استخارہ مجرّبہ

عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل تازہ وضوء کر کے بستر پاک پر بیٹھ کر یا لیٹ کر تین بار درود شریف پڑھیں۔ پھر دس بار الحمد شریف اور گیارہ بار قل شریف پڑھ کر سینہ پر دم کریں اور رو بقبلہ دائیں پہلو سوئیں۔ نیت دل میں یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی برکت سے خواب میں آگاہی فرمائیں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں یا کون سا کام میرے حق میں بہتر ہوگا انشاء اللہ تعالےٰ صحیح حال معلوم ہوگا۔

سحر و مرضِ مایوسہ

جس پر جادو کا اثر ہو یا جس بیماری سے اطباء عاجز آ چکے ہوں اس کے لئے ایک چینی کی طشتری سفید میں یہ کلمات لکھ کر پانی سے گھول کر چالیس دن تک پئیں انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہوگی۔ اور بعض بزرگانِ دین اس کے آگے سورۂ فاتحہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں یَاحَیُّ حِیْنَ لَاحَیَّ فِیْ دَیْمُوْمَةِ مُلْکِهٖ وَبَقَائِهٖ یَاحَیُّ

آگے بسم اللہ شریف اور الحمد للہ شریف بھی لکھ دیں انشاء اللہ تعالےٰ یقیناً صحت و تندرستی ہوگی۔

برائے سکون از زیادتی شہوت و برائے زوال شہوت از زنا

اگر کسی کو شہوت ستائے احتمالِ قوی گناہ کا ہو یا کہ کوئی بدنصیب بدفعلی زنا وغیرہ میں مبتلا ہے اور وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں۔ جن میں یا ی آئی ہے جیسے قَدِیْرٌ۔ خَبِیْرٌ۔ بَصِیْرٌ۔ عَلِیْمٌ۔ حَکِیْمٌ۔ عَزِیْزٌ۔ حَلِیْمٌ۔ جَلِیْلٌ۔ رَحِیْمٌ۔ عَظِیْمٌ۔ کَرِیْمٌ وغیرہ کسی چینی کی طشتری پر لکھ کر پانی سے دھو کر پلائیں۔ سات دن صبح اول پوری تسمیہ لکھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ سکون ہو جائے گا۔

غلام یا اولاد کہا ماننے

اگر چوپایہ شوخی کرے یا اولاد باغی ہو والدین کا کہنا نہ ماننے تو یہ آیت پڑھ کر اس کے کان میں پھونکیں اور کئی دن یہ عمل کریں انشاء اللہ تعالےٰ مطیع و فرمان بردار ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آیۃ الکرسی بھی اگر سات مرتبہ پڑھ کر اضافہ کیا جائے تو نورٌ علےٰ نور ہوگا۔ تو پھر سونے پر سہاگہ کا عمل ہوگا آیت یہ ہے اَفَغَیْرَ دِیْنِ اللّٰهِ یَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَیْهِ یُرْجَعُوْنَ ۝

(پ۳ آخری رکوع)

برائے ردِ سحر و آسیب

سفید مرغ کو باوضو ذبح کر کے اس کے تازہ خون سے ایک کاغذ پر (جادو بر سرِ جادوگر) لکھ کر جہاں وہ مریض سویا کرتا ہو، اس کاغذ کو چھت پر لٹکا دیں یا چپکا دیں اس طرح کہ کاغذ مذکورہ اس کے سینہ کے مقابل رہے۔

(نقل شد از مکتوباتِ شیخ الاسلام ج ۲ ص ۲۵۵/۲۵۶، مکتوبات ۱۲۱)

برائے رشتۂ دختر (لڑکی)

جو چاہتا ہے کہ اس کی صاحبزادیوں کی شادی کے لئے حسب خواہش پیغام بکثرت آئیں تو وہ یہ عمل ضرور کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پیغامِ نکاح خود بخود شروع ہوں گے۔ وہ عمل لڑکی خود کرے۔

بعد نمازِ عشاء مندرجہ ذیل آیات کو تین سو مرتبہ پڑھے۔ آیت یہ ہے

سُبْحَانَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ (پ ۲۳ یٰسٓ آیت ۳۶)

یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَیْرِ یَا بَدِیْعُ ۱۲۰۰ اول آخر میں بارہ بارہ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اور والدین یا بھائی بہن یہ عمل کریں۔ دو رکعت نمازِ حاجت کی نیت سے پڑھیں اس کے بعد ۱۰۰ مرتبہ بعد زوال یَا لَطِیْفُ کہیں۔ دیگر سورۂ اخلاص اکتالیس مرتبہ رات سوتے وقت۔ یہ چاروں عمل ۴۱ ایام تک کرنے ہیں۔ اگر اس سے قبل کام بن گیا تو فبہا ورنہ ۴۱ ایام تک ضرور کریں

ایک نایاب تعویذ

(از بعض عارفین)

جو شخص اس نقش کو اپنے پاس موم جامہ کر کے رکھے اگر قتل غارتگری ہو رہی ہو گی اور وہاں سے گزرے گا تو کوئی دشمن انشاء اللہ تعالیٰ نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا اور ہر مقصد میں اس کی برکت سے کامیابی ہو گی۔ اس نقش کو لکھ کر بازو پر باندھے اور عورت الٹے (بائیں) بازو پر باندھے۔ اگر گلے میں باندھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ بہت ہی مجرب ہے۔ وہ نقشِ مکرم یہ ہے:

۷۸۶

۱۶۵۶۱۱	۱۶۵۶۲۵	۱۶۵۶۲۱	۱۶۵۶۱۸
۱۶۵۶۲۲	۱۶۵۶۱۷	۱۶۵۶۱۲	۱۶۵۶۲۴
۱۶۵۶۱۶	۱۶۵۶۱۹	۱۶۵۶۲۷	۱۶۵۶۱۳
۱۶۵۶۲۶	۱۶۵۶۱۴	۱۶۵۶۱۵	۱۶۵۶۲۰

شوگر کے مریضوں کیلئے

ہر ماہ کی ۱۰ تاریخ ۳ مرتبہ صبح اور شام یہ آیت پڑھ کر پانی دم کر کے پئیں انشاء اللہ شوگر بحال رہے گی۔

رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ

اے میرے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا

وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ

اور نکال مجھ کو سچا نکالنا۔ اور عطا کر مجھ کو

مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا

اپنے پاس سے ایسا غلبہ جس کو تیری مدد حاصل ہو

پ ۱۵ سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۹

ہر تکلیف و درد کے لئے دم کریں

جب کسی جگہ شدید تکلیف ہو اور پورے بدن میں بے چینی ہو تو ایسے وقت میں اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ کو کثرت سے پڑھ کر تکلیف کی جگہ پر دم کرتے جایئے انشاء اللہ تعالیٰ افاقہ ہو کر بالکل آرام و سکون ہوگا۔ مجرب المجرب ہے۔

ایڑیوں اور پیر کے پنجوں میں تکلیف کا علاج

جب ایڑیوں اور پیر کے اگلے حصے اور پنجوں میں درد ہو تو روزانہ صبح شام دونوں ٹائم ہی مکھن سے مالش کیا کریں۔ لیکن مالش کے ساتھ ساتھ سورۃ انشراح یعنی اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ الخ تین تین مرتبہ پڑھتے جایئے اور دم پھونک مارتے جایئے انشاء اللہ تعالیٰ پہلے ہی دن سے سکون کے ساتھ چند دن میں آرام ہوگا

جنات و جادو کے سخت اثرات سے بیہوشی طاری ہونیکا علاج

سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ۔

سورۃ بقرہ کی ابتداء سے مُفْلِحُوْنَ تک اور انتہاء میں آمَنَ الرَّسُوْلُ سے الخ تک ایک مرتبہ۔

پ۲۸ سورہ حشر کی آخری تین آیتیں ایک مرتبہ۔

آیۃ الکرسی سات مرتبہ۔

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ ۷ مرتبہ۔

سورۃ مزمل۔ ایک مرتبہ۔

اگر بیہوشی سے قبل بدن میں تکلیف بھی ہو تو اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ کی ایک تسبیح (ایک سو مرتبہ) پڑھ کر دم کرے اور اسی طرح يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالشِّفَاءِ يَا بَدِيْعُ ایک تسبیح اور اسی طرح يَا حَيُّ حِيْنَ لَا حَيَّ فِيْ دَيْمُوْمَةِ مُلْكِهٖ وَبَقَائِهٖ يَا حَيُّ کی بھی ایک تسبیح پڑھ کر دم پھونک ماریئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مریض کو جلد از جلد شفاء نصیب ہوگی الحمد للہ مؤلف کے یہ مجرب المجرب عملیات میں سے ہے۔

میاں بیوی کے مابین انتہائی ناچاقی کی صورت میں طلاق کی شکل و صورت پیدا کرنا

اگر میاں بیوی میں انتہائی ناچاقی پیدا ہوئی ہے تو والدین شوہر چاہتے ہیں کہ ان کے مابین جدائی بصورت طلاق ہو اور والدین و اقرباء بیوی چاہتے ہیں کہ خلع کی صورت پیدا ہو تاکہ لڑکی کی جان چھڑائیں تو اس کے لئے مہینہ کے پہلے منگل وار کو دوپہر کے وقت وضو کر کے خوشبو وغیرہ لگا کر اور منہ میں کالی مرچ رکھ کر کچی اینٹ پر

لکھے۔ پھر اُسی ماہ کے دوسرے منگل اسی طرح تیسرے منگل کو لکھ کر کنویں میں ڈالدے۔ ہر بار لکھ کر ڈالنا ہے انشاء اللہ تعالےٰ ضرور کامیابی ہوگی

ماروت	هاروت
اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ	
البغض فلان بن فلان علی فلان بن فلان	
ماروت	هاروت

چوپائے کے لات مارنے اور نظرِ بد لگنے کا علاج

جس گائے یا بھینس کو نظرِ بد لگ جائے اور دودھ دوھنے کے وقت لاتیں مارے تو یہ تعویذ بنا کر گلے میں باندھا جاوے انشاء اللہ تعالیٰ مقصد بر آویگا۔ تعویذ یہ ہے: سورۃ القلم اور سورہ نٓ کی آخری آیتیں فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ○ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

برائے نظرِ بد

گائے بھینس کو جب نظرِ بد لگ جائے تو یہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ سعے سعے سعے سعے سعے دیگر انسانوں کے لئے بھی مفید ہے کہ یہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالدیں۔

(نقش اگلے صفحہ پر دیکھیں)

عطط	عطط	عطط	عطط
عطط	عطط	عطط	عطط
عطط	عطط	عطط	عطط

علیق علیق تلیق فَاَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِیْ قُلُوْبِهِمْ عَلَيْهَا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ فَقَالَ اِنِّیْ سَقِيْمٌ

جو جانور دودھ نہ دے اس کا علاج

جو جانور دودھ نہ دے بلکہ خون یا پیپ دے تو یہ آیت لکھ کر اس کے گلے میں ڈالے انشاء اللہ تعالیٰ خوب دودھ دے گا۔ آیت یہ ہے وَاِنَّ لَكُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِیْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ

کلونجی موت کے سوا سب امراض کا علاج ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی کو لازم پکڑو کہ موت کے سوا اس میں تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی معدہ پر شہد میں کلونجی ملا کر چاٹا کرتے تھے۔ یہ گرم خشک ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ گرم تر ہے۔ جب خالی معدہ صاف شدہ شہد کے ساتھ استعمال کی جاوے تو بلغم اور رطوباتِ فاسدہ کو قطع کرتی ہے اور ریح کی سنجر ریح کو تحلیل کرتی ہے اور پیٹھ اور جوڑوں کے درد کو آرام

دیتی ہے اور جسم میں بیماریوں کو پیدا ہونے سے روکتی ہے۔

اس گائے یا بکری کی وحشت دُور کرنے کے لئے جو اپنے بچے سے نفرت کرتی ہیں

از مجرباتِ امام سیوطی رح

اسماء ذیل لکھ کر اور پانی سے دھو کر اس گائے یا بکری کو پلا دیں۔

اسماء یہ ہیں:

بسم اللہ بابنا، تبارک اللہ حیطاننا یٰسٓ سقفنا،
کٓھٰیٰعٓصٓ کفایتنا حٰمٓ عٓسٓقٓ حمایتنا فسیکفیکھم اللہ
فاللہ خیر حافظا اِنَّ ولیَّ اللہ فی الدنیا والآخرۃ
وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد النبی الکریم
وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا۔

(مجربات امام سیوطی ص۲۱)

برائے تقویتِ دماغ

ہر فرض نماز کے بعد سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قوی پڑھا جائے انشاء اللہ تعالیٰ دماغ بہت ہی قوی ہوگا اور حافظہ بھی تیز ہوگا۔ مجرب المجرب ہے

برائے ضعفِ بصر

ہر فرض اور سنتِ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف اور فَکَشَفْنَا عَنْکَ غِطَاءَکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدِیْدٌ

سات مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں پر دم پھونک مار کر آنکھوں پر پھیر لیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نگاہ کی کمزوری دور ہو کر نظر تیز ہو جائے گی۔ مجرب ہے۔

مرض ذیابیطس کا علاج

اول آخر سات سات مرتبہ درود شریف، سورۃ الطارق اِنَّہٗ عَلٰی رَجْعِہٖ لَقَادِرٌ تک ایک مرتبہ۔ اسی طرح سورۃ عٰدیٰت صرف ایک مرتبہ پڑھ کر مریض کو پلایا جائے یا سورۃ عٰدیٰت پوری تحریر کر کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈالا جائے یا سیدھے بازو پر باندھا جائے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی

تعویذ برائے شفاء ہر درد وعرق النساء وغیرہ

اس آیت شریفہ کو تین روز کاغذ پر لکھ کر پانی میں حل کر کے اس پانی کو پلائیں اور درد کی جگہ مالش کریں انشاء اللہ تعالیٰ شفا اور آرام ہوگا۔ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَوْ اَنْزَلْنَا ھٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاَیْتَہٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَۃِ اللّٰہِ وَتِلْکَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَفَکَّرُوْنَ یا شافی یا شافی یا شافی

ایضاً برائے بیماری ہر قسم

ہر قسم کی بیماری کے لئے چینی کی طشتری پر زعفران سے لکھ کر پلائیں انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔

① وَیَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ ② وَشِفَاءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ

③ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

④ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ

⑤ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

⑥ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

ہر مرض کے لئے

حضور علیہ السلام نے فرمایا: مَا مِنْ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ اَجَلُهٗ فَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ ۔ ترجمہ: کوئی مسلمان بندہ جب تک بیمار ہو اور اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو وہ سات مرتبہ یہ دعا پڑھے:

"میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ تمہیں شفاء دے"

اور ایک حدیث میں ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جس کو گرمی سے بخار ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے نہالے۔

حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بخار ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے نہالے۔

طریقہ یہ ہے کہ جس طرف سے پانی بہہ رہا ہو اس طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھے: بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُوْلَكَ

صبح کی نماز کے بعد نہر میں تین غوطے لگائے تین دن تک۔ اگر آرام نہ آئے تو پانچ دن تک تین تین غوطے لگائے۔ اگر پھر بھی آرام نہ ہو تو سات دن

تک پانچ پانچ غوطے لگائے۔ اگر پھر بھی آرام نہ آئے تو نو دن تک سات سات غوطے لگائے انشاء اللہ نو دن سے اوپر بخار نہیں ہوگا۔

حضرت عثمان فرماتے ہیں

کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے سخت بخار تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ درد والی جگہ پر دایاں ہاتھ پھیرتا رہ اور سات دفعہ یہ دعا پڑھ کر دم کرتا رہ

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ وَسُلْطَانِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ۔

لاعلاج مرض کا علاج

ہر مرض کے لئے رمضان شریف کی ستائیس تاریخ کو جتنی مرتبہ آیت لکھ سکتا ہے لکھے جس کو دے گا انشاء اللہ تعالیٰ آرام ہوگا قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ

لاعلاج بیماری کو مفید ہے

سورہ فاتحہ و آیاتِ شفاء ہر روز چینی کے برتن یا طشتری پر لکھ کر سورج نکلنے سے پہلے پانی سے دھو کر پلایا کرے چالیس دن تک کرے، انشاء اللہ جیسا بھی مرض ہوگا خواہ حکیم لوگ جواب دے چکے ہوں چالیس یوم کے اندر اندر آرام ہو جائے گا بشرطیکہ موت کا وقت نہ آچکا ہو۔

بخار وورم ودرد کے لئے

یٰنَارُ کُوْنِیْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓی اِبْرٰهِیْمَ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۔

بسم اللہ قرت بسم اللہ مرت بسم اللہ خلت

یُرِیْدُ اللّٰهُ اَنْ یُّخَفِّفَ عَنْکُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِیْفًا

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْکُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِیْکُمْ ضَعْفًا ۔


ذٰلِکَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ

وَمَآ اَرْسَلْنٰکَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۔

ان آیات کو لکھ کر گلے میں ڈالیں انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا

سوئم باری کا بخار

جس شخص کو تیسرے دن بخار آتا ہو وہ اس کو لکھ کر سر پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا



دائمی بخار کے لئے

اس تعویذ کو لکھ کر ہر روز ایک ایک کر کے سات دن تک پلائیں انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔

الله
یا محسلطط
الله الله

قلب وبدن وایمان کی حفاظت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رات کو سورۃ اخلاص اور الفلق اور والناس تین بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے بدن پر پھیر لیتے۔

سورۃ اخلاص سے قلب کی حفاظت رہے گی۔

سورۃ الفلق سے بدن کی حفاظت رہے گی۔

سورۃ والناس سے ایمان کی حفاظت رہے گی۔

درد گردہ کے لئے

تین تعویذ ایک دن میں پلائیں چالیس دن تک یہ عمل کرتا رہے انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔

بِسْمِ اللہِ قَرَّتْ ، بِسْمِ اللہِ قَلَّتْ ، بِسْمِ اللہِ مَرَّتْ

بچہ کے رونے کے لئے

جو بچہ بہت روتا ہو اور نیند نہ کرتا ہو تو یہ آیت لکھ کر اس کے گلے میں ڈالے۔ آیت یہ ہے بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ

لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ؕ اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

برائے زیادتی مکھن

یہ تعویذ بنا کر مدھانی پر باندھیں



برائے دفع دیمک ہر قسم از خانہ ہا و زمینہا و درختہا وغیرہ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ یا لطیف لم یزل اللطف بنا فیما نزل نجنا مما نخاف عن قھرك یوم الخلل اور آیت الکرسی بھی پوری لکھیں۔ اور یہ نقش سات بار لکھیں یا کج یا کج ، یا کج یا کج ، یا کج یا کج ، یا کج یا کج ، یا کج یا کج ، یا کج یا کج یا کج مٹی کی کوری ڈولی میں رکھ کر مکان کی چھت کے ساتھ باندھ دیں اور ڈولی کا منہ کھلا رکھیں۔ زمین میں دفن کریں، گھر و کھیت کے درختوں پر لٹکائیں یا باندھیں۔

برائے دفع جانوران موذی از خانہ ہا

مندرجہ ذیل تعویذ کو لکھ کر گھر کے ہر کمرہ میں چسپاں کریں۔ ہر موذی جانور مثلاً سانپ بچھو اور ہر زہریلے جانور بھاگ جائیگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُ لَطِیْفٌۢ بِعِبَادِهٖ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ

یا لطیف یا ودود یا باسط رزقی دیانۃ افتح لی ابواب الرزق حتی لا احتاج الی احد من الناس انت المستعان

بچہ کا ڈرنا اور رونا

اگر بچہ روتا ہو تو یہ تعویذ کعبہ کی طرف منہ کر کے لکھے اور گلے میں ڈالے بچہ نہیں روئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

تعویذ یہ ہے ۱۰ ا م ہ ☐ ۱۱ م ہ ل ، ۸۸

دیگر : جب بچہ روئے تو دائیں کان میں تین دفعہ آذان اور بائیں کان میں تین دفعہ اقامت کہے تو بچہ رونے سے رک جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ

برائے انسداد نزلہ، درد سر، درد چشم و نزول الماء

مندرجہ ذیل تعویذ لکھ کر چمڑہ میں بند کر کے عین ماتھے پر باندھے اور ناک کے برابر رہے، انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یُرِیْدُ اللّٰهُ اَنْ یُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِیْفًا

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِیْكُمْ ضَعْفًا

ذٰلِكَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

یملیخا ، مکشلمینا ، مثکزنوس و برکوس و مرنوس ششطیطوس ، قطمیر افسوس ، لَا فِیْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا یُنْزَفُوْنَ

فدا ہر چہار یارم ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر

درد سر بوقت نکلنے سورج کے

مندرجہ ذیل آیت لکھ کر تعویذ بنا کر ماتھے پر باندھے، انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ
(پ ۲۳ والصّٰفّٰت ۴۷)

آدھا دردِ سر

بسم اللہ سمیت سورۃ فاتحہ تین بار
اور آخر میں سبحان اللہ وبحمدہ اللہ الصمد
حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ تین بار پڑھے اور سر میں دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔

دائمی دردِ سر

اس کو لکھ کر سر پر باندھیں یا صبور یا صبور یا صبور یا صبور یا غفور یا غفور

کن درد کے لئے

اس کو لکھ کر سر پر باندھے

یا حکیم	یا حکیم	یا حکیم	یا حکیم	یا حکیم	یا حکیم	یا حکیم	یا حکیم

ہر قسم کے درد کے لئے

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جس کو جس قسم کا درد ہو تو یہ دعا

پڑھ کر دم کرے۔
بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اعوذ باللہ العظیم مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

بدن و جسم کے درد کے لئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا۔ سات دفعہ پڑھ کر درد والی جگہ پر دم کریں، یا تیل سرسوں کا اس پر دم کر کے خوب مالش کریں انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا

برائے دفعیہ نکسیر

ترکیب: اول الحمد شریف سات بار پھر مندرجہ ذیل آیات سات سات دفعہ پڑھ کر ناک کے داہنے طرف اندر پھونکیں اور پھر بائیں طرف اسی طرح سات بار کریں، پھر سات بار تمام عمل کو پڑھ کر پانی اور برتن پر دم کریں، ناک اور رخساروں پر چھینٹیں ماریں۔ اسی طرح چالیس یوم تک بلاناغہ عمل کریں، پھر ماسوا الحمد شریف کے باقی تمام آیات مسطورہ لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالیں، آیات یہ ہیں

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا
ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا
وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ
اس کو لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالیں کہ دل پر آ کر ٹھہرے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔

زمین سے کیڑوں کو بھگانے کے لئے

چار پتوں پر اسماء ذیل لکھ کر چاروں کونوں میں ایک ایک پتا دفن کر دیں سب بھاگ جائیں گے۔ اسماء یہ ہیں یَا عَلِیْمُ یَا قَدِیْرُ مَالِیْ سِوَاكَ نَصِیْرٌ

تیجا بخار کا عِلاج

مندرجہ ذیل آیات وغیرہ لکھ کر مریض کے گلے میں یا سیدھے بازو پر باندھیں شفاء ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ دَلَّتْ بِسْمِ اللّٰهِ فَرَّتْ بِسْمِ اللّٰهِ مَرَّتْ بِسْمِ اللّٰهِ انصرفت بِسْمِ اللّٰهِ اَدْبَرَتْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ۔ یَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِیْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ۔ اَلَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَهُوَ یَهْدِیْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِیْنِ۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا هُدًی وَّ شِفَآءٌ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰیَاتِ الْکَرِیْمَاتِ وَمَنْ نَزَلَتْ عَلٰی قَلْبِهٖ اَنْ تَشْفِیَ حَامِلَ هٰذَا الْکِتَابِ


نیز: تین بادام لیکر پہلے پر حَسَنَتْ دوسرے پر عَسَنَتْ تیسرے پر اِنْفَشَتْ لکھ کر ہر روز ایک سے دھونی دیں۔ صحیح اور مجرب ہے۔

نیز: کھجور کی تین گٹھلی لیکر یہ کلمات لکھیں اور یکے بعد دیگرے اس سے دھونی دیں۔ کلمات یہ ہیں بکونا ۳ احاجاع یاام امدلا تاکلی اللحم ولا تشربی الدم۔

حافظ رازی علی بن بیان سے روایت ہے یہ تعویذ لکھ کر مریض کے

سر کے نیچے رکھے بخار جاتا رہے گا۔

تیمی کا قول ہے کہ جو شخص تیرہ دفعہ حرفِ یا لکھے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قول عَلِمَ اَنَّ فِیْکُمْ ضَعْفًا اضافہ کرے اور مریض کے سر پر لٹکا دے اور لکھتے وقت باوضو ہو تو انشاء اللہ تعالیٰ بحکم خدا بخار ٹوٹ جائے گا۔ نقش یہ ہے



ایضاً: بیمار نہا کر مہندی یا کسی اور درخت کی لکڑی سے دائیں بازو پر لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اور بائیں بازو پر مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ، دائیں پنڈلی پر جبرائیل اور بائیں پر میکائیل دائیں پہلو پر اسرافیل بائیں پہلو پر عزرائیل لکھے انشاء اللہ تعالیٰ صحیح اور مجرب ہے۔ (از مجرباتِ امام سیوطیؒ ص ۱۱۸ تا ۱۱۹)

اس درد کو دور کرنے کے لیے جو چوپاؤں کے پاؤں میں ہوا کرتا ہے

اس کے واسطے اسماء ذیل درانتی پر لکھ کر اور آگ میں گرم کر کے پانی میں بجھا دیں اور بہائم پر چھڑک دیں یہ عمل ایک دن میں تین دفعہ کیا کریں۔

اسماء یہ ہیں کفعت ۲ خفعت ۲ بحق اهل الکهف وبحق آدم ونوح ومحمد اجمعین تجم وانقطع قطعًا

اس حیوان وانسان کے لئے جس کا بچہ گر جاتا ہو

اسماء ذیل کسی کاغذ پر لکھ کر عورت یا مویشی کی گردن میں لٹکا دیں اسماء یہ ہیں منیف عتق وَنُقِرُّ فِی الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى

بکریوں کو شیر یا بھیڑیئے وغیرہ سے بچانے کیلئے

اسماء ذیل لکھ کر بکریوں کے گلے میں لٹکا دیں۔ کوئی شیر یا بھیڑیا وغیرہ ان کے نزدیک نہیں آئیگا۔ کٓهٰیٰعٓصٓ وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ قٓ وَالْقُرْاٰنِ وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ

عملِ مجرب برائے قوتِ دل

مندرجہ ذیل کو ہر فرض نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ پڑھیں اور دل پر پھونک دیا کریں۔ ان شاء اللہ دل کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔

يَا قَوِيُّ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ قَوِّنِيْ وَقَلْبِيْ

ترجمہ: اے قوت والے قدرت و اقتدار والے مجھ کو اور میرے دل کو قوت دے۔

از حضرت مفتی ولی حسن صاحب مدظلہ
جامعہ عربیہ اسلامیہ کراچی۔

نسخۂ اکسیر اعظم برائے شادی و نکاحِ دختران و دفع اثراتِ آسیب و سحر و برائے تمام امراضِ اطفال و برائے وسعتِ رزق از غیب۔ نیز فوجی کے بدن پر تیر و تفنگ و گولیاں اثر نہ کریں

یہ ہے تیر بند تعویذ

الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ (بدایہ سورۃ البقرہ ع ۱)

الٓمّٓ ۝ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ (پ۳ بدایہ آل عمران)

الٓمّٓصٓ ۝ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (پ۸ بدایہ سورہ اعراف)

الٓمّٓرٰ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ (پ۱۳ بدایہ سورہ رعد)

كٓهٰيٰعٓصٓ ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا پ۱۶ بدایہ سورہ مریم

طٰہٰ مَآ اَنۡزَلۡنَا عَلَیۡکَ الۡقُرۡاٰنَ لِتَشۡقٰی (بدایہ سورۃ طٰہٰ پ ۱۶)

طٰسٓ تِلۡکَ اٰیٰتُ الۡقُرۡاٰنِ وَ کِتَابٍ مُّبِیۡنٍ (بدایہ سورہ نمل)

طٰسٓمّٓ ۝ تِلۡکَ اٰیٰتُ الۡکِتٰبِ الۡمُبِیۡنِ (بدایہ سورہ شعراء پ ۱۹)

یٰسٓ ۝ وَ الۡقُرۡاٰنِ الۡحَکِیۡمِ (بدایہ سورہ یٰسٓ پ ۲۲)

صٓ ۝ وَ الۡقُرۡاٰنِ ذِی الذِّکۡرِ بَلِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا فِیۡ عِزَّۃٍ وَّ شِقَاقٍ ۝ (پ ۲۳ بدایہ سورہ صٓ)

حٰمٓ ۝ تَنۡزِیۡلُ الۡکِتٰبِ مِنَ اللّٰہِ الۡعَزِیۡزِ الۡعَلِیۡمِ غَافِرِ الذَّنۡبِ وَ قَابِلِ التَّوۡبِ شَدِیۡدِ الۡعِقَابِ ذِی الطَّوۡلِ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ اِلَیۡہِ الۡمَصِیۡرُ (پ ۲۴ بدایہ سورۂ مؤمن)

حٰمٓ عٓسٓقٓ ۝ کَذٰلِکَ یُوۡحِیۡۤ اِلَیۡکَ وَ اِلَی الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِکَ اللّٰہُ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ (پ ۲۵ بدایہ سورۂ شوریٰ)

قٓ ۝ وَ الۡقُرۡاٰنِ الۡمَجِیۡدِ (پ ۲۶ بدایہ قٓ)

نٓ وَ الۡقَلَمِ وَ مَا یَسۡطُرُوۡنَ (پ ۲۹ بدایہ سورہ قلم)

ترکیب وطریقہ ان چودہ آیتوں کو چودھویں چاند کی رات کو بعد نماز عشاء باوضو ہو کر ہرن کی سادی والی جھلی پر لکھ کر پھر لوہے کی نلکی میں ڈال کر نلکی کا منہ شہد کے موم سے بند کر دیا جائے اور پھر چمڑے میں بند کر کے دائیں بازو پر یا گلے میں باندھا جائے انشاء اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا مقاصد کے لئے کافی وشافی ہیں ۔ مجرب المجرب ہیں۔

علاج خون جاری شدہ زخم کا جو کسی طرح بند نہیں ہوتا

اگر آسیبی اثرات کیوجہ سے کسی کے بدن کا زخم خون آلودگی کے سبب تو ساتھ ہر وقت اس سے خون بہتا رہتا ہے، چاہے زخم کانٹا چبھنے کی وجہ سے ہو یا بچہ یا بڑے کے گرنے کیوجہ سے ہو غرضیکہ زخم کا خون بند ہونے پر آتا ہی نہیں اور ڈاکٹروں اور اطباء جواب دے چکے ہوں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آمنت باللہ والا تعویذ گلے میں ڈالا جائے۔ تعویذ یہ ہے :

اٰمَنۡتُ بِاللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ وَ کَفَرۡتُ بِالۡجِبۡتِ وَ الطَّاغُوۡتِ وَ اسۡتَمۡسَکۡتُ بِالۡعُرۡوَۃِ الۡوُثۡقٰی لَا انۡفِصَامَ لَہَا وَ اللّٰہُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ لَا حَوۡلَ وَ لَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الۡعَلِیِّ الۡعَظِیۡمِ اَعُوۡذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰہِ التَّامَّاتِ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ اور رحیم والا نقش تعویذ اکتالیس ایام تک پینے کے لئے دیا جائے تین نقش تعویذ دس دس دن کیلئے اور ایک نقش تعویذ گیارہ دن کے لئے استعمال کیا جائے۔

رَحِیۡمٌ والا نقش تعویذ یہ ہے جو پینے کے لئے ہے

یاحفیظ	یارحیم	یاحافظ
یاکریم	یاحیّ	یاقیّوم
یارحیم	یارحیم	یارحیم

ثبوت وجودِ جنّات از قرآن

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

(۱) وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ الخ
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

(۲) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا
مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ
اِلَّا بِسُلْطٰنٍ (سورۂ رحمٰن)

(۳) قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ الخ
(سورۂ جنّ)

(۴) وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ الخ پ۲۶ احقاف ع۴

(۵) اِنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ (پ۲۹ جن ع۱)

(۶) اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ
بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا (پ۱۵ کہف ع۷)

(۷) وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ
الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ
مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ
وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّيْ
كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ۝ پ۱۳ ابراھیم ۲۴

دُعَائے حِزْبُ الْبَحْرِ

دعائے حزب البحر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کیساتھ جو بخشش کرنیوالا نہایت مہربان ہے

يَا اَللّٰهُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ

اے خدائے برتر اے بزرگ اے بردبار اے کریم اے دانا

اَنْتَ رَبِّيْ وَعِلْمُكَ حَسْبِيْ فَنِعْمَ

تو ہی میرا پروردگار ہے اور تیرا ہی علم مجھ کو کافی ہے پس اچھا

الرَّبُّ رَبِّيْ وَنِعْمَ الْحَسْبُ حَسْبِيْ تَنْصُرُ

پروردگار میرا پروردگار اور اچھا کافی میرا کافی ہے غالب کرتا ہے تو

مَنْ تَشَآءُ وَاَنْتَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

جس کو چاہے اور تو غالب رحم والا ہے۔

نَسْئَلُكَ الْعِصْمَةَ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ

سوال کرتے ہیں ہم تجھ سے حفاظت کا حرکات اور سکنات

وَالْكَلِمَاتِ وَالْاِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ

اور بول چال الفاظ اور ارادوں اور خیالات میں جو

مِنَ الظُّنُوْنِ وَالشُّكُوْكِ وَالْاَوْهَامِ

از جنس گمان اور شک اور وہموں سے ہوں۔

السَّاتِرَةِ لِلْقُلُوْبِ عَنْ مُّطَالَعَةِ الْغُيُوْبِ فَقَدِ

جو دلوں پر حجاب بن جانے والے پوشیدہ باتوں پر اطلاع پانے سے کہ مومنین

ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا

بیشک امتحان میں ہو گئے ہیں اور ہلائے گئے ہیں سخت ہلایا جانا

جب یہ لفظ یعنی شَدِيْدًا پڑھ چکے تو داہنی انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کرے۔

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

اور جب کہ کہتے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے

مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ۝ فَثَبِّتْنَا

کہ ہم سے اللہ اور رسول نے نہیں وعدہ کیا تھا مگر دھوکے کا پس ہم کو ثابت

وَانْصُرْنَا اس جگہ یعنی اُنْصُرْنَا پڑھنے میں مطلب کا دل میں خیال

قدم رکھ اور غلبہ دے۔ کرے۔

وَسَخِّرْ لَنَا هٰذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ

اور ہمارے کار آمد کر دے اس دریا جیسا کہ کار آمد کر دیا تھا

الْبَحْرَ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ

دریا کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور کار آمد کر دیا تھا

النَّارَ لِاِبْرٰهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ

آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور کار آمد کر دیا تھا

الْجِبَالَ وَالْحَدِيْدَ لِدَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

پہاڑوں اور لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لئے

وَسَخَّرْتَ الرِّيْحَ وَالشَّيٰطِيْنَ وَالْجِنَّ

اور حکم میں کر دیا تھا ہوا اور شیاطین اور جنوں کو

لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ

سلیمان علیہ السلام کے لئے اور ہمارے کار آمد کر دے اپنے

بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ وَ

اس دریا کو جو زمین میں ہے اور آسمان میں اور

الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَ

ملک اور جہان میں ہو اور دنیا کے دریا کو اور

بَحْرَ الْاٰخِرَةِ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَا

آخرت کے دریا کو اور ہمارے کار آمد کر دے ہر چیز کو اے

مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ كٓهٰيٰعٓصٓ

وہ ذات کہ اسی کے قبضہ میں ہے ملکیت ہر چیز کی کاف ہا یا عین صاد

كٓهٰيٰعٓصٓ كٓهٰيٰعٓصٓ

کاف ہا یا عین صاد کاف ہا یا عین صاد

اس کلمہ کو تین بار لکھا گیا اس لئے کہ تین بار پڑھا جاتا ہے اور اس کے اول دفعہ پڑھنے میں ہر حرف کے ساتھ انگلیاں داہنے

ہاتھ کی بند کرے اس طرح کہ اوّل حرف کے ساتھ چھنگلیا پھر دوسرے
حرف کے ساتھ چھنگلیا کے قریب کی انگشت تیسرے حرف کے ساتھ
بیچ کی انگلی چوتھے کے ساتھ انگلی شہادت کی پانچویں کے ساتھ
انگوٹھا بند کرے اور اسی طرح بند رکھے پھر دوسرے کٓھٰیٰعٓصٓ (کاف ہا یا عین صاد)
کے ساتھ اسی ترتیب سے کھولدے۔ پھر تیسرے کٓھٰیٰعٓصٓ (کاف ہا یا عین صاد) کے ساتھ
بند کرے اُنْصُرْنَا (ہماری مدد کر) یہاں پر یعنی اُنْصُرْنَا پڑھنے میں پہلی انگلی یعنی
چھنگلیا کھولدے فَاِنَّكَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ وَافْتَحْ لَنَا

کیوں کہ تو سب سے بہتر مدد کرنیوالا ہے اور ہم کو فتح دے

یہاں اسی طرح دوسری انگلی کھولدے فَاِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ

کیوں کہ تو سب سے بہتر فتح دینےوالا ہے

وَاغْفِرْ لَنَا (اور بخش ہم کو) یہاں تیسری انگلی کھولدے فَاِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ (کیوں کہ تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے)
وَارْحَمْنَا (اور رحم کر ہم پر) یہاں چوتھی انگلی کھولدے فَاِنَّكَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ (کیوں کہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے)
وَارْزُقْنَا (اور ہم کو روزی دے) یہاں پانچویں انگلی کھولدے اور ترتیب کھولنے کی وہی ہے
جو بند کرنے کی ہے۔

فَاِنَّكَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ وَاحْفَظْنَا فَاِنَّكَ

کیوں کہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اور ہماری حفاظت کر کیونکہ

خَيْرُ الْحٰفِظِيْنَ وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ

تو سب سے بہتر حفاظت کرنیوالا ہے اور ہم کو ہدایت کر اور ہم کو ظالموں کی

الظّٰلِمِيْنَ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رِيْحًا

قوم سے بچا اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے ایک اچھی

طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِيْ عِلْمِكَ وَانْشُرْهَا

ہوا جیسی کہ وہ تیرے علم میں ہے اور چلا اس کو

عَلَيْنَا مِنْ خَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ وَاحْمِلْنَا

ہم پر اپنی رحمت کے خزانوں میں سے اور لے چل ہم کو

بِهَا حَمْلَ الْكَرَامَةِ وَمَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ

اس کے ذریعہ سے لے چلنا عزت کا اور مع سلامتی دین اور

فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ

دنیا اور آخرت کے امن چین کے ساتھ کیوں کہ تو ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لَنَآ اُمُوْرَنَا

قادر ہے اے اللہ آسان کر ہمارے لیے تمام کام

یہاں پر یعنی اُمُوْرَنَا پڑھنے میں مطلب کا خیال دل میں رکھے

مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوْبِنَا وَاَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةِ

دلوں اور بدنوں کے چین کے ساتھ اور سلامتی اور امن

وَالْعَافِيَةِ فِيْ دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا وَكُنْ صَاحِبَنَا

کے ساتھ ہمارے دین اور دنیا میں اور وہ ہمارا ساتھی

فِيْ سَفَرِنَا وَخَلِيْفَةً فِيْٓ اَهْلِنَا وَاطْمِسْ

سفر میں اور ہمارے پیچھے محافظ ہمارے گھر بار میں اور بگاڑ دے

عَلٰی وُجُوْہِ اس جگہ یعنی وُجُوْہِ پڑھتے ہیں بتصور اعداء

داہنے ہاتھ کی مٹھی باندھکر نیچے کو اشارہ کرے اور کھولدے

اَعْدَآئِنَا وَامْسَخْهُمْ عَلٰی مَكَانَتِهِمْ فَلَا

ہمارے دشمنوں کے اور ان کو مسخ کردے ان کی جگہ پر کہ نہ

يَسْتَطِيْعُوْنَ الْمُضِيَّ وَلَا الْمَجِيَّ اِلَيْنَا وَلَوْ

طاقت رکھیں وہ ہم پر گذر کی اور نہ ہماری طرف آنے کی (جیساکہ

نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ

تونے فرمایا ہے) کہ اگر چاہیں ہم تو ان کی آنکھوں کو پٹ کردیں کہ وہ

فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ٥ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى

راستے کیطرف دوڑتے پھریں پھر کہاں دیکھ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو مسخ کردیں ان کو اُن کی

مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ٥

جگہ پر پھر نہ طاقت رکھیں وہاں سے چلے جانیکی اور نہ لوٹ سکیں۔

يٰسٓ ٥ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥

یٰسٓ قسم ہے قرآن محکم کی بیشک آپ پیغمبروں میں سے ہیں

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٥

سیدھے راستہ پر (یہ قرآن) اتارا ہوا ہے (خدا کے) غالب اور رحیم کا

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ

تاکہ ڈرائیں آپ اس قوم کو کہ ان کی پہلی نسلیں نہیں ڈرائی گئیں اس وجہ

غٰفِلُوْنَ ٥ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ

سے وہ غافل ہیں سچی ہوچکی ہے (خدا تعالیٰ کی) بات ان میں بہتوں پر

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٥ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ

پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے ہمنے ڈال دیئے ہیں انکی گردنوں میں

اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ

طوق کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں پس ان کے سر اُلل

فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ٥ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ

گئے ہیں اور قائم کردی ہے ہم نے ایک دیوار

اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

ان کے سامنے اور پیچھے ان کے ایک دیوار کہ اس نے

فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ٥ شَاهَتِ

ان کو آڑ میں کردیا پس وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بگڑ جائیں

الْوُجُوْهُ شَاهَتِ الْوُجُوْهُ شَاهَتِ الْوُجُوْهُ

منہ بگڑ جائیں منہ بگڑ جائیں منہ

یہ کلمہ تین بار لکھا گیا۔ ہر بار یہاں دل میں اپنے
دشمنوں کا خیال رکھے کہ تباہ ہوجائیں اور الٹا
ہاتھ زمین پر مارے اور ہر بار میں

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ؕ

(جیسا قیامت کے بارے میں ہے) اور جھک جائیں گے منہ (غذائے) حیٌّ و قیوم کے سامنے

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝ طٰسٓ طٰسٓمٓ

اور خسارہ میں پڑا وہ جس نے گناہ کا بار اٹھایا طٰسٓ طٰسٓمٓ

حٰمٓ عٓسٓقٓ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۝

حٰمٓ عٓسٓقٓ ملادیا دو دریاؤں کو ایک ساتھ بہتے ہیں اور

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۝ حٰمٓ حٰمٓ

بیچ میں انکے ایک پردہ ہے کہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرسکتے۔ حٰمٓ حٰمٓ

حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ

حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ

حٰمٓ چونکہ سات مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس لیئے سات جگہ لکھا گیا۔ پہلی بار پڑھ کر داہنی طرف پھونک مارے اور دوسری بار پڑھ کر بائیں طرف اور تیسری بار پڑھ کر سامنے اور چوتھی بار پڑھ کر پیچھے اور پانچویں بار پڑھ کر اوپر اور چھٹی بار پڑھ کر نیچے اور ساتویں بار پڑھکر دونوں ہاتھ پر اندر کیطرف دم کرکے تمام بدن پر ملے حٰمٓ الْاَمْرُ

گرم ہوا الام

وَجَآءَ النَّصْرُ فَعَلَيْنَا لَا يُنْصَرُوْنَ ۝ حٰمٓ ۝

اور آگئی مدد پس وہ ہم پر فتح نہیں پاسکتے۔ حٰمٓ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور دانا ہے

غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ

گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا سخت عذاب والا

ذِي الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

بڑے اختیار والا کوئی معبود اس کے سوا نہیں اسی کیطرف لوٹنا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ بَابُنَا تَبَارَكَ حِيْطَانُنَا يٰسٓ سَقْفُنَا

بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے تبارک الذی ہماری چہار دیواری ہے یٰسٓ ہماری

كٓهٰيٰعٓصٓ یہاں داہنے ہاتھ کی انگلیاں بند کرے

چھت ہے كٓهٰيٰعٓصٓ چھنگلیا سے شروع کرے انگوٹھے پر ختم کرے اول حرف پڑھنے میں چھنگلیا بند کرے دوسرے پر اسکے پاس والی تیسرے پر درمیانی چوتھے پر انگشت شہادت پانچویں پر انگوٹھا۔ ہر حرف کے پڑھنے کے ساتھ ہی انگلی بند کرے

كِفَايَتُنَا حٰمٓ عٓسٓقٓ

ہم کو کافی ہے حٰمٓ عٓسٓقٓ

یہاں انگلیاں کھولے ہر حرف کیساتھ اسی ترتیب سے کہ جسطرح بند کی تھیں

حِمَايَتُنَا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ

ہماری پناہ ہے پس اللہ تجھ کو ان کے مقابلہ میں کافی ہوجائیگا اور وہ

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ

سننے والا اور جاننے والا ہے عرش کا پردہ ہمارے اوپر چھوٹا

عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا

ہوا ہے اور حق تعالیٰ کی نظر ہماری طرف متوجہ ہے

بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا ۞ سِتْرُ

خدا تعالیٰ کی مدد سے کوئی ہم پر قابو نہ پائیگا عرش کا

الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللّٰهِ

پردہ ہمارے اوپر چھوٹا ہوا ہے اور حق تعالےٰ

نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا ۞

کی نظر ہماری طرف متوجہ ہے خدا تعالیٰ کی مدد سے کوئی ہم پر قابو نہ پائے گا

سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ

عرش کا پردہ ہمارے اوپر چھوٹا ہے اور حق تعالیٰ کی

اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ

نظر ہماری طرف متوجہ ہے حق تعالیٰ کی مدد سے کوئی ہم پر

عَلَيْنَا ۞ سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا

قابو نہ پائے گا عرش کا پردہ ہمارے اوپر چھوٹا ہوا ہے

وَعَيْنُ اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ

اور حق تعالیٰ کی نظر ہماری طرف متوجہ ہے حق تعالیٰ کی مدد سے

لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا ۞ سِتْرُ الْعَرْشِ

کوئی ہم پر قابو نہ پائے گا عرش کا پردہ

مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللّٰهِ نَاظِرَةٌ

ہمارے اوپر چھوٹا ہوا ہے اور حق تعالیٰ کی نظر ہماری طرف

اِلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا ۞

متوجہ ہے حق تعالیٰ کی مدد سے کوئی ہم پر قابو نہ پائے گا

سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ

عرش کا پردہ ہمارے اوپر چھوٹا ہوا ہے اور حق تعالیٰ

اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ

کی نظر ہماری طرف متوجہ ہے حق تعالیٰ کی مدد سے کوئی ہم پر

عَلَيْنَا وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۞

قابو نہ پائے گا اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۞

بلکہ یہ کتاب قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ میں

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۞

بس اللہ ہی اچھا نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۞

بس اللہ ہی اچھا نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ٥

بس اللہ ہی اچھا نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

اِنَّ وَلِيِّۦَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ

بیشک میرا مددگار اللہ ہے جس نے اتاری کتاب اور وہی

يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ٥ اِنَّ وَلِيِّۦَ اللّٰهُ الَّذِيْ

مددگار ہوتا ہے نیکوں کا بیشک میرا مددگار اللہ ہے جس نے

نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ٥

اتاری کتاب اور وہی مددگار ہوتا ہے نیکوں کا

اِنَّ وَلِيِّۦَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ

بیشک میرا مددگار اللہ ہے جس نے اتاری کتاب

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ٥ حَسْبِيَ

اور وہی مددگار ہوتا ہے نیکوں کا کافی ہے مجھ کو

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ

اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ

پروردگار ہے عرش عظیم کا کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں کوئی

اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

معبود سوائے اسکے اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہ پروردگار ہے

الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ

عرش عظیم کا کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥

اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہ پروردگار ہے عرش عظیم کا

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے اسی پر بھروسہ کیا میں نے

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥ حَسْبِيَ اللّٰهُ

اور وہ پروردگار ہے عرش عظیم کا ۔ کافی ہے مجھ کو اللہ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

نہیں کوئی معبود سوائے اس کے اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہ پروردگار

الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ

ہے عرش عظیم کا کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥

اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہ پروردگار ہے عرش عظیم کا

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اسی پر بھروسہ کیا میں نے

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥

اور وہ پروردگار ہے عرش عظیم کا ۔

بِسْمِ اللّٰہِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِہٖ شَیْءٌ

اس خدا کے نام سے جس کے نام کیساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی

فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ٥

زمین میں نہ آسمان میں اور وہی سننے والا جاننے والا ہے

بِسْمِ اللّٰہِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِہٖ شَیْءٌ

اس خدا کے نام سے جس کے نام کیساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی

فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ٥

زمین میں نہ آسمان میں اور وہی سننے والا جاننے والا ہے

بِسْمِ اللّٰہِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِہٖ شَیْءٌ

اس خدا کے نام سے جس کے نام کیساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی

فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ٥

زمین میں نہ آسمان میں اور وہی سننے والا جاننے والا ہے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ٥

اور نہیں قوت اور نہ طاقت مگر ساتھ اللہ برتر و بزرگ کے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ٥

اور نہیں قوت اور نہ طاقت مگر ساتھ اللہ برتر و بزرگ کے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ٥

اور نہیں قوت اور نہ طاقت مگر ساتھ اللہ برتر و بزرگ کے

وَصَلَّی اللّٰہُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَ

اور رحمت کاملہ نازل فرمائے حق تعالیٰ اپنی بہترین مخلوق محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور آپکے آل

اَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ ٥ بِرَحْمَتِكَ

اصحاب پر سب پر اپنی رحمت سے

یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ٥

اے ارحم الراحمین

دُعَائِ اِخْتِتَام

دعائے اختتام

یَا اَللّٰہُ یَا نُوْرُ یَا حَقُّ یَا مُبِیْنُ اَكْسِنِیْ

اے خدا اے نور اے حق اے ظاہر کرنے والے اپنے نور کا

مِنْ نُوْرِكَ وَ عَلِّمْنِیْ مِنْ عِلْمِكَ وَ

لباس مجھے پہنا اور اپنا علم مجھے سکھا اور

فَھِّمْنِیْ عَنْكَ وَ اَسْمِعْنِیْ مِنْكَ وَ

اپنی طرف سے سمجھ دے اور اپنا حکم مجھے سنا اور

اَبْصِرْنِیْ بِكَ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ٥

اپنی معرفت دے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے

یَا سَمِیْعُ یَا عَلِیْمُ یَا حَلِیْمُ یَا عَلِیُّ یَا

اے سننے والے اے دانا اے بردبار اے برتر اے

عَظِيْمُ اِسْمَعْ دُعَآءِىْ بِخَصَآئِصِ لُطْفِكَ
عظیم الشان اپنی مہربانی سے میری دعا سن
اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ
آمین آمین آمین میں خدا کے تمام حکموں کے
اللهِ التَّآمَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
ذریعہ ان تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جنکو اس نے
اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ كُلِّهَا
پیدا کیا ہے پناہ مانگتا ہوں خدا کے کامل احکام کے ذریعہ اُن تمام
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ يَا عَظِيْمَ السُّلْطَانِ ٥
کے شر سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے اے عظیم الشان بادشاہ
يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ ٥ يَا دَآئِمَ النِّعَمِ
اے قدیم سے احسان کرنے والے اے ہمیشہ سے نعمت دینے والے
يَا بَاسِطَ الرِّزْقِ يَا وَاسِعَ الْعَطَايَا يَا
اے رزق پیدا کرنے والے اے زیادہ عطیات والے اے
دَافِعَ الْبَلَايَا يَا حَاضِرًا لَيْسَ بِغَآئِبٍ يَا
آفتوں کو دفع کرنے والے اے حاضر نہ ہونیوالے غائب اے
مَوْجُوْدًا عِنْدَ الشَّدَآئِدِ يَا مُجْمِلَ السِّرِّ
سختیوں کے وقت مدد کرنے والے اے مجمل بھید والے

يَا خَفِيَّ اللُّطْفِ يَا لَطِيْفَ الصُّنْعِ يَا
پوشیدہ مہربانی والے عمدہ کاریگری والے اے
حَلِيْمًا لَا يَعْجَلُ يَا جَوَادًا لَا يَبْخَلُ
ایسا بردبار جو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا اے بے بخل سخی
اِقْضِ حَاجَتِىْ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ
اپنی رحمت سے میری حاجت پوری کردے اے سب سے
الرَّاحِمِيْنَ ٥ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ
بڑے رحم کرنے والے مہربان اے خدا میں تجھ سے تیرے نام کے
بِاسْمِكَ الْمَخْزُوْنِ الْمَكْنُوْنِ السَّلَامِ
وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو محفوظ ہے پوشیدہ ہے سلامت ہے
الْمُنَزِّلِ الْقُدُّوْسِ الْمُطَهِّرِ الطَّاهِرِ
نازل کرنے والا ہے پاک پاک کرنے والا پاک
يَا دَهْرُ يَا دَيْهَارُ يَا دَيْهُوْرُ يَآ اَزَلُ يَآ
تیرا نام ہے دہر اے وہ جس کا شروع نہیں اور جس کی انتہا نہیں اے
اَبَدُ يَا مَنْ لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ
وہ جس نے کسی کو نہ جنا اور نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ
يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ يَا مَنْ لَّمْ
کائنات میں اُس کی کوئی مثل ہے اے وہ جو

يَزَلْ يَا هُوَ يَا هُوَ يَا هُوَ مَنْ لَّآ اِلٰهَ

ہمیشہ سے ہے اے وہ اے وہ اے وہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں

اِلَّا هُوَ يَا كَانُ يَا كَيْنَانُ يَا رُوْحُ

اے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے تھا اے روح

يَا كَآئِنُ بَعْدَ كُلِّ كَوْنٍ اِهْيَا

اے وہ جو تھا تمام کائنات سے قبل اے وہ ازلی جس کو

اَشْرَاهِيًا اٰذُوْنٰى اَصْبَاؤُتُ يَا مُجْلِيَ

کبھی زوال نہیں ہے اے وہ دائمی جس کو کبھی فنا نہیں اے سختیوں

عَظَآئِمِ الْاُمُوْرِ سُبْحَانَكَ عَلٰى عَفْوِكَ

کو دور کرنے والے تو پاک ہے کہ قدرت کے

بَعْدَ قُدْرَتِكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ

بعد معاف کرتا ہے اگر وہ راہِ راست سے پھر جائیں تو کہہ دو کہ میرے لئے

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ

خدا کافی ہے جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے اُس پر میرا بھروسہ ہے اور

هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ لَيْسَ

وہ عرش عظیم کا پیدا کرنے والا ہے جس کی مثل

كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ

اے خدا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اہل پر

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ

رحمت نازل کر جیسا کہ تونے رحمت نازل کی تھی ابراہیمؑ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

اور اُن کے اھل پر یقیناً تو قابلِ تعریف بزرگ ہے

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ

اے خدا برکت نازل کر محمدؐ اور ان کے اہل پر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ

جیساکہ تونے برکت نازل کی تھی ابراہیمؑ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ

اور اُن کے اھل پر یقیناً تو

حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

قابلِ تعریف بزرگ ہے



صلوٰۃ خوف پڑھنے کا طریقہ

صلوٰۃ خوف کے بارے میں پ۵ سورۃ النساء آیت ۱۰۲ میں اگرچہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن آپ کے بعد تا قیامت آپ کے جانشین بھی اس میں داخل ہیں حاصل یہ ہے کہ جب عین میدانِ جنگ میں نماز کا وقت آجائے اور کافروں کی طرف سے اچانک حملہ کر دینے کا خطرہ ہو تو امام مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دے ایک جماعت تو ہتھیاروں سے لیس دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہے اور دوسری امام کیساتھ نماز میں شریک ہو جائے جب ایک رکعت پڑھ چکیں تو چپکے سے پہلی جماعت کی جگہ چلی جائیں اور پہلی جماعت آکر امام کے ساتھ شریک ہو جائے جب امام دوسری رکعت پر سلام پھیرے تو یہ اٹھ کر اپنی رکعت سابقہ ادا کر کے سلام پھیر لیں اور دشمن کے مقابلہ میں چلے جائیں اور جو جماعت ایک رکعت پڑھ کر چلی گئی تھی وہ واپس اپنی جگہ میں آکر اپنی باقی ماندہ رکعت بغیر قرأت کے پوری کرے اس لئے کہ حق قراءت میں یہ حکماً لاحق اور امام کے پیچھے سمجھے جائیں گے اور جو جماعت امام کی دوسری رکعت میں شریک ہوئی تھی وہ اپنی دوسری رکعت میں مسبوق کے حکم میں ہو کر قرأت کیساتھ نماز پوری کرے۔ اب دوسری رکعت چاہے میدانِ جنگ میں ادا کرے چاہے امام کے پاس آکر ادا کرے دونوں صورتوں میں اختیار ہے یہ طریقہ دوگانہ صورت میں ہے۔ اگر چار رکعت والی نماز ہو تو امام دونوں جماعتوں کو دو دو رکعتیں پڑھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقہ سے صلوٰۃ خوف ادا فرماتے تھے اور اس وقت نماز میں اندورِ فت

معاف ہے اور ہتھیار اور زرہ یا سپر ساتھ رکھیں اور اس قدر بھی فرصت نہ ہو تو جماعت موقوف کریں، تنہا نماز پڑھ لیں اور پیادہ ہو کر اشارہ سے اور اگر یہ بھی فرصت نہ ہو تو قضا کریں۔

جنگی فوجیوں اور سالاروں کے لئے ورد و وظائف

ف: ایام جہاد میں ائمہ مساجد کو اور فوج کے امام کو صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے قومہ میں قنوتِ نازلہ پڑھنا چاہیئے جس کی برکت سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے اور کفّار کو شکست ہو جاتی ہے۔ قنوتِ نازلہ آخر میں دیکھیں۔

تنبیہ: اسلامی فوج کے سپاہیوں اور افسروں کو میدانِ جنگ میں مقابلہ کے وقت نعرۂ تکبیر اللہ اکبر کا اہتمام کرنا چاہیئے اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور کفار کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے اور فوج کے امام کو ہر نماز کے بعد نعرۂ تکبیر جماعت کے ساتھ بلند کرنا چاہیئے بشرطیکہ مصلحت کے خلاف نہ ہو۔

تنبیہ: اسلامی فوج کو ہر دن صبح و شام حسب ذیل دعائیں پڑھ لینا چاہیئے۔ انشاء اللہ حفاظتِ الٰہی شاملِ حال ہوگی۔

(۱) سورۃ لایلاف قریش۔ گیارہ بار

(۲) اَلَم تَرَ کَیفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصحَابِ الفِیل

(۳) لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ الرَّحِيْمُ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ صبح وشام ایک بار اور تین بار پڑھ لیں تو اور اچھا ہے۔

(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا
فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ تین بار۔

صبح وشام تین بار اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔

صبح وشام تین بار لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

نوٹ: جو دعائیں اسلامی فوج کے سپاہیوں اور افسروں کے لئے لکھی گئیں وہ سب مسلمان بھی پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے بھی شاملِ حال ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

قنوتِ نازلہ

احادیثِ صحیحہ میں ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی شدید حادثہ پیش آتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں مسلمانوں کی حفاظت اور دشمنوں پر فتح کے لیے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ شرح منیہ میں ہے کہ یہ قنوتِ نازلہ اب بھی مسنون ہے۔ دُرِّ مختار شامی میں ہے کہ قنوتِ نازلہ ہر مصیبت عامہ اور جنگ وجہاد کے لیے اب بھی مستحب ہے۔ اس وقت جبکہ سارا عالمِ اسلام مصائب و آلام میں مبتلا ہے۔ خصوصاً پاکستان کی سرحدات پر اعدائے اسلام نے بھرپور حملے شروع کر دیئے۔ مناسب ہے کہ مسلمان اسلام اور پاکستان کی حفاظت کے لیے دعائے قنوت پڑھا کریں۔ صبح کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد امام بآوازِ بلند یہ دعا پڑھے اور مقتدی آمین کہتے رہیں۔ اس دعا

کے لیے نہ تکبیر کہی جائے۔ نہ ہاتھ اُٹھائے جائیں۔ دعا کے بعد تکبیر کہہ کر امام کے ساتھ سجدے میں جائیں۔

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا
یا اللہ راہ دکھا ہم کو ان لوگوں میں جن کو تو نے راہ دکھائی اور عافیت دے ہم کو
فِيْمَنْ عَافَيْتَ ۝ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ ۝ وَ
ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت بخشی اور کارسازی کر ہماری ان لوگوں میں جن کے آپ کارساز ہیں اور
بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ ۝ وَقِنَا شَرَّ مَا
برکت دے اس چیز میں جو آپ نے ہم کو عطا فرمائی۔ اور بچا ہم کو اس چیز کے شر سے جسکو
قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ ۝
آپ نے مقدر فرمایا کیونکہ فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہیں۔ آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔
اِنَّهٗ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ۝ وَلَا يَذِلُّ مَنْ
بے شک آپ کا دشمن عزت نہیں پا سکتا۔ اور آپ کا دوست ذلیل
وَّالَيْتَ ۝ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
نہیں ہو سکتا۔ برکت والے ہیں آپ اے ہمارے پروردگار اور بلند و بالا ہیں
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
یا اللہ مغفرت فرما مومن مردوں اور عورتوں کی
وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَصْلِحْهُمْ
اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے گناہ معاف فرما اور ان کے حالات کی

وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ٥ وَاَلِّفْ بَيْنَ

اصلاح فرما اور ان کے باہمی تعلقات کو درست فرمادے اور اُن کے دلوں میں اُلفت

قُلُوْبِهِمْ ٥ وَاجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِهِمُ

باہمی اور محبت پیدا کردے اور ان کے دلوں میں ایمان وحکمت کو قائم

الْاِيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَثَبِّتْهُمْ

فرمادے اور ان کو اپنے رسول کے

عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِكَ وَاَوْزِعْهُمْ

دین پر ثابت قدم فرما اور توفیق دے اُنھیں

اَنْ يَّشْكُرُوْا نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ

کہ شکر کریں تیری اس نعمت کا جو تونے انھیں

عَلَيْهِمْ وَاَنْ يُّوْفُوْا بِعَهْدِكَ الَّذِيْ

دی ہے اور یہ کہ وہ پورا کریں تیرا وہ

عَاهَدْتَّهُمْ عَلَيْهِ ٥ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى

عہد جو تونے ان سے لیا ہے اور غلبہ عطا کر ان کو اپنے دشمن پر اور

عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ٥ اِلٰهَ الْحَقِّ سُبْحَانَكَ

ان کے دشمن پر اے معبود برحق! تیری ذات پاک ہے

لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ٥ اَللّٰهُمَّ انْصُرْ عَسَاكِرَ

اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ پاکستان کے افواج

پَاكِسْتَانَ ٥ وَالْعَنْ كَفَرَةَ الْهِنْدِ وَالشُّيُوْعِيِّيْنَ

کی مدد فرما اور ہندوستان کے کفار اور اشتراکیوں پر لعنت فرما۔

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَائَكَ

جو آپ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے دوستوں سے

اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ ٥ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ ٥

مقابلہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کے آپس میں اختلاف ڈال دے اور انکی جماعت کو متفرق کردے

وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ ٥ وَاَلْقِ

اور ان کی طاقت کو پارہ پارہ کردے اور ان کے قدم اکھاڑ دے اور ان کے

فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَخُذْهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ

دلوں میں مسلمانوں کا رُعب ڈال دے اور ان کو ایسے عذاب میں پکڑ لے

مُّقْتَدِرٍ ٥ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَاْسَكَ الَّذِيْ

جس میں قوت وقدرت والا پکڑا کرتا ہے۔ اور ان پر وہ عذاب نازل فرما جس کو

لَا تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ۔

آپ مجرم قوموں سے اُٹھایا نہیں کرتے۔

پانچوں نمازوں کے بعد
امام و مقتدی سب یہ دعا مانگا کریں

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ ۝
یا اللہ! اے کتاب نازل کرنے والے جلد حساب لینے والے
اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ ۝ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ
یا اللہ ان طاقتوں کو شکست دیدے۔ یا اللہ انہیں شکست اور ان کے قدم
وَزَلْزِلْهُمْ ۝ اَللّٰهُمَّ انْصُرْ عَسَاكِرَ بَاكِسْتَانَ وَ
اکھاڑ دے۔ یا اللہ! پاکستان کی افواج اور مجاہدینِ پاکستان کی مدد فرما
الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِكَ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا
یا اللہ ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے اور خوف کی چیزوں
وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا ۝ وَاكْنُفْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِيْ
سے ہم کو امن عطا فرما اور ہمیں اپنی اس طاقت کی پناہ میں لے جس کا کسی دشمن
لَا يُرَامُ وَاَعِنَّا وَلَا تُعِنْ عَلَيْنَا ۝ وَ
کیطرف سے ارادہ بھی نہیں جا سکتا اور ہماری مدد فرما اور ہمارے مقابل کی مدد نہ فرما اور ہمکو
انْصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْنَا ۝ وَامْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ
فتح دے اور ہمارے مقابل کو فتح نہ دے اور ہمارے لیے تدبیر فرما اور ہمارے مخالف

عَلَيْنَا ۝ وَاهْدِنَا وَ يَسِّرِ الْهُدٰى لَنَا ۝
کے لیے نہ فرما اور ہم کو ہدایت فرما اور ہمارے لیے ہدایت کو آسان فرما
اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ نَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِنَا ۝ وَ قِلَّةَ
یا اللہ ہم آپ ہی کے سامنے اپنی کمزوری بے سامانی اور لوگوں کی نظروں
حِيْلَتِنَا وَهَوَانَنَا عَلَى النَّاسِ ۝ اِنَّهٗ لَا مَلْجَاَ
میں بے وقعتی کی شکایت پیش کرتے ہیں کیوں کہ آپ کے عذاب سے
وَلَا مَنْجَاءَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ ۝
نجات و پناہ بجز آپ کے کوئی نہیں دے سکتا۔



مجرباتِ سیوطیؒ صد ۱۳۰

اب مؤلف حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطیؒ کے یکصد مجربات نقل کر کے پیش خدمت کرتے ہیں
ملاحظہ فرماویں

مرد اور عورت کی شہوت باندھنے کے لئے تاکہ دوسرا ان پر قادر نہ ہوسکے

علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص عورت کی شہوت بند کرنا چاہے کہ اس پر دوسرا قادر نہ ہوسکے تو اس کو چاہیئے کہ ① بھیڑیئے کا خصیہ خشک کر کے پیس لیں اور روغنِ زیتون میں ملا کر عضو خاص پر طلا کریں اور عورت یعنی بیوی سے مقاربت کریں پھر کوئی اس پر قادر نہ ہوسکے گا۔ یعنی انشاء اللہ تعالیٰ اس کی طرف غیر کی رغبت بھی نہ ہوگی۔

② ایضاً سیاہ مرغی اور سیاہ مرغ کا پتہ اور کوے کا پتہ اور اسی طرح بھیڑیئے کا پتہ اور شہد سب ملا کر جو شخص احلیل پر طلا کرے اور اپنی بیویوں میں سے جس عورت سے چاہے مجامعت کرے تو وہ عورت اس سے ایسا پیار کرے گی کہ پھر کوئی دوسرا شخص اس پر قادر قطعاً نہ ہوسکے گا بحکم الٰہی محفوظ ہوگی نسخہ صحیح مجرب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔

③ ایضاً سیاہ کتے کا پتہ اور اسی کا بھیجا ملا کر عضو تناسل پر طلا کریں اور اپنی بیویوں میں سے جس سے چاہیں مجامعت کریں پھر کوئی دوسرا اس پر قادر

نہ ہوسکے گا۔

اس زمانے میں چونکہ لوگوں کے پاس لونڈیاں ہوا کرتی تھیں تو جس کی محبت جس لونڈی سے ہوا کرتی تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اس لونڈی پر دوسرا قادر نہ ہوسکے۔ اسلئے نسخہ بالا اور مذکورہ عمل میں لایا کرتے تھے اور اسی میں کامیابی ہوتی تھی۔ یہ لونڈی کے ساتھ خاص نہیں اپنی بیویوں پر بھی یہ عمل کیا جاسکتا ہے۔

④ ایضاً عورت کے بال جو کنگھی کرتے وقت اس کے سر سے گرتے ہیں، لیکر جلا دیں اور عورت کی بے خبری میں احلیل پر طلا کر کے مجامعت کریں تو وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے قطعاً محبت نہ کرے گی۔

⑤ بجو یعنی کفتار کا خصیہ خشک کر کے باریک کریں اور روغنِ کنجد میں ملا کر احلیل پر طلا کریں تو مقاربت کے وقت عجب لذت اٹھائیں گے اور غیر اس پر قادر نہ ہوسکے گا

اگر عورت چاہے اس کا مرد کسی غیر عورت کے ساتھ زنا نہ کرسکے یا اس کا برعکس کہ خاوند چاہتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی پر دوسرا مرد قادر نہ ہوسکے

اگر کسی عورت کا خاوند زانی ہے اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جا کر زنا کرتا رہتا ہے عورت چاہتی ہے کہ میرا خاوند ان کے پاس جا کر زنا نہ کرسکے تو عورت کو چاہیئے کہ اسماءِ ذیل لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ اسماء یہ ہیں : عَقَدْتُ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ وَذَكَرَكَ

لَا يَقُوْمُ الْاَخِ الْحَلَالَ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ ۱۱۱۱۶ ۲۱۵۵ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۲۱ ح ۲
۲۶۸ع اَجِيْبُوْا يَا خُدَّامَ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ يعقد ذكر فلان عن الحرام

اگر کوئی شخص زانی اور زانیہ یا کسی مرد اور عورت میں جدائی ڈلوانا چاہے

اگر کوئی شخص زانی اور زانیہ یا کسی مرد اور عورت میں جدائی ڈلوانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ایک سبز درخت کی ٹہنی پر ۳ دفعہ لفظ بُدُوح لکھے پھر اس کو کاٹنا شروع کرے اور کاٹتے وقت یہ الفاظ کہتا جائے
قَطَعَتُ قَلبَ فلان عن فلان محبة فلان عن فلان پھر اس ٹہنی کو کسی پرانی قبر میں دفن کرے اور دفن کرتے وقت یہ آیت پڑھے اَلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى فلان بن فلانة محبة فلانة بنت فلانة يموتُ قلبه كما مات عليهم صَاحِبُ هٰذَا القبر

نسخۂ اکسیر برائے لذّتِ جماع

از مجربات امام سیوطیؒ

① سفید مرغ کا بھیجا شہد میں ملا کر آلہ مخصوص پر طلا کرنا لذت بڑھاتا ہے۔ موم کو روغنِ زیتون میں گلا کر طلا کرنا بھی یہی کام دیتا ہے۔
② اونٹ کی کوہان کی چربی گلا کر طلا کرنے سے فریقین لذت سے مسرور ہو جاتے ہیں۔
③ عاقرقرحا جماع کے وقت چباوے اور ذکر پر طلا بھی کرے تو عجیب لذت پاوے۔

④ بھیڑیئے اور مینڈھے کا پتہ ملا کر احلیل پر طلا کریں اور لذّتِ جماع اٹھائیں
⑤ دارچینی باریک پیس کر شہد میں ملائیں اور بوقتِ ضرورت عضوِ خاص پر طلا کریں اور جماع میں مزہ پائیں
⑥ عورت کے دودھ سے آلہ مخصوص پر مالش کرنا بھی لذتِ جماع کو بڑھاتا ہے
⑦ کبابہ کے چبانے اور احلیل پر طلا کرنے سے بھی عظیم لذّت پیدا ہوتی ہے
⑧ عاقرقرحا زنجبیل کو باریک پیس کر روغنِ زنبق میں ملا کر موئے زہار و خصیتیں و احلیل پر طلا کرنا لذّتِ جماع و طاقتِ جماع کو قوی کرتا ہے

جماع کے وقت کی دعاء

جب ہم بستری کا ارادہ کرے تو یہ دعاء پڑھے
بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔
ترجمہ: اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہم (دونوں) کو شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچائیو

انزال کے وقت کی دعاء

جب انزال ہو یعنی جب بوقتِ جماع منی باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے:
اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِي مَا رَزَقْتَنِيْ نَصِيْبًا۔
ترجمہ: اے اللہ! جو اولاد تو مجھے عطا فرمائے اس میں شیطان

کا کوئی حصہ عمل دخل نہ رکھیو

نوٹ : جماع اور انزال کے وقت ان دعاؤں کی تعلیم کا منشا یہ ہے کہ ان جیسے خالص طبعی اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے وقت اگر انسان اللہ کو یاد رکھے تو یہی عبادت بن جاتی ہے ۔ نیز یہ کہ جماع اور انزال کا مقصد صرف لذت اندوزی نہ ہونا چاہیئے بلکہ اس کا اصلی مقصد اولادِ صالح پیدا کرنا ہے اسی مقصد کے لئے اس خالص حیوانی فعل کو اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال قرار دیا ہے ۔

مرد اور عورت کی شہوت بڑھانے اور منقطع کرنے کیلئے

از مجرباتِ امام سیوطیؒ ص۱۲۱

اگر ایک حصہ زنگار اور نصف حصہ نوشادر پانی میں ملا کر عورت اس سے استنجا کیا کرے تو اس کی قوت شہوت اور خواہش جماع بہت بڑھ جاوے گی ۔ اگر مرد اور عورت کی شہوت قطع کرنی چاہیں تو چاہیئے کہ سرخ بیل کا ذکر خشک کر کے اس میں سے بقدر ایک مثقال مرد یا عورت کو کھلائیں تو شہوت جماع بالکل منقطع ہو جائے گی ۔

ایضاً شجرہ مریم کو نعناع (یعنی پودینہ) کے پانی میں تسحیق کر کے یعنی رگڑ کر نصف نصف دانگ کی گولیاں بنائیں اور ایک گولی مرد یا عورت کو کھلائیں ۔ مرد یا عورت کی شہوت کم ہو جائے گی ۔

※

باب عضو خاص کی کمزوری کا علاج

از مجرباتِ امام سیوطیؒ ص۱۲۲

زبد البحر (سمندر کی جھاگ) پانی میں پیس کر ذکر پر طلا کرنا اس کو موٹا تازہ کرتا ہے ۔ صحیح مجرب ہے ۔

ایضاً جس کا عضو خاص چھوٹا ہو اور بڑا کرنا چاہے تو اس کو چاہیئے کہ جماع کے وقت سے اس کو ماء فاتر (یعنی نیم گرم) پانی سے اتنا ملے کہ وہ گرم ہو جائے اور خون پھوٹ پڑنے کے قریب ہو پھر اس پر مربہ زنجبیل کے شہد کی مالش کرے مفید اور مجرب ہے ۔ ایضاً نرگس کی جڑ باریک کر کے قضیب پر ملنے سے طوالت و غلظت میں بڑھتا ہے ۔

باب ثیب کو بکر بنانے میں یعنی وطی کردہ شدہ عورت کو کنواری کی مانند کر دینا

از مجرباتِ امام سیوطیؒ ص۱۲۴

(۱) بیل کے پتہ میں صوف تر کر کے عورت فرج میں رکھے اور بکر ہو جائے ۔

(۲) ایضاً مجیٹھ اور پوستِ انار کو پانی میں جوش دیں اور اس کے پانی میں پشم تر کر کے عورت مقام مخصوص میں رکھے ۔

(۳) ایضاً پھٹکڑی مازو سنگ راسخ سب باریک پیس کر پانی میں جوش دیں پھر اس پانی میں صوف تر کر کے عورت اپنے عضوِ مخصوص میں رکھا کرے ۔

ایضاً جفت بلوط مازو ہر ایک مساوی پانی میں جوش دے کر اس
سے طہارت کیا کرے دن میں دو تین دفعہ طہارت ہونی چاہیے
ایضاً زنگار، مازو، پھٹکڑی ان کو پانی میں ملا کر عورت اس
سے طہارت کیا کرے۔ چند روز کی مداومت سے باکرہ ہو جاوے۔
ایضاً خرگوش کا پنیر بھی اندام نہانی میں رکھنے سے یہی نتیجہ مرتب
ہوتا ہے۔

باب نابالغ لڑکی کے بالغ کرنے اور اس کے رحم سے خون جاری کرنے کے علاج میں

از مجربات امام سیوطیؒ صفحہ ۱۳۴

اگر کسی لڑکی کا خون حیض جاری کرنا چاہیں تو چاہیے کہ چونہ و
صابون دونوں ملا کر اس میں سے بقدر دانۂ باقلا اس کے
فرج میں رکھے اور جماع کرے انشاء اللہ تعالیٰ رحم کھل جائے گا
اور خون جاری ہو جائے گا۔
ایضاً جونک خشک کر کے باریک پیس کر لڑکی اپنے فرج میں
شافہ کرے، اس سے بھی خون جاری ہو جاتا ہے۔

باب طعام وغیرہ اشیاء میں برکت ڈالنے کیلئے
ایضاً درہم پیسوں میں برکت کے لئے

از مجربات امام سیوطی صفحہ ۲۱۹ تا ۲۲۱

رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص گندم کے

پچیس ۲۵ دانے لے کر ہر ایک دانہ پر مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ
مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ
اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ
شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا (پ۲۶ ختم سورۃ الفتح) تک پڑھے
اور ان دانوں کو کسی ادنیٰ کپڑے میں باندھ کر طعام وغیرہ اشیاء کے
نیچے رکھ دیں اور مہمانوں کے آگے رکھیں بخدا اگر اس سے ایک لاکھ آدمی
بھی کھا جائے گا تو سب سیر ہو جائیں گے اور کھانا ویسا ہی ویسا بچ رہیگا
(۲) حضرت امام جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں شیخ سیدی منصور
حلبی کا قول ہے کہ اگر آیت ذیل وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى
اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ[1]
و اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا - لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ - کو زیتون کے ٹکڑے پر
لکھ کر کہیں گاڑ دیں تو کھیتی نہایت بابرکت ہو
(۳) ایضاً سو دانہ گندم یا جو کا لیکر اس پر سورۃ الفاتحہ ایک ہزار پانچسو
دفعہ اور آیۃ الکرسی ۹۶ دفعہ پڑھ کر دم کریں پھر اس میں سے ایک دانہ
جس چیز میں برکت دینی چاہیں اس کے نیچے رکھدیں بشرطیکہ رکھنے والا
طہارت سے ہو۔
(۴) ایضاً جس پیالہ میں کھانا ڈال کر کھانا چاہیں اس میں خالص چاندی
کے ٹکڑے پر اسماء ذیل نقش کریں پھر کھانا ڈال کر کھائیں تو نہایت

[1] پ۱۲ بدایۃ سورۃ ہود

برکت پیدا ہو۔ اسماء یہ ہیں: اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهٗ مِنْ نَّفَادٍ اَللّٰهُمَّ ضَعِ الْبَرَكَةَ فِيْ طَعَامِنَا هٰذَا۔

⑤ ایضاً جمعہ کے روز نماز کے بعد ہزار دفعہ اسماء باالا وضو کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرکے گھی یا تیل یا شہد وغیرہ پر پڑھیں تو برکت پیدا ہو گی۔

⑥ ایضاً نمک پر اسماء ذیل چالیس دفعہ پڑھ کر دم کریں۔ پھر اس میں سے تھوڑا سا کھانے وغیرہ میں ڈال دیا کریں تو برکت بہت زیادہ ہو اسماء یہ ہیں: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْغَنِيُّ الْهَادِيُّ الرَّازِقُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْكَرِيْمُ الْوَاسِعُ الْوَهَّابُ ذُوالطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْجَوَادُ الْمُتَفَضِّلُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا۔

ایضاً ریشم کے کپڑے پر اسماء ذیل لکھ کر اگر اس کو کھیت میں گاڑ دیں تو پیداوار زیادہ ہو۔

درہم اور پیسوں میں برکت کیلئے

اور اگر اس کپڑے میں درہم وغیرہ نقدی باندھ کر اس میں سے خرچ کرتے رہیں تو وہ روپیہ کبھی ختم نہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ جب اس میں سے کچھ نکالا کریں تو اس کو دیکھا نہ کریں۔ اسماء یہ ہیں
وفف تعفعف ١٣ دفعہ لا الہ الا اللہ الکافی والفتاح الرازق اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ووو۔ ووو دس دفعہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الکافی والفتاح الرازق اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهٗ مِنْ نَّفَادٍ

ووو۔ ووو دس دفعہ لا الہ الا اللہ الکافی الفتاح الرازق اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ووو۔ ووو دس دفعہ لا الہ الا اللہ الکافی الفتاح الرازق اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ووو۔ ووو دس دفعہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الکافی الفتاح الرازق اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ووووووووووووووووووووووووو ووووووو۔ قائل کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دراہم میں تو کئی دفعہ آزمایا ہے اور سو فیصد کامیاب رہے۔

⑦ ایضاً سات دانہ جو لیکر وضو کرکے ان پر یا فتاح یا رازق ٩٩٧ دفعہ پڑھ کر ان دانوں کو اپنے خرچ کی تھیلی میں ڈال کر رکھیں اور جتنا چاہیں بغیر شمار کرنے کے اس میں سے خرچ کرتے رہیں انشاء اللہ تعالیٰ ختم نہ ہوگی۔ اور جب تھیلی کھولیں تو وضو کرکے کھولیں اور اس روپیہ کو ناجائز اور گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کریں ورنہ ہلاک ہو جاویگا

طعام اور ادام یعنی سالن میں برکت پیدا کرنا

اسماء ذیل رجب کی پہلی تاریخ یا رمضان کی ستائیس ویں تاریخ کو لکھ کر کسی کوزہ مٹکہ میں وہ کاغذ ڈال کر موم یا آٹے سے اس کا منہ بند کرکے غلہ وغیرہ میں رکھ دیں۔ اسماء یہ ہیں: مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (پ ٣ بقرہ ع ٣٦)

وَاٰيَةٌ مِّنْكَ الخ

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ اَوَلَیْسَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰی وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِیْمُ جَنّٰتُ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً اَبْوَابُهَا وَرِزْقٌ كَرِیْمٌ مَالَهٗ مِنْ نَّفَادٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِیْنُ ۔ وَفِی السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ

عبداللہ بن سلام عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، جن کو عبادلہ خمسہ کہا جاتا ہے۔ اویس قرنی ربیع بن خثیم، ہرم بن حیان، مسروق بن الاجدع، عامر بن عبداللہ بن قیس، مسعود بن اسلم الخولانی، الحسن البصری، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین

ایضاً اگر اسپغول کے لعاب سے آٹا گوندکر روٹی پکائی جائے تو رزق سے زیادہ ہو جائے۔

ایضاً عید کے روز ذبح کی ہوئی بکری کا بائیں شانہ لیکر اسماء ذیل لکھ کر غلہ کے ڈھیر میں ڈال دیں تو غلہ میں بہت برکت پیدا ہو۔

تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِیْنَ ۔ تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ تملیخ تسلاها تملیخ لخلیلی لم ینوفش الطوس طلمطوس طبطوس وَكَلْبُهُمْ قِطْمِیْرُ

ایضاً سیدی احمد زروقؒ کا قول ہے کہ جو شخص اسماء ذیل جمعہ کے روز وہ جمعہ جو ایام بیض تیرھویں، چودھویں، پندرھویں، چاند کی رات میں آوے مٹی کی ٹھیکری پر لکھ کر کھیتی یا غلہ وغیرہ میں دفن کردے تو برکت عظیم مشاہدہ کرے۔ اسماء یہ ہیں: یَا كَافِیْ یَا غَنِیُّ یَا فَتَّاحُ یَا رَزَّاقُ یَا مُنْعِمُ یَا جَوَادُ یَا بَاسِطُ یَا ذَا الطَّوْلِ یَا مُغِیْثُ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ۔

خرید و فروخت میں برکت کے لئے

کسی کوڑلی سے تین ہڈیاں لاکر ہر ایک پر آیت ذیل لکھ کر تعویذ بناکر دکان میں یا مالک دکان اپنے پاس رکھے دکان میں برکت ہوگی

اسماء یہ ہیں:

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْا اِلَیْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ۔ ختم سورۃ الجمعہ

فائدہ: عورت کو محبت میں پھنسانے کے لئے اسی طرح وہ عورت جو کسی مرد سے نکاح کی خواہشمند ہے

① سورۃ والضحیٰ کسی تعویذ میں لکھ کر اس کے آخر میں یَا جَامِعَ النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ فِیْهِ اَرْدُدْ زَوْجَةً كَذَا وَكَذَا اِلَیَّ لکھ کر کسی جگہ میں دفن کر دیں اور اس جگہ پر چار رکعات نماز ادا کریں اور جو کچھ تعویذ میں لکھا ہے وہ بھی پڑھیں

(۲) ایضاً اسماء ذیل تین کاغذ پر لکھ کر جلاویں اور اس کی راکھ کو بطور سرمہ لگا کر اس عورت کے سامنے جائیں جس سے محبت کا ارادہ ہو انشاء اللہ تعالیٰ مطیع ہو جاوے۔ اسماء یہ ہیں:

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا (پ۱ بقرہ رکوع ۲)

(۳) ایضاً اس عورت کے لئے جو خاوند چاہتی ہے۔ سورۂ فجر کسی برتن میں لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر اس میں مہندی گوندھے اور ہاتھ پر لگا کر اس کے سامنے چلے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ اس کو نکاح میں لے آوے۔

برائے حفاظت از شریر انس و جن
اس کو نقش میں لکھ کر مکان میں آویزاں کیا جائے

اسماء ذیل لکھ کر دائیں بازو پر بطور تعویذ لٹکا رکھیں۔ اسماء یہ ہیں

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (پ۶۔ مائدہ ع ۱۰)

وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ الْأَحَدِ فَأَبْطَلْنَاهُ بِالْوَاحِدِ الْأَحَدِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ فَأَبْطَلْنَاهُ بِالاثْنَيْنِ الحسن والحسين وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ فَأَبْطَلْنَاهُ بِثَلَاثَةِ مَلَائِكَ جبرئيل وميكائيل واسرافيل

وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَبْطَلْنَاهُ بِأَرْبَعَةِ كُتُبٍ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَأَبْطَلْنَاهُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَبْطَلْنَاهُ بِثَمَانِيَةِ حُرُوفٍ وهي هذه يٰسٓ ورده ۷ع ملا بسملة اسم الله تبارك وتعالى حيطاننا يٰسٓ سقفنا كٓهٰيٰعٓصٓ كفايتنا حٰمٓ عٓسٓقٓ حمايتنا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُولٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنَ الْإِنْسِ وَلَا مِنَ الْجِنِّ عَلَيْنَا وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ السَّبْتِ فَأَبْطَلْنَاهُ بِإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

کسی ذی وجاہت شخص کے پاس جاتے میں اپنی حاجت پوری کرنیکا عمل

از مجربات امام سیوطی ص ۲۲۱

اگر کوئی شخص کسی وجاہت شخص کے پاس اپنی حاجت کے لئے جانا چاہے تو چاہئے کہ كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ کو اس طرح پڑھے کہ ہر ایک حرف پر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرتا جائے اور پہلے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کرے پھر بائیں ہاتھ کی پھر سورۃ الفیل طیرا تک دس دفعہ پڑھے پھر اسماء ذیل پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

أَسْأَلُكَ بِكَافِ كِفَايَتِكَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِهَاءِ هِدَايَتِكَ
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِيَاءِ يَقِينِكَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَيْنِ
عِنَايَتِكَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِصَادِ صِدْقِكَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ بِحَاءِ حِلْمِكَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمِيمِ مُلْكِكَ
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَافِ قُدْرَتِكَ حُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ شَرِّ فُلَانٍ
وَاكْفِنِي بَأْسَهُ وَاعْطِفْ عَلَى قَلْبِهِ كَمَا عَطَفْتَ فِرْعَوْنَ عَلَى مُوسٰى
وَكَمَا عَطَفْتَ زُلَيْخَا عَلٰى يُوسُفَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّهٖ وَاجْعَلْ كَيْدَهٗ فِي نَحْرِهٖ إِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهٗ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِأَنْ يَأْتُوا إِلَيَّ مُسْلِمِينَ وَرَدَّ
اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا پھر اس کے
پاس جاوے اور اس کے سامنے بائیں طرف انگلیاں کھولنی شروع
کرے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مطلب میں کامیاب ہو کر واپس آئیگا

قضائے حوائج کے لئے دعائے مستجاب

از مجرباتِ امام سیوطیؒ ص ۲۲۲

اگر کوئی اپنے قضائے حوائج کے واسطے دعائے ذیل کو بطریق
ذیل پڑھ کر اپنی حاجت پیش کرے تو اس کی دعاء قبول ہو اور حاجت
پوری ہو۔ دعا اور طریقہ یہ ہے: مغرب کی نماز فرض ادا کر کے دو
رکعتیں نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ
کے بعد گیارہ دفعہ سورۃ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد الخ پڑھیں
جب سلام پھیر چکیں تو اس کے بعد دعاء ذیل پڑھے اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ

إِذَا تَضَايَقَتِ الْأُمُورُ رُجِعَتْ إِلَيْهِ وَإِذَا كَثُرَ الْحَوَائِجُ رُفِعَتْ
إِلَيْهِ وَإِذَا أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ فُتِحَ بَابُهٗ لِتَهْتَدِيَ الْعُقُولُ
إِلَيْهِ تَوَسَّلْتُ إِلَيْكَ يَا رَبِّ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيمِ وَمَا فِيهِ
مِنْ أَسْمَائِكَ الْعَظِيمَةِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّكَ
نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ تَوَسَّلْتُ بِكَ إِلٰى رَبِّكَ -

فائدہ عجیبہ

ڈاکوؤں رہزنوں لٹیروں سے حفاظت کیلئے

از مجرباتِ امام سیوطیؒ ص ۲۲۲

سیدی ابو العباس السبتی کا فرمان ہے اگر کوئی شخص سفر کو
جانا چاہتا ہے اور راستہ میں سارق رہزن وغیرہ دشمنوں کا
خطرہ ہو تو اس کو چاہیئے کہ سترہ دفعہ سورۃ فاتحہ اور سترہ دفعہ
سورۃ اخلاص اور اتنی دفعہ ہی لِإِيلٰفِ قُرَيْشٍ الخ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنے بدن پر دم کرے اور منہ میں
یا اللہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ کہتا چلا جائے تو اس کو کوئی چیز
تکلیف نہ دے سکے گی۔ اور ہر ایک بلا سے محفوظ و مامون رہیگا۔

دشمن کے ساتھ دوران لڑائی و مقابلہ میں دعاء

از مجرباتِ امام سیوطیؒ ص ۲۲۲

اگر دشمن سے مقابلہ آ پڑے تو چاہیئے کہ تین پتھر لیکر اس میں
سے پہلا پتھر دائیں طرف پھینک ڈالے اور حَسْبِيَ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

کہے اور دوسرا پتھر بائیں طرف پھینکے اور اَللّٰہُ یَغْلِبُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور تیسرا پتھر اپنے سامنے پھینکے اور لَا یَقِفُ لِاَمْرِ اللّٰہِ شَیْءٌ کہے۔ آخر میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ پڑھ کر اپنے نفس یعنی دل پر دم پھونک مارے۔

جن، بھوت و موذی دشمنوں سے حفاظت کے لئے

اگر کوئی دعاء پڑھنا چاہے اور جن و بھوت کا خطرہ ہو تو چاہیے کہ عصا کے ساتھ زمین پر ایک دائرہ کھینچے اور آپ اس دائرہ کے اندر رہیں اور آیت الکرسی کو جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر ہی ختم کریں پھر جو چاہیں اس دائرہ کے اندر بیٹھ کر پڑھیں۔

قیدی آدمی کا قید سے خلاصی کا آٹومیٹک دُعاء

از مجربات امام سیوطیؒ ص۲۲۳

اگر قیدی آدمی اسماء ذیل ہزار دفعہ ایک ہی مجلس میں پڑھ کر اپنی بیڑیوں پر دم کرے۔ نیز خاتم ذیل لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد خلاصی کرے۔ اسماء یہ ہیں مَا شَاءَ اللّٰہُ کَانَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ وَحَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ۔ خاتم یہ ہے

۷۸۶

۴	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

ایضاً کسی نیکبخت سے روایت ہے کہ اگر قیدی سورۃ الفاتحہ ایک سو گیارہ دفعہ پڑھ کر اپنی بیڑیوں پر دس دفعہ تھوک دے تو بیڑیاں خود بخود کھل جائیں گی اور وہ اس عذاب سے نجات پاویگا۔

باب سوئے ہوئے سے باتیں کرانے اور بھید بیان کرنے کا عمل

① علامہ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ولی صالح محمد بن یوسف سنوسی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بکری کے سینگ پر تین دفعہ آیتِ ذیل لکھ کر سوئے ہوئے کے سینے پر رکھے تو وہ تمام اپنے رازوں کی خبر دینے لگے گا۔ آیت یہ ہے: یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِیْدًا

② ایضاً آیتِ ذیل لکھ کر خفتہ کے سینے پر رکھے بھی یہی نتیجہ برآمد ہوگا۔ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَاِذْ قَتَلْتُمْ وَلَا یَکْتُمُوْنَ اللّٰہَ حَدِیْثًا هٰذَا کِتٰبُنَا یَنْطِقُ عَلَیْنَا بِالْحَقِّ اِنَّا کُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ تک۔ ساتھ ہی سورۃ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ بھی لکھے۔

باب کتے کی زبان بند کرنے کیلئے

از مجربات امام سیوطیؒ ص۱۶۶ تا ص۱۶۷

اگر کوئی چاہے کہ اس کو کوئی کتا نہ بھونکے تو چاہیے کہ اسماء ذیل کو سات سنگریزوں پر پڑھ کر اپنی آستین میں رکھے ہرگز کوئی کتا اس پر نہ بھونکے گا۔ اسماء یہ ہیں: (۱) تملیخا۔ (۲) طوبس طوسا حانوسا ابطانس اکفیشطینوس دونوس

وکلبھم قطمیر۔ جبرائیل میکائیل و اسرافیل و عزرائیل
لیاخیم لیالغو لیافور لیا روش لیا شلش

(۲) ایضاً اگر انسان کتے کا دانت اپنے پاس رکھے تو کبھی کوئی کتا اس پر نہ بھونکے گا۔

(۳) ایضاً اگر کوئی شخص کتے کے کان کا کچھ ٹکڑا کاٹ کر اپنے پاس رکھے تو کوئی کتا اس پر نہ بھونکے گا۔[1]

برائے درد داڑھ مجرب ہے

اَیُّھَا الْغَرْسُ المضروس اُسْکُنْ بِقُدْرَۃِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ لکھ کر درد والے دانت کے سوراخ میں دبا دیں انشاء اللہ تعالیٰ آرام ہوگا

عمل برائے حج بیت اللہ

سحری کے وقت ۲ رکعت نفل پڑھے پہلی رکعت میں سورۃ اَلَمْ نَشْرَحْ دوسری رکعت میں سورۃ کوثر ۴۱۔ ۴۱ مرتبہ پڑھے اور سجدہ میں تین بار تسبیح پڑھ کر یہ پڑھے فَقِیْرُكَ بِفِنَائِكَ عُبَیْدُكَ بِفِنَائِكَ سَائِلُكَ بِفِنَائِكَ. سات دن یہ عمل کرے انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔

ہر مقصد اور حفاظت کے لئے

ہر دینی اور دنیوی مقصد حاصل کرنے اور جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کے لئے اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لئے یہ ورد مجرب ہے: ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَۃً

[1] اگر انسان کتے کا دانت اپنے پاس رکھے تو کبھی کوئی کتا اس پر نہ بھونکے

نُّعَاسًا یَّغْشٰی طَآئِفَۃً مِّنْکُمْ وَطَآئِفَۃٌ قَدْ اَھَمَّتْھُمْ اَنْفُسُھُمْ یَظُنُّوْنَ بِاللّٰہِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّۃِ یَقُوْلُوْنَ ھَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَیْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ کُلَّہٗ لِلّٰہِ یُخْفُوْنَ فِیْٓ اَنْفُسِھِمْ مَّا لَا یُبْدُوْنَ لَکَ یَقُوْلُوْنَ لَوْ کَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ مَّا قُتِلْنَا ھٰھُنَا قُلْ لَّوْ کُنْتُمْ فِیْ بُیُوْتِکُمْ لَبَرَزَ الَّذِیْنَ کُتِبَ عَلَیْھِمُ الْقَتْلُ اِلٰی مَضَاجِعِھِمْ وَلِیَبْتَلِیَ اللّٰہُ مَا فِیْ صُدُوْرِکُمْ وَلِیُمَحِّصَ مَا فِیْ قُلُوْبِکُمْ وَاللّٰہُ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ۔ جب قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ کُلَّہٗ لِلّٰہِ پر پہنچے تو دل میں اپنے مقصد کا خیال رکھے۔ علم میں اضافے کا یا شادی کا یا حج کا یا ذہانت کا جو چاہے خیال رکھے یہ بہت ہی مجرب ورد ہے۔

مصیبت پر صبر کیلئے ورد

اگر کسی کو عزیز کے فوت ہونے پر غم و پریشانی زیادہ ہو تو دل کو صبر دلانے کے لئے یہ آیات تین تین بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے دل پر صبح و شام پھیر لیا کرے۔

(۱) یُثَبِّتُ اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَۃِ۔

(۲) سورہ اَلَمْ نَشْرَحْ مکمل بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ ○ وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ ○ الَّذِیْٓ اَنْقَضَ ظَھْرَکَ ○ وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ ○ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ○ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ○ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ○ وَاِلٰی رَبِّکَ فَارْغَبْ

(۳) اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ○

ہر تکلیف بیماری اور حاجت کے لئے زود اثر ورد

ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور تنگیٔ روزی کے لئے، دشمن کے ایذاء کا ڈر غرضیکہ جس ضرورت کے لئے یہ کلام مبارک پڑھا جائے وہ ضرورت اور مراد انشاء اللہ پوری ہو کر رہے گی۔ انشاء اللہ پہلے ہی دن اثر ہوگا۔ صبح کی نماز کے بعد معمولات سے فارغ ہو کر تین بار پہلے درود شریف پڑھے اور درمیان میں کم از کم ستا بار یا زیادہ سے زیادہ سو بار یہ کلام پڑھیں پھر تین بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم پھونک ماریں۔ درود شریف یہ پڑھے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ۔ کلام پاک یہ ہے: يَاغِيَاثِيْ عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ يَا مُجِيْبِيْ عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ يَا مُوْنِسِيْ عِنْدَ كُلِّ وَحْشَةٍ يَا مَعَاذِيْ عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ وَرَجَائِيْ حِيْنَ تَنْقَطِعُ حِيْلَتِيْ۔

حادثات سے بچنے کا وظیفہ

حضرت طلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا فرمایا نہیں جلا۔ پھر دوسرے شخص نے یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا۔ پھر تیسرے آدمی نے یہی خبر دی آپ نے فرمایا نہیں جلا۔ پھر ایک اور شخص نے آکر کہا کہ اے ابو الدرداء آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ کے مکان تک آگ پہنچی تو بجھ گئی۔ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریگا (کہ میرا مکان جل جائے) کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنا ہے جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی (میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے اس لئے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا) وہ کلمات یہ ہیں:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَلَمْ يَشَاْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

بیان فضیلت[1] و طریقہ صلوٰۃ التسبیح اور اسکی دعاء

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا اے عباس، اے میرے چچا کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گرانقدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟۔ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے دس کام اور آپ کی دس خدمتیں کروں۔ یعنی آپ کو ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو دس عظیم منفعتیں حاصل ہوں اور وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرمائیں گے (۱) اگلے بھی (۲) اور پچھلے بھی (۳) پرانے بھی۔

[1] یہ نماز ہر وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے اوقات مکروہہ کے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں نہیں تو جمعہ کے دن، نہیں تو مہینے میں ایک بار،

(۴) نئے بھی (۵) بھول چوک سے ہونے والے بھی (۶) اور دانستہ ہونے والے بھی (۷) صغیرہ بھی اور (۸) کبیرہ بھی (۹) ڈھکے چھپے اور (۱۰) علانیہ ہونے والے بھی اور وہ عمل صلوٰۃ التسبیح ہے

نقشہ صلوٰۃ التسبیح

صلوٰۃ التسبیح کی چار رکعات ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ پڑھنا چاہیئے۔ صلوٰۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چار رکعت کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہکر ہاتھ ناف کے نیچے باندھے

ثنا یعنی سُبْحٰنَکَ اللّٰھُمَّ الخ پڑھنے کے بعد	پندرہ مرتبہ مذکورہ تسبیح پڑھے			
اعوذ باللہ، بسم اللہ اور پوری قراءت کے بعد	دس مرتبہ	〃	〃	〃
پھر رکوع کی تسبیح تین یا پانچ مرتبہ پڑھنے کے بعد	دس مرتبہ	〃	〃	〃
رکوع سے سیدھا کھڑے ہونیکے بعد قومہ کی حالت میں	دس مرتبہ	〃	〃	〃
پہلے سجدہ کی تین یا پانچ مرتبہ تسبیح کے بعد	دس مرتبہ	〃	〃	〃
دونوں سجدے کے درمیان حالتِ جلسہ میں	دس مرتبہ	〃	〃	〃
پھر دوسرے سجدہ کی تسبیح کے بعد	دس مرتبہ	〃	〃	〃

اور

دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے	پندرہ مرتبہ	〃	〃	〃
پھر پوری قراءت کے بعد	دس مرتبہ	〃	〃	〃

نوٹ: پھر پہلی رکعت کی طرح بقیہ مقامات میں بھی دس دس مرتبہ اسی طرح تیسری رکعت اور چوتھی رکعات میں بھی پڑھنی چاہیئے۔ غرضیکہ ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ دعاء بالا پڑھنی چاہیئے اور چاروں رکعات میں تین سو مرتبہ پڑھی جاتی ہے

دیوانہ کے لئے علاج

پاگل آدمی پر تین دن تک صبح وشام سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرے ہر مرتبہ سورہ ختم کرنے پر منہ کا تھوک اکٹھا کر کے اس پر ڈالے۔

سانپ بچھو کے کاٹے کا مجرّب المجرّب المجرّب علاج

(۱) جس کو سانپ بچھو وغیرہ یا دیگر زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو اس پر سات مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرے (۲) پانی اور نمک ملا کر جس جگہ کاٹا ہے ملنا چاہیئے اور سورہ قُلْ یٰاَیُّھَا الْکٰفِرُوْنَ اور معوذتین یعنی سورۃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور سورۃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ کر دم کرنا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نماز میں بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لیا آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا خدا لعنت کرے بچھو پر نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ بے نماز کو پھر آپ نے نمک اور پانی منگوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹنے کی جگہ پر ملتے جاتے اور مذکورہ تینوں سورتوں کو پڑھتے جاتے تھے۔ (۳) یا یہ پڑھ کر دم کرے:

بِسْمِ اللّٰہِ شَجَّۃٌ قَرَنِیَّۃٌ مِلْحَۃٌ بَحْرٍ

حدیث شریف میں آیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچھو وغیرہ کے کاٹے کا مذکورہ منتر پیش کیا تو آپ نے ہمیں اس کے پڑھنے کی اجازت دیدی اور فرمایا کہ یہ جنوں کے عہد وپیمان میں سے ہے

عام طور پر ایسے منتر جس کے معنی معلوم نہ ہوں ان کا پڑھنا ممنوع ہے۔ اس منتر کی یعنی بِسْمِ اللّٰہِ شَجَّۃٌ قَرَنِیَّۃٌ مِلْحَۃٌ بَحْرٍ کی پڑھنے کی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیدی ہے اسلئے اس کا پڑھنا بالاتفاق جائز ہے۔

روحانی دوا اور روحانی علاج

(از مجربات امام غزالیؒ)

اَلْکَفُّ عَنِ الْمَعَاصِیْ : یعنی گناہوں سے رُکنا بھی روحانی دواؤں میں سے ایک بڑی نایاب دوا ہے۔ جیسا کہ یہ دوا عذاب کے مرض کو دور کرتی ہے کوئی دوا نہیں کرتی۔ عتاب کی سختی، حساب کی مشقت سب اس سے ہلکی اور دفع ہو جاتی ہیں۔ صحت یعنی ثواب کے فوائد اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شارع علیہ السلام سے مروی ہے:

ماترك عبد من عباد معصية من معاصى الله خشية من الله الا غفرله ماعمل فى عمره

ترجمہ: یعنی جس بندہ نے خدا کے گناہوں میں سے کوئی گناہ محض خدا کے خوف سے ترک کیا خداوند تعالیٰ اس کی تمام عمر کے گناہ بخش دیتا ہے

فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

میں روحانی شفاء کاملہ ہے

فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔ ترجمہ : نصیحت ایمان والوں

کو فائدہ کرتی ہے۔ پس کلام الٰہی نصیحت ہے اور یہ ایسا دوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت سے امراض کو شفا دیتا ہے۔ اگر پڑھنے والا قرآن شریف پڑھتا ہے اور اس کے مضامین کو سمجھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی دوا سے اپنا علاج کرے جس کے افعال و خواص سے خود واقف ہو اور اگر پڑھنے والا اس کے مضامین کو نہیں سمجھتا تب وہ اس مریض کی مثل ہے جو طبیب کے حکم کے موافق علاج کرتا ہے خود دوا سے کسی قسم کی واقفیت نہیں رکھتا بہرحال دونوں طرح سے دوا کا استعمال کرنا صحت و تندرستی کا موجب ہے اور شفا اس سے حاصل ہوتی ہے۔

تعریفِ کبر اور مرضِ کبر کا روحانی علاج

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ۔

ترجمہ: بیشک جو ہماری پکار و دعاء سے تکبر کرتے ہیں تو ہم عنقریب ان کو جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے داخل کریں گے۔

حدیث میں تکبر کی یہ تعریف کی گئی ہے بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ حق کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ کہ جب بھی اس کی بات کے مقابلہ میں حق بات آئے تو اس کو ٹھکرائے۔ وہ اس لئے حق بات کا انکار کرتا ہے تاکہ میری بات جیسی ہی وہ مانی جائے اگرچہ اس کے مقابلے میں قرآن و حدیث کیوں نہ ہوں مگر وہ قرآن و حدیث کی باتوں کو اپنی باتوں کے مقابلے میں اہمیت نہیں دیتا تاکہ متکبر کی ناک کٹ نہ جائے۔

اس لئے امراضِ روحانیہ میں سے ایک مہلک مرض تکبر ہے جب انسان تکبر کرتا ہے تو تکبر کی گرمی اس کے قلب پر غالب ہوتی ہے تب تو اس قلب کے اندر کسل اور سستی پیدا ہوتی ہے اور وہ اس درجہ ضعیف ہو جاتا ہے کہ حقوق الٰہی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا اور نہ بندوں کے حق اس سے ادا ہوتے ہیں انسان رحمتِ الٰہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا واحد علاج صحبتِ اولیاء اور صحبت صلحاء کرام ہیں

اور تکبر کی بنیاد کفر ہے۔ کفر کے بعد یہی مرض بدترین امراض ہے یہ تکبر اس قدر خطرناک مرض ہے کہ خدا کی طرف سے جو اسرار و انوار قلب پر نازل ہوتے ہیں ان کو روک دیتا ہے۔ امدادِ الٰہی کو قلب سے منقطع کرتا ہے اسی سبب سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے :

لا یجتمع الایمان والکبر فی جوف عبد ابدًا

ترجمہ : کسی بندہ کے دل میں کبھی ایمان اور تکبر دونوں جمع نہیں ہوتے۔ مرضِ کفر لعنت کیساتھ ذلت کو اپنی طرف کشش کرتا ہے جیسا کہ ابلیس علیہ اللعنۃ کے ساتھ ہوا کہ پہلے وہ مرضِ کفر میں گرفتار ہوا اور پھر اسی مرض کے سبب سے تکبر کی بیماری اس پر غالب ہوئی۔ چنانچہ خداوند کریم فرماتے ہیں : اَبٰی وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ

ترجمہ : اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا مطلب یہ کہ جب اس نے حکمِ الٰہی کے بجا لانے میں سستی کی تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا مَا مَنَعَکَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ اَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِیْنَ یعنی تجھ کو کس چیز نے اس بات سے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا

کیا۔ کیا تو نے تکبر کیا یا اپنے تئیں بڑا سمجھا۔ اس نے یہ جواب دیا جس میں اس نے اپنے نفس اور اپنے تئیں بہتر سمجھنے کی طرف اشارہ کیا ہے اَنَا خَیْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِیْنٍ یعنی میں اس سے بہتر ہوں جس کو تو نے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے تب اللہ تعالیٰ نے اس کو سرزنش کی اور اس پر لعنت فرمائی۔ چنانچہ اس کے تکبر اور کسل کے مرض نے اس کو کفر تک پہنچا دیا اور رحمت کا طبیب اس کے معالجہ سے ناامید ہو گیا۔ چنانچہ فرماتا ہے وَاِنَّ عَلَیْکَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ یعنی تجھ پر لعنت ہے قیامت تک۔

مرضِ کذب کا علاج

انہیں امراضِ نفسانیہ میں سے ایک مرض جھوٹ ہے۔ جب دل کا منہ فاسد ہوتا ہے تب جھوٹ زبان کی گفتگو پر غلبہ کرتا ہے۔ کذب قلب میں ایسا ہے جیسے قالب میں حیض یعنی کذب مردوں کا حیض ہے۔ جیسے حیض کے سبب سے عورتوں کا دین اور عقل ناقص ہوتی ہے ایسے ہی مردوں کا دین اور ان کی عقل کذب کے سبب سے ناقص ہوتی ہے جب نفس اس جھوٹ کے مرض میں گرفتار ہوتا ہے تکبر کی پیدائش اس میں شروع ہوتی ہے اور کسل و سستی کا غلبہ ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ آخر کو خداوند تعالیٰ جھوٹے کو ایمان کے احاطہ سے نکال کر کفران کی جحیم میں قید کرتا ہے، کمال کا لباس اس سے اتار لیتا ہے اور ہلاکت و زوال کا حکم اس کے حق میں صادر فرماتا ہے وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ وَمَا لَهُمْ

مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ وَّالٍ ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بُرائی کا ارادہ کرتا ہے پس اس ارادہ کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کے واسطے سوا اس کے کوئی والی ہے۔

مرضِ مکر کا علاج یہ ایک نہایت خبیث مرض ہے اور نفس کی خباثت سے پیدا ہوتا ہے۔ قلب کی سختی اس کو مدد اور تقویت پہنچاتی ہے جب یہ مرض قلب پر غالب ہوتا ہے تو مہربانی اور محبت سے اس کو بالکل روک دیتا ہے اور امراضِ حرص و حسد وغیرہ سے بھی اس مرض کا تعلق ہے۔ علاج اس مرض کا یہ ہے کہ علم دین کی تحصیل کی جائے اور اس بات کو جاننا چاہئے کہ سب سے بڑا مکر کرنے والا خدا ہے جس کے آگے کسی کا مکر نہیں چلتا۔

مرضِ عُجب کی تعریف اور علاج

امراضِ روحانیہ میں سے عُجب یعنی خود پرستی و خود بینی عُجب نالائق مرض ہے۔ یہ مرض کفر سے پیدا ہوتی ہے اور کفر کی انتہا اسی مرض پر ہے۔ اور تبختُر یعنی اتراہٹ وغیرہ امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اپنی نظر میں اپنے نفس کو نہایت ذلیل و حقیر جانے اور اپنے دل میں اپنے تئیں سب سے چھوٹا اور بیچارہ سمجھے۔

مرضِ عُجب انتہا درجہ کا ہلاک اور برباد کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثَلَاثٌ مُھْلِکَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَھَوًی مُتَّبَعٌ وَ اِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِہٖ ۔ یعنی تین چیزیں ہلاک کرنیوالی

ہیں ۱ بخل اطاعت کیا گیا اور ۲ خواہش پیروی کی گئی اور آدمی کا اپنے نفس کے ساتھ خوش ہونا یعنی اپنے تئیں بہتر اور افضل سمجھنا۔ چونکہ اس مرض کا سبب کفر ہے اور اسی کے مادہ سے یہ مرض ہوتا ہے اس لئے اس کا علاج بھی وہی ہے جو کفر کا علاج ہے مگر یہ دوائیں بھی اس نسخہ میں اضافہ کر لی جائیں

قہرِ طبع اور کسرِ نفس کی تعریف اور علاج روحانی

قہرِ طبع یعنی طبیعت کو ان باتوں پر مجبور کرنا۔ کسرِ نفسی۔ یعنی اپنے نفس کو کسی سے اچھا نہ سمجھنا اور نہ کسی سے اس طرح بات کرنا کہ جس میں اس کی حقارت متصور ہو۔ جس وقت یہ مرض قلب پر مستولی ہوتا ہے ایمان کو اس سے سلب کر لیتا ہے۔

مرضِ عشق کا علاج

یہ مرض نفسانی ہے۔ ہوسوں اور وسوسوں کے تراکم و ترادف سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ہوسیں اور وسوسے بُرے خیالات کے دوام سے پیدا ہوتے ہیں اور شہوت کے ساتھ نظر کرنے سے اُن کو قوت ہوتی ہے۔ بعض حکماء کا قول ہے کہ مرضِ عشق دل کو کمزور اور ضعیف کر دیتا ہے اس مرض کا عارض ہونا نفس کو ناقص اور علم حق سے غافل کر دیتا ہے۔ اس مرضِ عشق کی ابتداء وسواس اور انتہاء افلاس ہے۔ اس کی پیدائش کا سبب نظر کے وسیلے سے یہ مرض قلب پر مستولی ہوتا ہے پھر فکر اس کو قوی کرتا ہے۔ اور خیال

اس کو امداد پہنچاتا ہے۔ اور علت اس ناقص مرض کی غلبۂ شہوت ہے،
علاج اس کا یہ ہے کہ معشوق کی صورت کی قباحت اور بدنمائی اور اس
کے عیوب کا خیال جمائے اور قلب سے اس کی خوبیوں کا دھیان نکال دے
اور قلب کو ہرگز اس کی طرف متوجہ نہ ہونے دے اور ایسی باتوں کا
خیال جمائے کہ ایک روز یہ معشوق ضرور مجھ سے جدا ہوگا۔ پس آج
وہی دن ہے اور معشوق مرکر مجھ سے جدا ہوگیا ہے۔ اب گھبرانے اور
بے چین ہونے سے کچھ فائدہ نہیں۔ اس مریض کو اس قدر صبر کرنا چاہئے
کہ یہ عادی ہوجائے اور رفتہ رفتہ اس کا دل معشوق کے ذکر و فکر
سے غافل ہو یہ مرض قلب کے واسطے ایسا ہے جیسے کابوس کا مرض
قلب کے واسطے ہے۔ علاج اس کا وہی ہے جو اوپر بیان کرچکے ہیں
اور اس مرض کا ازالہ صحبتِ اولیاء سے بھی شافی و کافی ہوسکتا ہے۔

مرضِ لجاج کا علاج

یہ بھی امراضِ روحانی میں سے انسان کے واسطے ایک آفت ہے
سخت غصہ کے وقت یہ آفت قلب میں پیدا ہوتی ہے زبان اس کے
ساتھ بھر جاتی ہے۔ اور سبب اس کا یہ ہے کہ حق اس کی آنکھوں سے
پوشیدہ ہوجاتا ہے اور اصل اس کی انسان پر باطل کا غالب ہونا ہے۔
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ
بدترین آدمیوں کا کون شخص ہے۔ فرمایا اَلْاَلَدُّ الْخِصَامُ یعنی سخت
جھگڑالو۔ یہ آفت ان لوگوں پر زیادہ مستولی ہوتی ہے جو علم کلام
اور بحث مباحثہ میں زیادہ مشغول ہوتے۔ کیونکہ یہ لوگ دلیل و حجت

کے پیروی کرتے ہیں، سخن پروری کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اس
مرض کا اکسیر علاج محبت اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
ہیں۔

مرضِ قسوۃُ القلب اور اس کا روحانی علاج

امراضِ روحانیہ میں سے سخت دلی ہے۔ یہ ایک شدید مرض
ہے۔ یہ مرض جہالت اور حماقت سے پیدا ہوتا ہے اور تمام قلب کو
سیاہ مطلق کردیتا ہے اور قلب میں انتہا درجہ کی سختی اور درشتی
پیدا ہوجاتی ہے القلبُ القاسی بعیدٌ مِنَ اللہِ وَقریبٌ الی الشیطان
یعنی سختی والا قلب خدا سے دور اور شیطان سے نزدیک ہے۔
پس جاہل کا دل پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے اور بہادر کا دل سختی
اور صلابت میں پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ مگر دین کی صلابت دوا ہے۔
بخلافِ قسوت کے کیونکہ وہ بیماری ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اس
مرض کے جوہر کو ان آیات سے جو اس کے متعلق وارد ہیں ملین کرکے
خوف کے تیزاب میں اس کو جلا دیا جائے۔ اس کے گھلانے کی دوائیں
یہ ہیں: خدا پر توکل کرنا، کلماتِ الٰہی کا سننا، ذکرِ الٰہی کی مداومت
کرنا، قرآن شریف کی تلاوت، عبادت اور اطاعت میں مشغول ہونا
نبی علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرنا۔ ان ادویاتِ سریع النفع
کے استعمال سے بہت جلد یہ سخت مرض دفع ہوگا اور صحتِ کلی
حاصل ہوگی مجرب المجرب ہے۔ صحبتِ اولیاء اس کا اکسیر علاج ہے۔

قرأت قرآن جسمانی اور خصوصاً روحانی امراض کا اکسیر علاج

یعنی قرآن شریف کا پڑھنا بھی ادویہ روحانیہ سے ایک معجون کبیر ہے ہر خاص وعام کو فائدہ کرتی ہے۔ بیمار و تندرست دونوں کی مقوی ہے اس سے بہتر قلب اور روح کے واسطے کوئی دوا نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ترجمہ: میرے نبی آپ نصیحت کرتے جائیے بیشک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔

پس کلامِ الٰہی مستقل نصیحت ہے۔ جیسے باری تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ۔ ترجمہ: بیشک ہم ہی ذکر یعنی قرآن جو نصیحت ہے اتارنے والے ہیں اور بیشک اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔

اور کلامِ الٰہی ایسا دوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت سخت امراض کو شفا دیتا ہے۔ آیتِ شفا میں اسی کی طرف واضح اشارہ ہے کہ قرآن سراپا جسمانی اور روحانی امراض کے لئے شافی وکافی دوائی اور اکسیر اعظم ہے بشرطیکہ کلامِ الٰہی پر سو فیصد یقینِ کامل بھی ہو

اَلْيَقِيْنُ روحانی دواؤں میں سے یہ دوا یقیناً فائدہ مند ہے اس کو ایسا خیال کرنا چاہئے جیسے اکلیل الملک تمام دکھ، درد اور تھکان اور قلب کی تنگی اور بے چینی اور سانس کے پھولنے کو فائدہ کرتی ہے۔ اس دوا سے بہت سارے امراض دور ہوتے ہیں۔

ہم نے اس وقت تک جتنی دوائیں ذکر کی ہیں ان سب میں یہ یقین کی

دوا نمبر اول کی ہے جس نے اس دوا کو استعمال کیا وہ دین کے حقائق سے مطلع ہو گیا اور تمکین کی روائح (یعنی شہودِ حق میں شوق کا غالب ہونا بغیر وجودِ حق کے) اس کو حاصل ہوئیں اور تلوین (یعنی حق کا وہ ظہور ہے جو حق پر پردہ ڈالتا ہوا اور شاہد کو مشاہدہ سے روک دے) کے امراض سے اس نے نجات پائی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى بِفَضْلِهٖ وَلُطْفِهٖ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرَحَ فِي الرَّجَاءِ وَالْيَقِيْنِ وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و مہربانی سے خوشی و فرحت کو امید اور یقین میں رکھا ہے اور رنج وغم کو شک و غصہ میں رکھا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس یعنی قرآن شریف فرماتے ہیں اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ یعنی اس میں بیشک نشانیاں ہیں اہل یقین کے واسطے

یقین کے بھی درجات ہیں۔ اور یہ یقینِ کامل صحبتِ اولیاء سے حاصل ہوتا ہے

جماع کی ہیئت شرعی

جماع کے متعلق یاد رکھنا چاہیئے کہ جب تک شہوت غالب نہ ہو اور منی مستعد نہ ہو جماع کرنا مناسب نہیں۔ لیکن جب وہ حالت پائی جاوے تو فوراً منی خارج کرنی چاہیئے جس طرح ردی فضلا استفراغات سے خارج کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کے روکنے میں ضررِ عظیم کا اندیشہ ہے۔ سوائے اس معیارِ مذکور کے جماع کے لئے کوئی خاص وقت یا مقدار مقرر نہیں کی جاسکتی۔ اگرچہ وہ حالت سال میں ایک ہی دفعہ کیوں نہ ہو۔ بغیر اس حالت کے جماع عموماً سب کے لئے مضر ہے اور خصوصاً صفراوی اور سوداوی مزاج کے لئے کیونکہ ان کو بوجہ قلتِ رطوبات بہت نقصان پہنچتا ہے۔ دموی اور بلغمی مزاج والے اگرچہ ان کو کثرتِ جماع کی طاقت ہوتی ہے تو بھی اُن کے لئے مناسب ہے کہ ایک ہفتہ میں ایک دفعہ یا دو دفعہ مقاربت کریں ورنہ ضررِ عظیم کا احتمال ہے خصوصاً تکان اور تکلیف کی حالت میں۔ اور اس ضرر کی وجہ یہ ہے کہ منی غذا کا خلاصہ ہے جو روح کا مادہ ہے۔ پس جب انسان جماع کثیر کا عادی ہو جاتا ہے پہلے تو منی خارج ہوتی ہے پھر غذا اور رطوباتِ اصلیہ کا خون منی کی شکل میں آجاتا ہے اور رطوبتِ اصلیہ کے فنا ہونے سے ہلاکت کا موجب بنتا ہے۔ علاوہ اس کے کثرتِ جماع سے بڑھاپا جلد آتا ہے، قوت کمزور ہو جاتی ہے، بڑھاپے کے آثار قبل از وقت نمودار ہو جاتے ہیں۔

جماع کی ہیئات بہت سی ہیں مگر مفید ہیئت یہ ہے کہ عورت پیٹھ پر لیٹ جاوے اور مرد اس کے اوپر چڑھ جاوے پھر اس کے ساتھ

چھیڑ چھاڑ و بوس و کنار کرے یہاں تک کہ شہوت بھڑک اُٹھے پھر جلدی سے عورت کے اندام میں داخل کر دے اور حرکت کرے پھر جب منی گر جاوے تو ایک گھنٹہ تک عورت کی گردن سے لپٹا رہے اور ذکر باہر نہ نکالے جب جسم میں مکمل سکونت آجائے تو دائیں جانب ہو کر باہر نکالے۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کے جماع سے اگر نطفہ قرار پا جائے تو لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کے بعد مرد و عورت باریک نرم کپڑے سے اپنے اپنے اندام کو صاف کریں اور کپڑا علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیئے۔

عمدہ جماع وہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ دل کی تازگی، طبیعت کی فرحت ہو اور بُرا جماع وہ ہے جس کا نتیجہ لرزہ و تنگیٔ نفس و دل کی کمزوری وطبیعت کا متلانا اور محبوبہ کا پسند نہ آنا ہو۔ جماع کے واسطے چند امور ہیں ان میں سے تین قبل از جماع اور تین کا بحالتِ جماع اور تین کا بعد از جماع ہونا لازمی ہے۔ قبل از جماع میں سے ایک تو ملاعبت و چھیڑ چھاڑ ہے تاکہ عورت کا دل خوش ہو جاوے اور اس کی مراد آسانی سے پوری ہو جائے، اس کو جاری رکھے یہاں تک کہ عورت جلدی جلدی سانس لینے لگے اور اس کی گھبراہٹ بڑھ جاوے اور مرد کو اپنی طرف زور سے کھینچنا شروع کرے۔ دوسری بات کہ بیٹھی ہوئی حالت میں مقاربت نہ کرے کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ نیز پہلو کی طرف سے بھی جماع نہ کرے کہ اس سے وجع الخاصر درد کمر پیدا ہوتی ہے اور عورت کو اپنے اوپر نہ چڑھائے کہ اس سے عورت بانجھ ہو جاتی ہے بلکہ عورت کو چت لٹا دے اور اس کی ٹانگوں کو اوپر اٹھا دے اور یہ سب سے اچھی ہیئتِ جماع ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دخول کے وقت

اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھے اور عضو کو نرمی سے داخل کرے اور پستانوں کو ہاتھوں سے مَلتا جاوے۔ اور وہ امور جو حالتِ جماع میں کرنے چاہئیں ان میں سے اول یہ ہے کہ اس حالت میں خاموش رہے اور نرمی سے کام کرے۔ دوسرا یہ کوشش کرے کہ ہر دو کا اِنزال ایک ہی وقت پر ہو کیونکہ اس سے عورت کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جب مرد عورت کے انزال کا احساس کرے تو عضو کو جلدی خارج کرے کیونکہ دیر تک رکھنے سے اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے جدا نہ ہوئے اور وہ تین امور جو جماع کے بعد کرنے چاہئیں ان میں اول یہ ہے کہ عورت کو دائیں کروٹ سو رہنے کے لئے حکم دے تاکہ اگر نطفہ قرار پا جائے تو لڑکا پیدا ہو۔ اگر بائیں پہلو پر سوئے گی تو لڑکی پیدا ہوگی۔ دوم یہ کہ مرد فراغت کے بعد یہ آیت پڑھے: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیْرًا

ترجمہ: سب تعریف اس خدا کے لئے خاص ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کو نسب و رشتہ دار و نوالہ بنایا اور تیرا رب اس بات پر قادر ہے۔ سوم یہ کہ اگر سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر کے سو وے یہ سنت ہے اور اگر دوبارہ کرنا چاہے تو ذکر کو دھو لے بعض معتبروں نے ذکر کیا ہے جو شخص اپنی عورت کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے اور سورۂ اخلاص پوری پڑھ کر تکبیر و تہلیل کہے پھر یہ دعا پڑھے: اَللّٰھُمَّ اجْعَلْھَا ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً اِنْ كُنْتَ قَدَّرْتَ اَنْ تُخْرِجَ مِنْ صُلْبِیْ اَللّٰھُمَّ جَنِّبِ الشَّیْطَانَ وَجَنِّبِنَا الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنِیْ ترجمہ: اے اللہ اس فعل کو پاک اولاد کا سبب بنا

له الذی خلق الخ سے قبل الحمد للہ الذی بغود دعا کے ہے لہذا بقیہ ... فرقان ع ۵
کا آیت بھی دعا کے حکم میں ہے اس لئے دعا کی نیت سے اس کا پڑھنا ہر حالت میں جائز ہے۔

اگر تو نے میرے لئے کوئی اولاد مقدر کی ہے تو لے اور مجھ کو شیطان سے بچائے رکھ۔ پھر عورت کو داہنے کروٹ لیٹنے کا حکم کرے۔ اس جماع سے اگر کچھ ہوا تو انشاء اللہ اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا۔

مصنف کہتا ہے میں نے خود اس دعا اور طریقہ کو استعمال کیا بے شک صحیح اور مجرب ہے

آٹھویں تدبیر آب و ہوا ہے۔ یاد رہے کہ جسم کو ہوا کی نہایت سخت ضرورت ہے کیونکہ روح آنکھ اور کان وغیرہ اعضاء ظاہری و باطنی ہوا کی مدد کے بغیر اپنا کام نہیں کر سکتے خصوصاً روح کہ اس کا قوام بدن کے ساتھ بغیر امدادِ ہوا محال ہے اور اس کی زندگی اور موت اسی پر موقوف ہے۔ ہوا روح کے لئے ایسی ہے جیسے جسم کے لئے غذا۔ عمدہ ہوا مشرقی ہوا ہے خصوصاً جو نہایت صاف لطیف خوشبو دار ہو۔ ایسی ہوا میں روح نہایت تر و تازہ ہوتی ہے۔ اور شمالی جنوبی اور مغربی ہوا اگر معتدل ہو جائے تو اچھی ہے ورنہ پہلی ہوا سے اپنی ذات کے اعتبار سے فائدے میں کم ہوتی ہے اور تند و تیز ہوا اور آندھی اور دھواں دگرد و غبار اور ہوا بد بو دار اور جو ہوا حدِ اعتدال سے نکل جائے اچھی نہیں ہیں۔ یہ تمام ہوائیں روح کے واسطے مضر ہیں۔ پس ایسی ہواؤں سے پرہیز چاہیئے اور لطیف طیب ہواؤں کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

نویں تدبیر عوارضِ نفسانیہ ہے۔ یاد رہے کہ غم اور ہم دل کی آفت ہیں۔ اور خوشی و خرمی دل کی راحت۔ ہم کے یہ معنی ہیں کہ امور مہتم بالشان کے اہتمام کے وقت ظاہر بدن میں حرارتِ غریزی ظا

ہوتی ہے۔ اس وقت اگر غرض مطلوب حاصل نہ ہو تو اُس سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت حرارت غریزی طبیعت کے اندر داخل ہو جاتی ہے جس سے طبیعت پر سودا غالب ہو جاتا ہے اور بعض وقت یہاں تک غلبہ کرتا ہے کہ ناگہانی موت آجاتی ہے۔ اور جب ہم اور غم کی کثرت ہوتی ہے تو جسم دُبلا ہو جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ مخلوقات میں سے انسان سب سے قوی ہے اور انسان سے قوی مستی ہے جو عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ اور سکر سے قوی نیند ہے اور نیند سے قوی غم ہے۔ اور رنج و غم کی دوا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص فکر یا غم میں مبتلا ہو گیا ہو اگر یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اُس کو رنج و غم سے نجات دے کر خوشی و خرمی نصیب کرتا ہے۔ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَاصِیَتِیْ بِیَدِكَ مَاضٍ فِیَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِیَّ قَضَاؤُكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ ھُوَ لَكَ سَمَّیْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِیْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِ اسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِیْ عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِیْمَ رَبِیْعَ قَلْبِیْ وَنُوْرَ بَصَرِیْ وَشِفَاءَ صَدْرِیْ وَجِلَاءَ حُزْنِیْ وَذِھَابَ ھَمِّیْ وَغَمِّیْ۔

پس انسان کو چاہیئے کہ ایسی چیز کے لئے کوشش کرے جس کا حاصل ہونا اس کے لئے ممکن ہو اور کثرت خواہشات سے پرہیز کرے تاکہ ہم اور غم میں مبتلا نہ ہو۔ اور جب غرض حاصل ہو جائے تو حد سے زیادہ خوش نہ ہو کیونکہ حد سے زیادہ خوشی بھی ہلاک کر دیتی ہے

نیز غیض و غضب بھی عوارض نفسانیہ میں سے ہیں اور یہ دونوں شیطان کی طرف سے ہیں اور شیطان آگ سے پیدا کیا ہوا ہے پس آگ یعنی غصے کو پانی سے بجھانا چاہیئے جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ غصے کی حالت میں یا تو پانی سے نہا لیوے یا کامل وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیوے، پھر یہ دعا پڑھے اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ ذَنْبِیْ وَاَذْھِبْ عَنِّیْ غَیْظَ قَلْبِیْ وَاَعِذْنِیْ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ

امام غزالی نے اپنے مجربات میں لکھا ہے کہ

جماع کا طریقہ یہ ہے۔ کہ جب پیٹ بھرا ہوا ور جب پیٹ خالی ہو جماع ہرگز نہ کرے بلکہ پیٹ بھرے ہوئے کی حالت میں جماع کرنا زیادہ نقصان کرتا ہے۔ اور جس وقت طبیعت جماع کی طرف راغب ہو اُس وقت جماع سے دریغ نہ کرے اور جب طبیعت راغب نہ ہو تو جماع پر اُس کو مجبور نہ کرے بلکہ بہتر جماع وہی ہے جس کے واسطے طبیعت بہت راغب ہو اور کھانا بھی اُس وقت ہضم ہو چکا ہو۔ اور جان کو راحت ہو یعنی کوئی تکلیف نہ ہو جماع کے وقت لازم ہے کہ عورت چت لیٹ جائے اور مرد اُس کے اوپر آجائے۔ جماع کی حالت میں سو جانا مضر ہے۔ اور ایسے ہی نشہ کی حالت میں بھی جماع کرنا مضر ہے۔ اور فصد کے روز اور اس کے بعد کے روز اور مسہلات کے ایام میں اور خوف کی حالت میں اور حمام کے اندر ان سب صورتوں میں جماع کرنا بہتر نہیں ہے ان صورتوں میں جماع کرنے سے جو نقصان پیدا ہوتا ہے بعض طبیعتیں اُس کی متحمل ہوتی ہیں اور فی الحال اس کا نقصان اُن کو محسوس نہیں ہوتا۔ اور بعض طبیعتیں متحمل نہیں ہوتیں۔ ان کو فوراً اُس کی مضرت محسوس ہوتی ہے۔ اور جماع کے بعد ہی دوبارہ جماع کرنا مضرت سے خالی نہیں ہے۔ اور کھانے کے بعد کھانے سے بھی نقصان پہونچتا ہے بیک کھانا ایک ہی دفعہ کھا لینا چاہیئے اور کھانے کے واسطے چاہیئے کہ اپنی طبیعت اور مزاج اور وقت لازمی میں غور کر کے اُن کے موافق غذا کھائے اور لباس بھی ہر فصل کے موافق جداگانہ پہننے چاہیئے کا ایک گرمی کا ایک برسات کا ایک گرم لباسوں کا جوان آدمیوں کو پہننا مضر ہے خاص کر گرمی کے موسم میں۔

باب تابعہ یعنی اُمّ الصّبیان کے علاج اور اس گفتگو کے بیان میں جو اس موذیہ اور سلیمان علیہ السلام کے مابین واقع ہوئی

یادرہے کہ ام الصبیان وہ بلا ہے کہ گھروں کو گرادیتی ہے محلوں کو برباد کردیتی ہے اور رات ودن رزق کو کم کرتی ہے اور شرارت ومعصیت کو بڑھاتی ہے۔ جبرئیل امین سے روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام سرکش وشریر جنوں وشیطانوں کے قید کرنے کا حکم ہوا تو زمین وآسمان کی تمام لشکر سلیمانؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر ام العبیان نہ آئی لشکروں نے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا سیدنا کیا آپ نے ام الصبیان کو امان دیدی ہے، حالانکہ آپ کی امت میں جو تکلیف ومعصیت ہے سب اسکی طرف سے ہے سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو حاضر کرو۔ فی الفور زنجیروں میں جکڑی ہوئی اور گلے میں طوق ڈالے ہوئے حاضر کی گئی۔ جب سلیمانؑ نے اس کو دیکھا تو اول اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا، پھر کہا اے ملعونہ میں نے تجھ سے زیادہ کسی کو ہیبت ناک وخطرناک نہیں دیکھا، بتلا کہ تیرا نام کیا ہے اور کیا کام کرتی ہے اور وہ اپنے پر پھیلائے ہوئے منہ کھولے ہوئے زمین کو کھودتی تھی، پہاڑوں کو چیرتی تھی، درختوں کو اپنے ناخنوں سے اکھاڑتی تھی اور باوجود زنجیروں میں جکڑے اور گلے میں طوق ڈالے جانے کے گرجنے والے بادل کی طرح گرجتی تھی اور کچھ جواب دیتی تھی۔ اتنے میں جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے سلیمان اس ملعونہ کو آگ سے جلادو اور اس کی راکھ کو ہوا میں اُڑادو اب وہ ملعونہ بولی یا سیدی تجھے خدا کی قسم ہے مجھے آگ کا عذاب نہ دیجیو آگ سے عذاب دینا خدا کا خاصہ ہے اس عذاب میں تخفیف کیجئے میں آپ کو اپنا نام وکام بتاتی ہوں کہا یا نبی اللہ میں ام العبیان ہوں میں گھروں کو خالی کردیتی ہوں اور قبروں کو آباد کردیتی ہوں میں بچوں کو ہلاک کردیتی ہوں بڑوں کو قسم قسم کے اوجاع وامراض ومعصیت وبلا فقر وفاقہ میں مبتلا کرتی ہوں، عورتوں کی گود کو اولاد سے خالی کردیتی ہوں، تاجروں کی تجارت میں نقصان ڈلواتی ہوں ہر ایک قسم کی بیماری پھیلاتی ہوں، کھیتوں کو ہلاک کرتی ہوں اور پانی کم کردیتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام

نے دریافت کیا اے ملعونہ تو مردوں اور عورتوں اور بچوں کو کس طرح پکڑلیتی ہو اور پانی وکھیتی کو کس طرح کم کرتی ہے، کہا یا نبی اللہ مرد وعورتوں کو کھا جاتی ہوں اور بچوں کی ہڈیاں چور کرتی ہوں انکا گوشت کھا جاتی ہوں ان کا خون پی جاتی ہوں اور ان کی ماؤں کی گودوں کو خالی کردیتی ہوں اور عورتوں وبچوں میں سے ان کو چھیتی ہوں جنکی آنکھیں سیاہ ہوں چہرہ سرخ ہو یہ بات سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا اے ملعونہ ایسی بدکرداریوں کے ہوتے ہوئے تو مجھ سے تخفیف عذاب چاہتی ہے میں تجھ کو زمین کے ساتویں طبقے میں قید کروں گا اور تجھ پر قلعی وتانبا گلوادوں گا اور تجھے سخت عذاب دوں گا اور پینے کو پیپ دوں گا۔ اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے ایسا سخت عذاب نہ دیجئے میں آپ کو چند عہود سکھادیتی ہوں جو شخص ان کو اپنے پاس رکھے گا میں اس کی ہڈی و گوشت، جسم، بال وغیرہ ہر ایک اعضا سے نکل جایا کروں گا اور پھر واپس نہ آیا کروں گی اور نہ اس مکان میں کبھی داخل ہوں گی لیکن یا نبی اللہ اپنی امت کے ہر فرد کو کہدیں کہ اس علم کو جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی اپنے پاس رکھا کریں جو اپنے پاس رکھے گا ہر بلا وبیماری سے محفوظ رہیگا اگر حاملہ عورت اپنی کمر میں لٹکائے رکھیگی تو وضع حمل کی تکلیف سے مامون رہے گی اور وضع حمل کے بعد بچے کے گلے میں لٹکادے انشاء اللہ بچہ ہر بلا سے محفوظ رہے گا تا وقتیکہ وہ عہد یا تعویذ اس کے پاس رہیگا۔ سلیمان نے کہا اے ملعونہ وہ عہد ومیثاق وتعویذ بیان کر اور ساتھ ہی قسم کھا کر تو اس حامل کتاب کے نزدیک نہیں جائیگی۔ اسی اثنا میں جبرئیل امین نازل ہوئے اور ملعونہ سے کہا تو کون ہے اس نے وہی ماجرا جو سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا، کہہ سنایا۔ جبرئیل نے کہا پس وہ عہود ومیثاق لاؤ اور پختہ وعدہ کرو کہ تم اس کتاب کے حامل کے پاس کبھی نہیں پھٹکوگی اس نے قسم کھائی اور کہا یا سیدی مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کا عرش پانی پر ہے، جس نے پرندوں کو ہوا میں مسخر کیا ہوا ہے کہ میں اس شخص پر ظلم نہ کروں گی جس کے پاس وہ عہد ہوگا اور اس کے مکان کے نزدیک نہ پھٹکوں گی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کچھ اور زیادہ کر۔ کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین وآسمان کو فرمانبردار ہوکر آنے کا حکم دیا۔ اور قسم ہے جبرئیل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل اور ملائکہ مقربین کے حق کی اور جو شخص ان عہود واسماء کو اپنے پاس رکھے گا میں اس کے پاس نہیں پھٹکوں گی نہ رات میں نہ دن میں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کچھ اور زیادہ کر۔ کہا یا نبی اللہ مجھے قسم ہے تیرے اسم وخاتم

ذوقت و شکر و طاعت کرحق کی اور ابراہیم خلیل اللہ کے حق کی اور موسی کلیم اور عیسیٰ روح اللہ و محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیا کے حق کی کہ جو شخص اس عہد کو اپنے پاس رکھے گا میں اس کے جسم و ہم اور منازل سے نکل جاؤنگی جیسا کہ بال آٹے سے نکل جاتا ہے پھر اس ملعونہ نے بارہ اسما اور طلسم اور ایک خاتم بتلائی بارہ اسما یہ ہیں الماس، طوطوس، برقوس، قیوس، ممہیس، حروس، بعدوس، سرنوس، ہیلوس، ملعونہ اسما الصیبان، عطر ہس طلاسم یہ ہیں ✡ ح ح ۹۱۶۱۹ ۱۱۱ ۶ و ط و ح ۱۱۱۱ ۱۱ ۰ ص ص ص لا ۰ ۰ ۰ مہ مہ مہ ب ✡ ۱۱ م ول ما امل ا ۶ و ۲۲ ح و ود ا ح و ۱۱۱ ۶ ۰ ۰ ۱۱۹۱ ۰ ۱۶ مود ل ل ودہ ۱۱۱ ح ۶ ۶ و و ۰ ۰ و ۱۱۱ ۰ ۰ ۰ ۱۱ وح ✡ ۶ و ۱۰۱ + خاتم یہ ہے

✡ات	اا	س	✡ات	ااااط	✡خ	لذ	
وذ	ااار	اار	ش	✡ات	ااا	✡خ	
✡ار	وذ	✡ب	لاح	س	✡ات	ااااط	
ااااط	✡	وذ	✡ب	ااح	ش	✡ات	
✡ات	ااااط	✡خ	وذ	✡ب	ااح	ش	
ش	✡ات	ااااط	✡خ	وذ	✡ات	لاح	
ااح	ش	✡ات	ااااط	✡خ	وذ	✡ات	

اس کے ساتھ یہ طماطیل بھی لکھے طماطیل یہ ہیں خلطیل، معطعطیل، تعطعطیل، نعطعطیل، نعلطیل، سطیل، تلطیل ان سب اسمار یعنی خاتم و طلسم و طماطیل کو کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھو

✡ عہد سلیمان علیہ السلام کے بیان میں

یہ عہد جس مریض کے پاس ہوگا شفا پائے گا اور وقت زوال الخوف سے محفوظ رہے گا اور طالب حاجت کی حاجات پوری ہونگی جس عورت کو اولاد کی خواہش ہو وہ با اولاد ہو جائے گی جو عورت حاملہ ہونا چاہے حاملہ ہو جائے گی غرضکہ یہ عہد و معتقدین آدم کے ان امراض کے واسطے ہے جو جنوں کیطرف سے ہوں نہایت مفید ہے اسکے متعلق روایت یوں ہے کہ ایک روز سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑھیا جنیہ آ حاضر ہوئی جسکے دانت ہاتھی کی مانند تھے اور اسکے بال گھوڑے کے رسیوں کیطرح تھے اسکے منہ اور نتھنوں سے دھواں نکلتا تھا۔ اسکی آواز گرجنے والے بادل کی سی تھی اُس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی تھیں۔ یہ شکل ریسے آواز والی جب سلیمان علیہ السلام نے اسکی طرف دیکھا ہیبت

کے مارے سجدے میں گر گئے پھر سر اٹھایا اور کہا اے بدصورت بیہودی شکل جس سے زیادہ بدشکل کوئی نہیں دیکھا بتا تو کون ہے اور کیا کام کرتی ہے کہا میرا نام ہمتہ بن ہمتہ ہے اور میری کنیت ام الصبیان ہے میں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں رہتی ہوں سلیمان نے پوچھا اے ملعونہ تو کن لوگوں پر مسلط کی جاتی ہے کہا ردی مرد و عورتوں پر اور ان لوگوں پر جنکے پاس اسم کی آیات میں سے کوئی آیت نہ ہو اور جس کے پاس آپ کی خاتم نہ ہو یا نبی اللہ میں عورتوں کے ہر ایک حال میں آنکے اندر اس طرح سرایت کر جاتی ہوں جسطرح خون لوگوں میں سرایت کرتا ہے اور ہزار ہا رنگ تبدیل کرتی ہوں اور گدھے کی طرح رینگتی ہوں اور اونٹ کی طرح کراتی ہوں اور بھیڑیے کی طرح بھونکتی ہوں اور سانپ کی طرح پھنکارتی ہوں اور چیتے کی طرح غراتی ہوں سلیمان نے کہا بخدا میں تجھ کو سخت زنجیروں میں جکڑ کر اور تیرے گلے میں طوق ڈالکر دریا کی تہ میں قید کرونگا۔ اور ذلت و خواری سے تجھے مار ڈالوں گا اُس نے کہا یا نبی اللہ آپکے حق میں معافی بہتر ہے مجھے معاف کیجیے اور مجھ سے عہد و میثاق لے لیجیے کہ جس کے پاس وہ اسمار ہونگے میں کبھی اسکے نزدیک نہ جاؤنگی سلیمان نے پوچھا تیرا کیا نام ہے کہا الہمتہ بنت الہمتہ اور میری کنیت ام الصبیان ہے اور میرے دس نام ہیں اول فلتوش، معلوش، ہبلوش، قرقوش، عمروش، ایلاقوش، قنطوش، قوش، مقرقوش، ام ملدم میں لوگوں کا گوشت کھالیتی ہوں خون پی جاتی ہوں پس آپ مجھ سے عہد و میثاق لیں کہ میں اس شخص کے جان و مال میں نقصان نہ پہونچاؤنگی جسکے پاس تیری کتاب ہوگی سلیمان علیہ السلام نے کہا تیرا عہد و میثاق کیا ہے کہا میں آپ کو یہ عہود دیتی ہوں

عہد اول بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِحَقِّ الَّذِیْ لَہُ التَّہْلِیْلُ وَالتَّکْبِیْرُ وَالتَّعْظِیْمُ وَالتَّحْمِیْدُ مَا اَعُوْدُ اٰکِلَۃً صَادِقًا اَوْ عَمَلًا یَّعْمَلُ لِمَا یُرِیْدُ جسکے پاس یہ اسما ہونگے میں اسکے پاس نہیں پہنچونگی عہد ثانی بِحَقِّ الَّذِیْ تَجَلّٰی لِلْجَبَلِ جَعَلَہٗ دَکًّا وَّخَرَّ مُوْسٰی صَعِقًا مِّنْ نُّوْرِہٖ وَنَظَرَ اِلَی الْجَبَلِ فَتَدَکْدَکَ مِنْ جَلَالِہٖ جو شخص ان کلمات کو لکائے گا میں اسکے پاس تک نہ پہونچ سکونگی عہد ثالث اَلنَّسِیْمَۃُ وَحَقِّ الَّذِیْ اَسْکَنَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ اَلْمَلِکِ الْقُدُّوْسِ اَلْحَیِّ لِلْمَیِّتِ بَاعِثِ النُّفُوْسِ ان کلمات سے دور بھاگونگی عہد رابع اَلْجَمِیْلَۃِ وَحَقِّ الْمَعْبُوْدِ کِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ وَّنَجْمٍ مَّسْجُوْدٍ وَحَقِّ خَالِقِ النُّوْرِ وَبَاعِثِ

[1] ترجمہ عہد اول اللہ کے نام سے جو مہربان رحم کرنے والا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے لئے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور تسبیح و تحمید ہے ... [illegible]

... [illegible] ... اور قسم اس ذات کی جس نے پہاڑ پر تجلی کرا ... موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے ... [illegible]

[illegible]

مَنْ فِي الْقُبُوْرِ جو ان اسموں کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا عہد خامس بِسْمِ اللّٰهِ دعوۃ
هُوَ نُوْرٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ وَنُوْرٌ يَظْهَرُ مِنْ نُوْرٍ وَحَقِّ عَرْشِ الرَّحْمٰنِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ الْمُهَيْمِنِ الْعَزِيْزِ
الْجَبَّارِ الَّذِيْ هُوَ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ ان کلمات والے کے پاس نہ قریب جاؤنگی **عہد سادس** بِسْمِ اللّٰهِ
وَحَقِّ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمَآءَ وَالطَّارِقَ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَلَا مِثَالٍ وَكِبْرِيَآءِ ذِمَّةِ النِّفَاقِ وَكَثْرَةِ الرِّزْقِ بِالْخَلْقِ
ذٰلِكَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ جو ان کلمات کو پاس رکھے میری اس تک رسائی نہیں
عہد سابع بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَحَقِّ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ السِّرِّ وَمَا هُوَ اَخْفٰى وَحَقِّ
كُرْسِيِّكَ وَعَرْشِكَ وَنُبُوَّتِكَ وَخَاتَمِكَ الَّذِيْ مَلَكْتَ بِهِ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ وَالطَّيْرَ الصَّافَّاتِ وَ
الرِّيْحَ الْعَاصِفَاتِ نہ قریب جاؤنگی میں اس شخص کے جو پاس رکھے ان اسمار کو اور نہ قریب جاؤنگی اس کے
مال اور اولاد کے ؛ الف الف لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پس اس وقت سلیمان نے آصف
بن برخیا اپنے وزیر کو بلایا اور اسکو اسم اعظم یاد تھا سلیمان نے اسکو کہا کہ تو اسکو کہہ کہ پس اس نے
کہا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حِجَابٌ مِّنَ اللَّعْنَةِ الْمَلْعُوْنَةِ اُمِّ الصِّبْيَانِ وَجَمِيْعِ عَفَارِيْتِ الْاَرْضِ
وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالرِّمَالِ وَالْكُهُوْفِ وَالْغِيْضَانِ وَالْاَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ وَالطُّرُقَاتِ وَالْمَوَارِدِ
الْبَرِّيِّ وَالْعَفَارِيْتِ الطَّائِرِيْنَ فِي الْهَوَآءِ وَالْمُسْتَرِقِيْنَ السَّمْعَ مِنَ السَّمَآءِ وَالْغَوَّاصِيْنَ وَالْغَطَّاسِيْنَ
وَالْغِيْلَانِ وَالتَّوَابِعِ وَالزَّوَابِعِ وَجَمِيْعِ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِيْنِ اَجْمَعِيْنَ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ اَعْزِمُ عَلَيْكُمْ بِعِزَّةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَبِجَمِيْعِ هٰذِهِ الْاَسْمَآءِ وَالْعُهُوْدِ
بِحَبْسِكُمْ وَطَرْدِكُمْ وَبُعْدِكُمْ عَنْ حَامِلِ هٰذَا الْكِتَابِ وَعَنْ اَكْلِهٖ وَشُرْبِهٖ وَقُعُوْدِهٖ وَمَقَامِهٖ
وَنَوْمِهٖ وَيَقَظَتِهٖ بِحَبْسِكُمْ بِاسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ وَبِخَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

اور مردوں کو قبر میں سے اٹھانے والے ہے [illegible] ان عہد اس ذات کی قسم ہے جو کہ نور ہے [illegible]
[illegible] اور اسکے عرش کی برکت سے اور بدلہ دینے والے بادشاہ [illegible]
[illegible] ہر مکان میں موجود ہے چھٹا عہد اس ذات کی قسم ہے جس نے بلند آسمان کو بغیر ستونوں کے
[illegible]
[illegible] ساتواں عہد [illegible]
[illegible]
[illegible] ام الصبیان [illegible]
[illegible]

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْاَنْسِ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتُمْ تُكْتَبُ
كَاَنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ
وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

فصل ام الصبیان کے بیان میں

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ میں مدینے کی گلیوں میں جارہا تھا کہ مجھے ایک
عورت کالے چہرے و رنگ والی اور نیلی آنکھوں والی ملی میں نے اس سے کہا تو کہاں جاتی ہے کہا جاتی
ہوں تاکہ گود والے بچوں کا گوشت کھاؤں اور خون پیوں اور ہڈیاں توڑوں میں نے کہا اے ملعونہ لعنت
اللہ علیک اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو لعنت نہ کیجیے میرے بارہ نام ہیں جو شخص
انکو اپنے پاس رکھے میں اس کے نزدیک نہیں جاتی میں نے کہا وہ کیا ہیں کہا یہ ہیں لولین - خلعس
ددس - سلطوس - سیوس - سلماس - طوح - طوسد اصرع دب قروح عیقوء وسماد الیغا
رقیشی کا قول ہے کہ جس عورت کی اولاد نہ جیتی ہو اسکو چاہیے کہ اسمار ذیل لکھ کر پاس رکھے کلام
الیغا وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ الیغا
دعا ذیل بطور تعویذ بناکر اپنے پاس رکھے اس دعا کا نام دعائے سوجا ہے اور وہ یہ ہے بِسْمِ
اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَعَزُّ وَاَلْطَفُ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا بِسْمِ اللّٰهِ الشَّافِيْ بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِيْ
بِسْمِ اللّٰهِ الْمُعَافِيْ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا اَللّٰهُمَّ اَنَا
اَلرَّاقِيْ وَاَنْتَ الشَّافِيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا غَشِيَكَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَيُّهَا
الْمَلَكَانِ الْاَكْبَرَانِ الْاَسْوَدَانِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِمَّا قَضَى اللّٰهُ رَبِّيْ وَرَبُّكُمَا وَخَالِقِيْ وَخَالِقُكُمَا

بقایا صفحہ [illegible] ان دونوں کے شر سے اور کل ان کلمات اور عہدوں سے اور انکو روکتا ہوں اور ہٹاتا ہوں
اور دفع کرتا ہوں اس کو کہ [illegible] کھانے پینے بیٹھنے سونے جاگنے سے اور تم کو
حجاب کرتا ہوں اسکے اسم اعظم سے اور سلیمان علیہ السلام کے خاتم سے ان آیتوں کا ترجمہ گذر چکا ہے
[illegible] جو جانوں کا پیدا کرنیوالا ہے [illegible]
[illegible]
[illegible]

ورازقي ورازقكما وخالقي وخالقكما ومصوري ومصوركما وخالق الصور ورازق البشر نعوذ بالله
من جميع الآفات ومن جميع العلل والأمراض كالأسقام والكسل والجنون والجذام والبرص والكبر
واعيذ نفسي ونفس حامل هذه الأسماء العظام بآياتك التامة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا
الملك والملكوت يا من له العزة والجبروت سبحانك ما أعظم شأنك يا فاطر السموات والأرض
يا ملجأ المؤمنين يا أرحم الساكنين يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرأفة والإحسان يا جبار يا منان
يا قاهر لا يقهر جبار لا يجبر يا من يجير ولا يجار عليه يا العظمة منه تحكيم وبالحكمة مشهور
سبحانك ليس كمثله أعوذ بالله من عذاب البدن عن يميني وعن شمالي وورائي وقدامي وأمامي و
خلفي وجميع جهاتي وجلدي وفوق جلدي وتحت جلدي والبدن جميعا من شر الريح
الأحمر ومن الداء الأكبر في النفس والروح والدم واللحم والشحم والعروق والعظم والأعضاء
سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله أكبر يا باري يا مبدي يا معيد يا آمر
يا دائم يا رحيم يا مرتفع يا غفار يا مستعان يا فاعل يا مفضل يا ساتر يا نافع يا دائم يا باسط
يا مقسط يا قابض بالنعم يا مزيح المستغيثين يا شاكر يا شكور يا موجود يا لطيف يا معروف
يا دهين يا موفق يا ناصر يا منتصر يا منصور يا مستقيم يا ناظر يا ناصر يا مسلط يا قوي يا قدير
يا مقتدر يا شديد البطش يا ذا القوة المتين اهيا شر اهيا ادوناى اصباوت ال شداى يا هويا
موى لوهيا يا كهيعص يا حمعسق يا رب يا منعم يا مالك يا جابر يا جبار يا متجبر يا ما الجبروت يا
من كورا بكل لسان يا كبير يا متكبر يا عظيم يا أعظم يا متعظم يا قيوم يا قائم على كل نفس بما
كسبت يا مستودع يا ممتنع يا ربا يا ملكا يا كافيا يا جارا يا منتهى رغبتاه يا مغيث يا سبوح
يا مبدل يا محصي يا حي يا قيوم يا مهلك الظلمة يا لطيف يا سريع يا مسرع يا دائم يا مستند يا أحكم يا
أحكم الحاكمين يا أسرع الحاسبين يا ولي المتقين يا مولانا يا سامع يا مستمع يا سميع يا سميع يا
عون الضعفاء يا كافي يا شافي كل مريض يا مكور الليل على النهار يا مكور النهار على الليل يا مسخر
الليل يا قاصم كل جبار عنيد وشيطان مريد يا نعم المولى ونعم النصير يا خير الناصرين يا خير
الرازقين يا رازق المقلين يا رجاء المؤمنين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا غياث
المستغيثين يا إله العالمين يا مقيل عثرات العاثرين يا حبيب التوابين يا خير الغافرين
يا خير الوارثين يا خير الحافظين يا مالك يوم الدين يا أنيس المستوحشين يا أنيس الفقراء
يا جليس الغرباء [illegible]

أسند يا أدنى تسبيحي لتحميدك توكلت وبك أرغب وإليك أذهب اغفر لي ولوالدي ولجميع
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واغفر لمن يتلو عليه هذا الكتاب المبارك واحرسه
من جميع العلل والأمراض من الأسقام والأوجاع والكلام السوء والنصب وكل عارض من العوارض
المائية والهوائية والمائية والأرضية والحجرية والبهائمية والشيطانية والروحانية
والإنسية والجنية وتعيذ بما أعذت به إبراهيم خليلك من النار ونوحا من الماء وهودا
من العواد وصالحا من رجفة الأرض يا أكرم الأكرمين ويا عالم السر الخفي ويا من هو
أعلم بما تحت الثرى يا واجد يا شاهد يا مشهود يا مقدم يا مؤخر يا فاطر يا راشد يا غفور
يا رحيم يا رؤوف بحق آدم وصفوته وبحق إبراهيم وخلته وبحق موسى وكلماته وبحق عيسى
ونعمته وبحق محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما ومحبته وبحق أبي بكر الصديق
رضي الله عنه وتنبيه وبحق عمر الفاروق رضي الله عنه وعدله وبحق عثمان بن عفان رضي
الله عنه وحيائه وبحق سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وشجاعته ودولته وبحق هذه الكرد
والأسماء العظيمة لمن يتلو عليه هذا الكتاب وبحق الغيلان وبحق الزلزل وبحق المفاسد
واحفظه من شر الريح الأحمر واخرجها من بدنه بعزة الله ورب العالمين بجلال الله رب العالمين
وبعظمة الله ومنانه وبحق كهيعص وبحق حمعسق وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم
سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وبحق مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي أولهم آدم
وآخرهم محمد المصطفى صلى الله عليه على جميع الأنبياء والمرسلين وبحق لا إله إلا الله محمد
رسول الله صلى الله عليه أخرج أيها الريح الأحمر من هذا البدن بحق هذه الأسماء وعقدت
بحق طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله الحسنى وعقدت بحق تبارك الذي بيده الملك وهو
على كل شيء قدير وبحق والنجم إذا هوى إلى قوله فكان قاب قوسين أو أدنى وعقدت بحق الرحمن علم
القرآن خلق الإنسان علمه البيان وبحق هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى قوله سميعا
بصيرا وعقدت بحق إنا أنزلناه في ليلة القدر وعقدت بحق قل هو الله أحد إلى آخرها وعقدت
بمائة وأربعة عشر سورة من جلالة انا نابم امزلى كرنے بکرنا يد تا رعد ميا منه بحق الله يا حي يا قيوم يا
ذا الجلال والإكرام وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم

للملك الملكوت يا من له العزة والجبروت سبحانك ما اعظم شانك يا فاطر السموات والارض
يا ملجا المؤمنين يا ارحم المساكين يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرافة والاحسان يا جبار يا ستار
يا قاهر لا يقهر جبار الجبابرة يا من يجير ولا يجار عليه يا العظمة معروف حكيم وبالحكمة سبحانه
سبحانه كثيرا اعوذ بالله من عذاب البدن عن يميني وعن شمالي وراسي وبدني وامامي و
خلفي وجنبي وجانبي وجلدي وفوق جلدي وتحت جلدي والبدن جميعا من كثرة الريح
الاحمر ومن الداء الاكبر في النفس والروح والدم والشحم واللحم والعروق والعظام والاعصاب
سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون الله اكبر يا باري يا مبدي يا معيد يا دائم
يا دائم يا رفيع يا مرتفع يا غفار يا مستعان يا فاعل يا مفضل يا مناذ يا نافع يا دائم يا باسط
يا مقسط يا قائم بالقسط يا من يجيب المضطرين يا شاكر يا شكور يا موجود يا عاطف يا عطوف
يا رحيم يا مرضي يا ناصر يا منتصر يا منصور يا سابق يا ناظر يا ناصر يا مسلط يا نور يا قابل
يا مقتدر يا شديد البطش يا ذا القوة المتين اهيا شر اهيا ادوناي اصباوت ال شداي ياهيا
موى لوهيا يا كهيعص يا حمعسق يا رب يا منعم يا نافع يا جابر يا جبار يا متجبر يا جبروت يا
من كون بكل لسان يا كبير يا متكبر يا عظيم يا اعظم يا منتقم يا قيوم يا قائم على كل نفس بما
كسبت يا مستودع يا ممتنع يا رباه يا ملجاه يا غاية رجاه يا منتهى رغبتاه يا مفرق يا بين
يا مبدل يا مجير يا حي يا قيوم يا مهلك الظلمة يا غني يا سميع يا سريع يا رائد يا مستتر ولحكم يا
احكم الحاكمين يا اسرع الحاسبين يا ولي المتقين يا مولانا يا سامع يا مسموع يا مستغيث يا مجير يا
عون الضعفاء يا كافي يا شافي كل مريض يا مكور الليل على النهار يا مكور النهار على الليل يا مسخر
الليل يا قاصم كل جبار عنيد وشيطان مريد يا نعم المولى ونعم النصير يا خير الناصرين يا خير
الرازقين يا رازق المقلين يا رجاء المؤمنين يا ارحم الراحمين يا راحم المساكين يا غياث
المستغيثين يا اله العالمين يا مقيل عثرات العاثرين يا حبيب التوابين يا خير الغافرين
يا خير الوارثين يا خير الحافظين يا مالك يوم الدين يا انيس المستوحشين يا انيس الفقراء
يا حبيب الكرباء يا مزيل الاذلاء يا هادي المضلين يا اله الاولين والاخرين يا مالك يوم الدين اياك

المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات واغفر لمن علق عليه هذا الكتاب المبارك واخرج
من جميع العلل والامراض والاسقام والاوجاع والكلام السوء والنصب كل عارض من العوارض
النارية والهوائية والمائية والارضية والحرقية والبهائية والشيطانية والروحانية
والانسية والجنية وتعلقه بما اعتدت به ابراهيم خليلك من النار ونجا من النار وهودا
من الهواء وصالحا من رجفة الارض يا اكرم الاكرمين ويا عالم السر الخفي ويا من هو
اعلم ما تحت الثرى يا واحد يا شاهد يا مشهود يا مقدم يا مؤخر يا قائم يا راشد يا غفور
يا رحيم يا رؤف بحق آدم وصفوته وبحق ابراهيم وخلته وبحق موسى وكلماته وبحق عيسى
ورفعته وبحق محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته وكبرياءه وثنائه ومحبته وبحق ابي بكر الصديق
رضي الله عنه وشيبته وبحق عمر الفاروق رضي الله عنه وعدله وبحق عثمان بن عفان رضي
الله عنه وحيائه وبحق سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وشجاعته وفضليته وبحق هذه الحروف
والاسماء العظيمة اعذ من علق عليه هذا الكتاب من وجع العينين ووجع الراس ووجع المفاصل
واحفظه من كثرة الريح الاحمر واخرجها من بدنه بعزة الله رب العالمين بجلال الله رب العالمين
وعهد الله وميثاقه وبحق كهيعص وبحق حمعسق وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم
سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وبحق مائة الف واربعة وعشرين الف نبي اولهم آدم
وآخرهم محمد المصطفى صلى الله عليه على جميع الانبياء والمرسلين وبحق لا اله الا الله محمد
رسول الله صلى الله عليه اخرج ايها الريح الاحمر من هذا البدن وبحق هذه الاسماء وعقدت
بحق طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الى قوله الحسنى وعقدت بحق تبارك الذي بيده الملك وهو
على كل شيء قدير وبحق والنجم اذا هوى الى قوله قاب قوسين او ادنى وعقدت بحق الرحمن علم
القرآن خلق الانسان علمه البيان وبحق هل اتى على الانسان حين من الدهر الى قوله سميعا
بصيرا وعقدت بحق انا انزلناه في ليلة القدر وعقدت بحق قل هو الله احد الى اخرها وعقدت
مائة واربعة عشر سورة سر جلاوة الاندم ارتلن كرب بكر بايد نا ودنيا من عقد بالله يا حي يا قيوم يا
ذا الجلال والاكرام وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم
محسنون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و
اصحابه يا ظاهر من الكتابين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اشفني

وَبِمَا يَأْتِي وَحَلَّ وَفِي بَلَدٍ آيَتَ وَعَافِنِي مِنْ سُلْطَانِكَ وَأَدِمْ عَلَيَّ مِنْ نُورِ شَمْسِكَ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِي جَمِيعَ
الْأَسْقَامِ وَالْأَمْرَاضِ وَجَمِيعَ الْعِلَلِ وَالثِّقْلِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْأَنْجَاسِ وَالْأَرْجَاسِ وَالْوَسَاوِسِ وَاكْفِنِي شَرَّ
الْأَشْرَارِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحُزْنِ وَالضَّجَرِ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِي شَرَّ الْوَحْشِ وَالْهَوَامِّ وَمَشَاحَنَةِ الْعَوَامِّ وَشَرِّ
الشَّيْطَانِ وَالْقَحْطِ وَالْغَلَاءِ وَالزَّلَازِلِ وَالْوَبَاءِ وَتَهَدُّمِ الْبِنَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِي كَيْدَ
الْفُجَّارِ وَمَا اخْتَلَفَ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ الْإِنْسِ وَالْجَانِّ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ رَبِّ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
وَأَنْتَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں سب تعریف اسی کو خاص ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بڑا
بزرگی شان والا اور بہت عزت والا اور بہت مہربان ہے اس چیز سے جس سے میں ڈرتا اور خوف کرتا ہوں
اور بڑی شان والا ہے اور سب تعریف اسی کو ہے بہت بہت اور درود پاک ہو مسیح و سلم پر کہ نام
سے جو شفا دینے والا ہے۔ کفایت کرنیوالا ہے کافی ہے وغیرہ والا ہے اس اللہ کے نام سے جسکے نام کی برکت سے
کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے اور ہم اتارتے
ہیں قرآن جو شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے اور نہیں بڑھاتا ظالموں کو مگر نقصان میں ہوا اس میں ... چیز
والا ہوں اور تو شفا بخشنے والا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی جس کا تو نے حکم دیا ہے اور دونوں
تیری سیاہ ... میں پناہ مانگتا ہوں اور اس کے ساتھ ... جب اللہ ... اور تیرا رب اور پیدا کرنے والا
فیصلہ کر دیا ہے اور اس خدا کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جو ہمارا اور میرا رازق اور حفاظت کرنے والا ...
والا ... کو ... اور انسانوں کو رزق دینے والا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اس کی ... آفتوں مخلوقوں ...
بیماریوں کمزوریں جنون ... جو ... سے ... کے ... والی
کے لیے ... آفت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، اے صاحب شان اور ... اے صاحب ... فرشتوں کے
اے وفات جس کے لیے عزت اور غلبہ ہے تو ... کس قدر بلند ہے تیری شان اے آسمانوں اور زمینوں
کے پیدا کرنے والے بے کسوں کی جائے پناہ اے مسکینوں پر رحم کرنے والے اے عظمت اور غلبہ ... احسان ...
سب ... احسان ... غالب کہ تیرے غلبہ کو کوئی نہیں روک سکتا اے وفات جو پناہ دیتا ہے اور
خود کسی کی پناہ میں نہیں آ سکتا وہ اپنی عظمت پر ... حکیم ہے حکمت کے ساتھ مشہور ہے وہ پاک
ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں اپنی بدن کی تکلیف سے اور اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے اور کل طرف
اور ... کے ... تکالیف اور ... بدن ... اور ... بیماری سے جو نفس میں ہو
یا ... خون یا گوشت ... بال ... اور ... جب کسی کام کو کرنا
چاہتا ہے ... کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ... حکمت والا ہے ...

والے ... فتح دینے والے اے ... اور انصاف کرنے والے اے انسان کو ساتھ قائم اے پکارنے
والوں کی پکار کا جواب دینے والے اے شاکر، اے موجود، اے پیر سے والے، اے راسی اور حضرت
کرنے والے اے پیدا کرنے والے اے سخت پکڑنے والے اور اے زبردست قوت والے اے غلبہ کے ساتھ
غالب اے زبان میں ذکر کیے گئے اے ہر نفس پر جو کچھ کہ اس نے کیا قائم کرنے والے اے امید کو عطا
کرنے والے اے شہید، اے جلدی کرنے والے۔ اے کل ... سے ... کرنے والے اے جلدی
حساب لینے والے، اے ... کے والی، اے ... والی ... کمزوروں کے ... اور رات کو دن
پر چڑھانے والے اور دن کو رات پر غلبہ دینے والے اے ... کو تابع کرنے والے ... سرکش ... شیطان
کو ... کھانے والے ... اچھے مددگار، سب سے اچھے مددگار ... رزق دہندہ۔
اے ... کو رزق دینے والے اور ... کے جائے امید ... کے فریاد سننے والے
اور جہانوں کے معبود، اے گناہگاروں کے گناہوں ... کرنے والے اور توبہ ... کو پسند
کرنے والے، اے اچھے بخشش کنندہ۔ اے اچھے وارث و حافظ ... روز جزا کے مالک، اے ... والی کے
... اور مسکینوں کو دوست رکھنے والے ... کو ... دینے والے اے ...
کو ہدایت دینے والے اے آنکھوں اور ... کے معبود ... تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں
اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی پر ... اور تیری ہی طرف رغبت ... تیری ہی طرف کو
... اور ... اور کل مومنین و مسلم ... مغفرت ... جان ...
کو ... اور ... ہر قسم کی ... آگ ... ہوا ... اور حشرات
... اور ... شیطان ... اور انسانوں کی روحوں ... حفاظت میں رکھ اور ... پناہ دے کہ
جیسا تو نے حضرت ابراہیم کو آگ، نوح علیہ السلام کو پانی ... صالح کو زمین کے زلزلے سے
محفوظ رکھا ... گرم ... اور ... اور زمین کے ... چیزوں سے
... آدم اور ... اور ... ابراہیم ... موسیٰ ... کلام ... عیسیٰ
اور ... آسمان پر جانے اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم اور ... محبت اور ابو بکر ... اور حضرت عمر
اور ان کے عدل اور حضرت عثمان اور ان کی سخاوت اور حضرت علی اور ان کی بہادری اور ان ...
عظیم الشان ... کے حق سے اس شخص کو ... آنکھوں کی اور ... جوڑوں کی ...
سے محفوظ رکھ ... اور نکال ... کلیات ... اور جہانوں کے پیدا کرنے والے کی عزت
اور جلال ... میثاق اور حروف مقطعات کی برکت سے اور ہم نے ... آگے ... اور
ان کے پیچھے ... دیکھ نہیں سکتے ... برکت ... کے
پہلے حضرت آدم ... اور آخری حضرت محمد صلے اللہ علیہ وسلم ہیں ... حق ... اے ...

الاقرار والهم والغم والحزن والبحزن اللهم اكفني شر الوحش والهوام ومشاحنة العوام وشر
الشيطان والغيظ والغلاء والزلازل والوباء وهدم البناء وشماتة الاهل والاعداء اللهم اكفني كيد
الحساد مما يختلف على الليل والنهار ومن كل طوارق الانس والجان الا طارقا يطرق منك بخير
نعوذ بك من شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم رب عليك توكلت
وانت حسبي ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں سب تعریف اسی کو خاص ہے اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں حلم والا
بڑی شان والا اور بہت عزت والا اور بہت مہربان ہے اس چیز سے جس سے میں ڈرتا اور خوف کرتا ہوں
اور بڑی شان والا ہے اور سب تعریف اسی کو ہے بہت بہت اور پاک ہے صبح و شام اس کے نام
سے جو شفا دینے والا ہے کفایت کرنے والا ہے عافیت دینے والا ہے اس اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے
کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے اور ہم اتارتے
ہیں قرآن میں شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے اور نہیں بڑھاتا ظالموں کو مگر نقصان میں اور اللہ ہی غالب
ہے اور شفا بخشنے والا ہے میں پناہ چاہتا ہوں اس چیز کی برائی سے جس کا زخم کرتا کلیجے اور دونوں
سروں میں پناہ چاہتا ہوں اس کے ساتھ جس کا ارادہ ہے جس کا اراده میرا اور تمہارا رب اور پیدا کرنے والا ہے
فیصلہ کر دیا ہے اور اس اللہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جو تمہارا اور میرا رازق اور حفاظت کرنے والا نفع بخشنے
والا ہے اور جانوں اور انسانوں کو رزق دینے والا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کل آفتوں تکلیفوں برے لوگوں
بیماریوں گزرے ہوئے جنون سے ہر طرح کے درد سے میں اپنے اور اس گھر کے رہنے والوں
کے لیے تمام ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور وہ بڑی شان والا بزرگی والا صاحب ملک اور عرش کا
مالک جس کے لیے عزت اور غلبہ ہے تو پاک ہے کیسی بلند ہے تیری شان اے آسمانوں اور زمینوں
کے پیدا کرنے والے بے کسوں کی جائے پناہ اور مسکینوں پر رحم کرنے والے اے عظمت اور غلبہ اور بڑے احسان والے
سب پر غلبہ والے احسان والے غالب کہ تیرے غلبہ کو کوئی نہیں روک سکتا اے وہ ذات جو پناہ دیتا ہے اور
خود کسی کی پناہ میں نہیں آ سکتا وہ اپنی عظمت سے پہچانا جاتا ہے حکیم ہے حکمت کے ساتھ مشہور ہے وہ پاک
ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں اپنی بدی کی تکلیف سے اور اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے اور کل طرف
اور نیچے کے ہتھیاروں کی تکالیف اور سر درد کی برائی سے اور بڑی بیماری سے جو نفس میں ہو
یا دھڑ میں خون یا گوشت ہڈیوں یا چربی اور رگوں اور پٹھوں میں وہ پاک ذات ہے جب کسی کام کو کرنا
چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اور بڑی عظمت والا ہے اے پیدا کرنے والے ابتدا
کرنے والے پھیر لانے والے اے غالب بخشنے والے بخشش والے مدد کرنے والے اے کل کو بنانے

والوں کی پکار کا جواب دینے والے اے شمار کرنے والے اے موجود اے پھیرنے والے اے ... اور عزت
کے پاس اے پیدا کرنے والے اے گرفت پکڑنے والے اور اے بڑی قوت والے اے غلبہ کے ساتھ
غالب اور زبانوں میں ذکر کیے گئے اے ہر نفس پر جو کچھ اس نے کیا قائم کرنے والے اے اور ... کو
کر دینے والے اے گواہ اے جلدی کرنے والے اے کل حاکموں سے بڑھ کر حکم کرنے والے اے جلدی
حساب لینے والے اے پرہیزگاروں کے والی اے بے سہاروں والے اے کمزوروں کے مددگار اے رات کو دن
پر چھا دینے والے اور دن کو رات پر غلبہ دینے والے اے حق کو تابع کرنے والے ہر سرکش اور شیطان
کو بیچارہ کرنے والے اور اے اچھے ولی اے اچھے مددگار اے اچھے مددگار اور اچھے رزق دینے والے
اے فقیروں کو رزق دینے والے اور اے ... کے ... فریاد سننے والے
اور جانوں کے معبود اے گناہگاروں کے گناہوں سے در گزر کرنے والے اور توبہ قبول کرنے والے پسند
کر دینے والے اے اچھے بخشش کرنے والے سائلوں کے ... اور حافظ ... اے ...
محتاجوں اور مسکینوں کے دوست اے کمزوروں اور ذلیلوں کے عزت دینے والے اے عقلوں
کو ہدایت دینے والے اے اگلوں اور پچھلوں کے معبود اے ... ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تجھ ہی پر ہم نے بھروسا کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف
چلنا ہے میرا اور میرے گھر والوں کا اور کل مومنین و مسلمین اور ... کو گھیر ... اور ... کرے جو ہیں
کو باندھ ... اور ہر قسم کی مرضوں اور تکلیفوں سے اور آگ ... اور خاک کے عارضوں اور خطرات
... اور ... انسانوں کی روحوں کو حفاظت میں رکھ اور سب کو پناہ میں رکھ
جیسا تو نے حضرت ابراہیم کو آگ ... نوح علیہ السلام کو پانی ... صالح کو زمین کے زلزلے سے
محفوظ رکھا اور سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے اور پوشیدہ بھیدوں کو جاننے والے اور زمین کے نیچے کی چیزوں
کو ... اور مہربان رب آدم ... آدم اور اس کی برگزیدگی ... اور ... اور اس کی دوستی ... اور موسیٰ اور اس کی کلام ... اور عیسیٰ
اور اس کی آسمان پر جانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت اور ابوبکر اور ان کے ... اور حضرت عمر
اور ان کے عدل اور حضرت عثمان اور ان کی سخاوت اور حضرت علی اور ان کی بہادری اور ان حروف اور
عظیم الشان اسماء کے حق سے اس شخص کو جو اس سکے کو باندھے آنکھوں کی اور سر اور جوڑوں کی ... سے
محفوظ رکھ اور سخ ... کی برائی سے اور ... ان تکلیفات کو اور جانوں کے پیدا کنندہ کی عزت
اور جلال اور اس کے کلمہ میثاق اور حروف مقطعات کی برکت سے اور جو نے کرے اس کے آگے دیوار
اس کے پیچھے روک ... نہیں سکتے احسان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کی برکت سے جو سب کے
پہلے حضرت آدم ہیں اور آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ... حق ... کے ... اور ...
مدینہ ... برکت ... قرآن نازل نہیں کیا اور ... برکت آیت برکت ... ہے
وہ جس کے قبضہ میں سب کل ... وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ساتھ حق ستاروں ... قسم کی برکت

باب چھوٹے بچوں کے امراض کے بیان میں

بچوں کی ام الصبیان کا علاج ۔ اسکو جدہ ۔ شہاقہ ۔ الحرہ ۔ ام الخیل الحنفہ بھی کہتے ہیں اسکے ساتھ نام ہیں اور سات عہد ہیں اگر کسی بچہ کو دیکھو کہ اسکو قے و دست لگی ہوئے ہیں اور آنکھیں اندر کو گھسی ہیں تو جان لو کہ اسکو یہی بیماری ہے اور اسکا علاج یہ ہے کہ قطران در روغن درخت موم ملا کر کے سر پر ملیں اور اسماء ذیل پڑھتے جائیں نیز یہی اسماء اس کے ہر دو کان میں پڑھکر دم کریں اسماء یہ ہیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عِيْسٰى صَبِيًّا وَمُوْسٰى نَجِيًّا وَّمُحَمَّدٌ نَّبِيًّا اِبْنُ مَرْيَمَ اَيُّهَا اللَّيْلُ بِالَّذِيْ دَمَّرَ اِذْ رُبُو مَكَانًا عَلِيًّا وَبِالَّذِيْ قَالَ لِلسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ شَهِدَتْ الْعَالَمِيْنَ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ایضاً (جدہ) بچہ کو کوفتہ بیختہ کر کے شہد میں ملا کر چٹائیں شفا ہو جاوے ایضاً بچے کے سر پر تیل ملیں اور اسماء ذیل پڑھتے جائیں اور یہی اسماء لکھکر اس کے گلے میں لٹکائیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ترجمہ گذر چکا ۔ قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ❀

اور آیت اندازہ وہ کمانوں کا بلکہ اس سے بھی قریب تھا اور آیت رحمن نے قرآن سکھلایا ۔ انسان کو پیدا کیا اور اسکو بیان کرنا سکھلایا اور سات برکت سورہ وہ برابر سورہ قدر اور سورہ اخلاص اور سات برکت ایک سو چودہ سورہ قرآن کے تحقیق انسان اگر کسی سانپ سے جو پہنچ کر خدا کی پناہ اختیار کریں اور دہ بکرنیل ہوں ان کے اپنی شفا سے راحت دی اور اپنی مدد سے علاج کر اور اپنی جیسی ہوئی مصیبت سے حفاظت دے اور جس چیز سے تو نے ان کو پیدا کیا ہے ان کو اس میں تحقیق بچائیں نقصانوں سے تحقیق تبدیل زمین ہالہ دن حشرات الارض اور کسی شرارت شیطانوں کی جن کی تعداد آدمی تعلق ہے مکان سے کہ اس سے نکلیں اور آل محمد ہے تا جہانوں کے مکروں سے ہر چیز کی شرارت سے جو بری بات آتا ہے اور جن اور انسان آنے جانے والوں سے واسطے اس بچہ کے جو تیری طرف وسیلہ لیکر آتے ہیں اور ہر شئے کے جو یادوں کی جنس ہیں تحقیق بچہ کی شرارت اور بدی سے بچا ہے رکھ تحفہ میرا رب سب پر دستہ ہے اور سب ہیں ذکر ہی پر پیدا کیا اور تو بھی کافی ہے اور اچھا محافظ اور اچھا ہے اور اچھا مدد گار ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ۔ حواشی صفحہ ہذا انہ جیسے برگزیدہ تھے سر کشی کرنے والے اور محمد صلعم نبی اسے عیسیٰ اور جاہلیت کی ایک سر جیسے اور یہ کہ بلند ملک پایا ! اور جس سے زمین و آسمان کو سر دو ہونے کا حکم دیا تھا کہ ہم جاویں خوشی سے ۔ گواہ رب کے فرمانبردار ہو کر پھر منقریب کفایت کرے گا تجکو ان سے انشاء اللہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے ۔

باب اس شخص کا علاج جو خون اور پیپ کا بول کرتا ہو

ترہ تیزک کے پتے پانی میں خوب پکائیں پھر صاف کر کے اس میں شہد اور گھی ملا کر استعمال کریں انشاء اللہ ایک ہفتہ میں آرام ہو جائے گا ۔ ایضاً ککڑی (پنجابی میں ککڑی کو تر کہتے ہیں) کے پتے پانی میں پکا کر بقدر برداشت طبع یہ پانی پینا اس مطلب کے واسطے بہت مفید ہے : ایضاً تخم گاجر بقدر ایک مثقال سفوف بنا کر ہر روز پانی کے ساتھ استعمال کریں ۔ سات دن تک کریں۔

باب خروج مقعد (کانچ نکلنا) کے علاج میں

علاج مازو بقدر ۵ تولہ لیکر بہت سے پانی میں جوش دیں پھر اس میں پھٹکڑی بقدر ایک تولہ ملا دیں ۔ اور کسی بڑے برتن میں ڈال کر مریض کو اس میں بٹھلا دیں ۔ چند روز تک ایسا ہی کرتے رہیں یہاں تک کہ کانچ کا نکلنا موقوف ہو جاوے ایضاً ریش بڑھ (درخت بڑھ کی داڑھی) جلا کر راکھ بنا دیں پھر آرد ماجو ۔ آرد مائیں خرد ایک مساوی ملا کر سب کو سرکہ میں گوندھ کر مقعد پر طلا کیا کریں اور غذا میں سرکہ ملا لیا کریں ایضاً مرغ کی چربی سے مرہم (کانچ) کی تدہین کرتے رہنا اس مرض کو زائل کر دیتا ہے۔

باب وجع خصیتین (درد خصیہ) کے علاج میں

درد خصیہ و مثانہ قروح مثانہ کا علاج بیل کا پتہ موضع ماؤف پر طلا

کریں ایضاً سرکہ کسی شیشی میں ڈال کر اس میں ایک زندہ بچھو ڈال دیں اور شیشی کو چند روز دھوپ میں رکھیں تاکہ بچھو اس میں حل ہو جائے پھر اس سے مالش کیا کریں ایضاً کھجور کی گٹھلی کا آٹا، تخم خطمی ہر ایک مساوی سرکہ میں پیس کر ضماد کریں ایضاً کرنب کے پتے جلا کر انڈے کی سفیدی میں پیس کر موضع ماؤف پر طلا کریں ایضاً ورق سداب ورق اونٹ کٹارا کو پانی میں جوش دیکر اس پانی سے خصیوں کو دھویا کریں۔ ایضاً روغن زیتون میں ایک زندہ بچھو ڈال کر دھوپ میں رکھیں یا اکیس روز کے بعد صاف کر لیں پھر اس سے ذکر و خصیہ پر مالش کریں نیز اس کو آنکھ میں ڈالنے سے آنکھوں کا چوندھیا پن دور ہو جاتا ہے ایضاً آرد باقلا پکا کر پہلے جائے مخصوص پر روغن گل کی مالش کریں پھر وہ آٹا کسی کپڑے پر لگا کر لیپ دیں۔

باب ذکر و فروج کے درد و زخم کے علاج میں

توتیا ہندی (نیلا تو تیہ) کو پیس کر دس دفعہ پانی میں دھوئیں۔ پھر روغن چنبیلی و عرق گلاب میں ملا کر مالش کیا کریں۔ ایضاً تخم السی باریک پیس کر عرق گلاب میں ملا کر طلا کریں بس مفید ہے ایضاً ان کے زخموں کا علاج مرتک سہاگہ دونوں کو پیس کر سرکہ میں ملائیں اور تھوڑا آگ پر گرم کر کے اس سے مالش کیا کریں۔

باب بواسیر کے علاج میں

بواسیر جمع ہے باسور کی۔ یہ ایک قسم کی (رگیں) ہوتی ہیں جو مقعد کے کنارے کے گوشت پر پیدا ہو جاتی ہیں اس سے مقعد میں خارش پیدا ہوتی ہے۔ جس سے اس جگہ پر ایک آگ سی لگی ہوئی معلوم ہوتی ہے اس کا اثر رطوبت سمیہ کے سبب سے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے جس سے تنگی نفس۔ سانس کا پھولنا۔ پست ہمتی، شکستہ دلی پیدا ہوتی ہے اور اس سے رنگ زرد۔ بدن سست۔ تہیج چہرہ و چشم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ رگیں دو قسم کی ہوتی ہیں سیالہ (بہنے والی) جامدہ (نہ بہنے والی) اور سبب ان کا دو ردی خلطیں ہوتی ہیں۔ جو ردی غذا کے فضلوں سے پیدا ہوتی ہیں ایک تو فضلہ مائیہ یعنی وہ ردی خلط ہے جو جگر سے گردوں کی طرف لیسدار سفید پانی کے ساتھ اترتی ہے اور یہ بواسیر سیالہ کا سبب بنتی ہے۔ دوسری وہ ردی خلط ہے جو جگر سے طحال کی طرف سیاہ خون کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بواسیر جامدہ کا موجب ہوتی ہے۔ بواسیر سیالہ کا علاج یہ ہے کہ تھوم و نمک کوٹ کر شہد میں ملائیں اور ضماد کریں اور نہار وقت شہد میں تھوم ملا کر استعمال کیا کریں۔ یہ قسم بہ نسبت جامدہ کے علاج کو جلدی قبول کرتی ہے۔ جامدہ کا علاج قطع ہے۔ مگر اس میں خطرہ ہے اور ماہر و حاذق حکماء کا کام ہے اس واسطے نسخہ ذیل کا استعمال کریں۔ نوشادر۔ زرنیخ و نورہ ناآب رسیدہ (چونا) ہر ایک مساوی لیکر باریک پیس لیں پھر مسوں پر نشتر لگا لگا کر دوائے مذکورہ ان پر چھڑکتے جائیں۔ یہ دوائی ان کے اندر گھس جائے گی اور ان کو کھائے گی اگر درد ہو اور برداشت نہ ہو سکے تو گرم گھی سے ٹکور کریں جب درد کی تسکین ہو جائے تو پھر وہی کام کریں اور درد کی حالت میں ٹکور کرتے جائیں یہاں تک کہ تمام مسے کٹ جائیں پھر نمک و تھوم پیس کر

اس پر ضماد کریں ایضاً تھوم۔ زنجبیل۔ سداب ہر ایک مساوی کو باریک کرکے شہد میں ملاکر کھانے اور مسوں پر ضماد کرنے سے ہر دو قسم کی بواسیر سیالہ و جامدہ دور ہوجاتی ہے۔ غذا اس مرض میں جوزہ مرغ کا شوربا اور گندم کی روٹی ہونی چاہیئے اور ہر ایک ترش چیز اور سرد و تر اغذیہ و ادویہ سے پرہیز کرنا چاہیئے۔

بواسیر ریحی کا علاج پہلے مسہل لیں پھر تریاق جسکا ذکر معجونات کے بیان میں آئے گا استعمال کریں ایضاً پہلے مسہل لیں اس کے بعد لعاب بہدانہ میں شکر سفید ملاکر چند روز تک استعمال کرتے رہیں۔

باب عرق النساء (رینگن واؤ) کے علاج میں

یہ ایک قسم کا درد ہوتا ہے جو ران سے لیکر قدم تک پہونچتا ہے اس کا سبب برودت و یبوست کی کثرت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واسطے عربی دنبہ کی الیہ (چکی) گلا کر پینے کا حکم کیا کرتے تھے۔ تین روز میں مریض اچھا ہوجاتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے یہ دوائی ایکہزار تین سو آدمی کو بتلائی سب اچھے ہوگئے اور اگر دنبہ کی چکی شہد اور روغن زرد ملاکر استعمال کریں تو زیادہ مفید ہے ف اس مرض کے علاج کا کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ اخلاط ردیہ فضلات فاسدہ کو بدن سے خارج کریں اور اس کے واسطے سب سے عمدہ طریقہ قے کروانا ہے جب بدن صاف ہوجاوے تو خردل یا یاسمین بری کو گھوٹ کر ران بلکہ ساری ٹانگ پر ضماد کرنا چاہیئے سب سے زیادہ مفید دوائی اس مرض میں درباس ہے اس کے بعد جنگلی چنبیلی ہے۔ اس کے کندھک آملہ سار ہے ان اشیاء کو مریض

کو حمام میں داخل کرنے کے بعد اس کے موضع ماؤف پر ضماد یا طلا کرادیں بعض حاذق حکماء کا قول ہے کہ شیطرج ہندی اس مرض میں سب سے عمدہ علاج ہے اس کی جڑی کوفتہ بیختہ کرکے اس میں چربی ملاکر ران پر بلکہ ساری ٹانگ پر ضماد کریں پھر مریض کو حمام میں لیجاویں جب پسینہ آنے لگے اور مریض عضو میں لذع محسوس کرنے لگے تو اس دوا کو اتار دیں اور عضو کی روغن گنجد سے مالش کریں اور ٹانگ کسی موٹے گاڑھے کپڑے میں لپیٹ دیں اگر مریض کو اٹھا کر حمام میں داخل کریں گے تو وہ اپنے پاؤں پر چلتا ہوا نکلے گا اگر بالفرض کچا درد باقی رہ جاوے تو ایک ہفتہ کے بعد پھر یہی تدبیر کریں ایضاً خردل و چربی کا ضماد بھی اسی ترکیب سے یہی فائدہ دیتا ہے۔ فرفیون۔ چربی بھی اسی تدبیر بالا سے اس مرض میں مفید ہے ایضاً بکری کی مینگنی سرکہ میں پکاکر طلا کرنا بھی عرق النساء کے واسطے مفید ہے ایضاً جوز الطیب کا عرق ایک مثقال پینا بھی اس میں نہایت مفید ہے ایضاً محببہ بقدر دو درہم کوفتہ بیختہ کرکے شہد میں ملاکر استعمال کرنا بھی ہر ایک کی وجع المفاصل کو ضائع کرتا ہے خصوصاً عرق النساء کو تو نہایت فائدہ کرتا ہے۔ ایضاً پودینہ ہندی گھوٹ کر طلاء کرنے سے عرق النساء کو دور کرتا ہے ایضاً دانہ حرمل بقدر ۱½ مثقال ہر روز پانی کے ساتھ پھانکنا بارہ روز میں فائدہ کرتا ہے ایضاً قشر درخت جوز ہندی (اخروٹ کا چھلکا) یاسمین بری (جنگلی چنبیلی) ہر دو مساوی کوٹ کر بیمار جگہ پر طلاء کریں رات ساری رہنے دیں صبح کے وقت دوا دور کردیں اس جگہ سے ایک قسم کا پانی بہتا ہوگا پھر اس پر گرم گھی سے ٹکور کریں اور کسی مرہم سے زخم کو بھردیں ایضاً کعب (ٹخنہ) کے

چار انگل اوپر داغ دینے سے بھی کمال فائدہ ہوتا ہے ایضاً کسی قسم کی بوسیدہ ہڈی لیکر خوب باریک کرکے اس میں سانپ کی چربی ملاویں اور بیس روز تک درد کی جگہ پر ملتے رہیں ایضاً چمگادڑ کے گوشت کو کسی روغن میں پکاکر اس تیل کی مالش کریں ایضاً شجرہ مریم خشک کریں اس میں بقدر ایک درہم آرد گندم میں ملاکر اس کی روٹی کھایا کریں صحیح و مجرب ہے۔

باب فالج (اور نگ) کے علاج میں

فالج کے معنی یہ ہیں کہ انسان کا تمام بدن یا ایک حصہ بے حرکت ہوجاتا ہے اس کا سبب برودت و یبوست کی کثرت ہوتی ہے علاج پہلے مسہل سودا دیں۔ پھر روغن زیتون۔ روغن کنجد میں نمک تھوم مصطگی ملاکر آگ پر چڑھائیں جب ادویہ کا اثر تیل میں آجائے تو اس سے مریض کے بدن پر خوب زور سے مالش کریں اور غذا وہ کھاویں جو ہم نے سکتہ کے باب میں ذکر کی ہے[1] مالش کے بعد مریض کے بدن پر کپڑا اڑھا دیا کریں یہی علاج کئی دفعہ کرتے رہیں انشاءاللہ شفا ہوجاوے گی۔

باب برص کے علاج میں

تعریف: یہ ایک قسم کی سخت سفیدی تمام بدن میں یا اس کے بعض حصہ میں ہوتی ہے جو تمام بدن میں سرایت کرجاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام بدن گھیر لیتی ہے۔ یہ نہایت ردی اور مزمن بیماری ہے اس کا سبب خلط بلغمی کی کثرت ہوتی ہے جو بدن میں مستحکم ہوجاتی ہے علاج پہلے بلغم کا مسہل لیں پھر بڑا پیاز خاکستر گرم میں بھونیں اور اس کا پانی نچوڑ کر اس میں تخم طرب کو خوب پیسیں اور رکھ چھوڑیں اور موضع ماؤف پر مالش کریں ایک رات دن مالش کے بعد پھر گرم پانی سے غسل کیا کریں اگر ایک ہفتہ تک اچھا ہوجائے تو فبہا ورنہ پھر مسہل لیں پھر اسی دوا کی مالش کریں اس طرح ہر ہفتہ یا ماہ میں دو دفعہ مسہل لیا کریں اور مسہل لیکر طلاء کریں یہاں تک کہ آرام ہوجائے اور غذا اس حالت میں عمدہ گندم کی روٹی اور ایک سالہ دنبہ کا گوشت جس میں گرم مصالح خوب پڑے ہوئے ہوں استعمال کیا کریں نیز ہر روز شہد اور تھوم ملاکر کھایا کریں اس تدبیر سے بہت جلد آرام ہوجاوے گا ایضاً حنظل کی جڑ۔ جال کی جڑ ہر دو مساوی دونوں کو خوب پیس کر سیاہ گائے کے دودھ میں ملاویں اور بکری کو ذبح کرکے اسکی گرما گرم جلد اتارکر اس میں وہ دودھ ڈالدیں اور خوب ملاکر اس میں سے تھوڑا سا پی جائیں اور باقی بدن پر ملکر دھوپ میں بیٹھ جائیں اور اس جلد کو مریض کو پہنادیں انشاءاللہ ایک دن میں اچھا ہوجاوے گا ایضاً جنگلی چیتبلی کی جڑ۔ اکاس بیل حنظل کی جڑ سب کو خشک کرکے باریک پیس لیں پھر شہد خالص میں گوندھ لیں اور ہر روز بقدر ایک درہم کھایا کریں ایضاً ابابیل کا گوشت لیکر اس میں تھوڑا سا چونہ اور روغن لگادیں اور دھوپ میں رکھ دیں یہاں تک کہ خشک ہوجاوے پھر روغن زیتون کسی کوزہ میں ڈال کر اس میں وہ سوکھا گوشت ڈالدیں اور کوزے کو کسی کوڑے میں دفن کردیں ایک ہفتہ کے بعد نکال کر اس میں (خردل ررائی)، رگڑ کر برص پر لگایا کریں ایضاً تخم اطریلال (کاگ جنگا) جال

[1] سکتہ کے باب میں ان چیزوں کا ذکر ہے دودھ چاول، مرغ کا گوشت، روغن زرد، شہد اور شوربے کھلائیں۔ باقی چیزوں سے پرہیز (بحوالہ مجربات امام سیوطی صفحہ ۸۳)

(دن کا درخت) سرکہ تیز۔ شہد کاگ جنگا اور جال کی جڑ کو سرکہ و شہد میں تر کریں اور برص کی جگہ کو رگڑ کر اس پر وہ طلا کریں ایضاً زعفران پیس کر گندھک محلول میں شامل کریں اور برص کی جگہ پر طلا کریں اسی روز آرام ہو جاوے گا ایضاً شیطرج ہندی۔ مجیٹھہ۔ تخم ترب ہموزن سب کو سرکہ میں گھوٹ کر برص پر طلا کریں اور دھوپ میں بیٹھیں پھر غسل کر ڈالیں ایضاً زنگار۔ شہد زنگا کو شہد میں حل کر کے برص کی جگہ کو گرم پانی سے دھو کر طلا کریں۔ انشاءاللہ آرام ہو جاوے ایضاً زرنیخ۔ توتیا۔ تخم ترب سب ہموزن باریک پیس کر روغن زیتون میں ملا دیں اور برص کی جگہ کو رگڑ کر طلا کریں تین روز میں آرام ہو جاوے ایضاً زنگار تخم ترب تخم بابچی سب ہموزن باریک پیس کر سرکہ تیز میں ملا دیں اور برص کی جگہ کو کسی کپڑے وغیرہ سخت چیز سے رگڑ کر طلا کریں ایضاً تخم پنوار گو سیاہ گائے کے بول میں ڈبو دیں اور چالیس روز تک کسی گڑھے میں دفن کر رکھیں پھر نکال کر خوب باریک پیسیں پھر اس میں شہد ملا کر برص پر طلا کریں انشاءاللہ سات دن میں آرام ہو جاوے ایضاً برص کا علاج کتابت سے اسماء ذیل کاغذ پر لکھ کر ان کو پانی سے دھوئیں اور اس پانی سے غسل کریں اسماء یہ ہیں کہیعص حمعسق کو تین گھڑی رات گذرے ہوئے لکھے۔

باب جذام کے علاج میں

علامت اس مرض کی یہ ہے کہ آواز میں صوت دفعتہ ہوتی ہے یعنی آواز تیز ہو جاتی ہے اور باوجود اس کے ناک میں بولتا ہے۔ یہ بیماری ناک کے اطراف کو کھا لیتی ہے انگلیوں کا گوشت کم ہو جاتا ہے طبیعت میں یبوست آجاتی

ہے۔ حرارت ردیہ کا غلبہ ہو جاتا ہے سبب اس کا مادہ سوداوی کا مستحکم ہونا ہوتا ہے علاج اس کا چھ ماہ تک ممکن ہے اس کے بعد ایک سال تک مشکل ہے اس کے بعد محال ہے۔ پس جب ان علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر ہونے لگے تو علاج کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیئے اور سب سے پہلے خلط سوداوی کا استفراغ کرنا چاہیئے پھر معجون ذیل کا استعمال کرنا چاہیئے۔ ثوم مقشر۔ کنوار گندل کا گودہ ہر ایک مساوی ہر دو کو پیس کر روغن زرد۔ شہد خالص میں ملائیں اور آگ پر قوام معتدل کریں اور اس میں بقدر برداشت طبع سوتے وقت استعمال کریں غذا اس حالت میں چوزہ مرغ کا شوربہ اور گندم کی روٹی اور شہد و روغن زرد ہونی چاہیئے اور اس کے ماسوا پرہیز کرنا چاہیئے اور ہر ہفتہ میں ایک دفعہ ایک مہینہ میں دو دفعہ مریض کی قوت و ضعف کے موافق اسہال لیا کریں کہتے ہیں کہ اگر صرف شہد خالص و روغن زرد عمدہ ہر ایک مساوی لیکر ان میں گائے کا تازہ دودھ ملا کر پیا کریں تو اس مرض اور ہر ایک سوداوی مرض کو دفع کرتا ہے ایضاً حرمل کا پودا سارا کا سارا مع جڑوں وغیرہ کے اکھاڑ کر پانی میں جوش دیں اور اس پانی سے نہایا کریں اور سر پر بہت پانی ڈالا کریں شفا ہو جاوے گی ایضاً معجون ذیل کا استعمال کریں کہ نہایت مفید ہے۔ زیرہ سفید۔ زیرہ سیاہ۔ کشنیز۔ کلونجی۔ گندم بریان۔ نخود بریان خشخاش سمسم۔ بادیان۔ فلفل۔ زنجبیل۔ قرنفل۔ اندرجو۔ جوزالطیب۔ تہوم۔ الائچی خورد حرمل۔ صعتر۔ جزر کستان۔ نانخواہ چرونجی ہر ایک ایک حصہ زعفران ½ حصہ شہد خالص۔ زیتون۔ روغن زرد۔ سرکہ ہر ایک مساوی ادویہ ماقبل کو فتہ بیختہ کر کے باقی اشیاء سائرہ میں ملا کر کسی روغن دار برتن میں ڈال کر ایک ہفتہ دھوپ میں

رکھ چھوڑیں پھر اس سے بقدر ایک اوقیہ ہر روز صبح کے وقت کھانا شروع کریں جذام کے علاوہ یہ معجون تخیل العقل، کثرت سوداء و بلغم، جرب، دیدان، ریح، درد جگر، ورم طحال، وسواس کو بھی فائدہ کرتی ہے۔

باب جنون و وسواس کے علاج میں

حکیم جالینوس کا قول ہے کہ گدھ کا دماغ کھانا صاحب جنون کو کمال فائدہ دیتا ہے نیز مرغ کے سر کی کلغی (تاج) کا بخور (دھونی دینا) بھی اس مرض میں مفید ہے ایضاً سویہ کوٹ کر پانی میں پکائیں اور وہ پانی مریض کو پلائیں امید ہے کہ تین یا سات روز کے پینے سے نفع بیں معلوم ہوگا ف جو شخص شیطان الرجیم کے وسوسہ سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ دعا ذیل پڑھتا رہا کرے دعا یہ ہے یَا اَللّٰهُ الرَّقِيْبُ الْحَفِيْظُ الرَّحِيْمُ يَا اَللّٰهُ الْحَيُّ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الرَّؤُوْفُ الْكَرِيْمُ يَا اَللّٰهُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْقَائِمُ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ حُلْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَدُوِّيْ[1] دیگر غزالی کی خاتم جس کا ذکر گذر چکا ہے[1] اور آیۃ الکرسی اور آیت[2] اَلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ایک سونے یا چاندی یا تانبے یا قلعی کے برتن میں لکھ کر پانی میں ملا کر اور حل کرکے تین

[1] ترجمہ: اے اللہ نگہبان و حفاظت کرنے والے اے اللہ زندہ رکھنے والے نرمی کرنے والے عظمت والے مہربان و فضل کرنے والے اے اللہ زندہ اور قائم رکھنے والے خود ہمیشہ قائم رہنے والے ہر نفس پر اس چیز کے ساتھ جو کچھ کہ اس نے کمایا میرے اور میرے دشمن کے درمیان حائل ہو جا۔ [2] ترجمہ: پرہیزگار لوگوں کو شیطان کی طرف سے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔

[1] خاتم غزالی یہ ہے ←

ب	ط	د
ـ	ھ	ج
•	ا	[illegible]

روز صبح خالی پیٹ پئیں۔

باب احتلام کے دفع کرنے میں

اس مرض میں اگر مریض سوتے وقت سورہ والسماء والطارق پڑھ لیا کرے تو احتلام سے محفوظ رہے۔ ایضاً اگر سوتے وقت انسان اپنے دائیں ران پر آدم اور بائیں ران پر حوا لکھ لیا کرے تو کبھی احتلام نہ ہو۔

باب بہت جننے والی عورت کے بیان میں

اگر عورت حاملہ ہونا نہ چاہے تو چاہیئے کہ ایک درہم کافور کھا جاوے پھر کبھی بچہ نہ جنے ایضاً خصی دنبے کا بول پینے سے عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا ایضاً گدھے کے کان کی میل پینے سے بھی حمل نہیں قرار پکڑتا ایضاً اگر عورت خناغ کے پتے اپنے پاس رکھے تو جب تک پتے اس کے پاس رہیں گے حمل نہیں ہوگا ایضاً اگر عورت کاسنی کے پھولوں کو پانی میں گھوٹ کر حیض کے بعد پی جاوے تو حاملہ نہ ہو ایضاً اگر عورت خرگوش کا دل خناغ کے ساتھ پاس رکھے تو حاملہ نہ ہو ایضاً تخم ارنڈ کا حلوہ بنا کر کھانے سے بھی حمل قرار نہیں پکڑتا ایضاً اگر عورت سیاہ تلوں کو اپنے حیض میں تر کرکے کھا جاوے تو حاملہ نہ ہو ایضاً اگر مرد جماع کے وقت تھوڑی سی افیون احلیل کے منہ میں رکھ کر جماع کرے تو نطفہ فاسد ہو جاوے اور تولید کے قابل نہ رہے ایضاً اگر مجیٹھ پکا کر اس کا پانی نہار پیا جاوے تو ہرگز حمل نہ ٹھہرے۔ ایضاً اگر تھوڑی سی پھٹکڑی پانی میں حل کرکے مرد اپنے ذکر پر طلا کرے یا عورت

تھوڑی سی پھٹکڑی پیس کر فرج میں رکھدے اور پھر مقاربت کریں تو حمل نہ ہو۔ ف جس عورت سے بکثرت جماع کیا جاوے وہ عقیمہ (بانجھ) ہو جاتی ہے ایضاً اگر مرد و عورت جماع سے پہلے روغن سے تدہین کر لیا کریں تو حمل نہ ٹھہرے ایضاً اگر رو سیاہ مرغی کے پتہ کو ذکر پر طلا کر کے جماع کیا کرے تو عورت کبھی حاملہ نہ ہو ایضاً اگر عورت جماع کے وقت ملح اندرانی کا حمول کر لیا کرے تو کبھی حاملہ نہ ہو ایضاً اگر عورت کسی بچے کے اس دانت کو جو زمین پر نہ گرا ہو کسی کپڑے میں باندھ کر پاس رکھے تو ہرگز حاملہ نہ ہو ایضاً اگر عورت ایک دانہ سندورس کھا جاوے تو کبھی حاملہ نہ ہو ایضاً اگر عورت مہینے حیض کے بعد خچر کا بول پی لیا کرے تو حمل رہ جاوے ایضاً سداب و سنتاخ کا پانی پینے سے بھی عورت کو حمل نہیں ہو سکتا ایضاً اگر سرطان پیکر گدھی کے دودھ سے ٹکیہ بنا دیں اور عورت کے بائیں بازو پر باندھیں تو جب تک وہ بندھا رہے گا عورت حاملہ نہ ہو گی ایضاً اگر عورت آنکھ بند کر کے ارنڈ کا ایک دانہ نگلجاوے تو ایک سال تک حاملہ نہ ہو ایضاً اگر چمگادڑ کا سر عورت کے سر کے نیچے رکھا جاوے تو اس روز حمل قبول نہ کرے ایضاً اگر عورت اونٹ کے منہ کی جھاگ (جگالی) جو مستی کے وقت اس کے منہ سے نکلتی ہے پی جاوے تو ہرگز حاملہ نہ ہو ایضاً چمگادڑ کو ذبح کر کے اس کے پیٹ کی آلائش دور کریں اور باقی کسی تکیہ میں بھر دو اگر عورت بطور سرہانہ استعمال کیا کرے جب تک وہ تکیہ اس کے سر کے نیچے رہا کرے گا وہ حاملہ نہ ہو گی

باب اس بات کے معلوم کرنے میں کہ آیا عورت حاملہ ہے یا نہیں

صاحب الخواص نے لکھا ہے کہ اگر معلوم کرنا چاہیں کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں تو عورت کو چاہیئے کہ ایک دانہ ثوم چھیلکر اس میں چند جگہ سوئی سے چھیدے اور رات کے وقت اندام نہانی میں رکھکر سو جاوے اگر صبح کے وقت اسکی بو منہ سے آوے تو جان لے کہ حاملہ نہیں ہے ورنہ حاملہ ہے اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ حمل نر ہے یا مادہ تو عورت کے ہر دو ٹخنوں کو دیکھیں اگر وہ صاف اپنی اصلی حالت پر ہوں تو حمل نر ہے اگر سبز ہو گئے ہوں تو جان لو کہ مادہ ہے دیگر اگر عورت کا دائیں طرف بھاری ہو تو نر ہو گا اور اگر بائیں طرف بھاری ہو گا تو مادہ ہے ف اگر عورت خرگوش نر کا پنیر اس کے دو خصیہ کے ساتھ کھا جاوے تو لڑکا جنے اور خرگوش مادہ کا پنیر کھاوے تو لڑکی پیدا ہو صاحب خواص کا قول ہے اگر وہ عورت جسکو حمل نہ ٹھہرتا ہو یہ معلوم کرنا چاہے کہ میرا حمل کبھی ٹھہرے گا یا نہیں تو اسے چاہیئے کہ زراوند حرج کو گائے کے پتہ میں پیس کر حیض سے فارغ ہونے کے بعد ایک رات حمول کرے اگر صبح کو اس کا ذائقہ مونہہ میں معلوم کرے تو جان لے کہ حاملہ ہو جاوے گی ورنہ نہیں۔

باب حمل نہ ہونے کے علاج میں یعنی حمل ٹھہرانے کے بیان میں

یاد رہے کہ حمل کا نہ ٹھہرنا کئی وجوہات سے ہوتا ہے کبھی تو رحم میں کسی قسم کی گرہ پڑ جاتی ہے۔ کبھی رحم کا منہ منقلب ہو جاتا ہے کبھی رحم اپنی جگہ سے اونچا ہو جاتا

ہے. اگر رحم میں مجرہ پڑ گئی ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ بعبول کا لغز خشک کر کے اس
جو میں پکائیں اور تھوم ڈال کر چند روز استعمال کریں اور غذا نہایت پاکیزہ ہونی
چاہیئے اگر رحم اُلٹا ہو یا اونچا ہوا ہو تو عورت کو چاہیئے کہ ملبہ کو پانی میں جوش
دیکر اسکے پانی سے حمول کرے اور پیٹ اور پیٹھ پر بھی ملے. کبھی رحم کے الیاف
سُست ہو جایا کرتے ہیں اسکی علامت یہ ہے کہ نطفہ جلد گر جاتا ہے. اور عورت
مجامعت کے بعد ہولناک خواب دیکھتی ہے علاج یہ ہے کہ گندنا کی جڑیں روغن
زرد میں جوش دیں اور بقدر برداشت طبع اس روغن کو پی جاویں اور پیٹ اور پیٹھ
پر اس روغن کی مالش بھی کریں پھر عورت کا خاوند اس سے مجامعت کرے ایضاً اگر
سیاہ گائے کا پتہ روغن زرد میں ملا کر اس میں صوف کا ٹکڑا تر کر کے عورت حمول
کرے. پھر تین روز کے بعد خاوند اس سے مجامعت کرے انشاء اللہ باردار ہو جاوے
اگر چربی و گوشت کی زیادتی سے رحم کا منہ بند ہو جس کے سبب سے نطفہ قرار نہ پاتا ہو
تو یہ نسخہ کام میں لاویں. سیاہ گائے کا پتہ. زیرہ کرمانی. مصطگی. شحم حنظل سب کو
کوٹ کر روغن بلسان. روغن سوسن میں ملائیں اور صوف بھگو کر عورت اس سے
شافہ کرے یا پانچ روز تک یہ عمل کرنے کے بعد پھر اس کا خاوند مجامعت کرے
انشاء اللہ حاملہ ہو جاوے اگر رحم میں تشنج ہو تو اس کا علاج یہ ہے بکری کی چربی
سے روغن نکال کر اس میں گائے کا دودھ ملا دیں اور عورت اس سے اپنے فرج کی
تدہین کرے چند روز کے بعد خاوند سے مجامعت کرے اگر رحم میں ریح ہو جسکی
علامت یہ ہوتی ہے کہ عورت مجامعت کے ساتھ ہی نطفہ گرا دیتی ہے تو اس کا
علاج یہ ہے کہ گلائے کے پتے یا اسپغول پیس کر صوف میں لپیٹ کر عورت

چند روز حمول کرے پھر خاوند اس کے ساتھ مجامعت کرے ایضاً زنگار فلفل.
حب الرشاد. زیرہ سفید. زیرہ سیاہ. خرگوش نر کا پنیر. نوشادر سب مساوی
کو فتہ بیختہ کر کے شہد خالص میں ملا کر حیض سے پاک ہونے کے بعد چند روز تک
اس دوا میں سے حمول کیا کرے ایضاً ہد ہد کے گوشت کا شوربہ نہار پینا بھی
یہی فائدہ دیتا ہے ایضاً کلثہ باریک پیس کر ماء الشعیر میں پکا کر چند روز استعمال
کرنے سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے ایضاً زنجبیل. فلفل. جوز الطیب سب
ہموزن فرفیون ½ حصہ سب کو باریک پیس کر گائے کے گوشت میں لا کر نہ جوئیں
اور حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت استعمال کرے چند روز کے بعد اس سے
مجامعت کرے انشاء اللہ حاملہ ہو جاوے ایضاً بیضۂ مرغ کو جلا کر خاک
کریں. اور وہ خاک پانی میں ڈال کر نہار پی جاویں کامیابی ہو جاوے ایضاً
محلب دقر نفل ہر دو مساوی کوٹ کر شہد میں ملا دیں. اور حیض سے پاک ہونے
کے بعد عورت چند روز اس کو بطور شافہ کام میں لاوے پھر اس سے مجامعت کیجاوے
ایضاً بلی کا پتہ لیکر اس میں صوف تر کریں اور کسی قدر روغن بلسان. روغن
ناردین. روغن پان ملا کر عورت اس سے حمول کرے بفضلہ تعالیٰ حاملہ ہو جاوے
ایضاً اگر عورت ایام حیض میں ہر روز تین دفعہ مرد کے بالوں کی دھونی لے پھر
حیض سے پاک ہونے کے بعد خاوند اس سے مجامعت کرے حاملہ ہو جاوے ایضاً
ابن اسحاق کہتا ہے کہ اگر دانہ ارنڈ کو ایک رات دن پانی میں تر کر کے اس
میں عورت صوف بھگو کر حمول کرے. پھر خاوند اس سے مجامعت کرے تو حاملہ
ہو جاوے ایضاً اگر خرگوش کا پنیر لے کر جماع سے پہلے اس کا حمول کر کے اس

سے مجامعت کی جاوے تو انشاءاللہ حاملہ ہو جاوے۔ ایضاً اگر عورت کتے کے بول میں صوف ترکر کے حیض کے بعد حمول کرے اور پھر خاوند اس سے مجامعت کرے حاملہ ہو جاوے ایضاً خرگوش کا پنیر اور اسکی مینگنی اور شہد ہر ایک مساوی باہم خلط ملط کر کے اس میں صوف ترکر کے عورت تین روز تک حمول کرے اور ان ایام میں ہاتھی دانت کا برادہ بھی بقدر ایک ماشہ ہر روز استعمال کرتی رہے پھر اس سے مجامعت کی جاوے حاملہ ہو جاوے ایضاً سوسن کی جڑ۔ خرگوش کی مینگنی۔ بادام کی گوند ہر ایک دو درہم سب کو باریک کر کے روغن بان میں ملائیں اور اس میں صوف ترکر کے عورت نو روز تک حمول کرتی رہے پھر اس سے مجامعت کی جاوے حاملہ ہو جاوے ایضاً زعفران۔ میعہ۔ مصطگی ہر ایک دو درہم موم سفید چار درہم روغن ناردین یا روغن گل آٹھ درہم روغن و موم کو گلا کر باقی ادویہ کوفتہ کر کے ملا دیں۔ اور مرہم کا سا قوام کر کے اتار رکھیں پھر اس میں صوف ترکر کے عورت اس سے حمول کیا کرے چند روز کے بعد اس سے مجامعت کی جاوے ایضاً کائپھل خرگوش کے بال۔ سداب خشک ہر ایک مساوی لیکر کوفتہ بیختہ موم سفید کے ساتھ ملا کر قرص بنالیں اور حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت ان سے دھونی لیوے نہایت جلدی حاملہ ہو جاوے صحیح و مجرب ہے ایضاً اک کی جڑیں باریک کر کے پانی میں ڈالیں اور اس میں گندم کے دانے ڈال کر جوش دیں جب دانے پھول جاویں نکال کر خشک کریں اور پیس کر اس کا حلوہ بنا کر تین روز تک نہار استعمال کرے انشاءاللہ حاملہ ہو جاوے ایضاً خرگوش نر کی گھیری اور اوجھری اگر حیض کے بعد بھون کر کھاوے تو حاملہ ہو جاوے ایضاً اگر عورت کو اسکی لاعلمی

میں گھوڑی کا دودھ پلا دیا جاوے اور اس کے ایک گھنٹہ بعد اس سے مجامعت کی جاوے تو حاملہ ہو جاوے صحیح و مجرب ہے ایضاً اگر عورت جماع سے پہلے نعناع بستانی کا حمول کر لیوے تو حاملہ ہو جاوے ایضاً زرنیخ احمر کائپھل ہر ایک مساوی لیکر کوفتہ کر کے موم سفید کیساتھ ملا کر غسل کے بعد تین روز تک عورت اس سے دھونی لیوے پھر اس سے مجامعت کی جاوے ایضاً زاج قبرسی۔ شاخ حرمل۔ زنگار عراقی۔ لوبان نر ہر ایک ایک مثقال سب کو کوفتہ کر کے حاویوں کے بیج میں ملائیں اور کپڑے پر لگا کر ہر روز صبح اور شام اس سے دھونی دیں نو روز تک ایسے ہی کرتے رہیں۔ اس کے بعد عورت کا خاوند اس سے مجامعت کرے انشاءاللہ حاملہ ہو جاوے ایضاً پنۂ ہرن میں ایک بتی ترکر کے رحم میں حمول کرنے سے بھی یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے ایضاً سیہ کے عضو تناسل کو جلا دیں اور اس کے ساتھ میتھی اور گندم بریان ملا کر باریک پیسیں اور شہد میں ملا کر ہر روز رات کے وقت تھوڑا سا چاٹا کریں۔ تین دن تک ایسا کرنے سے کامیابی ہو جاوے گی۔

باب جنین راقد یعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں سویا ہوا اس کے بیدار کرنے کے بیان میں

حب سلطم پیس کر نمک ملا کر دس روز تک استعمال کریں ایضاً آیات ذیل کو کسی صاف برتن میں زعفران کے پانی سے لکھیں اور بارش کے پانی اور مینڈھے کے بول سے دھو کر نہار پئیں۔ انشاءاللہ بیدار ہو جائے گا۔ آیات یہ ہیں: اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ

مَنْ یُّحْیِ الْعِظَامَ وَھِیَ رَمِیْمٌ قُلْ یُحْیِیْھَا الَّذِیْٓ اَنْشَاَھَآ اَوَّلَ مَرَّۃٍ وَّ ھُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیْمٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا ھُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ۔

ایضاً اسماء ذیل سات پتوں پر لکھیں اور پانی سے دھوکر پئیں اسماء یہ ہیں: وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّھَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْہِ فَنَادٰی فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَہٗ وَنَجَّیْنٰہُ مِنَ الْغَمِّ قَالُوْا یٰوَیْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ھٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ اِنْ کَانَتْ اِلَّا صَیْحَۃً وَّاحِدَۃً فَاِذَا ھُمْ جَمِیْعٌ لَّدَیْنَا مُحْضَرُوْنَ وَنُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَاِذَا ھُمْ قِیَامٌ یَّنْظُرُوْنَ وَاِنْ یَّمْسَسْکَ اللّٰہُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَہٗٓ اِلَّا ھُوَ

ایضاً مرغی کا انڈا پکا کر اس میں نمک ملا کر تین روز تک کھانے سے بچہ بیدار ہو جاتا ہے۔

باب جنین یعنی ناتمام بچہ کے بیدار کرنے میں

زیرہ سیاہ عرعار دونوں کو خوب باریک پیس کر اس میں سے تھوڑا سا ہر روز استعمال کریں۔ تین یوم کے استعمال سے کمال فائدہ ہوگا۔ ایضاً عورت پیٹ کے بل لیٹ جائے اور ایک توا گرم کر کے پیٹ پر ٹکور کرے ان شاء اللہ ایک دفعہ کے استعمال سے بیدار ہو جائے گا اس کے

ساتھ زیرہ سیاہ کو باریک کر کے شہد میں ملا کر رکھے اور وقت ضرورت اس میں سے تھوڑا سا چاٹ لے مجرب ہے۔



باب حرارت غریبہ کے بجھانے میں جو حالت مرض میں بھڑک اٹھتی ہے

حرارت زائدہ کا علاج تیز سرکہ۔ انگور ترش۔ مہندی۔ افیون سب کو پانی میں پیس کر گرمی والا اپنے سر سے پاؤں تک طلا کرے۔ اگر کسی کو پسینہ زیادہ آتا ہو اور وہ اسے کم کرنا چاہے تو اسے چاہیئے کہ مازو اور سفیدہ کاشغری کو روغن گل میں پیس کر بدن پر طلا کرے اور جس کو پسینہ نہ آتا ہو اور پسینہ زیادہ چاہتا ہو تو اسے چاہیئے کہ جند بید ستر کو روغن زیتون میں پیس کر بدن پر طلا کریں خوب پسینہ آئے گا۔

باب عطش مفرط یعنی شدید پیاس اور معدہ کی سوزش کے بجھانے کے علاج میں

ماء الشعیر میں شکر تری ملا کر پینا پیاس کو بجھاتا ہے ترش دہی بھی پیاس کو فرو کرتی ہے۔ لعاب اسبغول و عرق گلاب بھی پیاس کو بجھاتا ہے۔ تمر ہندی۔ زرشک شیریں۔ گل بنفشہ۔ صمغ عربی کا خیسانده بنا کر پینا بھی دافع العطش ہے بیٹریا کا پتا و کتیرا پیس کر تازہ دودھ میں پکا کر پینا بھی پیاس کو دور کرتا ہے کوے کا پتہ سرکہ میں حل کر کے پینے سے ایک مہینہ بھر پیاس نہیں لگتی۔

باب بھوک و پیاس کے علاج میں

اونٹ کا جگر خشک کیا ہوا و نمک طعام آرد گندم ہر ایک مساوی شہد

میں معجون بنا کر کھانے سے چالیس روز تک بھوک پیاس نہیں لگتی ایضاً آرد گندم میں مساوی نمک طعام ملا کر سینیں اور اس پر اونٹ کا خشک کیا ہوا جگر ڈال کر سب کو پکا دیں پھر اُس کی بقدر اخروٹ گولیاں بنا دیں اور ایک گولی بھوک کے وقت کھاویں کھانے سے بے پرواہ کرے گی اور دل کو طاقت دیگی بیل کی زبان شہد میں ملا کر کھانے سے یہی مطلب نکلتا ہے۔

باب بخار کا علاج بذریعہ ادعیہ و تعویذات کے

زیتون (ارنڈ) کے تین پتے لیکر پہلے پر لفظ عَصَتْ جَهَنَّمُ دوسری پر تَحَرَّتْ جَهَنَّمُ تیسرے پر عَطَشَتْ جَهَنَّمُ لکھ کر یکے بعد دیگرے دھونی دیں اور یہ کلمات و تعویذات لکھ کر بخار والے کی گردن میں لٹکائے جاویں قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ[1] واسطہ تین دفعہ اَللّٰهُ الصَّمَدُ اے واسطہ تین دفعہ لَمْ يَلِدْ لَاوَاللّٰهِ تین دفعہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَاوَاللّٰهِ اتنا لکھنے کے بعد یہ تین تعویذ بھی نیچے والے لکھیں۔

ولاقوة
الحق

د	ل	ل	ا
١	ل	ل	ہ
ل	ہ	١	ل
ل	١	ہ	ل

ح ح یا علیم ح ح
یا حی یا حکیم یا علیم
ح ح یا حنان ح ح

[1] تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ ہاں قسم اللہ کی اللہ بے نیاز ہے سچ ہے اللہ کی قسم نہ اس نے کسی کو نہیں جنا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اور نہ کسی سے جنا گیا مطلق نہیں اللہ کی قسم اور نہ اس کا کوئی شریک ہے بالکل نہیں اللہ کی قسم ہے۔

نیز بخار کے لیے کینر کے تین پتے لیکر ایک میں جیور دوسرے میں کیور تیسرے میں خیور اور تینوں میں یہ کلمات بھی لکھیں اِذْهَبِ الْحُمّٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ یعنی اے بخار اللہ کے حکم سے چلا جا۔ جب بخار شروع ہونے لگے تو پہلے اور دوسرے یکے بعد دیگرے دھونی دیں اور تیسرے کو مریض کی گردن میں لٹکا دیں نیز پیاز کی تین طرفوں میں ایک جهنم عجاجہ دوسری طرف جَهَنَّمُ مقیاضہ تیسری طرف جَهَنَّمُ مظلمستوداء النَّارِ لکھ کر آگ میں ڈال دیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسنؓ اور حسینؓ بخار سے بیمار ہو گئے اور مجھے غم پیدا ہوا جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آکر کہا کہ ایک پیالہ پانی کا بھر کر اس پر سورۃ فاتحہ جس میں کہ ف کا لفظ نہیں ہے پڑھ کر دم کریں اور اس پانی سے ان کے ہاتھ پاؤں سر اور کل گوشت پوست کو کئی بار دھو ڈالیں۔ پس آپ نے ایسا ہی کیا اور شفا ہو گئی ایک حدیث میں روایت ہے کہ غسل دیتے وقت زبان سے یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ تَصْدِيْقًا بِرَسُوْلِكَ وَاِرَادَةَ شِفَائِكَ[1] بِسْمِ اللّٰهِ اِذْهَبِيْ يَا اُمَّ مِلْدَمٍ نیز تین ٹکڑوں پر یہ کلمات لکھ کر ہر روز ایک ٹکڑے سے دھونی دیں پہلے پر اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ[2] اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ دوسرے پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ تیسرے پر اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ نیز کسی پاک کپڑے پر مذکورہ ذیل آیات لکھ کر مرغی کی ہڈی پر لپیٹ کر آگ میں ڈال دیں

[1] اے اللہ میں نے ایسا محض تیرے رسول کی تصدیق اور تیری شفا حاصل کرنے کو کیا ہے بسم اللہ کلام اللہ کے نام کی برکت سے چلا جا [2] ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے پس رب کے لئے نماز ادا کر اور قربانی دے تحقیق تو نرینہ اولاد نہ رکھنے والا ہے گا اب خدا نے تم سے تخفیف کر دی ہے۔

جب وہ جل جائے تو اُس کے جلے ہوئے چھلکے نیز ایک پاک کپڑے میں باندھ کر مریض کے ہاتھ پر باندھ دیں نیز زیتون کے اکیس پتوں پر یہ کلمات لکھ کر



ہر روز سات سات سے دھونی دیں
أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ بِنُورِ رَبِّ الشَّمْسِ سُبْحَانَ مَنْ أَشْرَقَتْ بِنُورِهِ الشَّمْسُ یعنی چمک گیا سورج اللہ کے نور سے پاک ہے وہ ذات جس کے نور سے سورج چمک اٹھا نیز بخار اور سب قسم کی تکلیفوں کے لیے مفید ہے ایک پاک برتن میں خاتم مثلث[2] جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے اور اس کے گرد اگرد یہ کلمات لکھیں[1] إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ اور ان کلمات کو بارش کے پانی یا عرق گلاب سے دھو کر مریض کو پلا دیں نیز یہ کلمات تین کاغذوں پر لکھ کر ان سے دھونی دی جائے اور ہر دھونی کے ساتھ سات سات دفعہ زبان سے بھی یہ کلمات پڑھے جائیں أَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا یعنی میں اللہ کی ذات اور قدرت کیساتھ سب قسم کی تکلیف اور بدیوں سے پناہ چاہتا ہوں اے لوگوں کے رب مصیبت کو دور کر دے اور شفا دے تو ہی شفا دہندہ ہے

---

[1] جس نے لوگوں پر ہماری طرف سے نیکی سبقت لے گئی وہ دوزخ سے بچے رہیں گے ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے سرد اور سلامتی والی ہو جا۔ ۱۲

[2] امام غزالی کا خاتم مثلث جو مجربات امام غزالی مشہ ۱۵ پر ہے وہ یہ ہے۔

د	ط	ب
ج	ه	ـ
[illegible]	[illegible]	و

شفا تیری ہی طرف سے ہے ایسی شفا عطا کر کہ مرض باقی نہ رہے نیز بھیڑیے کے بالوں کی دھونی بخار کو مفید ہے نیز عنکبوت ٹڈی کی دھونی بھی مفید ہے نیز تین کھجوروں پر حسب ذیل کلمات لکھ کر گودا مریض کو کھلائیں اور جو کھجور مریض کھاتا رہے اس کی گٹھلی سے دھونی دیں اور ہر روز ایک کھجور کھلائی جائے پہلی پر لکھیں بِسْمِ اللّٰهِ بَارِدَةٌ دوسری پر بِسْمِ اللّٰهِ حَوْلَ الْعَرْشِ دَارَتْ اور تیسری پر بِسْمِ اللّٰهِ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ غَارَتْ نیز کلمات ذیل ایک فراخ برتن میں لکھ کر پانی سے گھول کر مریض کو پلا دیں لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا يَا غَفَّارُ يَا سَتَّارُ بِحَمْدِ اللّٰهِ یعنی بہشت میں لوگ نہ سورج دیکھیں گے نہ مہلک سردی اے بخشش کرنے والے عیوب پر پردہ ڈالنے والے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیساتھ نیز یہ تدبیر بھی ایسی ہے جس کو کم لوگ جانتے ہوں گے اور مجھے ایک بزرگ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ملا تھا وہ یہ ہے کہ مریض بخار کی پیٹھ پر اذان و اقامت لکھ دیں فی الفور اچھا ہو جائے گا **ایضاً** مریض بخار کو اسماء ذیل لکھ کر دیں کہ اپنے پاس رکھے ازالہ بخار کے لئے مجرب ہیں اسماء یہ ہیں[1] اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ جِلْدِيَ الرَّقِيْقَ وَعَظْمِيَ الدَّقِيْقَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِيْقِ يَا أُمَّ مِلْدَمٍ إِنْ كُنْتِ اٰمَنْتِ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ الْأَعْظَمِ فَلَا تُؤْذِي الرَّأْسَ وَلَا تُفْسِدِي الْفَمَ وَلَا تَأْكُلِي

---

[1] ترجمہ اے اللہ رحم کر میرے پتلے چمڑے پر اور باریک ہڈیوں پر اس جلنے کی سختی سے اے ام ملدم اگر تو اللہ عظیم پر ایمان رکھتی ہے پس سر کو ایذا نہ دے اور چہرے کو خراب نہ کر اور گوشت نہ کھا اور خون نہ پی اور میری اس تحریر کو اٹھانے والے سے ایسے شخص کیطرف چلی جا جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہو اور رحمت نازل کرے اللہ اپنے رسول محمد پر اور انکی اولاد پر سلام بہت ۱۲۔

اَللّٰھُمَّ وَلَا تَشْرَبِیْ الدَّمَ وَ تَحَوَّلِیْ عَنْ حَامِلِ ھٰذَا الْکِتَابِ اِلٰی مَنْ جَعَلَ مَعَ اللّٰہِ اِلٰھًا اٰخَرَ وَصَلَّی اللّٰہُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا ایضًا اسماء ذیل کسی کاغذ پر لکھ کر بخار والے کے گلے میں لٹکا دیں بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بَرَاءَۃٌ[1] مِنَ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ اِلٰی فُلَانِ بْنِ فُلَانَۃَ مِنْ کُلِّ مَا یَعْرُضُ لَہٗ بِاِذْنِ اللّٰہِ یَا نَارُ کُوْنِیْ بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ لفظ اَخْسَرِیْنَ تک وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا ھُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ اَوْ کَالَّذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرْیَۃٍ وَّھِیَ خَاوِیَۃٌ عَلٰی عُرُوْشِھَا لفظ قَدِیْرٌ تک۔

باب حمی باردہ کا علاج کتابت سے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّا اَعْطَیْنٰکَ الْکَوْثَرَ یَا شَافِیْ یَا اللّٰہُ ایک پرچہ میں لکھے دوسرے پرچہ میں فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ یَا کَافِیْ یَا اللّٰہُ تیسرے پر بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ شَانِئَکَ ھُوَ الْاَبْتَرُ یَا مُعَافِیْ یَا اللّٰہُ۔ ان کلمات کا ترجمہ پہلے باب میں گذر چکا ہے) پہلے کاغذ کو پانی میں گھول کر مریض کو پلائیں۔ اسیطرح دوسرے کو۔ تیسرا جبکہ سخت بخار چڑھ جائے اسی طرح تین دفعہ کیا جائے۔ لیکن بیمار کو اس لکھے ہوئے مضمون پر مطلع نہ ہونا چاہیے۔

[1] ترجمہ، اللہ رحمٰن رحیم کے نام سے رخصت ہے عزیز و حکیم کی طرف سے ہر عارضہ سے اللہ کے اذن سے اے آگ سرد اور باسلامت ہوجا ابراہیم پر اور ہم اتارتے ہیں قرآن سے جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے یا اس شخص کی طرح جو کہ ایک اُجڑی اپنی چھتوں پر گری بستی پر گزر گیا۔

باب حمی حادہ کے علاج میں

حلتیت یعنی ہینگ نصف درم ٹھنڈے پانی میں حل کریں اور نہار پی جاویں ان شاء اللہ شفا ہوجائے گی ایضًا سقمونیا بقدر دو ماشہ عرق گلاب میں ملا کر پی لینے سے اسہال ہونگے اور بخار اتر جائے گا ایضًا لہسن ایک ماشہ خوب باریک کرکے ایک اوقیہ روغن زیتون میں ملا دیں اور استعمال کریں ان شاء اللہ تین دن کے استعمال سے بخار جاتا رہے گا۔

باب حمی غیب یعنی تیجا بخار کا علاج کتابت سے

بِسْمِ اللّٰہِ دَلَّتْ بِسْمِ اللّٰہِ فَرَّتْ بِسْمِ اللّٰہِ مَرَّتْ بِسْمِ اللّٰہِ انْصَرَفَتْ بِسْمِ اللّٰہِ اَدْبَرَتْ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا ھُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ۔ یَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِھَا[2] لفظ اَلنَّاسِ تک اَلَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَھُوَ یَھْدِیْنِ لفظ یَشْفِیْنِ تک قُلْ ھُوَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ھُدًی وَّشِفَآءٌ اَللّٰھُمَّ بِحَقِّ ھٰذِہِ الْاٰیَاتِ الْکَرِیْمَاتِ وَمَنْ نَزَلَتْ عَلٰی قَلْبِہٖ اَنْ تَشْفِیَ حَامِلَ ھٰذَا الْکِتَابِ اللہ کے نام کی برکت سے بیٹھ پھر گئی اور بھاگ گئی اور گذر گئی۔ لوٹ گئی پیچھے ہٹ گئی باقی اس کا ترجمہ پہلے گذر چکا ہے اے اللہ ان بزرگ آیتوں کی برکت سے اور اس ذات کی برکت سے جس کے دل پر یہ نازل ہوئیں ان کلمات کے اٹھانے والے کو شفا مرحمت فرما ان کلمات کو لکھ کر باندھا جائے

[2] یعنی یَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِھَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُہٗ فِیْہِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

نیز تین بادام لیکر پہلے پر ختشت دوسرے پر مشت تیسرے پر انقفت لکھ کر ہر روز ایک سے دھونی دیں صحیح اور مجرب ہے نیز کھجور کی تین گٹھلی لیکر یہ کلمات لکھیں اور یکے بعد دیگرے ان سے دھونی دیں کلمات یہ ہیں کونا ۲ لونا ۲ احاجاع یا امرا مدلا تا کل اللحم ولا تشربی الدم حافظ رازی علی بن بیان سے روایت ہے۔ یہ تعویذ لکھ کر مریض کے سر کے نیچے رکھنے سے بخار جاتا رہتا ہے اور وہ تعویذ صفحہ آئندہ نمبر   کے ابتدا میں ہے۔ تیمی کا قول ہے کہ جو شخص تیرہ دفعہ حرف یا لکھے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قول عَلِمَ اَنَّ فِیْکُمْ ضُعْفًا اما کرے اور مریض کے سر پر لگا دیوے۔ اور

یا حی

وحسبنا اللہ ولاحول
ولا قوۃ الا باللہ
العلی العظیم

لکھنے کے وقت وضو کے ساتھ ہووے تو انشاء اللہ بحکم خدا بخار ٹوٹ جائے گا۔

ایضاً۔ بیمار نہا کر مہندی یا کسی اور درخت کی لکڑی سے دائیں بازو پر لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اور بائیں پر مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ دائیں پنڈلی پر جبرئیل اور بائیں پر میکائیل دائیں پہلو پر اسرافیل اور بائیں پر عزرائیل لکھے انشاء اللہ شفا ہو جائے گی صحیح اور مجرب ہے۔

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
پ ۱۵ بنی اسرائیل ۹۴

گنجینۂ مجربات

جس میں سلاسل اربعہ کے عاملین کرام اور مشائخ عظام اور علماء کرام کے روز آزمودہ نسخہ اور ورد و وظائف تعویذ و گنڈے کا ایک بہترین اور مفید ترین مجموعہ۔ لہٰذا اس کتاب کو بلا وضو کے ہاتھ نہ لگائیے اور بلا وضو کے نہ اس کو پڑھیں اور نہ تعویذ لکھیں

مؤلفہ
مولانا حاجی احمد علی بن شاہ دوست نیگوری
خطیب دکھنی مسجد پاکستان چوک مقیم ریلوے ریسٹورنٹ بلڈنگ آؤٹ رام روڈ فلیٹ ۵ کراچی ۱ و خلیفہ مجاز مرشد عالم حضرت مولانا پیر غلام حبیب نقشبندی مجددی

سببِ تألیف

گنجینۂ مجربات

نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم اما بعد

آجکل اصلی اور نقلی عاملین حضرات بہت پائے جاتے ہیں۔ ہر چیز میں اصل و نقل موجود ہے لیکن دونوں میں امتیاز کرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں یہ وہ خطرناک زمانہ ہے کہ دنیا کے پیسے ٹکوں کے پیچھے باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر سحر و جادو چلا کر گناہِ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جہلا عاملین جو ایمان کی دولت سے عاری ہیں ان کو گناہ کی تمیز نہیں، وہ چند کوڑیوں کی خاطر دولتِ ایمان سے ہاتھ دھو ڈالتے ہیں۔ بعض عاملین تو بالکل سراسر گناہِ کبیرہ کا مرتکب ہو کر شرکیات اور کفریات جیسے جملوں کے کہنے سے دریغ و گریز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلک کے علماء دیوبند نے اور مشرب مشائخ نقشبندیہ نے اس کام میں دلچسپی لیکر بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ بقدرِ ضرورت سے گریز بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ اس کا عامل نہ بنے مگر سیکھ تو ضرور لے کہ بوقتِ ضرورت یقیناً کام آئیگا آج کل والدین کی وفات کے بعد نالائق اولاد نالائقوں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں پھر نتیجۃً دست و گریبان ہو کر کورٹ کا چکر لگاتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے قتل و غارت گری کی نوبت بھی آتی ہے۔ ان حالات میں اگر صحیح العقیدہ

عامل مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی پریشانیوں اور تشویشوں سے نجات حاصل کریں۔ اس لئے بندہ نے گنجینۂ مجربات لکھ کر عوام الناس کو علماءِ کرام اور مشائخِ عظام کی طرف متوجہ کیا۔

اللہ تعالےٰ صحیح عاملین سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ارزاں فرمائے

این دعا از من و از جملہ جہان آمین باد

نوٹ : سحر، جادو جنات والے تعویذات کے لئے چلہ نکالنا ضروری ہے، ورنہ نقصان ہوگا۔

فقط دعا گو

مولانا حاجی احمد علی

خلیفۂ مجاز مرشدِ عالم حضرت حافظ پیر غلام حبیب صاحب

مدیر دار العلوم حنفیہ، چکوال (پاکستان)

0333-3951824

meeryaseenkhan@gmail.com

Facebook. meeryaseenkhan.

تعویذات وعملیات

چند ایسے عملیات و تعویذات درج کئے جاتے ہیں جو بزرگوں کے معمول میں ہیں اور شرع شریف کے خلاف نہیں ہیں تاکہ خدائے تعالیٰ کے نام کی برکت سے شفا بھی ہو اور دین بھی بچا رہے اور مال و آبرو کا نقصان بھی نہ ہو لیکن سالک کو چاہیے کہ بلا اجازت شیخ اس کام میں مشغول نہ ہو کیونکہ اس میں سراسر نقصان ہے۔ ہاں کبھی کبھار کسی خاص ضرورت کے وقت کوئی تعویذ وغیرہ لکھ کر خود استعمال کرنا یا کسی کو دینا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا ہے۔

تعویذ لکھتے وقت ان باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیت بے وضو مت لکھو، نہانے کی ضرورت میں بھی مت پڑھو اور جس کاغذ پر قرآن مجید کی آیت لکھ کر تعویذ بناؤ اس کاغذ پر ایک اور سادہ کاغذ لپیٹ دو تاکہ تعویذ لینے والا اگر بے وضو ہو تو اس کو ہاتھ میں لینا درست ہو اور چینی کی تشتری میں بھی آیت لکھ کر بے وضو کے ہاتھ میں مت دو، بلکہ تم خود پانی میں گھول دو، اور جب تعویذ سے کام نہ رہے تو اس کو پانی میں گھول کر کسی ندی، نہر یا کنویں میں چھوڑ دو۔

بعض لوگ خون سے تعویذ لکھتے ہیں سو شریعت میں بہنے والا خون مثل پیشاب کے ناپاک ہے اس سے تعویذ لکھنا ناجائز اور بہت بُری بات ہے اور ایسا تعویذ اگر بازو پر بندھا ہو یا جیب میں پڑا ہو تو نماز بھی درست نہ ہوگی۔ اسی طرح بعضے تعویذ و عملیات میں تصویریں بنائی جاتی ہیں، بعضے قرآن مجید الٹا پڑھتے ہیں، بعضے قرآن مجید کے اندر اور عبارتیں اس طور سے

داخل کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی ترتیب و نظم میں خلل واقع ہو جاتا ہے یہ سب حرام اور معصیت ہے۔ بعض تعویذوں کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس سے ان کی بے ادبی ہوتی ہے مثلاً کوئی تعویذ کسی کے آنے جانے کی جگہ دفن کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر کو آمد و رفت ہو، یا اور جس طریقے سے بھی بے حرمتی و بے تعظیمی ہوتی ہو سب ناجائز ہے

تعویذ اور جھاڑ پھونک تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے ایک یہ کہ تعویذ اور افسوں کلام اللہ اور اس کے صفات سے ہو اور دوسری یہ کہ عربی زبان میں ہو، یا اس زبان میں جس کے معنی معلوم ہوں۔ تیسری یہ کہ یہ اعتقاد ہو کہ افسوں بالذات مؤثر نہیں بلکہ بتقدیر الٰہی اثر کرتا ہے۔ اور افسوں (منتر وغیرہ) تین قسم کا ہے ایک وہ جس کا مطلب اور معنی معلوم نہیں تو اس سے پرہیز کرنا واجب ہے کہ مبادا اس میں شرک ہو دوسری یہ کہ بکلام الٰہی اور بصفات ربانی ہو تو جائز ہے پھر اگر احادیث میں منقول ہے تو وہ مستحب ہے تیسری قسم یہ کہ اسماء ربانی کے سوا فرشتہ یا ولی یا جلیل القدر مخلوقات چنانچہ عرش کے نام سے ہو تو اس سے پرہیز واجب نہیں اور اگر شرع میں اس کی اجازت نہیں تو اس کا ترک کرنا بہتر ہے مگر جبکہ متضمن تعظیم ہو جیسا کہ غیر اللہ کا حلف تو اب پرہیز کرنا لائق ہے (غایۃ الاوطار) جو تعویذ جدا گانہ غلاف میں ہو یعنی تعویذ پر مڑھا ہوا نہ ہو تو اس کا پاخانہ میں لے جانا مکروہ تحریمی نہیں اور پرہیز کرنا یعنی باہر رکھ جانا بہتر ہے۔ (از غایۃ الاوطار)

تعویذات و عملیات کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے بلکہ اس کا اثر خدای تعالیٰ کی طرف سے جانے اور اگر کسی کافر کو تعویذ دینا ہو تو بہتر ہے کہ آیات قرآنی نہ لکھے بلکہ یا تو وہ حروف جدا جدا لکھ دے یا ان حروف کے ہندسے لکھ دے

یا اور کچھ جائز عبارت لکھ دے مثلاً یہ لکھ کر دیدے اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّالْکُفْرُ بَاطِلٌ۔ اس کو کافر گلے میں بھی ڈال سکتا ہے

(۱) برائے محافظت از جمیع آفات وبلیاتِ ارضی وسماوی

معمول: سورۂ فاتحہ، آیۃ الکرسی، چہار قل پڑھ کر دم کرنا ازحد مفید ہے

(۲) برائے دفع سحر وجادو وبرائے دفع زہر گزیدنِ مار

(سانپ کے کاٹے کے لئے) مندرجہ بالا معمول نمک پر پڑھ کر کھلانا اور زخم پر لگانا نہایت مفید اور مجرب ہے۔ (دفع سحر وجادو کے لئے) روزانہ تین مرتبہ یہی معمول پڑھ کر تمام وجود پر دم کرے۔

(۳) اگر کسی کو دیوانہ کتا کاٹ لے

تو سورۂ فاتحہ اور چہار قل پڑھ کر دم کرے ازحد مجرب ہے۔

(۴) برائے جمیع امراض واسقام وآلام ودفع جن وآسیب بدنظر

ازحد مفید ہے۔ معمول یہ ہے: سورۂ فاتحہ، چاروں قل، آیۃ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ۔ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔ الٰہی بحرمۃ حضرت حاجی دوست محمد قندھاری قَدَّسَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِسِرِّهِ الْاَقْدَسِ اَللّٰهُمَّ اشْفِ بِصَاحِبِ هٰذَا الْمَرَضِ بِحَوْلِكَ وَقُدْرَتِكَ وَجَبَرُوْتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اس تمام مجموعہ کو پڑھ کر دم کریں اور پلائیں۔

(۵) برائے سخت امراض

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الْهَامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝ يَا شَافِيْ يَا شَافِيْ يَا شَافِيْ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔ لکھ کر بازو یا گلے میں باندھے اگر تمام وجود یا اعضا میں کسی جگہ درد ہو تو اس تعویذ کو کاغذ پر لکھ کر پانی میں حل کرکے اگر اس پانی کو پلائیں اور کسی قدر پانی بچا کر روغنِ تلخ میں ڈال کر اس جگہ کو اس روغن سے چرب کریں بفضلہ تعالیٰ خیر ہو جائے گی۔

(۶) تعویذ برائے حفظ طفل از جمیع آفات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ[1] كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔ اس تعویذ کو لکھ کر گلے میں ڈالے۔ یہ عمل جن وآسیب کے لئے

[1] بعض نسخوں میں یہ جملہ اس طرح ہے: مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ الخ

بھی مفید ہے۔

(۷) برائے محافظتِ زراعت کاغذ پر لکھ کر کورے سفالہ میں بند کرکے اس کو زراعت کے تختہ میں دفن کرے۔ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یَا رَزَّاقَ الْعِبَادِ یَا خَلَّاقَ الْخَلَائِقِ یَا فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ یَا مُنْبِتَ الزَّرْعِ فِی الْاَرْضِ وَالنَّبَاتِ وَیَا مُجِیْبَ الدَّعَوَاتِ اِدْفَعْ مِنْ هٰذَا الزَّرْعِ شَرَّ الْهَوَامِّ وَالدُّوْدِ وَشَرَّ الْفَارَةِ وَالْخَنَازِیْرِ الْمُفْسِدَةِ وَارْزُقْنَا رِزْقًا حَسَنًا ۝ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ ۝

(۸) تعویذ اسماءِ اصحابِ کہفؓ[1] برائے برکت و امان از غرق و حرق و سرق و غارت و غیر ذالک از امراض و حاجات۔ ان اسماء کو لکھ کر مکان، کشتی یا متاع میں یا اپنے پاس رکھے امانِ الٰہی میں رہے گا۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۔ الٰھی بحرمۃ یملیخا مکسلمینا میلسنا مرنوش دبرنوش شاذنوش مرطونس اسم کلبھم قطمیر ۔

(۹) تعویذ برائے شفاء ہر درد اس آیہ شریفہ کو تین روز متواتر کاغذ پر لکھ کر پانی میں حل کرکے اس پانی کو پلائیں اور درد کی جگہ مالش کریں انشاء اللہ تعالیٰ مفید ہوگا۔ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاَیْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللّٰہِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ۝ یَا شَافِیْ یَا شَافِیْ یَا شَافِیْ

[1] حضرت خواجہ محمد عثمان دامانیؒ سے مروی ہے کہ اسمائے اصحاب کہف کتابوں میں چند طریقوں سے لکھے ہیں لیکن مجھے اپنے پیر و مرشد سے اسی طریق پر پہنچے ہیں۔

(۱۰) تعویذ برائے حاملہ ہونے عورت کے اور جننے فرزند نرینہ کے

اسم یَا مُبْدِئُ کو نو ٹکڑے کاغذ پر لکھیں جس وقت عورت حیض سے فارغ ہو، اول مہینے میں تین رات مجامعت کریں اور صبح کو ہر روز ایک ایک تعویذ پئیں۔ اس ترکیب سے تین ماہ میں یہ نو عدد تعویذ نوش کریں اور اس آیہ شریفہ کو لکھ کر عورت کو دیں کہ وہ گلے میں اس طرح لٹکائے کہ وہ تعویذ آیہ شریفہ کا دو انگشت زیر ناف آویزاں رہے انشاء اللہ تعالیٰ عورت حاملہ ہو کر فرزند نرینہ جنے گی۔ وہ آیہ شریفہ یہ ہے: اَللّٰہُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰی وَمَا تَغِیْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۭ وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِیْرُ الْمُتَعَالِ ۝ یٰزَكَرِیَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ اسْمُهٗ یَحْیٰی ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۝ بحق مریم و عیسیٰ ابنا صالحا طویل العمر بحق محمد و آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

(۱۱) تعویذ برائے حمل خشک شدہ جس عورت کا حمل خشک ہو گیا ہو اس کے لئے یہ تعویذ چینی کے برتن میں لکھے، چالیس روز بلا ناغہ اس کو یہ تعویذ پلائے بفضلہ تعالیٰ حمل نمو حاصل کرکے ظاہر ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ ۝

(۱۲) تعویذ برائے تپ ہر قسم

کٓھٰیٰعٓصٓ ۚ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَہٗ زَکَرِیَّا ۚ اِذْ نَادٰی رَبَّہٗ نِدَآءً خَفِیًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَیْبًا وَّلَمْ اَکُنْ بِدُعَآئِکَ رَبِّ شَقِیًّا ۝ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ لکھ کر گردن میں باندھیں اور تین تعویذ یا محیط اللہ کاغذ پر لکھ کر تین روز ایک ایک کر کے پلائیں انشاء اللہ تپ رفع ہوگی۔

(۱۳) تعویذ برائے تپ سوم

اول تپ کے شروع ہونے میں بروزِ نوبت اول و آخر درود شریف اور ایک بار سورۂ رعد پڑھ کر دم کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہو جائے گی پس چاہیے کہ سہ نوبت کو دم تمام کرے اگرچہ اول یا دوسری نوبت پر آرام ہو جائے۔ اگر تینوں نوبت پر دم نہ کریں گے تو چند روز بعد بخار عود کر آئے گا

(۱۴) تعویذ برائے دفع بواسیر ہر قسم

یَا رَحِیْمَ کُلِّ صَرِیْخٍ وَّ مَکْرُوْبٍ وَّ غِیَاثَہٗ وَمَعَاذَہٗ یَا رَحِیْمُ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ لکھ کر کمر میں باندھیں

(۱۵) ایضاً: اگر صبح و شام سورۂ فاتحہ مع بسم اللہ ہفت بار پڑھتا رہے تو بہتر ہے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو صرف بسم اللہ شریف صبح و شام پڑھ کر اپنے جسم پر ناف سے زانو تک آگے پیچھے ہاتھ

؎ سورۂ مریم پ ۱۶

پھیر کر دم کرے۔

(۱۶) برائے دفع درد باؤ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْبَاعِثُ وَاَنَا الْمَبْعُوْثُ وَمَنْ یَّدَعُ الْمَبْعُوْثَ اِلَّا الْبَاعِثَ یَا رَبِّ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ لکھ کر درد کی جگہ باندھیں۔

(۱۷) تعویذ برائے زود فروشی مال

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَیْعِکُمُ الَّذِیْ بَایَعْتُمْ بِہٖ وَذٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ لکھ کر مال و متاع میں رکھیں۔

(۱۸) برائے تیزی ذہن و کشائش مطالعہ

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قَلْبِیْ بِعِلْمِکَ وَاسْتَعْمِلْ بَدَنِیْ بِطَاعَتِکَ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ عَلَیْہِ قبل از شروع سبق ہفت بار پڑھ کر اپنے وجود پر دم کریں۔

(۱۹) تعویذ برائے گریۂ کودک

طططططططط ہہہ ہ ہہہ قدوس قدوس
وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

(۲۰) تعویذ برائے دفع طحال

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ اللّٰہَ یُمْسِکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ

؎ کیسہ

آمْسَكَهُمَا اَحَدٌ مِّنْ بَعْدِہٖ ؕ اِنَّہٗ كَانَ حَلِیْمًا غَفُوْرًا ؕ یا طحال ارجع الیٰ مکانك بحق ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر طحال کی جگہ پر باندھیں۔

(۲۱) ایضاً: بروز یکشنبہ ایک قرص گِل طحال کے برابر بنا کر طحال کی جگہ پر رکھیں۔ دستِ راست میں چاقو لیکر ایک بار سورۂ الم نشرح با تسمیہ پڑھکر چاقو سے اس قرص کو کاٹیں اور اسطرح سات دفعہ کریں لیکن اول و آخر درود شریف زیادہ کریں۔ اس معمول کو تین یکشنبہ کریں انشاء اللہ طحال کٹ جائے گی۔

(۲۲) معمول برائے کاٹنے یرقان کے

بروز یکشنبہ چند برگ کلاں سبز گھاس کے لاکر ایک طرف مریضِ یرقان کے ہاتھ میں دیں کہ وہ پکڑ لے اور دوسری طرف خود بائیں ہاتھ میں لے کر اپنے داہنے ہاتھ میں چاقو لے کر ایک دفعہ سورۃ القریش با تسمیہ پڑھ کر چاقو سے اس گھاس کو کاٹیں اس طرح سات دفعہ کریں لیکن اول و آخر میں درود شریف زیادہ کریں اس معمول کو بھی تین اتوار عمل میں لائیں انشاء اللہ یرقان رفع ہو جائے گا۔

(۲۳) معمول برائے خیر و برکت

امورات دین اور کشائش و فراخی معاش و ترقی رزق کے لئے ہزار بار بلاناغہ رات دن میں پڑھیں بہت مفید اور نہایت مجرب ہے اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَیْہِ

(۲۴) تعویذ برائے حُبّ

دائیں بازو پر باندھ کر اس پر عطر و خوشبو لگائیں۔ اس تعویذ کی اجازت محبتِ زوجین کے لئے ہے اس کے بغیر اجازت نہیں اگر کوئی شخص سوائے زوجین کے کسی دوسری جگہ پر اس کا عمل کریگا تو انشاء اللہ بجائے نفع کے نقصان اٹھائے گا۔

۱ ۱۴ ۷۸۶ ۱۱ ۸

یحبونھم کحب اللہ یا غفار	والذین امنوا اشد حب للہ یا کریم	والقیت علیك محبۃ منی یا کریم	انہ لحب الخیر لشدید یا ودود
انہ لحب الخیر لشدید یا ودود ۱۲	والقیت علیك محبۃ منی یا کریم ۷	والذین امنوا اشد حبا للہ یا رحیم ۲	یحبونھم کحب اللہ یا لطیف ۱۳
والذین امنوا اشد حبا للہ یا لطیف ۶	یحبونھم کحب اللہ یا رحمٰن ۹	انہ لحب الخیر لشدید یا رحیم ۱۶	والقیت علیك محبۃ منی یا رحمٰن ۳
والقیت علیك محبۃ منی یا رحمٰن ۱۵	انہ لحب الخیر لشدید ۴	یحبونھم کحب اللہ یا کریم ۵	والذین امنوا اشد حبا للہ یا رحیم ۱۰

(۲۵) تعویذ لکلّ شیءٍ (ہر مقصد کیلئے)

حم حم حم حم حم حم حم اللہ اللہ حم الامر وجاء النصر فعلینا لاینصرون د

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین

(۲۶) تعویذ برائے بقائے حمل

یا قابض	یا قابض	یا قابض
یا قابض	یا قابض	یا قابض
یا قابض	یا قابض	یا قابض

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ یٰیَحْیٰی خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّۃٍ ؕ وَاٰتَیْنٰہُ الْحُكْمَ صَبِیًّا وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین


(۲۷) تعویذ برائے دردِ سر

یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابذوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح

یاروح یاروح یاروح یاروح یاروح یاروح یاروح

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

(۲۸) تعویذ برائے بجا شدنِ ناف



(۲۹)[1] سر اور دانت کے درد اور ریاح کے لئے

ایک پاک تختی پر ریت بچھا کر ایک میخ سے اس پر لکھو ابجد ہوز حطی اور میخ کو زور سے

[1] اس سے آگے کے تعویذات بہشتی زیور و القول الجمیل وغیرہ سے منقول ہیں

الف پر دباؤ اور درد والا اپنی انگلی زور سے درد کی جگہ رکھے اور تم ایک دفعہ الحمد پڑھو اور اس سے درد کا حال پوچھو، اگر اب بھی درد ہو تو اسی طرح ب کو دباؤ۔ غرض ایک ایک حرف پر اسی طرح عمل کرو انشاء اللہ حروف ختم نہ ہونے پائیں گے کہ درد جاتا رہے گا۔

(۳۰) ہر قسم کے درد کے لئے خواہ کہیں ہو

یہ آیت مع بسم اللہ تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں یا کسی تیل وغیرہ پر پڑھ کر مالش کریں یا باوضو لکھ کر باندھیں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ (پ بنی اسرائیل۔ ع ۱۲)

(۳۱) دماغ کا کمزور ہو جانا

پانچوں نمازوں کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ یَا قَوِیُّ پڑھیں۔

(۳۲) نگاہ کی کمزوری کے لئے

پانچوں نمازوں کے بعد یَا نُوْرُ گیارہ بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں

(۳۳) زبان میں ہکلاپن یا ذہن کم ہونا

فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت اکیس بار پڑھیں رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ اور روزانہ ایک بسکٹ پر اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لکھ کر چالیس روز کھلانے سے بھی ذہن بڑھتا ہے۔

(۳۴) برائے ہول دلی

یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر گلے میں باندھیں ڈورا اتنا لمبا رہے کہ تعویذ دل پر پڑا رہے اور دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

(۳۵) پیٹ کے درد کے لئے

یہ آیت پانی وغیرہ پر تین بار پڑھ کر پلائیں یا لکھ کر پیٹ پر باندھیں۔ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ۝

(۳۶) ہیضہ اور ہر قسم کی وبا، طاعون وغیرہ کے لئے

ایسے دنوں میں جو چیزیں کھائیں پئیں ان پر پہلے تین بار سورۂ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاء اللہ حفاظت رہے گی اور جس کو ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں پلائیں انشاء اللہ شفا ہو گی۔

(۳۷) تلی بڑھ جانا

یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر تلی کی جگہ باندھیں ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

(۳۸) ناف ٹل جانا

یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر ناف کی جگہ باندھیں ناف اپنی جگہ آجائے گی اور اگر بند چلنے دیں تو پھر نہ ٹلے گی۔ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

(۳۹) برائے بخار

اگر بغیر جاڑے کے بخار ہو تو یہ آیت لکھ کر باندھیں اور اسی کو پڑھ کر دم کریں قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ اور اگر جاڑے سے ہو تو یہ آیت لکھ کر گلے میں یا بازو پر باندھ۔ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(۴۰) پھوڑا پھنسی یا ورم

پاک مٹی پنڈول وغیرہ چاہے ثابت ڈھیلا چاہے پسی ہوئی مٹی لے کر اس پر یہ دعا تین بار پڑھ کر تھوک دے۔ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا۔ اور اس پر تھوڑا پانی چھڑک کر

وہ مٹی کی جگہ یا اس کے آس پاس دن میں دو چار بار مَلا کرے۔

(۴۱) سانپ بچھو اور بھڑ وغیرہ کا کاٹ لینا

ذرا سے پانی میں نمک گھول کر اس جگہ ملتے جائیں اور قُلْ يٰٓا پوری سورت پڑھ کر دم کرتے جائیں بہت دیر تک ایسا ہی کریں۔

(۴۲) سانپ کا گھر میں نکلنا یا آسیب ہونا

چار کیلیں لوہے کی لیکر ایک ایک پر یہ آیت پچیس بار دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر زمین میں گاڑ دیں انشاء اللہ تعالیٰ سانپ اس گھر میں نہ رہیگا اور اس گھر میں آسیب کا اثر بھی نہ ہوگا۔ وہ آیت یہ ہے: اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۝ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝ پ الطارق

۴۳ باؤلے کتے کا کاٹ لینا

یہی آیت جو اوپر لکھی گئی ہے اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ سے رُوَيْدًا تک ایک روٹی یا بسکٹ کے چالیس ٹکڑوں پر لکھ کر ایک ٹکڑا ہر روز اس شخص کو کھلائیں انشاء اللہ تعالیٰ ہڑک نہ ہو گی۔

(۴۴) بانجھ ہونا

چالیس لونگیں لے کر ہر ایک پر سات بار اس آیت کو پڑھے اور جس دن عورت پاکی کا غسل کرے اس دن سے ایک لونگ روزانہ سوتے وقت کھانا شروع کرے اور اس پر پانی نہ پیئے اور کبھی کبھی میاں کے پاس بیٹھے اٹھے، آیت یہ ہے: اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝ انشاء اللہ تعالیٰ اولاد ہو گی۔

(۴۵) حمل گر جانا ایک تاگا کسم کا رنگا ہوا عورت کے قد کے برابر اس میں نو گرہ لگائے اور ہر گرہ پر یہ آیت پڑھ کر پھونکے انشاء اللہ تعالیٰ حمل نہ گریگا اور اگر کسی وقت تاگا نہ ملے تو کاغذ پر لکھ کر پیٹ پر باندھیں۔ آیت یہ ہے: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ○

(۴۶) برائے مسان و بخار جس بچہ کو مسان کی بیماری ہو تو اس پر الحمد اکتالیس مرتبہ ساتھ وصل میم بسم اللہ کے الحمد کے ساتھ پڑھ کر چالیس روز تک دم کیا کریں انشاء اللہ اس کا وہ مرض جاتا رہے گا۔ اور اگر فرصت نہ ہو تو تین بار کا پڑھنا بھی کفایت کرتا ہے۔ نیز الحمد شریف چالیس بار پڑھ کر دم کرکے بخار والے کے منہ پر چھینٹے مارنا مفید ہے۔

(۴۷) بچہ زندہ نہ رہنا اجوائن اور کالی مرچ آدھ آدھ پاؤ لیکر پیر کے دن دوپہر کے وقت چالیس بار سورۃ والشمس اس طرح پڑھے کہ ہر دفعہ کے ساتھ درود شریف پڑھے اور جب چالیس بار ہو جائے پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور اجوائن اور کالی مرچ پر دم کرے اور شروع سے یا جب سے خیال ہوا ہو دودھ چھڑانے تک روزانہ تھوڑا تھوڑا دونوں چیزوں سے کھایا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اولاد زندہ رہے گی۔

(۴۸) ہمیشہ لڑکی ہونا اس عورت کا خاوند یا کوئی دوسری

عورت اس کے پیٹ پر انگلی سے کنڈل یعنی دائرہ ستر بار بنائے اور ہر دفعہ میں یَا مَتِیْنُ کہے انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا۔

(۴۹) بچے کو نظر لگ جانا یا رونا یا سوتے میں ڈرنا یا کیڑے وغیرہ

قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تین تین بار پڑھ کر اس پر دم کرے اور یہ دعا لکھ کر گلے میں ڈالدے أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَّةٍ انشاء اللہ تعالیٰ سب آفتوں سے حفاظت رہے گی۔

(۵۰) چیچک ایک نیلا گنڈہ سات تار کا لیکر اس پر سورۂ رحمٰن جو ستائیسویں پارہ میں ہے پڑھے اور جب اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچے اس پر دم کرکے ایک گرہ لگائے سورۃ کے ختم ہونے تک اکتالیس گرہیں ہو جائیں گی پھر وہ گنڈہ بچے کے گلے میں ڈال دے۔ اگر چیچک سے پہلے ڈال دیں تو انشاء اللہ تعالیٰ چیچک سے حفاظت رہے گی اور چیچک نکلنے کے بعد ڈالیں تو زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔

(۵۱) ہر طرح کی بیماری کے لئے چینی کی تشتری پر سورۂ الحمد اور یہ آیتیں لکھ کر روزانہ مریض کو پلایا کریں بہت ہی تاثیر کی چیز ہے۔ آیات شریفہ یہ ہیں:

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ

الْاَخْسَارًا۔ قُلْ ھُوَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ھُدًی وَّشِفَآءٌ ۝

(۵۲) محتاج اور غریب ہونا — بعد نماز عشاء اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور درمیان میں گیارہ تسبیح یَا مُعِزُّ پڑھ کر دعا کیا کرے اور چاہے یہ دوسرا وظیفہ پڑھ لیا کرے، بعد نماز عشاء اول و آخر سات سات مرتبہ درود شریف اور درمیان میں چودہ تسبیح اور چودہ دانے یَا وَھَّابُ پڑھ کر دعا کیا کرے انشاء اللہ فراغت اور برکت ہوگی

(۵۳) آسیب لپٹ جانا — ان آیتوں کو بیمار کے کان میں پڑھ کر دم کرے اور پانی پر پڑھ کر اس کو پلائے۔ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰکُمْ عَبَثًا وَّاَنَّکُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۝ فَتَعٰلَی اللّٰہُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیْمِ ۝ وَمَنْ یَّدْعُ مَعَ اللّٰہِ اِلٰھًا اٰخَرَ لَا بُرْھَانَ لَہٗ بِہٖ فَاِنَّمَا حِسَابُہٗ عِنْدَ رَبِّہٖ اِنَّہٗ لَا یُفْلِحُ الْکٰفِرُوْنَ ۝ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَیْرُ الرّٰحِمِیْنَ ۝ اور سورۂ والسماء والطارق سات بار پڑھ کر کان میں دم کرنا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر اقامت کہنا بھی آسیب کو بھگا دیتا ہے۔

(۵۴) کسی طرح کا کام اٹکنا — بارہ روز تک اس دعا کو بارہ سو دفعہ پڑھ کر ہر روز دعا کیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ کیسا ہی مشکل کام ہو پورا ہو جائیگا یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَیْرِ یَا بَدِیْعُ

(۵۵) دیو کا شبہ ہو جانا — قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الناس تین تین بار پانی پر دم کرکے مریض کو پلائیں اور زیادہ پانی پر دم کرکے اس میں نہلائیں اور یہ دعا چالیس روز تک چینی کی تشتری پر لکھ کر پلائیں یَا حَیُّ حِیْنَ لَا حَیَّ فِیْ دَیْمُوْمَۃِ مُلْکِہٖ وَ

بَقَائِہٖ[1] یَا حَیُّ انشاء اللہ تعالیٰ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ اور یہ دعا ہر بیمار کے لئے مفید ہے جس کو حکیموں نے جواب دیدیا ہو۔

(۵۶) خاوند کا ناراض یا بے پرواہ رہنا — بعد نماز عشاء کے گیارہ دانے سیاہ مرچ کے لیکر اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف اور درمیان میں گیارہ تسبیح یَا لَطِیْفُ یَا وَدُوْدُ کی پڑھیں اور خاوند کے مہربان ہونے کا خیال رکھیں۔ جب سب پڑھ چکیں تو ان مرچوں پر دم کرکے تیز آگ میں ڈالدیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاء اللہ تعالیٰ خاوند مہربان ہوگا اور کم سے کم چالیس روز کریں۔

(۵۷) دودھ کم ہونا — یہ دونوں آیتیں نمک پر سات بار پڑھ کر ماش کی دال میں کھلائیں۔ پہلی آیت: وَالْوَالِدٰتُ یُرْضِعْنَ اَوْلَادَھُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ یُّتِمَّ الرَّضَاعَۃَ (پ۲ بقرہ ع ۳۰) وَاِنَّ لَکُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَۃً نُسْقِیْکُمْ مِّمَّا فِیْ بُطُوْنِہٖ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِیْنَ ۝ دوسری آیت اگر آٹے کے پیڑے پر پڑھ کر گائے بھینس کو کھلائیں تو خوب دودھ دیتی ہے

(۵۸) حفاظتِ حمل — اگر کسی عورت کا حمل اکثر گر جاتا ہو یا کسی صدمہ کی وجہ سے کسی مرتبہ ایسا خطرہ ہو تو آیاتِ ذیل لکھ کر حاملہ کے گلے میں اسطرح ڈالدیں کہ وہ تعویذ پیٹ پر پڑا رہے آیات یہ ہیں: بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ اِلَّا بِاللّٰہِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَیْھِمْ وَلَا تَکُ فِیْ ضَیْقٍ مِّمَّا یَمْکُرُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰہَ مَعَ

[1] بعض کے نزدیک سورۂ فاتحہ زیادہ کرتے ہیں [2] (پ۱۴ نحل ع ۸)

الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ
اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ
وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝ رَبِّ اِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ
ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ (پ آل عمران ع ۴)

(۵۹) نظرِ بد — اگر نظرِ بد کا احتمال ہو تو آیاتِ ذیل لکھ کر گلے میں ڈال دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝
وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

(۶۰) ایضاً کلماتِ ذیل بھی نظرِ بد کا اثر دور کرنے کے لئے خصوصیت سے گلے میں ڈالتے ہیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَّةٍ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(۶۱) برائے مرگی — اور جو شخص مرگی میں مبتلا ہو تو تانبے کی ایک تختی لے اور اس میں یکشنبہ (اتوار) کی پہلی ساعت میں اس تختی کے ایک طرف یہ کھدوالے یَا قَهَّارُ اَنْتَ الَّذِيْ لَا يُطَاقُ اِنْتِقَامُهٗ اور دوسری طرف یہ کھدوائے يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ بِقَهْرِ عَزِيْزِ سُلْطَانِهٖ يَا مُذِلُّ

(۶۲) برائے دردِ سر — دردِ سر خواہ آدھا سیسی کا ہو یا دوسری طرح کا، آیاتِ ذیل لکھ کر درد کے موقع پر باندھ دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ پوری سورت

۱ پ نحل ع ۲۱) ۲ پ یوسف ع ۱) ۳ پ رعد ع ۲)

لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ
عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

۶۳ برائے دردِ زِہ — کلمات وآیاتِ ذیل کو گڑ پر پڑھ کر کھلائیں یا لکھ کر سفید کپڑے میں باندھ کر حاملہ کی بائیں ران میں باندھ دیں اور بعد فراغت فوراً کھول دیں، ان شاء اللہ ولادت میں بہت سہولت ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝
وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَاَلْقَتْ
مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ اَهْيًا اَشْرَاهِيًا
اَللّٰهُمَّ سَهِّلْ عَلَيْنَا الْوِلَادَةَ خَلْقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ

(۶۴) آسیب — اگر کسی پر آسیب کا شبہ ہو تو آیاتِ ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر دم کرکے چھڑک دیں اور اگر گھر میں اثر ہو تو ان کو پانی پر پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔ آیات یہ ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۱) سورۂ فاتحہ پوری (۲) الٓمّٓ تا مُفْلِحُوْنَ (۳) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ الخ (۴) ۔۔۔ (۵) لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ تا آخر سورۂ بقرہ (۶) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ، الآیۃ (آل عمران) (۷) اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ الآیۃ (سورۃ الاعراف ع ۷) (۸) فَتَعٰلَى اللّٰهُ تا ختم سورۂ مؤمنون (۹) آیات شروع سورۂ صافات تا لازب (۱۰) تین آیات آخر سورۂ حشر (۱۱) وَاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا الخ (سورۂ جن) (۱۲) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پوری (۱۳) سورۂ فلق پوری (۱۴) سورۃ الناس پوری۔

(۶۵) ایضاً برائے آسیب — کلماتِ ذیل کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے اس عمل کا نام حرزِ ابی دجانہ ہے) نہایت مجرب ہے، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اِلٰى مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ وَالسَّائِحِيْنَ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سَعَةً فَاِنْ تَكُ عَاشِقًا مُوْلِعًا اَوْ فَاجِرًا مُقْتَحِمًا اَوْ رَاعِيًا حَقًّا مُبْطِلًا هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هٰذَا وَانْطَلِقُوْا اِلٰى عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ تُغْلَبُوْنَ حٰمٓ لَا تُنْصَرُوْنَ ٥
حٰمٓ عٓسٓقٓ تَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ اس کو لکھ کر گلے میں ڈال دیجئے۔

(٦٦) **ایضًا:** اگر آسیب کا اثر گھر میں معلوم ہو تو آیاتِ ذیل پچیس بار کیلوں پر پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں گاڑ دیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۔ (پ ۳۰ طارق ١٤)

(٦٧) **ایضًا:** اس نقش کو مع عبارتِ زیرین کے تعویذ لکھیں اور اس کو اس طرح فتیلہ بنائیں کہ دو کا ہندسہ نیچے رہے اور آٹھ کا ہندسہ اوپر رہے پھر پاک روئی میں لپیٹ کر کورے چراغ میں کڑوا تیل ڈال کر مریض کے پاس اوپر کی طرف سے یعنی ہندسہ (٨) کی طرف سے روشن کریں اول روز ایک فتیلہ جلائیں پھر ایک دن ناغہ کر کے دوسرا پھر ایک دن ناغہ کر کے تیسرا۔

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

فرعون قارون ہامان شداد نمرود ابلیس علیہم اللعنۃ واتباع ایشان اگر بگریزند سوختہ شوند

(٦٨) برائے دفع سحر آیاتِ ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں۔ اگر نہلانا نقصان نہ کرتا ہو تو ان ہی آیات کو پانی پر پڑھ کر مریض کو نہلائیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ٥ سورۂ فلق اور سورۂ الناس پوری۔

٦٩ برائے دفع مرگی ان آیات کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ٥ رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ

٧٠ ردِّ غائب اگر کسی کا لڑکا یا اور کوئی لاپتہ کہیں چلا گیا ہو تو اس کے واپس آنے کے لئے آیاتِ ذیل لکھ کر اس تعویذ کو کالے یا نیلے کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں جو کوٹھڑی زیادہ تاریک ہو اس میں دو پتھروں کے درمیان اس طرح رکھ دیا جائے کہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ پتھر نہ ہوں تو چکی کے دو پاٹوں میں دبا دیں اور لفظ فلان بن فلانہ کی جگہ اس لاپتہ کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھیں۔ پہلے سورۃ الفاتحہ اور آیۃ الکرسی لکھ کر اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَنْ فِيْهِنَّ فَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا فِيْهِمَا وَمَا عَلٰى عَبْدِكَ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ اَضْيَقَ مِنْ خَلْقِهٖ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى مَوْلَاهُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ پھر لکھے اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ ۔۔۔ فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ تک وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ٥ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ وَاللّٰهُ

مِنْ وَّرَآئِہِمْ مُّحِیْطٌ بَلْ ھُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِیْدٌ فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ
پھر کہے اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ ھٰذِہِ الْاٰیٰتِ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی
نَبِیِّکَ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلَّمَ وَاَنْ تُرَدَّ الْعَبْدَ اِلٰی
مَوْلَاہُ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ۔

دیگر برائے ردغائب بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَوْ
کَظُلُمٰتٍ فِیْ بَحْرٍ لُّجِّیٍّ یَّغْشٰہُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِہٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِہٖ سَحَابٌ
ظُلُمٰتٌ بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ یَدَہٗ لَمْ یَکَدْ یَرٰىھَا
وَمَنْ لَّمْ یَجْعَلِ اللّٰہُ لَہٗ نُوْرًا فَمَا لَہٗ مِنْ نُّوْرٍ ۔ اِنَّا رَآدُّوْہُ اِلَیْکِ
فَرَدَدْنٰہُ اِلٰٓی اُمِّہٖ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُھَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰہِ
حَقٌّ وَّلٰکِنَّ اَکْثَرَھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۔ یٰبُنَیَّ اِنَّھَآ اِنْ تَکُ مِثْقَالَ
حَبَّۃٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِیْ صَخْرَۃٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَاْتِ
بِھَا اللّٰہُ اِنَّ اللّٰہَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ ۔ حَتّٰٓی اِذَا ضَاقَتْ عَلَیْہِمُ الْاَرْضُ
بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَیْہِمْ اَنْفُسُھُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰہِ
اِلَّآ اِلَیْہِ ثُمَّ تَابَ عَلَیْہِمْ لِیَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰہَ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ
اَللّٰھُمَّ یَا ھَادِیَ الضَّآلِّ وَیَا رَآدَّ الضَّآلَّۃِ اُرْدُدْ عَلَیَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانَۃَ[ل]

۷۱ پیشاب رُک جانا یا پتھری ہوجانا کلماتِ ذیل کو لکھ کر ناف
پر باندھ دیا جائے رَبُّنَا اللّٰہُ الَّذِیْ فِی السَّمَآءِ تَقَدَّسَ اسْمُکَ اَمْرُکَ فِی
السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ کَمَا رَحْمَتُکَ فِی السَّمَآءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَکَ فِی الْاَرْضِ
اِغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَایَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّیِّبِیْنَ اَنْزِلْ شِفَآءً مِّنْ شِفَآئِکَ
وَرَحْمَۃً مِّنْ رَحْمَتِکَ عَلٰی ھٰذَا الْوَجَعِ

ل فلاں بن فلاں کی جگہ اس شخص کا نام لکھا جائے۔

۷۲ برائے غنا یَا وَھَّابُ بعد نماز عشاء اس طرح پڑھے کہ اول آخر
گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھے اور درمیان میں چودہ سو چودہ بار اسم مذکور
اور بعد میں یہ دعا پڑھے یَا وَھَّابُ ھَبْ لِیْ مِنْ نِّعْمَۃِ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ اِنَّکَ
اَنْتَ الْوَھَّابُ (اس عمل کا نام حضرت مولانا محمد یعقوبؒ کیمیائے درویشاں
فرمایا کرتے تھے)

(۷۳) انجاحِ حاجت تمام مشکلات کے حل کے لئے اسم یَا لَطِیْفُ
بعد نماز عشاء گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھے
اول آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے اور پھر دعا کرے ۔

(۷۴) برائے تپ و لرزہ ہر قسم

اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں ان شاء اللہ ہر قسم کا تپ و لرزہ دفع ہو گا نقش یہ ہے

بسم	اللہ	الرحمن	الرحیم
اللہ	الرحمن	الرحیم	بسم
الرحمن	الرحیم	بسم	اللہ
الرحیم	بسم	اللہ	الرحمن

(۷۵) ایام ماہواری کی کمی اگر ایام ماہواری میں کمی ہو اور اس سے
تکلیف ہو تو آیاتِ ذیل کو لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالیں کہ تعویذ رحم پر پڑا رہے
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَجَعَلْنَا فِیْھَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِیْلٍ وَّاَعْنَابٍ
وَّفَجَّرْنَا فِیْھَا مِنَ الْعُیُوْنِ لِیَاْکُلُوْا مِنْ ثَمَرِہٖ وَمَا عَمِلَتْہُ اَیْدِیْھِمْ اَفَلَا
یَشْکُرُوْنَ ۝ اَوَلَمْ یَرَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا
فَفَتَقْنٰھُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ اَفَلَا یُؤْمِنُوْنَ ۝

(۷۶) ایام ماہواری کی زیادتی کے لئے اگر کسی کو ایام ماہواری زیادہ
آتے ہوں اور اس سے تکلیف ہو تو آیاتِ ذیل لکھ کر اس طرح گلے میں ڈالیں

کہ تعویذ رحم پر پڑا رہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

(۷۷) برائے امان و پناہ از ہر آفت یہ دعا صبح و شام پڑھا کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاْ لَمْ يَكُنْ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَّاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ اِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ٥ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

(۷۸) برائے افزائش شیر جانوران اگر کوئی گائے بھینس وغیرہ دودھ نہ دیتی ہو تو آٹے کے ایک پیڑے پر آیاتِ ذیل پڑھ کر اس جانور کو کھلائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ٥ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ٥ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ٥ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ٥ سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ

مُقْرِنِيْنَ ٥

(۷۹) برائے تھنیلا بعض اوقات عورتوں کے پستان میں بوجہ لیتی دودھ وغیرہ درد اور دکھن ہوتی ہے تو اس دعا کو چھنی ہوئی راکھ پر یا مٹی پر سات بار اس طرح پڑھیں کہ ہر بار پڑھ کر اس راکھ یا مٹی میں تھوک دیں پھر پانی سے اس کو پتلا کر کے درد کی جگہ لیپ کریں اور پھوڑے پھنسی پر لگایا جائے تب بھی مفید ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا۔

(۸۰) برائے آسیب زدہ (از قطب عالم مولانا گنگوہی)

اسماء اصحابِ کہف بعبارتِ ذیل کاغذ پر لکھ کر جس مکان میں مریض یا مریضہ ہو اس کی دیواروں پر جگہ جگہ چسپاں کر دیئے جائیں اور بیس کا مندرجہ ذیل نقش ایک کاغذ پر لکھ کر مریض کو دکھایا جائے وہ دیکھنے سے گھبرائے اور انکار کریگا مگر زبردستی اس کی نظر اس پر ڈلوائی جائے اور جبراً نقش کو تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

۸	۶	۴	۲
۲	۴	۶	۸
۶	۸	۲	۴
۴	۲	۸	۶

اسمائے اصحاب کہف یہ ہیں

اِلٰہی بحرمۃ یملیخا مکسلمینا کشفوطط طبیونش کشافطیونس اذرفطیونس یوانس بوس وَكَلْبُهُمْ قِطْمِيْرٌ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

(۸۱) گنڈا برائے مسان (از حضرت مولانا خلیل احمد) نیلے تاگے کے اکتالیس تار عورت کے قد کی برابر لمبے

لے کر اس پر سورۃ الحمد مع بسم اللہ اکتالیس بار پڑھے اور ہر دفعہ اس تاگے پر دم کرکے ایک گرہ لگاتا رہے۔ حمل کے زمانہ میں ماں کے پیٹ پر اس گنڈہ کو باندھ دے اور بعد پیدا ہونے بچہ کے گلے میں ڈال دے اور اگر حمل کے وقت نہ باندھ سکے تو بچہ ہی کے گلے میں ڈالنے سے بھی انشاء اللہ وہی فائدہ ہوگا۔

(۸۲) گنڈا برائے آسیب زدہ گیارہ تار نیلا یا سیاہ سوت کا ڈیڑھ گز لمبا لیکر اکتالیس بار آیت ذیل

پڑھیں اور ہر دفعہ گرہ لگا کر اس کے اندر دم کرکے بند کر دیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

(۸۳) گنڈا برائے سہولتِ دندان سات تار کا بارہ گرہ لمبا کچی سوت نیلا یا سیاہ لے کر سورۃ اذا زلزلت

الارض پوری سات بار پڑھیں اور ہر دفعہ گرہ لگا کر حسب معمول دم کریں پھر ہر گرہ پر جدا جدا ختم کرکے گنڈا لگوز ہے اس کے اوپر سے اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝ ایک ایک بار دم کرتے چلے جائیں پھر ایک ایک بار اس طرف سے جہاں اب ختم کیا ہے قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ کو پوری سورت دم کرتے ہوئے چلے آئیں۔

(۸۴) گنڈا برائے حفاظتِ حمل گیارہ تار نیلا یا سیاہ سوت ڈیڑھ گز لمبا لے کر سورۃ یٰس پوری

پڑھیں اور ہر مبین پر ایک گرہ لگا کر دم کریں پھر اس کو حاملہ کے پیٹ پر باندھیں (کل سات گرہ ہوں گی) حمل اسقاط سے محفوظ رہیگا انشاء اللہ تعالیٰ

(۸۵) جھاڑ برائے اورسا (جس کو میٹھا اور پسلی چلنا بھی کہتے ہیں) چاقو سے پاک زمین پر سات لکیریں

اس طرح کھینچکر ||||||| اور بچہ کا پیٹ اپنی طرف کرکے کپڑا اٹھا کر دلیں ہاتھ میں چاقو لے کر بچہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کرکے ان لکیروں پر لاتا رہے اور سات بار یہ آیت پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ۝ اور بچہ کے پیٹ اور سینہ پر دم کرے اور کبھی کبھی چاقو کو آہستہ سے اس کی پسلی سے چھواتا ہوا (جو چل رہی ہے) اور پیٹ کو چھواتا ہوا زمین تک لائے سات دفعہ دعا پڑھ کر ایک لکیر سے ان ساتوں لکیروں کو کاٹ دیں پھر اسی طرح سات دفعہ پڑھے اور دوسری لکیر سے کاٹ دے اسی طرح ہر سات دفعہ پر ایک لکیر سے کاٹتا رہے جب سات لکیریں ہو جائیں بس دم کرکے بچہ کو اٹھا دیا جائے اور بچہ کو پیشاب کرا دیویں صبح و شام تین روز تک جھاڑا جائے باذن اللہ مرض دفع ہو جائے گا۔

۸۶ برائے دورہ کمیڑہ جب بچہ کو مسان کا دورہ پڑ رہا ہو تو سات بار سورۃ الحمد پوری اور سات بار اِذَا جَآءَ

نَصْرُ اللّٰهِ پوری اور سات بار درود شریف نماز والا پڑھ کر دم کرے اور پڑھتے ہوئے داہنے ہاتھ کی انگشتِ شہادت کو سینہ اور پیٹ پر پھیرتا رہے

(۸۷) برائے اختلاجِ قلب | آیاتِ ذیل کو لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالیں کہ قلب پر پڑی رہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝ وَرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰی قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَلِیَرْبِطَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ ۝

(۸۸) گنڈا برائے بواسیر خونی | کچا سوت سرخ رنگ ڈیڑھ گز لمبا اکیس تارے کر سورۃ تَبَّتْ یَدَاۤ اَبِیْ

لَهَبٍ ۝ پوری اکیس بار پڑھ کر گرہ لگاتا اور دم کرتا رہے پھر الٹی طرف سے ہر گرہ پر لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ۝ رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ایک بار دم کر دے پھر سیدھی طرف سے ایک بار ہر گرہ پر یٰۤاَرْضُ ابْلَعِیْ مَآءَكِ وَیٰسَمَآءُ اَقْلِعِیْ وَغِیْضَ الْمَآءُ وَقُضِیَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَی الْجُوْدِیِّ وَقِیْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ۝ دم کرتا چلا آوے اور بواسیر والے کی کمر پر بندھ دیا جائے باذن اللہ بہت جلد آرام ہو جائے گا۔

(۸۹) حفاظت از مار و کژدم وغیرہ موذی جانوروں کے لئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سَلٰمٌ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعٰلَمِیْنَ گیارہ بار صبح و شام، اول و آخر درود شریف گیارہ بار پڑھا جائے۔ اعتقاد کامل ہو۔

(۹۰) ایضاً | بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ تین بار صبح و شام۔

(۹۱) برائے عقیمہ | ہرن کی جھلی پر زعفران اور گلاب سے یہ آیت لکھے:
وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ

بِهِ الْمَوْتٰی بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِیْعًا پھر اس تعویذ کو عورت کی گردن میں باندھے۔

(۹۲) ایضاً برائے حمل | اول الحمد شریف بعدہٗ اسمائے اصحابِ کہف جو (صفحہ ۲۷۷ پر درج ہے) تین تین بار پڑھ کر

چھ عدد چھوہاروں پر دم کریں اور دیدیں اور ہدایت کریں کہ بعد غسلِ حیض ایک عدد چھوہارہ روزانہ بیوی کھائے اور ایک عدد چھوہارہ خاوند بھی کھائے اور رات کو ہمبستری کرے ان شاء اللہ حمل ہو جائیگا۔

(۹۳) برائے خنازیر | جس کی گردن میں کنٹھ مالا ہو تو تانت پر جو مریض کے قد کے برابر ہو اکتالیس گرہ دے اور ہر گرہ پر

یہ دعا پھونکے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَةِ اللّٰهِ وَقُوَّةِ اللّٰهِ وَعَظَمَةِ اللّٰهِ وَبُرْهَانِ اللّٰهِ وَسُلْطَانِ اللّٰهِ وَكَنَفِ اللّٰهِ وَجِوَارِ اللّٰهِ وَاَمَانِ اللّٰهِ وَحِرْزِ اللّٰهِ وَمَنْعِ اللّٰهِ وَكِبْرِیَاءِ اللّٰهِ وَنَظَرِ اللّٰهِ وَبَهَاءِ اللّٰهِ وَجَلَالِ اللّٰهِ وَكَمَالِ اللّٰهِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ شَرِّ مَاۤ اَجِدُ پھر مریض کے گلے میں ڈال دیں۔

(۹۴) ہر بیماری کے لئے | رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں کا پڑھنا ثابت ہے اور فرمایا کہ آفتاب کے

طلوع و غروب کے وقت جب یہ آیات پڑھی جائیں تو بیماری خدا کے فضل سے دور ہو۔ وہ آیات یہ ہیں: وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُیِّرَتْ سے جَمِیْعًا تک اور یَسْــَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ سے وَلَاۤ اَمْتًا تک اور لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ سے خَشْیَةِ اللّٰهِ تک اور ہر آیت کے بعد یہ کہتا جائے کہ فَكَیْفَ اَنْتَ یَاۤ اَیَّتُهَا الْعِلَّةُ

(۹۵) جو بچہ کسی طرح نہ چلتا ہو | اگر یہ نقش لکھ کر اور کسی خوشبو کی

دھونی دے کر اس بچے کے گلے میں ڈالدیں تو انشاء اللہ چلنے لگے گا اسی طرح اگر سفر میں جائے تو اپنے بازو پر باندھ لے انشاء اللہ نقصان نہ ہوگا

ال	م	ت	بن
۴۰۱	۵۹	۳۲	۳۹
۵۸	۳۹۸	۴۲	۳۳
۴۱	۳۴	۵۷	۳۹۹

(۹۶) جس حاملہ کے بچہ نہ پیدا ہوتا ہو | تو یہ آیات اور دعا اور

نقش سکوری پر لکھ کر پانی سے دھو کر پلائیں انشاء اللہ پیدائش فوراً ہوگی۔ وہ دعا، آیات اور نقش یہ ہیں۔

ب	ط	د
ز	ہ	ج
و	ا	ح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّوْمُ سے الْعَظِيْمُ تک۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ

(۹۷) برائے غنائے دلی وکشائش ظاہری وباطنی | ہر روز گیارہ مرتبہ

اور سورہ مزمل شریف چالیس بار پڑھنے پر ہمیشگی کرے اگر چالیس بار نہ ہو سکے تو گیارہ بار پڑھے بعض بزرگوں سے مزمل شریف کا اکتالیس بار پڑھنا منقول ہے اور بعض سے عشاء کی نماز کے بعد دو رکعتوں میں اکتالیس بار اس طرح کہ پہلی رکعت میں اکیس ۲۱ بار اور دوسری رکعت میں بیس ۲۰ بار پڑھے اور ایک یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ایک بار اور پانچوں نمازوں کے بعد

دو ۲ دو بار کہ شب و روز میں گیارہ بار ہو جائے۔ یہ سب طریقے مجرب ہیں

(۹۸) برائے فاقہ | جو شخص سورۃ واقعہ کو ہر رات پڑھے اس کو فاقہ نہیں ہوگا

(۹۹) ایضاً فاقہ کے لئے ہر روز سو بار لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ پڑھنا مفید ہے۔

(۱۰۰) رات کو جاگنے کے لئے | جو شخص اپنے سوتے وقت سورۃ

کہف کی آخری آیتیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کو جگا دے جس وقت کا ارادہ کرے تو حق تعالیٰ اسی وقت اس کو جگا دے گا وہ آیات یہ ہیں:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۔ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَیَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝

(۱۰۱) برائے خوف حاکم | جو شخص کسی صاحب حکومت سے ڈرے

اس کو چاہئے کہ یوں کہے کٓھٰیٰعٓصٓ کُفِیْتُ حٰمٓعٓسٓقٓ حُمِیْتُ اور کٓھٰیٰعٓصٓ کے کہتے وقت ہر حرف کے تلفظ پر داہنے ہاتھ کی ہر انگلی کو بند کرے یعنی کاف کہتے وقت سب سے چھوٹی انگلی بند کرے ھا پر دوسری یا پر تیسری عین پر چوتھی اور صاد پر انگوٹھا بند کرے۔ اور حٰمٓعٓسٓقٓ کے ہر حرف پر بائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کرے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کئے ہوئے اس حاکم کے سامنے جا کر کھول دے انشاء اللہ مہربان ہوگا۔

(۱۰۲) گم شدہ چیز کے لئے

جس کی کوئی چیز کھوئی جائے تو وہ یَا حَفِیْظُ ایک سو انیس بار بغیر کمی زیادتی کے پڑھے پھر یہ آیت یٰبُنَیَّ اِنَّھَآ اِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَّۃٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِیْ صَخْرَۃٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَاْتِ بِھَا اللّٰہُ ایک سو انیس بار پڑھے تو حق تعالیٰ اس کی گم ہوئی چیز کو اس کے پاس پھیر لائے گا۔

(۱۰۳) **ایضاً** کسی کی چیز یا لڑکے وغیرہ کے گم ہونے پر درود شریف لکھ کر دیا جائے کہ اونچی جگہ درخت یا کھونٹی وغیرہ پر لٹکائے۔

(۱۰۴) برائے حاجت روائی

حاجت روائی کے لئے سورۂ فاتحہ اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا دے۔ اتوار کے دن فجر کی سنت اور فرض کے درمیانی وقفہ میں شروع کرے۔ پہلے دن ستر بار اور دوسرے دن اسی وقت ساٹھ بار اور تیسرے دن پچاس بار، اسی طرح ہر روز دس بار کم کرتا جائے یہاں تک کہ ہفتہ کے دن دس بار پڑھے۔

(۱۰۵) نمازِ حاجات

مشکل حاجتوں کو بر لانے کے لئے چار رکعتیں پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَہٗ وَنَجَّیْنٰہُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ کو سو بار پڑھے اور دوسری رکعت میں بعد فاتحہ کے رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ سو بار پڑھے اور تیسری رکعت میں بعد فاتحہ کے وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْٓ اِلَی اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِ سو بار پڑھے اور چوتھی رکعت میں بعد فاتحہ کے قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ سو بار پڑھے پھر سلام پھیر کر رَبِّ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ سو بار پڑھے اور اپنی حاجت کی دعا کرے، ان شاء اللہ العزیز قبول ہووے۔

(۱۰۶) برائے بخار

خصوصاً برائے بخار کے لئے یہ افسوں ایک کاغذ پر لکھ کر بازو پر باندھ دے ان شاء اللہ جلد اچھا ہو جائے گا: بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بَرَآءَۃٌ مِّنَ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ اِلٰٓی اُمِّ مِلْدَمٍ اَلَّتِیْ تَاْکُلُ اللَّحْمَ وَتَشْرَبُ الدَّمَ وَتَھْشِمُ الْعَظْمَ اَمَّا بَعْدُ یَا اُمَّ مِلْدَمٍ اِنْ کُنْتِ مُؤْمِنَۃً فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَاِنْ کُنْتِ یَھُوْدِیَّۃً فَبِحَقِّ مُوْسٰی کَلِیْمِ اللّٰہِ عَلَیْہِ السَّلَامُ وَاِنْ کُنْتِ نَصْرَانِیَّۃً فَبِحَقِّ الْمَسِیْحِ عِیْسَی بْنِ مَرْیَمَ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ اَنْ لَّا تَاْکُلِیْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَۃَ لَحْمًا وَّلَا تَشْرَبِیْ لَہٗ دَمًا وَّلَا تَھْشِمِیْ لَہٗ عَظْمًا وَّتَحَوَّلِیْ مِنْہُ اِلٰی مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللّٰہِ اِلٰھًا اٰخَرَ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ وَاِلَّا فَاَنْتِ بَرِیْٓئَۃٌ مِّنَ اللّٰہِ تَعَالٰی وَاللّٰہُ تَعَالٰی بَرِیْٓءٌ مِّنْکِ وَحَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ ۔ فلان بن فلانہ کی جگہ مریض کا اور اس کی ماں کا نام لکھے۔

(۱۰۷) **ایضاً** بخار والے پر ہر روز عصر کی نماز کے بعد سورۂ مجادلہ تین بار پڑھے

(۱۰۸) برائے سرخ بادہ

جس کے بدن پر سرخ بادہ ظاہر ہو اس دعا سے سات بار جھاڑے اور پڑھتے وقت چھری سے اشارہ کرتا جائے۔ دعا یہ ہے: بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِکْ وَسَلِّمْ بِسْمِ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ الْحَکِیْمِ الْکَرِیْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ بِعِزَّۃِ اللّٰہِ وَقُدْرَتِہٖ وَسُلْطَانِہٖ اَیَّتُھَا الْحُمْرَۃُ جَآءَتْکِ جُنُوْدٌ مِّنَ السَّمَآءِ وَقَالَ سُلَیْمٰنُ اَیُّھَا الرِّیْحُ اَجِیْبِیْ دَاعِیَ اللّٰہِ وَمَنْ لَّمْ

(۱۰۲) گم شدہ چیز کے لئے

جس کی کوئی چیز کھوئی جائے تو وہ یا حفیظ ایک سو انیس بار بغیر کمی زیادتی کے پڑھے پھر یہ آیت یٰبُنَیَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ایک سو انیس بار پڑھے تو حق تعالیٰ اس کی گم ہوئی چیز کو اس کے پاس پھیر لائے گا۔

(۱۰۳) ایضاً کسی کی چیز یا لڑکے وغیرہ کے گم ہونے پر درود شریف لکھ کر دیا جائے کہ اونچی جگہ درخت یا کھونٹی وغیرہ پر لٹکا دے۔

(۱۰۴) برائے حاجت روائی

حاجت روائی کے لئے سورۂ فاتحہ اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا دے۔ اتوار کے دن فجر کی سنت اور فرض کے درمیانی وقفہ میں شروع کرے۔ پہلے دن ستر بار اور دوسرے دن اسی وقت ساٹھ بار اور تیسرے دن پچاس بار، اسی طرح ہر روز دس بار کم کرتا جائے یہاں تک کہ ہفتہ کے دن دس بار پڑھے۔

(۱۰۵) نماز حاجات

مشکل حاجتوں کو بر لانے کے لئے چار رکعتیں پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَ نَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ کو سو بار پڑھے اور دوسری رکعت میں بعد فاتحہ کے رَبِّ اِنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ سو بار پڑھے اور تیسری رکعت میں بعد فاتحہ کے وَ اُفَوِّضُ اَمْرِیْٓ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِ سو بار پڑھے اور چوتھی رکعت میں بعد فاتحہ کے قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِیْلُ سو بار پڑھے پھر سلام پھیر کر رَبِّ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ سو بار پڑھے اور اپنی حاجت کی دعا کرے۔ انشاء اللہ العزیز قبول ہووے۔

(۱۰۶) برائے بخار

خصوصاً برائے بخار کے لئے یہ افسون ایک کاغذ پر لکھ کر بازو پر باندھ دے انشاء اللہ جلد اچھا ہو جائے گا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ اِلٰی اُمِّ مِلْدَمٍ اَلَّتِیْ تَاْكُلُ اللَّحْمَ وَتَشْرَبُ الدَّمَ وَتَهْشِمُ الْعَظْمَ اَمَّا بَعْدُ یَا اُمَّ مِلْدَمٍ اِنْ كُنْتِ مُؤْمِنَةً فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاِنْ كُنْتِ یَهُوْدِیَّةً فَبِحَقِّ مُوْسٰی كَلِیْمِ اللّٰهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَاِنْ كُنْتِ نَصْرَانِیَّةً فَبِحَقِّ الْمَسِیْحِ عِیْسَی بْنِ مَرْیَمَ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ اَنْ لَّا تَاْكُلِیْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ لَحْمًا وَّلَا تَشْرَبِیْ لَهٗ دَمًا وَّلَا تَهْشِمِیْ لَهٗ عَظْمًا وَّ تَحَوَّلِیْ مِنْهُ اِلٰی مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ وَ اِلَّا فَاَنْتِ بَرِیْٓئَةٌ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ اللّٰهُ تَعَالٰی بَرِیْٓءٌ مِّنْكِ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ۔ فلاں بن فلانہ کی جگہ مریض کا اور اس کی ماں کا نام لکھے۔

(۱۰۷) ایضاً بخار والے پر ہر روز عصر کی نماز کے بعد سورۂ مجادلہ تین بار پڑھے

(۱۰۸) برائے سرخ بادہ

جس کے بدن پر سرخ بادہ[1] ظاہر ہو اس دعا سے سات بار جھاڑے اور پڑھتے وقت چھری سے اشارہ کرتا جائے۔ دعا یہ ہے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ الْحَكِیْمِ الْكَرِیْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ وَسُلْطَانِهٖ اَیَّتُهَا الْحُمْرَةُ جَآءَتْكِ جُنُوْدٌ مِّنَ السَّمَآءِ وَ قَالَ سُلَیْمٰنُ اَیَّتُهَا الرِّیْحُ اَجِیْبِیْ دَاعِیَ اللّٰهِ وَمَنْ لَّمْ

[1] جس کو خسرہ کہا جاتا ہے۔

يُجِيْبُ دَاعِيَ اللّٰهِ فَمَالَهٗ مِنْ مَّلْجَاٍ وَّمَالَهٗ مِنْ ظَهِيْرٍ ٥
بِسْمِ اللّٰهِ وَبِالثَّنَاءِ الطَّيِّبِ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُ يَكْفِيْكَ وَاللّٰهُ
يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُّؤْذِيْكَ وَمِنْ كُلِّ اٰفَةٍ تَعْتَرِيْكَ
لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ
وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

(۱۰۹) برائے اسقاطِ جنین

جو عورت بچہ اسقاط کر دیتی ہو تو ایک تاگا کسم کا رنگا ہوا اس کے قد کے برابر لے اور اس پر نو گرہیں لگائے اور ہر گرہ پر وَاصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ۔ اور قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ پڑھے اور دم کرے۔

(۱۱۰) دنبل اور پھوڑے وغیرہ کے لئے

اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ نو بار، اول آخر درود شریف پڑھ کر ملتانی مٹی پر دم کر کے لگائیں۔

(۱۱۱) جس کو پیشاب میں ریگ آتی ہو

اس کو یہ آیت لکھ کر پلائیں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا، وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً، وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا،

(۱۱۲) فتیلہ برائے آسیب زدہ

یہ فتیلہ اسی حالت میں دیا جائے جبکہ جن یا آسیب کسی طرح نہ جاتا ہو۔ املیخ تملیخ تمليخ يا املیخ تملیخ قملیخ کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کو لمبائی کی صورت میں ته کر کے نیچے کالے کپڑے کا ٹکڑا رکھ کر قدرے حرمل (کالا دانہ) اور ہینگ رکھ کر اوپر ڈورا لگایا جائے۔

(۱۱۳) برائے معمولی دمبل

اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف درمیان میں گیارہ مرتبہ سورۂ الم نشرح پڑھ کر دم کرے۔

(۱۱۴) خراب اور بڑے دمبل کے لئے

اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف درمیان میں اکتالیس مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر دم کریں اور مکھن وغیرہ پر دم کر کے لگائیں۔

(۱۱۵) تعویذ برائے امراض عام

۱۱۱۵ / ے H ۱۱۱۱ ھ

(۱۱۶) حفاظتِ ایمان

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے اس کی حفاظت ہر مسلمان کا محبوب فرض ہونا چاہیے۔ بعض اکابرین اولیاء کرام سے منقول ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد کی سنتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ فلق اور دوسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ والناس ہمیشہ پڑھا کرے تو اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا۔

(۱۱۷) ایمان پر خاتمہ

جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کے پڑھنے کی عادت بنا لے انشاء اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔
دعا یہ ہے: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ٥ پ ۳ اٰل عمران ع ۱

(۱۱۸) وساوسِ شیطانی سے حفاظت

جس کے دل میں وسوسہ شیطانی پیدا ہوتا ہو وہ اس دعا کو بکثرت پڑھے وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ

رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِ پ۱۸ ۔ المؤمنون ع ۶

(۱۱۹) عذابِ جہنم سے حفاظت جو شخص ان آیتوں کو برابر پڑھنے کی عادت ڈال لے گا وہ عذابِ جہنم سے محفوظ رہے گا حٰمٓ ۝ تَنْزِیْلُ الْکِتٰبِ مِنَ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ

حٰمٓ ۝ تَنْزِیْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پ۲۴ حٰمٓ السجدۃ

حٰمٓ عٓسٓقٓ حٰمٓ وَالْکِتٰبِ الْمُبِیْنِ پ۲۵ الشوریٰ

حٰمٓ اِنَّآ اَنْزَلْنٰہُ فِیْ لَیْلَۃٍ مُّبٰرَکَۃٍ اِنَّا کُنَّا مُنْذِرِیْنَ پ۲۵

حٰمٓ تَنْزِیْلُ الْکِتٰبِ مِنَ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ ۔ پ۲۵

(۱۲۰) برائے شفاعت جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنالے گا اسے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لَقَدْ جَآءَکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ عَلَیْہِ تَوَکَّلْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ پ۱۱ التوبہ ع ۱۶

(۱۲۱) عذابِ قبر سے حفاظت جو شخص بعد عشاء سورۂ ملک یا سورۂ یٰسین کی تلاوت کثرت سے کرے گا وہ انشاء اللہ تعالیٰ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا۔

(۱۲۲) تجارت میں برکت جمعرات کے دن باوضو اس آیت کو لکھ کر مکان یا دوکان کے دروازے پر لگانے سے خیر و برکت ہوگی۔

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللّٰہِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰہُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ۝ یَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِہٖ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ۝

(پ۳ آل عمران ع ۸)

(۱۲۳) کشائش رزق مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ اَحْمَدُ رَّسُوْلُ اللّٰہِ

جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہوکر پینتیس۳۵ مرتبہ یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے خدا تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائیگا (۲) نماز چاشت کے بعد روزانہ ایک سو مرتبہ یَا بَاسِطُ پڑھنے سے رزق میں فراخی ہوگی۔

(۱۲۴) دعا کا مقبول ہونا یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ

ان اسماء حسنیٰ کا بار بار تکرار دورانِ دعا قبولیتِ دعا کے لئے سریع التاثیر ہے۔

(۱۲۵) حاجت کا پورا ہونا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام نے بعض عابدوں کو اس نماز کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اس نماز کے بعد جو کچھ مانگو گے ملے گا۔ ترکیب یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے (یعنی دو رکعت نماز نفل بطورِ حاجت کی نیت سے) پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ قُلْ یٰٓاَیُّھَا الْکٰفِرُوْنَ اور دوسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ پڑھے نماز سے فارغ ہوکر دس مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اور دس مرتبہ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّفِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ پڑھ کر پھر ایک مرتبہ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ کو پڑھ کر جس ضرورت کے لئے بھی دعا کی جائے قبول ہوگی۔

(۱۲۶) ادائیگی قرض دو رکعت نماز نفل وتر سے پہلے پڑھے اور ہر دو رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد پانچ بار قُلِ اللّٰھُمَّ مٰلِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَآءُ

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ
مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥ پ۳ آل عمران ع ۲

پڑھے تو انشاء اللہ اس کے تمام قرض ادا ہو جائیں گے۔ نہایت مجرب ہے۔

(۱۲۷) دفع غم کے واسطے غم دور کرنے کے لئے اس آیت کا بار بار پڑھنا مفید ہے: وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ پ۷ ع۲ - اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا پ۲۲ فاطر ع ۵

(۱۲۸) پیداوار میں کثرت اس آیت کو کسی پاک برتن پر زعفران سے لکھ کر دھوئے اور اس پانی سے بیج کو دھو کر بوئے یا اس پانی کا کھیت میں چھڑکاؤ کرے تو نسل خراب نہ ہوگی۔ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ٥ پ۷ انعام ع

(۱۲۹) ٹڈی دَل سے حفاظت اگر کہیں ٹڈی دَل آجائے تو ان میں سے چار ٹڈی دَل پکڑ کر چاروں کے پروں پر ایک ایک آیت لکھ کر یہ کہتے ہوئے کہ فلاں شہر کی جانب چلی جاؤ ان کو چھوڑ دے انشاء اللہ ٹڈی دل اس شہر سے فوراً روانہ ہو جائے گا۔ شیخ یحیٰ بن عبدالقرشیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اسے آزمایا اور مجرب پایا ان میں سے ایک کے پر کے اوپر فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ لکھے اور دوسرے کے بازو پر وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ اور تیسرے کے اوپر ثُمَّ انْصَرَفُوْا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ اور چوتھے کے پر فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ٥

(۱۳۰) کیڑوں سے حفاظت اگر وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ پوری سورت پڑھ کر غلہ وغیرہ پر دم کر دیا جائے تو وہ غلہ کیڑوں سے محفوظ رہے گا۔

(۱۳۱) برائے حفاظت (۱) جب گھر سے روانہ ہو تو گھر سے نکلتے وقت آیۃ الکرسی

اور لایلٰف پڑھنے سے اس کے واپسی تک گھر پر کوئی آفت نہیں آئے گی
(۲) اگر کسی کی کوئی چیز کھو گئی ہو تو اپنی انگشتِ شہادت کو اپنے سر کے چار جانب گھماتے ہوئے سات مرتبہ سورۃ والضحیٰ پڑھے پھر ایک مرتبہ اَصْبَحْتُ فِيْ اَمَانِ اللّٰهِ وَاَمْسَيْتُ فِيْ جِوَارِ اللّٰهِ اَمْسَيْتُ فِيْ اَمَانِ اللّٰهِ، اَصْبَحْتُ فِيْ جِوَارِ اللّٰهِ پڑھ کر تین مرتبہ تالی بجائے اس عمل کے دوران کھوئی ہوئی چیز کا تصور ذہن میں رکھے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد وہ چیز مل جائے گی نہایت مجرب عمل ہے۔

(۱۳۲) مفرور کی واپسی چالیس روز تک دو رکعت نماز پڑھ کر اکیس مرتبہ یہ دعا پڑھے اور پھر بھاگے ہوئے کی واپسی کے لئے دعا کرے انشاء اللہ مفرور واپس آجائے گا يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ پ۲۱ لقمٰن ع ۲

(۱۳۳) زوجین میں محبت اگر شوہر و بیوی میں ناراضگی ہو تو اس نقش کو تعویذ بنا کر موم جامہ کرکے زوجین میں سے جس کو ضرورت ہو اپنے داہنے بازو میں باندھ لے انشاء اللہ تعالیٰ تمام اختلافات دور ہو جائیں گے۔

۷۸۶

۲۵۰ ر	۲۵۳ و	۲۵۶ ر	۲۴۳ و
۲۵۵ و	۲۴۴ و	۲۴۹ و	۲۵۴ د
۲۴۵ و	۲۵۸ د	۲۵۱ و	۲۴۸ د
۲۵۲ و	۲۴۷ د	۲۴۶ و	۲۵۷ و

یا ودود الحی القیوم داشتہ این نقش معلم سورۃ اخلاص را

قَلِّبْ قَلْبَ فلان ولد فلان علیٰ حبّ فلان ولد فلان حبًّا شدیدًا مطیعًا عاشقًا دائمًا ابدًا ابدًا ابدًا یا مقلّبَ القلوب والابصار ۔

(۱۳۴) **اولاد ہونا** (۱) ایک پاک برتن میں اللّٰہ الرحمٰن کے حروف الگ لکھ کر اسے گلاب سے جس میں کچھ مشک بھی ملا ہوا ہو دھو کر عورت کو حیض سے فراغت کے وقت پلائے پھر ہمبستری کرے انشاء اللہ تعالیٰ استقرار حمل ہوگا۔

(۲) جس کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ اس آیت کو بکثرت پڑھا کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ مقصد پورا ہوگا۔ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ (پ۳ آل عمران ع ۴)

(۱۳۵) **برائے عقیمہ** عورت کے حیض سے فارغ ہو جانے کے بعد یہ آیت لکھ کر موم جامہ کر کے گھڑے وغیرہ میں ڈال دے اور اس گھڑے سے شوہر و بیوی دونوں پانی پیا کریں جب پانی کم ہو تو پھر اور پانی ملا دیں اور اس دوران شوہر ہمبستری کرتا رہے انشاء اللہ پہلے پاکی میں مطلب حاصل ہوگا۔ ورنہ تین حیض تک پانی دونوں پیتے رہیں ضرور مقصد پورا ہوگا مجرب ہے۔ آیت یہ ہے يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۙ پ۱۶ مریم ع۱ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین

(۱۳۶) **سہولتِ ولادت** دردِ زہ کے وقت عورت کے بائیں ران میں یہ لکھ کر باندھیں ولادت میں سہولت ہوگی۔ یا خالقَ النفس من النفس و یا مُخرجَ النفس من النفس خلّصہا

(۱۳۷) **نس بندی** اگر کسی نے جادو وغیرہ کے ذریعہ نس بندی کر دی ہو جس کی وجہ سے وہ جماع پر قادر نہ ہو تو ایک تلوار کے اوپر یہ عمل لکھ کر اس تلوار سے سیاہ مرغی کا ایک انڈا ٹھیک درمیان سے کاٹ کر اس کے دو حصے کرے

ایک حصہ عورت کھائے اور دوسرا ٹکڑا مرد کھائے انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی نس بندی کھل جائے گی مجرب ہے

"بکصمہ لا لا دم ما مالا لا لا ۹ ۴ ۴ ۴"

(۱۳۸) **برائے اولادِ نرینہ** جس عورت کے یہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں لڑکا نہ ہوتا ہو تو یہ دعا لکھ کر دھو کر حاملہ کو پلائے انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لا ء الا وس وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ حیث یلون بالحق ده فاه ح ص د

(۱۳۹) **حاکم اور ظالم کی شر سے حفاظت** اگر کسی سے حاکم یا کوئی ظالم سخت خفا ہو تو اس کے سامنے جاتے وقت کثرت سے یہ وظیفہ پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رہے گا الرَّءُوْفُ الْحَلِيْمُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ ۔

(۱۴۰) **اولاد کا مطیع ہونا** اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو ہر نماز کے بعد اس آیت کی ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ پڑھ لے ورنہ کم از کم پچیس مرتبہ ضرور پڑھے آیت یہ ہے: وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ؕ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (پ۲۶ الاحقاف ع ۲)

(۱۴۱) **برائے مقبولیت** جو شخص اس آیت کو نگینہ پر کندہ کرا کر یا تعویذ بنا کر پہنے وہ لوگوں میں بہت مقبول ہوگا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ (پ۱۴ ۔ الحجر ع ۲)

(۱۴۲) **بچہ کی بدخوئی اور غلام کی سرکشی کے لئے** بچہ کی بدخوئی کے واسطے اس آیت کو لکھ کر گلے میں ڈالیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا [١]
يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ
لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا پ١٦ طٰہٰ ع ٦

(١٤٣) چوپایہ سرکشی کے لئے | اگر کوئی جانور سرکشی کرتا ہو تو یہ دعا پڑھ کر اس کے کان میں پھونکے انشاء اللہ تعالیٰ تابع ہو جائے گا
اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝
(پ٣ آل عمران ع ٩)

(١٤٤) چوپایہ کا عیب | اگر گھوڑے یا کسی چوپایہ کے اندر کوئی عیب ہو کہ وہ نہ چلتا ہو یا کہ چلتے چلتے راستے پر سو جانے کی عادت ہو تو اس کے چاروں کھروں پر یہ عمل لکھا جائے [٢] بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ
نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؏ عجفون عجفون عجفون شاشيك شاشيك
شاشيك.

(١٤٥) خوف وڈر کے دور کرنے کے لئے | اس دعا کا بکثرت پڑھنا خوف وڈر کے واسطے نہایت مفید ہے فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ
الرّٰحِمِيْنَ ۝

(١٤٦) دشمن سے حفاظت | اگر اس دعا کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن پر پھیرلے تو دشمن سے محفوظ رہے گا دشمن کے ہجوم سے بھی گذر جائے تو وہ اسے نہیں دیکھ سکیں گے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ پ٧ الانعام ع ١٢

(١٤٧) موذی جانور سے حفاظت | (١) جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب

[١] پ١٥ کہف۔ [٢] پ٣ البقرہ ع ٣٦

کے بعد اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ کر اپنے پورے بدن پر پھونک لے تو تمام حشرات الارض اور چور سے محفوظ رہے گا۔ عَقَدْتُ لِسَانَ
الْحَيَّةِ وَزُبَانَى الْعَقْرَبِ وَيَدَ السَّارِقِ بِقَوْلِ اَشْهَدُ
اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(٢) اس مندرجہ ذیل نقش کو چار کاغذ پر لکھ کر مکان کے چاروں کونوں میں لٹکا دیا جائے تو سانپ وغیرہ مکان میں داخل نہیں ہو سکے گا اور جو سانپ وغیرہ مکان میں پہلے سے موجود ہو نکل جائے گا نقش یہ ہے

٦١١ ١١١ ١٢٨ رح ٥٥ ١١٧ ١١٥ وواہ رواام ااح
اااح ط ٨٥٥ = مّ

(١٤٨) سانپ کا ڈسنا | اگر کسی زہریلے جانور مثلاً سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا ہو تو جس جگہ پر کاٹا ہو اس کے اردگرد گھماتے ہوئے سات مرتبہ یہ آیت ایک ہی سانس میں پڑھ کر دم کرنے سے انشاء اللہ اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ۔
(پ١٩ الشعراء ع ٧)

(١٤٩) بچھو کا ڈنگ مارنا | جس شخص کو بچھو نے ڈنگ مار لیا ہو اگر فوراً یہ دعا پڑھ لے تو زہر اثر نہیں کرے گا۔ نُوْدِيَ
اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (پ١٩ نمل ع ١٤)

(٢) اگر کسی کو بچھو نے کاٹ لیا ہو تو یہ عمل پڑھ کر جھاڑنا مفید ہے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہو گا عمل یہ ہے: شَجَّةٌ قَرْنِيَةٌ

مِلْحَةً بَحْرٍ فَغَطاً

(۱۵۰) **کتے کا کاٹ لینا** اگر کسی کو کتے نے کاٹ لیا ہو تو یہ عمل کسی نئے برتن پر لکھ کر روغن زیتون سے دھو کر اس شخص کو پلانے سے ان شاء اللہ تعالیٰ کتے کا زہر ختم ہو جائے گا مجرب ہے:

« اب ج اع ہ ہ د یاب اللہ »

(۲) اگر کسی کے اوپر کتا حملہ کرے یا حملہ کرنے والا ہو تو گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ لے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رہے گا: وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ (پ۱۵ الکہف ع۳)

(۱۵۱) **برائے دردِ سر** اگر کسی کے سر میں درد ہو یعنی پورے سر میں درد ہو یا کہ آدھے سر میں درد ہو تو یہ حروف لکھ کر سر میں باندھے جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ درد جاتا رہے گا۔ مجرب ترین عمل ہے: « د م ہ م ل ہ »

(۱۵۲) **دردِ ابرو** دردِ ابرو کے واسطے یہ عمل سات بار پڑھ کر دم کرنا مفید ہے۔ كهيعص كفايتنا حمعسق حمايتنا۔

(۱۵۳) **ضعف دماغ کے لئے** یہ آیت سات مرتبہ پڑھ کر دم کی جائے یا کہ لکھ کر سر میں باندھا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (پ۳۰ الاعلیٰ ع۱)

(۲) ضعفِ دماغ سے متعلق امراض کے لئے یہ آیت زعفران سے لکھ کر سر میں باندھا جائے بہت مفید ہے۔ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ

الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (پ۳۰ العلق ع۱)

(۱۵۴) **برائے دفع نسیان** نسیان کو دور کرنے کے لئے ہر فرض نماز کے بعد تیرہ مرتبہ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اور گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي (پ۱۶ طٰہٰ ع۲)

(۱۵۵) **بے خوابی** سوتے وقت گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھ لینے سے نیند خوب آئے گی: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (پ۲۲ الاحزاب ع۷)

(۱۵۶) **زیادہ نیند آنا** اگر کسی کو نیند بہت زیادہ آتی ہو تو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے ان شاء اللہ نیند کم ہو جائے گی: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (پ۸ الاعراف)

(۱۵۷) **سرسام یعنی دردِ نیم سر** سرسام کے مریض کے سر

ہیں یہ آیت لکھ کر باندھی جائے اور بارش کے پانی پر گیارہ مرتبہ پڑھ کر پلائی جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ مرض دور ہو جائے گا۔ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا (پ۱۷ الانبیاء ع ۵)

(۲) سورۂ عنکبوت روغن بلسان پر گیارہ مرتبہ دم کر کے سر میں لگانے سے ان شاء اللہ تعالیٰ سرسام کا مرض ختم ہو جائے گا، مجرب ہے۔

(۱۵۸) دفع جنون کے لئے

سات کنوؤں کے پانی پر یہ آیت گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور مریض کو پلائیں ان شاء اللہ تعالیٰ شفایاب ہوگا بہت مجرب ہے۔ یہ عمل کم از کم احتیاطاً ایک ہفتہ تک کرنا چاہیئے۔ سورۂ جن ابتداء سورت سے رَشَدًا تک۔

(۲) سورۂ معوذتین بھی حسب ترکیب بالا پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ شفاء ہوگی۔

(۱۵۹) ھـزیان

یعنی وہ مرض جو آدمی پاگل جیسی باتیں کرے اس کے سر میں یہ آیت لکھ کر باندھی جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ہزیان دور ہو جائے گا۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (پ۲ البقرہ ع ۲۸)

(۱۶۰) مالیخولیا یعنی مرض وہم

جیسے وہم کی بیماری ہو اس پر ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ معوذتین اور گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کیا جائے۔ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

(۱۶۱) آشوب چشم یعنی آنکھ کا دکھنا

نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سورۂ ملک پڑھ کر دم کرنا آشوب چشم کے واسطے مفید ہے۔

(۲) آشوب چشم پر پندرہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کی جائے ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا ہو جائے گا۔ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا .... إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پ۲۸ التحریم ع ۲)

(۱۶۲) ناخونہ یعنی آنکھ کی پتلی کی سفیدی

تین مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھ کر آنکھوں پر دم کیا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ ناخونہ ختم ہو جائے گا۔

(۲) یہ آیت لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے ناخونہ سے محفوظ رہے گا۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (پ۱۳ ابراہیم ع ۲)

(۳) سورۂ حٰمٓ سجدہ لکھ کر بارش کے پانی سے دھویا جائے اور اس پانی سے سرمہ پیس کر آنکھوں میں لگانے سے ان شاء اللہ سفیدی ختم ہو جائے گی، مجرب ہے۔

(۱۶۳) موتیا بند

ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت تین مرتبہ پڑھ کر انگلی پر پھونک مار کر آنکھوں پر پھیرا جائے موتیا بند کے واسطے مفید ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (پ۲۶ ق ع ۲)

(۲) ایک مرتبہ سورۂ یٰسین پڑھ کر سرمہ پر دم کر کے آنکھوں پر لگایا جائے

تو انشاء اللہ تعالیٰ موتیا بند جاتا رہے گا۔

(۱۶۴) **زخمِ چشم** سورۂ ہمزہ پڑھ کر آنکھوں کے زخم پر دم کیا جائے انشاء اللہ شفاء ہوگی۔

(۲) جس کی آنکھ میں زخم ہو یا چوٹ لگ گئی ہو اس پر گیارہ مرتبہ النَّافِعُ الْبَارِئُ پڑھ کر دم کیا جائے۔

(۱۶۵) **ضعفِ بصر** ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر تین تین بار درود شریف اور گیارہ بار یَا نُوْرُ پڑھ کر انگشت شہادت پر پھونک مار کر آنکھوں پر پھیر لیا جائے ضعفِ بصر کے لئے مفید ہے۔

(۱۶۶) **دردِ کان** اگر کسی کے کان میں درد ہو تو یہ آیت سرسوں کے تیل پر پڑھ کر کان میں ٹپکایا جائے درد جاتا رہے گا۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا۔

(پ ۱۵ بنی اسرائیل ع ۴)

(۱۶۷) **نکسیر کے لئے** جسے نکسیر ہوا ہو اسے یہ آیت گیارہ مرتبہ پانی پر دم کرکے پلایا جائے انشاء اللہ تعالیٰ خون کا آنا بند ہو جائے گا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ۔ (پ ۴ آلِ عمران ع ۱۵)

(۱۶۸) **نزلہ و زکام** اگر کسی کو نزلہ کی وجہ سے چھینکیں بکثرت آتی ہوں تو گیارہ بار یہ آیت کسی کھانے کی چیز پر پڑھ کر مریض کو کھلایا جائے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا (پ ۱۵ الکہف ع ۱)

(۱۶۹) **دردِ دانت** جس کسی دانت میں درد ہو وہ اس آیت کو

کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر دانت کے نیچے دبائے انشاء اللہ تعالیٰ دانت کا درد جاتا رہے گا۔ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ۔

(پ ۷ الانعام ع ۸)

(۱۷۰) **دردِ داڑھ** اگر کسی کے داڑھ میں درد ہو تو ان حروف کو دیوار کے اوپر لکھ کر کسی میخ سے پہلے حرف کو زور سے دبائے، حروف یہ ہیں: ح، ب، ر، ص، لا، و، ع، م، لا۔ (پ ۱۹ الفرقان ع ۵) اور دباتے وقت یہ دعا پڑھے وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِی الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (پ ۷ الانعام ع ۲) پھر اس سے پوچھے کہ کیا درد ختم ہوگیا، اگر وہ جواب دے کہ ہاں درد ختم ہے تو اس میخ کو اسی حرف پر دیوار میں گاڑ دے اور اگر وہ نفی میں جواب دے تو اسی طرح دوسرے حرف پر۔ جس حرف پر درد ختم ہو جائے اسی حرف پر میخ دیوار میں ٹھونک دے انشاء اللہ تعالیٰ ان حروف میں سے کسی پر درد ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کے دوران جس کے درد ہے وہ اپنا ہاتھ درد والے داڑھ پر رکھے یہ دعا تین مرتبہ پڑھ کر جس کی داڑھ میں درد ہو اسے دم کیا جائے نہایت مجرب ہے۔

(۱۷۱) **نقصِ کلام** مغز بادام پر ایک سو ایک بار یہ آیت دم کرکے کھلانا لکنت کے واسطے بہت مفید ہے، رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَيَسِّرْ لِیْٓ اَمْرِیْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِیْ يَفْقَهُوْا قَوْلِیْ۔

(پ ۱۶ طٰهٰ ع ۲)

(۱۷۲) **لقوہ کے لئے** جس شخص کو لقوہ ہوگیا ہو اسے یہ آیت لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالا جائے انشاء اللہ تعالیٰ شفاء ہوگی، قَدْ

نَرٰی تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِی السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (پ۲ البقرہ ع ۱۷)

(۱۷۳) کالی کھانسی، کھانسی | اگر کسی کو کھانسی ہو گئی ہو تو یہ آیت اکیس مرتبہ سیاہ نمک پر دم کرکے چٹایا جائے: وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَیْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (پ۲۳ ص ع ۲)

(۲) جس کو کالی کھانسی ہو گئی ہو تو سات دن تک اکتالیس مرتبہ سورۃ اَلَمْ نَشْرَحْ پانی پر دم کرکے پلایا جائے اور اسی سورت کو لکھ کر گلے میں لٹکائیں ان شاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی، مجرب ہے۔

(۱۷۴) دردِ پھیپھڑا | سورۃ یٰسٓ ابتدا سے پہلے مُبِیْن تک سات بار پانی پر دم کرکے پھیپھڑے کے مریض کو پلایا جائے اور اسی کو لکھ کر اسی کے گلے میں ڈالا جائے بہت نافع ہے۔

(۱۷۵) دمہ کے لئے | سورۃ فاتحہ چینی کی رکابی پر زعفران سے لکھ کر سات یوم تک مسلسل دمہ کے مریض کو پلایا جائے بہت مفید ہے۔

(۱۷۶) دردِ دل | اگر کسی کے دل میں درد ہو تو یہ آیت لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں اس طرح لٹکایا جائے کہ تعویذ دل پر لٹکا رہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ درد ختم ہو جائے گا۔ یَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِیْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ (پ۱۴ النحل ع ۹)

(۱۷۷) دل کا دھڑکنا | اگر کسی کا دل دھڑکتا ہو یہ آیت لکھ کر گلے میں اس طرح سے لٹکایا جائے کہ تعویذ ہمیشہ دل پر ہی پڑا رہے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

(۱۷۸) دل کا ڈوبنا | دل کے مریض کو یہ آیت لکھ کر گلے میں باندھنا اور

چینی کی پلیٹ پر لکھ کر دھو کر پینا بہت مفید ہے۔ قُلْ یٰعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (پ۲۴ الزمر ع ۶)

(۱۷۹) دردِ معدہ | یہ آیت پانی پر دم کرکے مریض کو پلایا جائے اور اسی کو لکھ کر گلے میں ڈالا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ معدہ کا درد جاتا رہے گا۔ قُلْ اِنَّنِیْ هَدٰىنِیْ رَبِّیْۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ۔ (پ۸ الانعام ع ۲۰)

(۱۸۰) دست کے لئے | جب دست آ رہے ہوں اُسے پہلے دن بِسْمِ اللّٰهِ دوسرے دن بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الٓمّٓ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لکھ کر پیٹ پر باندھا جائے۔

(۲) اگر خونی دست آتے ہوں تو اکیس دن تک یہ آیت لکھ کر پانی میں دھو کر پلایا جائے اور اس کو لکھ کر گلے میں پہنایا بھی جائے بہت مفید و مجرب ہے۔ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ وَهُدًی وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْیَفْرَحُوْا هُوَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُوْنَ (پ۱۱ یونس ع ۶)

(۱۸۱) قے پانی اور خونی | اگر متلی آتی ہو تو آیت تین بار پانی پر دم کرکے پلایا جائے۔ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ (پ۲۶ محمد ع ۱)

(۲) اگر خون کی قے آتی ہو تو اکیس (۲۱) روز تک بعد نماز ظہر اکتالیس روز یہ آیت پانی پر دم کرکے پلایا جائے تو ان شاء اللہ العزیز شفاء ہوگی اور خون آنا بند ہو جائے گا۔

(۱۸۲) پیاس کی زیادتی جسے پیاس بہت زیادہ لگتی ہو اسے اکیس مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کرکے پلائی جائے: وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا۔

(پ ۱۹ الفرقان ع ۵)

(۱۸۳) بھوک کی کمی اگر بھوک ...... نہ لگتی ہو تو اکیس مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کرکے پلائی جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بھوک خوب لگے گی مجرب ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ۔

(پ ۱۸ النور ع ۱)

(۱۸۴) بھوک کی زیادتی گیارہ بار یہ آیت پانی پر دم کرکے پلانے سے بھوک کی زیادتی ختم ہو جائے گی، آیت یہ ہے: وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ (پ ۲۶ الذاریات ع ۱)

(۱۸۵) درد زخم درد جگر و درد تلی جگر میں زخم اور پتھری وغیرہ ہو تو اس دعا کو لکھ کر مقام درد پر باندھنا بہت مفید ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا قَوِيُّ يَا مَنْ قَوِيٌّ يَا مَنْ اَمَرَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

(۲) جگر کی تمام بیماریوں کے لئے اکیس (۲۱) بار یہ آیت پانی پر دم کرکے پلانا نافع ہے: تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ
(پ ۲۷ سورۃ رحمٰن)

(۱۸۶) پتہ کی بیماری پتہ کی بیماری کے لئے گیارہ بار یہ آیت پانی پر دم

کرکے پلانا مفید ہے: اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (پ ۱۶ طٰہٰ ع ۱)

(۱۸۷) یرقان کی بیماری کے لئے (۱) جسے یرقان ہو گیا ہو اس کو چاہئے کہ وہ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ الخ لکھ کر گلے میں ڈال لے ان شاء اللہ العزیز یرقان جاتا رہے گا۔ مجرب ہے۔ (۲) ایک سو ایک بار یہ آیت پانی پر دم کرکے پلانا یرقان کے لئے بہت مفید ہے۔ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔ (پ ۲۸ الصف ع ۱)

(۱۸۸) درد بازو کے لئے داہنے بازو میں درد ہو تو تین بار یہ آیت پڑھ کر درد کی جگہ دم کیا جائے ان شاء اللہ درد جاتا رہے گا۔ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ (پ ۲۹ الحاقہ ع ۱)
جن کے بائیں بازو میں درد ہو اسے یہ آیت لکھ کر جس جگہ درد ہو وہاں باندھا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ درد ختم ہو جائے گا۔ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ (پ ۲۷ الواقعہ ع ۱)

(۱۸۹) درد گردہ کے لئے اگر گردہ میں پتھری ہو گئی ہو تو سورۃ تَبَّتْ يَدَآ اور یہ آیت چینی کی رکابی پر لکھ کر عرق مکوہ سے دھو کر گیارہ دن تک پلانا نہایت ہی مفید ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ٥
(پ ۱۱ یونس ع ۶)

(۱۹۰) پیشاب کی بندش اگر کسی کے پیشاب کا آنا بند ہو گیا ہو تو اکیس (۲۱) مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کرکے مریض کو پلانا چاہئے یا لکھ کر گلے میں ڈالا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ پیشاب جاری ہو جائے گا۔ وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا

اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا قد
علم کل اناس مشربھم کلوا واشربوا من رزق اللہ
ولا تعثوا فی الارض مفسدین (پ البقرہ ع ۷)

(۱۹۱) **پیشاب کی زیادتی** اگر پیشاب بستر پر نکل جاتا ہو سات مرتبہ آیت لکھ کر پانی میں گھول کر پلایا جائے۔ یٰارض
ابلعی ماءک ویسماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر
(پ ۱۲ ھود ع ۴)

(۱۹۲) **سوزاک کے لئے** (۱) سوزاک کے مریض کو یہ آیت لکھ کر عرق گلاب میں گھول کر پلانا بہت مفید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ویشف صدور قوم مؤمنین اذ جاءتکم موعظۃ من ربکم ورحمۃ ۔ وننزل من القرآن ما ھو شفاء

(۲) سوزاک کے مریض کو یہ آیت لکھ کر گلے میں ڈالنا بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینھم تراھم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ۰ سیماھم فی وجوھھم من اثر السجود ذلک مثلھم فی التوراۃ ومثلھم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فازرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بھم الکفار وعد اللہ الذین امنوا وعملوا الصلحت منھم مغفرۃ واجرا عظیما ۰ پ ۲۶ اواخر الفتح ع ۴

(۱۹۳) **نامردی کے لئے** نامرد کو یہ آیت ایک سو مرتبہ تخم مولی پر دم کر کے اکیس دن تک کھانے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرانا مفید ہے۔ الرجال

قوامون علی النساء (پ ۵ النساء ع ۶)

(۱۹۴) **کثرت احتلام** سوتے وقت شہادت کی انگلی سے سینے پر یا عمر اس طرح لکھے کہ پڑھنے والے کے سامنے سیدھا ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ کثرت احتلام کا مرض جاتا رہے گا۔

(۱۹۵) **بواسیر و نواسیر کے لئے** (۱) یہ آیت لکھ کر بازو پر باندھنا بواسیر کے لئے بہت مفید ہے لا یرون فیھا شمسا ولا زمھریرا (پ ۲۹ الدھر ع ۱)

(۲) فجر کی سنتوں میں ہمیشہ یہ سورتیں پڑھنا بواسیر و نواسیر کے لئے بے حد فائدہ مند ہے پہلی رکعت میں والضحی الم نشرح، الم ترکیف دوسری رکعت میں لایلف کافرون اور سورۃ اخلاص۔

(۱۹۶) **درد ران** (۱) اگر ران میں درد ہو تو یہ آیت لکھ کر درد کی جگہ پر باندھا جائے لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشکرین پ ۱۱ یونس ع ۲

(۲) ران کے درد میں یہ آیت پانی پر دم کر کے پلایا جائے فائدہ ہوگا۔ واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداع اذا دعان پ ۲ البقرہ ع ۲۳

(۱۹۷) **عدم ابھار اور درد پستان** پستانوں کے عدم ابھار میں یہ آیت لکھ کر چھاتی پر باندھنا بہت مفید ہے اور پستانوں میں درد ہو جب بھی یہ عمل نافع ہے وان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشربین ۰ (پ ۱۴ النحل ع ۹)

(۱۹۸) **دودھ کی کمی کے لئے** اگر عورت کے پستانوں میں دودھ پیدا نہ ہوتا ہو تو ایک سو ایک بار یہ آیت بارش کے پانی پر دم کر کے پلایا جائے انشاء اللہ خوب دودھ پیدا ہوگا۔ وھی تجری بھم فی موج کالجبال (پ ۱۲ ھود ع ۴)
فیھما عینان تجریان پ ۲۷ رحمن ع ۳

(۱۹۹) سیلان الرحم | سیلان الرحم کی بیماری ہوگئی ہو تو تین سو مرتبہ یہ آیت عرقِ گلاب پر دم کرکے اکتالیس روز تک پلائی جائے ان شاء اللہ مرض جاتا رہے گا: وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ بحق إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

(۲۰۰) کمی حیض کیلئے | جسے حیض بہت کم مقدار میں آتا ہو، اُسے روزانہ سات سو مرتبہ یہ آیت آبِ زم زم پر دم کرکے ایک ہفتہ تک پلائی جائے اور اسی کو لکھ کر گلے میں ڈالا جائے، وننزل من القرآن ماھو شفاء (پ بنی اسرائیل ع ۹)

(۲۰۱) کثرتِ حیض کے لئے | اگر حیض کا خون زیادہ مقدار میں آتا ہو تو یہ آیت لکھ کر پیٹ پر باندھی جائے: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (پ البقرہ ع ۲)

(۲) تین سو تیرہ بار سورۃ کوثر روزانہ بارش کے پانی پر دم کرکے پلانا کثرتِ حیض کی بیماری میں بہت مفید ہے۔

(۲۰۲) خارش کیلئے | ایک شخص کو خارش ہوگئی وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنی بیماری کے بارے میں عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ روزانہ صبح و شام اکیس مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کرکے اکتالیس روز تک پیو بفضلہ تعالیٰ اس عمل سے وہ اچھا ہوگیا: فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

(پ۱۸ قد افلح المؤمنون ع ۱)

(۲) سیدنا حضرت امام جعفر صادقؒ نے فرمایا کہ صبح و شام سات سات مرتبہ سورۃ قدر پانی پر دم کرکے پلانا خارش کے لیے بہت مفید ہے

(۲۰۳) جہت برائے نصیبہ وری دختر لڑکی کی خوش بختی اور اچھے مستقبل کے لئے | اور لڑکیوں کے نصیبہ کھلنے کے لئے

مینہ کے پانی پر یا کنویں کے پانی پر جو رات کا کھینچا ہوا ہو یعنی رات کا باسی ہو تین دن تک ہر روز تیس ۳۰ مرتبہ پڑھے جب پہنچے هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ پر یا فتاح کو موافقت عدد جمل کے پڑھے، پھر اسی پانی سے ہاتھ پاؤں دھو کر اس پانی کو ایسی جگہ پھینکے جہاں اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑے، مجرب ہے۔

(۲۰۴) ناراض کو راضی کرنے کے لئے | جو شخص کسی سے بیزار ہو اسے مہربان کرنے کے واسطے شب جمعہ کو آدھی رات کے وقت تیس ۳۰ بار اس آیت شریف کو پڑھے: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بعد اس کے پڑھے اللّٰهُمَّ أَنْتَ يَا رَبِّ حَسْبِي عَلَى فلان ابن فلان یا فلانة بنت فلان واعطف قلبه یا قلبها وذلّله یا ذلّلها لی تو بیشک اللہ تعالیٰ اسکے دل کو اس پر مہربان کر دیتا ہے اور مطیع کر دیتا ہے یہ عمل چلتا ہوا ہے مناسب ہے کہ جب شب کو پلنگ پر سونے کے لئے لیٹے تو سات دفعہ پڑھے: حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تو خداوند تعالیٰ اس کی برکت سے مدد کرے گا اس کے کلام میں جو ارادہ رہتا ہے خواہ سچا ہو یا جھوٹا۔

(۲۰۵) جہت رفع پیشاب و سنگ مثانہ

پیشاب رک جانے اور پتھری کا علاج

جس شخص کو خون کے دست درد کے ساتھ آتے ہوں اس کے رفع کے واسطے یہ آیت شریف روز لکھ کر دھو کر پلائیں انشاء اللہ العزیز بہت جلد شفاء ہو جائے گی۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔

(۲۰۶) جس شخص کا پیشاب و پاخانہ بند ہو گیا ہو

جس شخص کا پیشاب پاخانہ بند ہو گیا ہو تو یہ آیتیں ایک پاک برتن میں لکھ کر پانی سے دھو کر پلائیں پیشاب یا پاخانہ آجاوے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً۔

(۲۰۷) جہت دفع نظر بد

جس بچہ کو نظر لگ جائے یا ضد کرتا ہو یا سوتے میں ڈرتا ہو تو قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ تین دفعہ پڑھ کر اس پر دم کرے اور یہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالے
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ۔ اور یہ دعا لکھے اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَّهَامَّةٍ وَّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ۔

ہر درد و مرض اور ہر قسم کے سحر و آسیب کے لئے

(۲۰۸) ہر درد و مرض اور ہر قسم کے سحر و آسیب کے لئے

مندرجہ ذیل دعا کی ہر قسم کے درد و مرض اور سحر و آسیب کے لئے تعویذ بنا کر تین ٹکڑے نیلے رنگ کے کپڑے میں سی کر گلے میں ڈالی جائے۔
اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔
اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَرِّ مَا خَلَقَ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ۔

مندرجہ ذیل نقش کو اکیس ۲۱ ایام تک عرقِ گلاب یا سادہ پانی میں ڈال کر صبح نہار منہ پیا کریں۔

يَا حَفِيْظُ	يَا رَحِيْمُ	يَا حَافِظُ
يَا كَرِيْمُ	يَا حَيُّ	يَا قَيُّوْمُ
يَا رَحِيْمُ	يَا رَحِيْمُ	يَا رَحِيْمُ

(۲۰۹) بچہ مٹی کھاتا ہو

گلے میں ڈالنے کے لئے وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ۝

(۲۱۰) برائے حصار اعظم

① رات سونے سے قبل باوضو ہو کر بستر پر بیٹھ جائے اور رو بقبلہ ہو کر سورۃ فاتحہ ...

② آیۃ الکرسی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تک سات مرتبہ پڑھے۔

③ اواخر سورۂ بقرہ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ سے آخر تک ایک مرتبہ

④ اواخر سورۂ حشر ۲۸ کی تین آیتیں ایک مرتبہ۔

⑤ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے قلب اور روح پر پھونک مار کر دم کرے اور پھر دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں پر پھونک مار کر اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیر دے یعنی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور اپنے چاروں طرف بھی پھونک مارے انشاء اللہ تعالیٰ ساری رات ہر قسم کے خوف و ہراس اور شیاطین سے حفاظت ہوگی۔

(۲۱۱) دعائے خضری

ہر دینی و دنیاوی مقصد میں کامیابی کے لئے مجرب ہے۔ پہلے تین بار درود شریف پڑھیں پھر دعا پڑھیں۔

① بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

② مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ السُّوْٓءَ اِلَّا اللّٰهُ

③ مَاشَاءَ اللّٰهُ مَا كَانَ مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ

④ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

نمبر ۱ پڑھے تو دل میں خیال کرے کہ یا اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں۔

نمبر ۲ اور نمبر ۳ پڑھے تو خیال کرے کہ میں بے بس ہوں تمام

ضروریات کا انتظام آپ ہی کریں گے۔

نمبر ۴ پڑھے تو یہ دھیان رکھے کہ اے اللہ میں نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا اب مجھے کوئی پریشانی نہیں

(۲۱۲) بچہ سے دودھ چھڑانے کے لئے

جب بچہ کا دودھ چھڑانا ہو تو سورۂ بروج لکھے اور بچہ کے گلے میں باندھے آسانی سے دودھ چھوڑ دے گا۔ اور یہ لکھ کر چند روز پلایا جائے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْمَتِيْنِ الَّذِيْ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِقُوَّةِ الْمَتِيْنِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(۲۱۳) اسم اعظم کا عمل

امتحان میں کامیابی، رزق کی فراوانی، عزت و جرأت پیدا کرنے اور بزدلی دور کرنے وغیرہ کے لئے یَا اَللّٰهُ ایک بار، دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھے اور یَا وَاحِدُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ تین بار، یَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ایک بار۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ تین بار، یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ایک بار۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ تین بار۔ يَا اِلٰهَنَا وَاِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ وَّاحِدٌ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ ایک بار۔ پھر مندرجہ ذیل دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ

تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(۲۱۴) ناجائز تعلقات سے بچاؤ کا عمل

صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورۂ فاتحہ ترکیب ذیل سے پڑھی جائے (۱) بسم اللہ کے آخر کے میم کو الحمد للہ کے لام سے ملا دو (اس طرح رَحِيْمِلْ حَمْدُ) (۲) یہ عمل اتوار کے دن سے شروع کیا جائے۔ اس طرح کہ اتوار سے صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ستّر مرتبہ

پیر کے روز	صبح کی سنتوں	اور فرضوں کے درمیان	۶۰	مرتبہ
منگل کے روز	〃	〃	۵۰	مرتبہ
بدھ کے روز	〃	〃	۴۰	مرتبہ
جمعرات کے روز	〃	〃	۳۰	مرتبہ
جمعہ کے روز	〃	〃	۲۰	مرتبہ
ہفتہ کے روز	〃	〃	۱۰	مرتبہ

اول اور آخر سات مرتبہ درود شریف پڑھے۔

(۲۱۵) بچہ کے حفظ کے لئے ایک روٹی پر باوضو بروز جمعرات سات جگہ نیچے لکھی ہوئی آیت کو اسطرح لکھا جائے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۔ پھر ہر روز نہار منہ اس کو ایک ٹکڑا کھلایا جائے یہ عمل سات جمعرات تک رہے

(۲۱۶) تکلیف تنفس کے لئے یَا حَمِیْدُ روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھا کریں اور چودھویں رات میں کورے برتن میں سورۂ ناس لکھیں اور اس میں پانی بھر کر کچھ پئیں اور باقی سے وضو کریں۔

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ الآیۃ

پ ۱۵ س بنی اسرائیل ع ۹

مجرب عملیات وتعویذات

استاد الکل در قصبۂ دیوبند

مولانا محمد یسین صاحب قدس سرہٗ

والدِ بزرگوار حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ

اس قدر زود اثر اور مجرب ہیں کہ اکابرین علماءِ دیوبند کے معمولات میں شمار کیے جاتے ہیں

ناشر

المکتبۃ الحبیب دکھنی مسجد

پاکستان چوک کراچی

عملیات از شمس المعارف تصنیف شیخ احمد بن علی البونی متوفی ۶۲۲ھ

دشمنوں کے شر اور تمام آفات و بلیات سے حفاظت اور حل مشکلات کا مجرب علاج


(از شمس المعارف حصہ ۱۲ مجلد ۳)

شمس المعارف میں اس عمل کے فوائد حسب ذیل بیان کئے ہیں

ولنختم هذا الفصل بذكر غريب وورد عجيب لا يناجي الله به عبد الا عتق ولا اسير الا انطلق ولا خائف الا امن ولا فقير الا استغنى ولا ذليل الا اعز وفيه معنى بديع لقصم الجبارين وقطع دابر الظلمين والمفسدين ومن كتبه وحمله ذل له كل جبار عنيد و شيطان مريد ولا يراه احد الا احبه - ومن اكثر من ذكره امار الله قلبه بنور المعارف وحفظه في اهله وماله وعياله ونفسه و كفاه شر ما يخاف ولا يذكره ملك الا اتسع ملكه ونفذت كلمته و فيه اسم الله الاعظم ومن ذكره بين يدي جبار وقت غضبه كف ومن سال الله به حاجه اعطاه ما سال فانه التوحيد بهذا الذكر

واستغن به من كثير من الاذكار التمرينية في مثل هذا النوع والدخول عليه يعرفه ارباب البصائر وذكرها الاسم الجامع لاكابر الواصلين وهي قيوم لارباب البدايات ولو اراد الانسان ان ينبئهم عن اسرار هذا الياقوت الباهر والسر الزاهر من جهة اسراره العددية وآثاره الحرفية واسمائه النورانية واوضاعه الوفقيه لاستوعب من ذالك عشرة وينبغي لملوك والامراء والاكابر والصلحاء وافاضل العلماء وحذاق الحكماء التوجه به في الاولى من يوم الجمعة او يوم الاحد او يوم عرفه او يوم العيدين او يوم عاشوراء او ليلة النصف من شعبان او ليلة ۲۷ رمضان او في غرة كل شهر او يا الى جميع الدهر تظفر بخيري الدنيا والاخرة والسعادة العظمى وهذا امر الورد المبارك -





ولاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم اللّٰھم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔

لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ۱۲۶ مرتبہ پڑھے
حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت و ھو رب العرش العظیم۔ ۷ مرتبہ پڑھے۔

بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئ فی الارض ولا فی السماء وھو السمیع العلیم۔ ۳ مرتبہ پڑھے۔

سلام قولا من رب رحیم۔ ۱۹ مرتبہ پڑھے۔

لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ۱۱ مرتبہ پڑھے۔

اللّٰھم یا ودود۔ ۳ مرتبہ پڑھے۔

یاذا العرش المجید یا مبدی یا معید یا فعال لما یرید اسئلک بنور وجہک الذی ملاء ارکان عرشک وبقدرتک التی قدرت بہا

علی جمیع خلقک وبرحمتک التی وسعت کل شیئ لا الہ الا انت یا غیاث المستغیثین اغثنی۔ ۳ مرتبہ پڑھے۔

اللّٰھم یا علی یا عظیم یا ولی یا حلیم یا حنان یا منان یا رحیم یا رحمٰن یا جمیل یا عطوف یا کریم یا رؤف اسئلک باسمک المخزون ان تفیض علی من فیض جمالک الاقدس وکمالک الانفس سر انوار اسماء ربانیا حتی التصرف فی النفوس والارواح والصبح والاشباح بصیحات المحبۃ وصیحات المودۃ یا من یفرج عن المحزونین یا انیس المستوحشین اللّٰھم انی اسئلک بسر الالف المعطوف الذی ھو مبدا الحروف یا وھاب یا نافع یا تواب اللّٰھم انی اسئلک شوقا یوصلنی الیک و نورا یدلنی علیک وتلقنی بالروح والریحان وفرحتی بالامن منک والرضوان یا باسط یا واحد یا ماجد۔ ۳ مرتبہ پڑھیں۔

ربی لا شریک لہ ولا اشرک بہ شیئا اللّٰھم من ارادنی بسوء او ضرا او شرا فاقمع راسہ واقطع لسانہ والجم فاہ واحبس کیدہ وحل بینی وبینہ۔

یا دائم یا حمید یا مجیب یا مجید بحرمۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ۹ مرتبہ پڑھے۔

اللّٰھم انی اسئلک بالسر الجامع والنور الساطع ان تھبنی فرقانا منک تشرح بہ صدری وترفع بہ قدری انت وجہتی وجاھی والیک المرجع والمآب تجبرا کسیرا وترحم الفقیر لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم و

لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السموات والارض
ورب العرش الكريم اللهم رب جبرئيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل
وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب عافني واعف عني ولا تسلط علی
احدا من خلقك يا الله بشيئ لا طاقة لی به يا سميع الدعاء يا مجيب
النداء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم توكلت علی الحی الذی لا يموت
والحمد لله الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فی الملك وكبره تكبيرا
الله اكبر - ٣ مرتبہ پڑھے -

اللهم انی اعوذ بك مما اخاف واحذر واعوذ بالله الذی لا
اله الا هو ممسك السماء ان تقع علی الارض الا باذنه من كل جبار
عنيد وشيطان مريد اللهم انی اسئلك امانا من الفقر وامانا من
الرد وامانا من الذم وامانا من الذم وامانا من الهم وامانا من الغم
امانا من الذل وامانا من الجهل وامانا من الفتن وامانا من الخسف و
امانا من الرجف اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی
الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انی اسئلك بمحمد السيد الكامل الفاتح الخاتم
نور انوار المعارف وسر اسرار العوارف وصفوة خلقك وسر علمك ومرآة
ذاتك ومتعهد صفاتك وسلك بنور وجهك وبساط رحمتك و
بالسبعة والثانية واسرارها المتصلة منك -
يا الله - ٣ مرتبہ پڑھے -
يا احد صمد يا حی يا قيوم ان تهبنی من علمك علما ومن حياتك

روحا ومن ارادتك حكما ومن قدرتك فعلا ومن كلماتك لسانا ومن
سمعك فهما ومن بصرك كشفا ومن احاطتك قياما وامنحنی منك
بك سرا تخضع له اعناق المتكبرين وتنقاد اليه نفوس الجبابرين فلك
الحمد يا رب علی كل بداية ولك الشكر علی كل نهاية انك انت الغنی
الحميد اللهم ارحنی علی فراش رحمتك بمنك واحرسنی بمحارس منعتك
وصونك وردنی برداء الهيبة واجلسنی علی سرير العظمة متوجا بتاج
البهاء واضرب علی سرادقات الحفظ وانشر علی لواء العز وليرلی الرزق
واملأ بالی خشية ورحمة وظاهری عظمة وهيبة وملكنی ناصية
كل جبار عنيد وشيطان مريد واعصمنی من الخطاء والزلل وايدنی فی القول
والعمل اللهم انی اسئلك بك وبما اشتملت عليه ذاتك مما لا يعلمه
احد سواك ان تصلی علی سيدنا محمد الذات المحمدية واللطيفة الاحدية
شمس سماء الاسرار ومظهر الانوار وقطب فلك الجمال ومركز مدار
الجلال اللهم انی اسئلك بسره لديك وبسره اليك ان تؤمن
خوفی وتقيل عثرتی واذهب حرصی وحزنی وكل نفسی وخذنی اليك
وارزقنی القناعة ولا تجعلنی مفتونا بنفسی محجوبا بحسی واكشف لی عن كل
سر مكتوم يا حی يا قيوم واكفنی بلطف ترتاح اليه ارواح الاولياء وتنبسط
له نفوس السعداء فلك المجد الاوسع والملك الاجمع اللهم انی اسئلك
بكل اسم سبق فی علمك انك لا تمنع من السوال به طالبا ولا ترد من
سال به خائبا اسئلك ان تقضی حاجتی فيما اريد وان تعصمنی عن

العائبة انك تعلم ما اريد ولك مقاليد الامور وانت على كل
شيئ قدير اللهم انى اسئلك واتوسل اليك بسم الرحمن الرحيم
ان تفيض على من ملابس انوارك ما يرد عنى ابصار الاعداء الناظرة
وايديهم قاصرة وان تكسونى فى كل احوال بهجة منك ترتاح اليها
ارواح المدركين وتخشع لها ابصار الناظرين وتسير بها اسرار العارفين
انك انت علام الغيوب ومعلمها وكاشف الاسرار ومنهيها لك
الحمد والمدح وبيدك الخير والنعم اللهم صل على انبيائك والمرسلين
وملائكتك المقربين واوليائك الصالحين وعلى اهل طاعتك اجمعين و
بلغهم سلامنا وتحيتنا وبلغنا شفاعتهم يوم التناد امنيتنا اللهم انى صرفت
رجائى الى وجهك الكريم واحسنت ظنى فى عفوك العظيم فابحق دوام
والذى واغفر لى وللمسلمين ولا تصرف رجائى عن وجهك خائبا ولا
تجعل حسن ظنى فى عفوك كاذبا اللهم كيف نصدر عن بابك بخيبة و
قد امرتنا بدعائك يا ارحم الراحمين اللهم انى اسئلك ان ترحمنى
اذا انقضى اجلى وانقطع عملى ولبث كفنى وفارقت مسكنى يا رب الارباب
يا مسبب الاسباب يا معتق الرقاب ويا كاشف العذاب بحق النور
انت ارحم الراحمين بسم الله الشافى بسم الله الكافى بسم الله المعافى
الم المر كهيعص حمعسق طسم طس حم ق ن فالله خير حافظا وهو
ارحم الراحمين ـ

اس کے بعد۔ لا اله الا الله۔ ایک ہزار مرتبہ پڑھے۔

یا لطیف ۱۲۹ مرتبہ پڑھے
یا کافی ۔ ۱۱۱ مرتبہ پڑھے۔ یا حلیم ۔ ۸۸ مرتبہ پڑھے۔
یا مجیب ۔ ۵۵ مرتبہ پڑھے۔ یا سلام ۔ ۱۳۱ مرتبہ پڑھے۔
یا حفیظ ۹۹۸ مرتبہ پڑھے۔

ویدعو بعد ذالک بما یرید من امور الدنیا والآخرة یستجاب
له فتدبر ذالک فانه من الاسرار العظیمة وصلی الله علی سیدنا محمد
النبی الامی وعلی آله وصحبه وسلم۔

(شمس المعارف الکبری ص ۱۲ تا ۱۴ جلد دوم)



ایضاً دعاء برائے دفع مصائب و شر اعداء از شمس المعارف

ھٰذا الدعاء یُروی عن عبد اللہ بن محمد بن ابی زید القیروانی
فما رأیت اسرع اجابۃ من ھٰذا الدعاء ویعلم الدعاء بہ علی کل
سلطان جائر ولعن ظالم وفی المصائب والشدائد وھو ھٰذا۔



اللّٰھم یا موضع کل شکویٰ ویا شاھد کل نجویٰ ویا عالم کل خفیہ
ویا کاشف کل بلیۃ یا منجی موسیٰ ومحمد وابراھیم الخلیل صلوات
اللہ علیھم اجمعین ادعوک یا الٰھی دعاء من اشتدت فاقتہ
وضعفت قوتہ وقلّت حیلتہ دعاء الغریق الملھوف الذی لا یجد
لکشف ما بہ الا انت لا الٰہ الا انت یا ارحم الراحمین اکشف عنا
ما نزل بنا من عدونا وعدوک الشیطٰن الرجیم یا رب العلمین انہ
علی کل شیئٍ قدیر واغوثاہ یا اللہ واغوثاہ یا اللہ واغوثاہ یا اللہ اللّٰھم
یا بادی الاعطیات لک یا دائم لا نفاد لک یا حیی یا محیی الموتیٰ یا قائم
علی کل نفس بما کسبت الٰھی انت اللہ العزیز الجبار لا الٰہ الا انت
الٰھا واحدا اسئلک بالکلمات التامات الامن والعفو والعافیہ و
المعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرۃ والاھل والجسد
والمال والولد والمسلمین اجمعین یا رب العالمین انک علی کل شیئٍ قدیر

وارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین واکشف عنی ما نزل بی من ضیق
وکلما اردت وخیفتنی خلاماً جمیلاً یا رب العالمین۔
(شمس المعارف ص ج ۲)

قوت حافظہ اور ذہن کیلئے

اسم البصیر حبیبی کی تشتری پر سو مرتبہ لکھے اور بارش کے پانی سے
دھو کر جس کو پلائے اس کا ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہو گا۔
(شمس المعارف ص۵۵ ج۱)

ایضاً بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو سات سو چھیاسی مرتبہ پانی پر دم
کر کے جس کو پلایا جائے اس کا ذہن کھل جائے گا حافظہ قوی
ہو گا اور یہ پانی جس کو پلایا جائے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا
ہو گی۔

عزت و نصرت اور ترقی رزق کیلئے

مندرجہ ذیل نقش کو لوہے یا تانبے کے ٹکڑے پر نقش کر کے اپنے
گھر میں رکھے یہ نہ ہو تو کاغذ ہی پر لکھا اپنے پاس رکھے لوگوں کی نظر میں عزت
اور دشمنوں کے مقابلے میں نصرت اور رزق میں برکت ہو گی۔
(از شمس المعارف ص۵۵ ج۲)

م	ی	ک	ح	ز	ی	ذ	ع	علا
ک	ح	ذ	ی	ذ	ع	م	ی	توکلا
ز	ی	ز	ع	م	ی	ک	ح	وال
ذ	ع	م	ی	ک	ح	ز	ی	ابن
ی	ک	ح	ذ	ی	ز	ع	م	وا
ح	ز	ی	ذ	ع	م	ی	ک	المس
ی	ذ	ع	م	ی	ک	ح	ز	وبن
ع	م	ی	ک	م	ز	ی	ز	عجب

دکان اور تجارت میں برکت کے لیے

مندرجہ ذیل نقش کو لوہے یا تانبے کے پترے پر نقش کرائیں یا پھر کاغذ ہی پر لکھ کر دکان میں رکھیں انشاء اللہ برکت ہوگی۔

(از شمس المعارف صـ۸۹ ج ۲)

عملیاتِ مجربہ از کتاب الرحمہ فی الطب والحکمہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

برائے دردِ سر مجرب

آیاتِ ذیل لکھ کر سر پر باندھیں۔

کھیعص ذکر رحمۃ ربک عبدہ زکریا اذ نادیٰ ربہ ندائً خفیا

حمعسق کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کم من نعمۃ للہ علیٰ کل قلب ناشم وغیر ناشم

وکم من نعمۃ علیٰ کل عرق ساکن وغیر ساکن اسکن ایہا الوجع بحق من

سکن لہ ما فی اللیل والنہار وھو السمیع العلیم۔

آنکھوں کے درد کے لیے

مندرجہ ذیل اسماء لکھ کر آنکھوں پہ باندھیں۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم - لا الٰہ الا اللہ ایمانًا استغلامًا وعمہ

للہ افضالًا وانعامًا واللہ اکبر اکبارًا واعظامًا راغق السموات والارض

اللھم رب قبس تالیس ویل واس وبحر طامس وعجبہ یا حی

ھیلون فی عین الیان الھما عمر عین المیان قل اعوذ برب الفلق من

شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثت فی العقد ومن

شر حاسد اذا حسد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی
والسلام علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین ۔

برائے حفاظت حمل،

مندرجہ ذیل آیات اور دعائیں کاغذ پر لکھ کر حاملہ عورت اس طرح استعمال کرے کہ تعویذ ناف پر رہے ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یمسک السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکھما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرءوف رحیم۔ اللہ حافظ ما فی بطن ھذہ الحامل وربطنا علی قلوبھم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعوا من دونہ الٰھا لقد قلنا اذا شططا۔ فضربنا علی آذانھم فی الکھف سنین عددا یحفظونہ من امر اللہ بینا شمالا من شر لواقح اللیل والنھار یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد ان اللہ یعلم غیب السموات والارض ولبثوا فی کھفھم ثلاث مائۃ سنین وازدادوا تسعا۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین فبشرناھا باسحٰق ومن وراء اسحٰق یعقوب ۔ قال کذالک قال ربک انہ ھو الحکیم العلیم ۔



برائے دردِ زہ وسہولت پیدائش

مندرجہ ذیل آیات واسماء چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پانی میں دھو لیا جائے یہ پانی عورت کو پلائیں اور اس کے پیٹ پر بھی لگائیں ۔ وہ آیہ ہے ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اذا السماء انشقت واذنت لربھا وحقت واذا الارض مدت والقت ما فیھا وتخلت واذنت لربھا وحقت ۔ یوم یرونھا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا ۔ لم یلبثوا الا ساعۃ من نھار بلاغ ۔ لقد کان فی قصصھم عبرۃ لاولی الالباب ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون ۔

ایضاً برائے سہولت ولادت،

مندرجہ ذیل دعا چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پانی سے دھولیں یہ پانی عورت کو پلایا جائے اور ہاتھ پر لگا کر عورت کے پیٹ پر بھی لگائیں ۔

لا الٰہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الٰہ الا اللہ رب السموات السبع ورب العرش العظیم صدق اللہ العظیم الکریم کانھم یوم یرونھا لم یلبثوا الا ساعۃ من نھار بلاغ ۔



وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
(پ ۱۵ بنی اسرائیل ع ۹)

خاندانِ ولی اللّٰہی کے اعمالِ مجرّبہ

خاندانِ ولی اللّٰہی کے اعمالِ مجرّبہ جو زود اثری کے اعتبار سے مقبولِ خلائق ہیں۔ عربی زبان میں تحریر کیے گئے ہیں جن کا ترجمہ زبان اردو بھی ساتھ دیا ہوا ہے جو سہل اور عام فہم ہو


ناشر
المکتبۃ الحبیب دکھنی مسجد
پاکستان چوک کراچی

برائے گریہ طفل،

جو بچہ غیر معمولی طور پر روتا ہو اس کے لیے یہ دعا ایک کاغذ پر لکھ کر گلے میں باندھی جائے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ولہٗ ما سکن فی الیل والنہار وھو السمیع العلیم افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون فاسجدوا للہ واعبدوا الم ترالی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔



خواب میں دانت چبانے کی بندش کے لئے

جو نیند میں دانت چباتا ہو یہ تعویز اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ انشاء اللہ دانت چبانا بند ہو جائے گا۔

۷۸۶

صی	عو	قمر	صر
ھی	عو	قر	تاکر
صی	عو	قر	کر
صی	عو	قر	مر

آٹھویں فصل

خاندان ولی اللہی کے اعمال مجربہ کا بیان

فِی شَیْءٍ مِّنْ فَوَائِدِ سَیِّدِی الْوَالِدِ قُدِّسَ سِرُّہٗ۔

اس فصل میں والد مرشد قدس سرہ کے بعض فائدے مذکور ہیں یعنی حضرت کے خاندانی اعمال مجربہ کا اس میں ذکر ہے۔

برائے کشائش ظاہری و باطنی

اَوْصَانِیْ سَیِّدِی الْوَالِدُ قُدِّسَ سِرُّہٗ بِمُوَاظَبَۃِ یَا مُغْنِیُ کُلَّ یَوْمٍ مِائَۃً وَّاَلْفَ مَرَّۃٍ وَّسُوْرَۃِ الْمُزَّمِّلِ اَرْبَعِیْنَ مَرَّۃً فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَاِحْدٰی عَشَرَ مَرَّۃً وَّقَالَ ھٰذَانِ مُجَرَّبَانِ لِلْغِنَی الْقَلْبِیِّ وَالظَّاھِرِیِّ کِلَیْھِمَا۔

والد مرشد قدس سرہ نے مجھ کو وصیت کی یامغنی کی مواظبت کی ہر دن گیارہ سو بار اور سورہ مزمل پڑھنے کی چالیس بار سو اگر نہ ہو سکے تو گیارہ بار اور فرمایا کہ یہ دونوں عمل غنائے دلی اور ظاہری دونوں کے واسطے مجرب ہیں۔[1]

[1] اور بعض مشائخ سے پڑھنا سورہ مزمل کا اکتالیس بار بھی منقول ہے اور بعض سے نماز میں پڑھنا اس کا اس طرح کہ عشاء کے بعد دو رکعتوں میں اکتالیس بار پڑھے اس طرح کہ اکیس بار پہلی رکعت میں اور بیس بار دوسری رکعت میں اور مولوی فخر الدین صاحب رحمہ اللہ کے مریدوں میں مجرب اس کا ایک طریق یہ ہے کہ بعد سنت فجر کے ایکبار اور ہر نماز کے پنجگانہ میں سے دو دو بار کہ شب و روز میں گیارہ بار ہو جائے اور اس فقیر کو ان سب طرق کی اجازت ہے اور جو چاہے پڑھے اس کو بھی میری طرف سے اجازت ہے جَرَّبْتُ ھٰذَا الْعَمَلَ فَوَجَدْتُہٗ کَذٰلِکَ ۱۲ ق۔

وَاَوْصَانِیْ بِمُوَاظَبَۃِ الصَّلٰوۃِ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کُلَّ یَوْمٍ وَّقَالَ بِھَا وَجَدْنَا مَا وَجَدْنَا۔

اور مجھ کو وصیت کی درود کی ہمیشگی پہ ہر روز اور فرمایا کہ اسی کے سبب سے ہم نے پایا جو پایا۔[1]

برائے درد دندان و درد سر و درد ریاح

وَسَمِعْتُہٗ یَقُوْلُ اِذَا جَآءَکَ مَنْ یَّتَاَلَّمُ ضِرْسُہٗ اَوْ رَاْسُہٗ اَوْ تُوْجِعُہُ الرِّیَاحُ فَخُذْ لَوْحًا طَاھِرًا وَّضَعْ عَلَیْہِ رَمْلًا طَاھِرًا وَّاکْتُبْ بِمِسْمَارٍ اَبْجَدْ ھَوَّزْ حُطِّیْ وَشَدِّدْ بِالْمِسْمَارِ عَلَی الْاَلِفِ وَاقْرَاِ الْفَاتِحَۃَ مَرَّۃً وَّصَاحِبُ الْاَلَمِ وَلْیَضَعْ اِصْبَعَہٗ عَلٰی مَوْضِعِ الْاَلَمِ بِقُوَّۃٍ ثُمَّ سَلْہُ ھَلْ شُفِیْتَ فَاِنْ شُفِیَ فَبِھَا وَاِلَّا نَقَلْتَ الْمِسْمَارَ اِلَی الْبَآءِ وَقَرَاْتَ الْفَاتِحَۃَ مَرَّتَیْنِ وَسَاَلْتَہٗ کَذٰلِکَ فَاِنْ شُفِیَ فَبِھَا وَاِلَّا نَقَلْتَ

اور سنا میں نے والد مرشد سے فرماتے تھے کہ جب کوئی تیرے پاس اپنے دانت کے درد یا سر کے درد سے نالاں آوے یا اس کو ریاح ستاتے ہوں تو ایک تختی یا پٹری پاک لے اور اس پر پاک ریتا ڈال اور ایک کیل یا کھونٹی سے اس پر ابجد ہوز حطی لکھ اور کیل کو الف پر زور سے داب اور ایک بار سورۂ فاتحہ پڑھ اور درد والا آدمی اپنی انگلی کو درد کے مقام پر زور سے رکھے رہے پھر اس سے پوچھ کر تجھکو آرام ہو گیا اگر درد جاتا رہا تو خوب ہے اور نہیں تو کیل کو دوسرے حرف یعنی بے کی طرف نقل کرے اور دو بار سورۂ فاتحہ پڑھے اور پوچھے پہلی بار کی طرح کہ صحت ہوئی یا نہیں اگر صحت ہو گئی تو فہو المراد اور نہیں تو جیم کی طرف کیل کو نقل کرے اور تین بار الحمد پڑھے

[1] ظفر جلیل میں کچھ نام سے درود شریف کے اور الفاظ اس کے میں نے لکھے ہیں جو چاہے اس میں سے دیکھ لے اور صلوٰۃ تنجینا کا ستر بار ہر روز پڑھنا قضائے حوائج کے لئے ایک بزرگ سے مجھ کو پہونچا ہے اس کی بھی اجازت ہے جو چاہے سو پڑھے ۱۲۔

الْيَسَارِ إِلَى الْجُسْمِ وَقَرَأْتُ الْفَاتِحَةَ ثَلٰثًا وَهٰكَذَا فَلَا تَصِلُ إِلَى آخِرِ الْحُرُوْفِ إِلَّا وَقَدْ شَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى۔

اور اسی طرح ہر حرف پر کیل سے دابتا جاوے اور سورۂ فاتحہ کو ہر بار پڑھتا جاوے تو آخر حرف تک تو نہ پہونچے گا مگر یہ کہ اس کے اندر ہی شفا عنایت کرے گا۔

برائے دفع حاجت درد غائب و شفائے مریض

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِذَا عَنَتْ لَكَ حَاجَةٌ أَوْ كَانَ لَكَ غَائِبٌ فَأَرَدْتَ أَنْ يَرْجِعَهُ اللّٰهُ سَالِمًا غَانِمًا أَوْ كَانَ لَكَ مَرِيْضٌ فَأَرَدْتَ أَنْ يَشْفِيَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاقْرَأْ[1] سُوْرَةَ الْفَاتِحَةِ إِحْدٰى وَأَرْبَعِيْنَ مَرَّةً بَيْنَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَفَرْضِهِ۔

اور میں نے والد مرشد سے سنا فرماتے تھے کہ جب تجھکو کوئی حاجت پیش آوے یا کوئی شخص تیرا غائب ہو اور تو چاہے کہ حق تعالیٰ اس کو سالم اور غانم پھیر لاوے یا کوئی تیرا بیمار ہو سو تو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت بخشے تو سورۂ فاتحہ اکتالیس بار فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں پڑھ۔

ف۔ مولانا نے حاشیے میں فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو فاتحۃ الکتاب کو چالیس بار پانی کے پیالے پر پڑھے اور محموم یعنی تپ والے کے منھ پر چھینٹا مارے تو حق تعالیٰ اس کو فائدہ بخشے۔

برائے گزیدن سگ دیوانہ

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ عَضَّهُ الْكَلْبُ

اور میں نے سنا انہی حضرت سے فرماتے تھے کہ جس کو باؤلا کتا کاٹے اور

[1] اور اس فقیر کو ایک بزرگ سے پہونچا ہے کہ جس لڑکے کو مسان کی بیماری ہو تو اس پر الحمد اکتالیس بار ساتھ وصل میم بسم اللہ کے ساتھ الحمد کے پڑھ کر چالیس روز تک دم کیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ وہ مرض اس کا جاتا رہے گا اور اگر فرصت نہ ہو تو تین بار کا پڑھنا بھی کفایت کرتا ہے۔

الْمَجْنُوْنُ وَخِيْفَ عَلَيْهِ الْجُنُوْنُ فَاكْتُبْ لَهُ هٰذِهِ الْآيَةَ عَلٰى أَرْبَعِيْنَ كِسْرَةً مِّنَ الْخُبْزِ إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّأَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا وَمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّ يَوْمٍ كِسْرَةً۔

اس کے دیوانہ ہو جانے کا خوف ہو تو اس آیت کو روٹی کے چالیس ٹکڑوں پر لکھ إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا سے رُوَيْدًا تک اور اس کو کہہ دے کہ ہر دن ایک ٹکڑا کھایا کرلے[1]۔

برائے دفع فاقہ

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ۔

اور میں نے ان حضرت سے سنا فرماتے تھے کہ جو شخص سورۂ واقعہ کو ہر رات پڑھے اس کو فاقہ نہیں ہوتا۔

مترجم کہتا ہے یہ عمل حدیث کے موافق ہے واللہ اعلم[2]۔

بیدار شدن از شب

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ قَرَأَ عِنْدَ نَوْمِهِ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ إِلٰى اٰخِرِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ وَسَأَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى أَنْ يُّوْقِظَهُ فِيْ أَيِّ سَاعَةٍ أَرَادَ أَيْقَظَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْمَا

اور میں نے ان حضرت سے سنا فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے سونے کے وقت إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سورۂ کہف کے آخر تک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اس کو جگا دے جس وقت کا کہ ارادہ کرے تو حق تعالیٰ اسکو جگا دے گا اسی وقت

[1] سنا اس فقیر نے اپنے استاد مولانا اسحٰق صاحب رحمۃ اللہ سے فرماتے تھے جس کو باؤلا کتا کاٹے تو ایک ٹکڑا بانات کا تھوڑے سے گڑ میں لپیٹ کر کھلا دے تو انشاء اللہ تعالیٰ زہر اس کا کہیں اثر نہ کرے گا ۱۲ ق

[2] اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حزب البحر کی شرح میں حدیث سے یا کسی صحابی سے لکھا ہے کہ جو کوئی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سو بار ہر روز پڑھ لیا کرے تو اس کو فاقہ نہیں پہنچے گا۔

مترجم کہتا ہے سورۂ کہف کے آیات مذکورہ یہ ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۝ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝۔

یہ عمل حدیث کے موافق ہے چنانچہ دارمی نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کذا فی الحاشیۃ العزیزیہ۔

عمل حفظ اطفال وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اكْتُبْ هٰذِهِ الْعُوْذَةَ وَعَلِّقْهَا فِي عُنُقِ الطِّفْلِ يَحْفَظُهُ اللهُ تَعَالَى بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لَامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ أَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝

اور سنا میں نے حضرت والد سے فرماتے تھے کہ اس تعویذ کو لکھ اور لڑکے کی گردن میں لٹکا حق تعالیٰ اُس کو محفوظ رکھے گا بسم اللہ سے آخر تک تعویذ مذکور ہے ترجمہ اُس کا یہ ہے کہ بواسطہ کلمات الٰہیہ کے جو اپنی تاثیر میں پورے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان اور کاٹنے والے کیڑے اور نظر لگانے والی کی آنکھ کی شر سے میں نے پناہ پکڑی دس لاکھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے قلعے میں۔[1]

[1] حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کے لئے یوں تعویذ کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ اور فرماتے تھے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم تعویذ کرتے تھے ساتھ اس دعا کے اسمٰعیل اسحٰق کو روایت کیا مسلم نے اور معمول مولانا عبد العزیز صاحب و مولانا اسحٰق صاحب رحمہما اللہ کا نقط ان دو کلمے کے لکھنے کا تھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ ۱۲ ق

برائے امان از ہر آفت وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ هٰذَا الدُّعَاءُ أَمَانٌ مِنْ كُلِّ آفَةٍ يَقْرَأُ صَبَاحًا وَمَسَاءً بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۝ إِنَّ رَبِّي عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝ إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۝ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ۔

اور سنا میں نے اُن سے فرماتے تھے کہ یہ دعا یعنی بسم اللہ سے آخر تک امان اور پناہ ہے ہر آفت سے پڑھا کرے اُس کو صبح اور شام ترجمہ اُس کا یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے خداوندا تو میرا رب ہے کوئی معبود برحق نہیں سوائے تیرے تجھی پر میں نے بھروسا کیا اور تو ہی مالک ہے عرش عظیم کا اور نہ بچاؤ ہے گناہ سے اور نہ قوت ہے بندگی پر مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند اور بزرگ ہے جو اللہ نے چاہا ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور مقرر اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر لیا ہے اور ہر چیز کو شمار میں کر لیا ہے گن کر خداوندا میں پناہ مانگتا ہوں اپنی ذات کی برائی سے اور ہر چلنے والے جاندار کی برائی سے جس کی چوٹی کو تو تھامے ہے یعنی تیرے قبضۂ قدرت میں ہے مقرر میرا رب صراط مستقیم پر ہے اور تو ہر چیز کا نگہبان ہے البتہ میرے کام کا بنانے والا اللہ ہے جس نے قرآن اُتارا اور وہ نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے سو اگر وہ نہ مانیں اور گردن کشی کریں تو کہہ مجھکو اللہ کافی ہے کوئی معبود برحق نہیں سوائے اُس کے

اسی پر میں نے اعتماد اور بھروسا کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔

برائے خوف حاکم وَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ مَنْ خَافَ ذَا سُلْطَانٍ فَلْيَقُلْ كٓهٰيٰعٓصٓ كُفِيْتُ حٰمٓ عٓسٓقٓ حُمِيْتُ وَلْيَقْبِضْ كُلَّ اِصْبَعٍ مِّنَ الْيَدِ الْيُمْنٰى عِنْدَ كُلِّ حَرْفٍ مِّنَ اللَّفْظِ الْاَوَّلِ وَمِنَ الْيُسْرٰى عِنْدَ كُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الثَّانِيْ ثُمَّ لْيَفْتَحْهُمَا جَمِيْعًا فِيْ وَجْهِ مَنْ يَّخَافُ مِنْهُ۔

اور میں نے حضرت والد سے سنا فرماتے تھے کہ جو شخص کسی صاحب حکومت سے ڈرے اس کو چاہیے یوں کہے كٓهٰيٰعٓصٓ كُفِيْتُ حٰمٓ عٓسٓقٓ حُمِيْتُ اور چاہیے کہ داہنے ہاتھ کی ہر انگلی کو بند کرے لفظ اول کے ہر حرف کے تلفظ کے ساتھ اور بائیں ہاتھ کی ہر انگلی کو قبض کرے لفظ ثانی کے ہر حرف کے ساتھ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کئے چلا جاوے پھر دونوں کو کھول دے اس کے سامنے جس سے ڈرتا ہے۔

مترجم کہتا ہے لفظ اول سے كٓهٰيٰعٓصٓ اور لفظ ثانی سے حٰمٓ عٓسٓقٓ مراد ہے یعنی جب کاف کہے تو داہنے ہاتھ کی ایک انگلی بند کرے پھر جب ہا کہے یعنی دوسرا حرف بولے تو دوسری انگلی بند کرلے اور یائے تحتانیہ کے بعد تیسری انگلی اور عین کے بعد چوتھی اور صاد کے بعد پانچویں بند کرلے اور علیٰ ہذا القیاس لفظ ثانی کے ہر حرف کے ساتھ ایک ایک انگلی بائیں ہاتھ کی بند کرے۔

آیاتِ شفا برائے مریض وَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ سِتُّ اٰيَاتٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ تُسَمّٰى بِاٰيَاتِ الشِّفَآءِ يَكْتُبُهَا لِلْمَرِيْضِ فِيْ اِنَآءٍ فَيَمْحُوْهَا بِالْمَآءِ وَيَشْرَبُ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِيْ

اور میں نے سنا حضرت والد ماجد فرماتے تھے کہ چھ آیتیں ہیں قرآن کی جن کا آیات شفا نام ہے بیمار کے واسطے ان کو ایک برتن میں لکھے اور پانی سے دھو کر پلادے آیات مذکورہ وَيَشْفِ سے آخر تک ہیں۔ ان آیات شفا کا ترجمہ یہ ہے۔

الصُّدُوْرِ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ۔

(۱) اور اللہ مومنوں کے سینوں کو شفا بخشے گا (۲) اور امراض سینہ کے لیے شفا ہیں (۳) ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے (۴) قرآن سے جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کیلئے شفا اور رحمت ہے (۵) اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے (۶) آپ کہہ دیجئے کہ وہ مومنوں

سی و سہ آیت برائے دفع از سحر و محافظت از دزدان و درندگان وَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ ثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً تَنْفَعُ مِنَ السِّحْرِ وَتَكُوْنُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ وَاللُّصُوْصِ وَالسِّبَاعِ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَاٰيَةُ الْكُرْسِيِّ وَاٰيَتَانِ بَعْدَهَا اِلٰى خٰلِدُوْنَ وَثَلٰثٌ مِّنْ اٰخِرِ الْبَقَرَةِ وَثَلٰثٌ مِّنَ الْاَعْرَافِ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ اِلٰى مُحْسِنِيْنَ وَاٰخِرُ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ وَعَشْرُ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ الصّٰٓفّٰتِ اِلٰى لَازِبٍ وَاٰيَتَانِ مِنْ سُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ اِلٰى تَنْتَصِرَانِ وَاٰخِرُ الْحَشْرِ لَوْ اَنْزَلْنَا

اور میں نے حضرت والد سے سنا فرماتے تھے تینتیس آیتیں ہیں کہ جادو کے اثر کو دفع کرتی ہیں اور شیطان اور چوروں اور درندے جانوروں سے پناہ ہوجاتی ہیں چار آیتیں سورۂ بقرہ کے اول سے اور آیۃ الکرسی اور دو آیتیں اس کے بعد کی خالدون تک اور تین آیتیں آخر سورۂ بقرہ کی یعنی لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ سے آخر تک اور تین آیتیں سورۂ اعراف کی اِنَّ رَبَّكُمُ سے مُحْسِنِيْنَ تک اور سورۂ بنی اسرائیل کی پچھلی آیت یعنی قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ سے آخر تک اور دس آیتیں صافات کے اول سے لَازِبٍ تک اور دو آیتیں سورۂ رحمٰن کی يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ سے تَنْتَصِرَانِ

هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَاٰیَتَانِ مِنْ قُلْ
اُوْحِیَ وَاَنَّهٗ تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا
اِلٰی شَطَطًا فَهٰذِهٖ هِیَ الْاٰیَاتُ
الْمُسَمَّاةُ بِثَلٰثٍ وَّثَلٰثِیْنَ اٰیَةً
وَکَانَ سَیِّدِیْ الْوَالِدُ یَزِیْدُ
عَلَیْهَا الْفَاتِحَةَ وَقُلْ یٰاَیُّهَا
الْکٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ
الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَیَاْخُذُ مِنْ اَوَّلِ
السُّوْرَةِ قُلْ اُوْحِیَ اِلٰی شَطَطًا۔

تک اللہ آخر سورہ حشر کی لو انزلنا
سے آخر تک اور دو آیتیں سورہ جن یعنی
قل اوحی کی وانہ تعالیٰ جد ربنا
سے شططا تک یہی آیات مذکورہ
تینتیس ۳۳ آیت سے کہی ہیں اور ہمارے
والد مرشد آیات مذکورہ پر سورہ فاتحہ
اور قل یا ایہا الکافرون اور قل ھو
اللہ احد اور قل اعوذ برب
الفلق اور قل اعوذ برب الناس
زیادہ کرتے تھے اور سورہ جن سے اول
آیت یعنی قل اوحی سے شططا تک لیتے۔

ف۔ مترجم کتاب ہے حضرت مصنف قدس سرہ نے آیات مذکورہ کا پتا بتایا بطور
اختصار کے کہ واقف سمجھ لے گا تو نا واقفوں کے واسطے مناسب معلوم ہوا کہ آیات
ممدوحہ کو یہاں پورا ذکر کر دیجئے کہ تلاش نہ کرنی پڑے۔

الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝
اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝
اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ج مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ
اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَـــُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۣ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى
لَا انْفِصَامَ لَهَا ج وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝
اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۥ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰۗـــُٔــھُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ
اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝
لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ
اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ج فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ
وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝
اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۝ كُلٌّ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ
نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ج رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ
عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۝ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ
عَنَّا وقف وَاغْفِرْ لَنَا وقف وَارْحَمْنَا وقف اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ ۝
اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوٰى عَلَي الْعَرْشِ ۣ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۢ بِاَمْرِهٖ ۭ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۭ تَبٰرَكَ
اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي
الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۭ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِيْنَ ۝

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ہ
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ
فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ہ

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ہ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ہ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ہ
اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ہ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ
الْمَشَارِقِ ہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ ہ وَحِفْظًا
مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ہ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ہ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ہ اِلَّا مَنْ خَطِفَ
الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ہ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا
اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ط اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ہ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ہ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ہ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ
فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ہ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا
مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ
هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِيْمُ ہ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ہ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط
يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا

قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ط وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا
اَحَدًا ہ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ہ وَّاَنَّهٗ
كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ہ

براے حفظ چیچک

وَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ اِذَا ظَهَرَ مَرَضُ الْحَصْبَةِ فَخُذْ خَيْطًا اَزْرَقَ وَاقْرَأْ سُوْرَةَ الرَّحْمٰنِ وَكُلَّمَا مَرَرْتَ عَلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ہ فَاعْقِدْ عُقْدَةً وَّاَنْفُثْ فِيْهَا وَعَلِّقِ الْخَيْطَ فِيْ عُنُقِ الصَّبِيِّ يُعَافِيْهِ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ۔

اور میں نے حضرت والد سے سُنا فرماتے تھے کہ جب چیچک کی بیماری ظاہر ہو تو نیلا تاگا لے اور اُس پر سورۂ رحمٰن پڑھ اور سے بار کر فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ پر پہونچے تو ایک گرہ دے اور اُس پر پھونک ڈال اور دھاگے کو لڑکے کی گردن میں باندھ دے حق تعالیٰ اُس کو اس بیماری سے آرام دے گا۔

نامہائے اصحابِ کہف برائے امان از غرق و آتش زدگی و غارت گری و دزدی۔

وَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ اَسْمَآءُ اَصْحٰبِ الْكَهْفِ اَمَانٌ مِّنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالنَّهْبِ وَالسَّرَقِ۔

اور سُنا میں نے حضرت والدؒ سے فرماتے تھے کہ اصحابِ کہف کے نام امان ہیں ڈوبنے اور جلنے اور غارت گری اور چوری سے آپ سے آخر تک دعا کرے۔

اِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ يَمْلِيْخَا مَكْسَلْمِيْنَا كَشْفُوْطَطْ اَذْرَفَطْيُوْنُسْ
كَشَافَطْيُوْنُسْ تَبْيُوْنُسْ يَوَانِسْ بُوْسْ وَكَلْبُهُمْ قِطْمِيْرُ
وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ۔

براے حاجت روائی

وَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ اِذَا اَعْتَرَضَتْ

اور سُنا میں حضرت والد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے

لَکَ حَاجَةٌ فَاقْرَأْ یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَیْرِ یَا بَدِیْعُ اَلْفًا وَّمِائَتَیْ مَرَّةٍ اِثْنَا عَشَرَ یَوْمًا فَاِنَّ اللّٰهَ یَقْضِیْ حَاجَتَکَ هٰذِهٖ عَزَائِمُ اَجَازَنِیْ سَیِّدِیْ الْوَالِدُ بِمَانِیْ جُمْلَةِ مَا اَجَازَنِیْ۔

فرماتے تھے کہ جب تجھ کو کوئی حاجت درپیش آوے تو یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَیْرِ یَا بَدِیْعُ کو بارہ سو بار پڑھ بارہ دن تک کہ حق تعالیٰ تیری حاجت بر لاوے گا اور ان اعمال مذکورہ کی اول فصل سے یہاں تک مجھ کو میرے والد مرشد نے اجازت دی ہے منجملہ ان اعمال کے کہ جن میں مجھ کو اجازت فرمائی ہے۔

نماز برائے قضائے حاجات | لِقَضَآءِ الْحَاجَاتِ الْمُهِمَّةِ یَرْکَعُ اَرْبَعَ رَکْعَاتٍ یَقْرَأُ فِی الْاُوْلٰی بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَّفِی الثَّانِیَةِ رَبِّ اِنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ۔ مِائَةَ مَرَّةٍ وَّفِی الثَّالِثَةِ وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْٓ اِلَی اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌ

حاجات مشکلہ کے بر آنے کے واسطے چار رکعتیں پڑھے پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ کو سو بار پڑھے اور دوسری رکعت میں بعد فاتحہ کے رَبِّ اِنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ سو بار پڑھے اور تیسری رکعت میں بعد فاتحہ کے وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْٓ اِلَی اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌ

ـه صلوٰة الحاجة جو حدیث شریف میں آئی ہے وہ ظفر جلیل وغیرہ کتب حدیث میں مذکور ہے پڑھنا اس کا افضل سب سے ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے ۔ ۱۲

بِالْعِبَادِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَّفِی الرَّابِعَةِ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَیَقُوْلُ رَبِّ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ مِائَةَ مَرَّةٍ۔

بِالْعِبَادِ ہ سو بار پڑھے اور چوتھی رکعت میں بعد فاتحہ کے قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ سو بار پڑھے پھر سلام پھیر کے رَبِّ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ سو بار۔

ف۔ مولانا نے فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ یہ چاروں آیتیں اسم اعظم ہیں کہ جن کے وسیلے سے جو سوال کرے پاوے اور جو دعا کرے قبول ہو اور مجھ کو تعجب آتا ہے اس شخص سے کہ بواسطہ ان کے دعا کرے اور قبول نہ ہو فائدہ جلیلہ حضرت شاہ اہل اللہ قدس سرہ نے چار باب میں فرمایا کہ جو عمل کہ حصول ہر مطلب میں جلالی ہو یا جمالی حکم میں کبریت احمر کے ہے اور اس کو اسم اعظم شمار کیا ہے وہ یہ آیت ہے :۔

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ہ

رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا ذوالنون علیہ السلام کی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں فرمائی جو مسلمان جس مطلب کے واسطے اس آیت سے دعا کرے گا قبول ہوگی اور حق

ـه جناب مولانا عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ نے بیچ تفسیر سورۂ نون کے جب یہ آیت لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَکَهٗ نِعْمَةٌ الایۃ کے لکھا ہے کہ مشائخ معتبرین سے واسطے دفع ہر غم و اندوہ کے آیت لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَکَ الْاٰیۃ کا پڑھنا تریاق مجرب ہے اور طریق اس کے پڑھنے کے دو ہیں ایک تو یہ کہ سوا لاکھ بار بہیئت اجتماعی ایک مجلس میں پڑھے دوسرے یہ کہ ایک شخص تنہا اس آیت کو تین سو بار بعد نماز عشا کے تاریک مکان میں بیٹھ کر ساتھ شرائط طہارت اور استقبال قبلہ کے پڑھے اور پیالہ پانی کا بھر کر اپنے پاس رکھ لیوے اور لمحہ لمحہ اس پانی میں ہاتھ اپنا ڈال کر اپنے بدن اور منہ پر پھیرتا رہے تین روز یا سات روز یا چالیس روز اسی ترتیب سے پڑھے انتہی۔ اور ظفر جلیل میں درضمن دعاؤں دفع غم کے قول حضرت امام جعفر صادق کا بیچ فضائل ان چاروں آیتوں کے خوب لکھا ہے جو چاہے سو دیکھ لے ۔ ۱۲

یہ ہے کہ یہ دعا نہایت مجرب التاثیر اور کمال سریع الاثر ہے جس امر میں چاہے اس آیت سے دعا کرے اور مشائخ اس کی سرعت تاثیر اور عدم تخلف پر اجماع اور اتفاق رکھتے ہیں اور طریقہ دعا کا انھوں نے باقسام متعددہ ذکر کیا ہے آسان تر دو طریقے ہیں ایک یہ کہ بارہ دن تک بہ نیت حصول مطلب بارہ ہزار بار پڑھے اور اگر نہ ہو سکے تو بارہ سو بار پڑھے اول اور آخر چند بار درود پڑھ کے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار بار پڑھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی قوت تاثیر میں کچھ شک نہیں اس واسطے کہ ایسا کوئی عمل نہیں کہ جس کی صحت قرآن مجید سے بھی ہو اور صحیح حدیث سے بھی اور مشائخ کے اقوال سے بھی سوائے اس کے قرآن میں اس کی شان میں وارد ہے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَہٗ وَنَجَّیْنٰہُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ ۝

وَمِمَّنْ خَبَطَہُ الشَّیْطَانُ یَقْرَأُ فِیْ اُذُنِہِ الْیُسْرٰی سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمٰنَ وَاَلْقَیْنَا عَلٰی کُرْسِیِّہٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝

اور جس کو شیطان باؤلا کر ڈالے یعنی جس پر آسیب کا خلل ہو تو اس کے بائیں کان میں یہ آیت سات بار پڑھے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمٰنَ وَاَلْقَیْنَا عَلٰی کُرْسِیِّہٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝

وَاَیْضًا یُؤَذِّنُ فِیْ اُذُنِہٖ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَیَقْرَأُ الْفَاتِحَۃَ وَالْمُعَوِّذَاتِ وَاٰیَۃَ الْکُرْسِیِّ وَالطَّارِقِ وَاٰخِرَ سُوْرَۃِ الْحَشْرِ وَسُوْرَۃَ الصّٰفّٰتِ کُلَّھَا فَاِنَّ الشَّیْطَانَ یَحْتَرِقُ۔

اور دفع آسیب کا یہ بھی عمل ہے کہ اس کے کان میں سات بار اذان دے اور سورۂ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور آیۃ الکرسی اور سورۂ طارق یعنی والسماء والطارق اور سورۂ حشر کی آیتیں یعنی ہو اللہ الذی سے آخر تک اور سورۂ صافات ساری پڑھے آسیب جل جاوے گا۔

وَاَیْضًا یَقْرَأُ فِیْ اُذُنِہٖ

اور آسیب زدہ کے واسطے یہ

اَفَحَسِبْتُمْ اِلٰی اٰخِرِ سُوْرَۃِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰکُمْ عَبَثًا وَّاَنَّکُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۝ فَتَعٰلَی اللّٰہُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیْمِ ۝ وَمَنْ یَّدْعُ مَعَ اللّٰہِ اِلٰھًا اٰخَرَ لَا بُرْھَانَ لَہٗ بِہٖ فَاِنَّمَا حِسَابُہٗ عِنْدَ رَبِّہٖ اِنَّہٗ لَا یُفْلِحُ الْکٰفِرُوْنَ ۝ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَیْرُ الرّٰحِمِیْنَ ۝

وَاَیْضًا یَقْرَأُ عَلٰی مَاءٍ طَاھِرٍ اَلْفَاتِحَۃَ وَاٰیَۃَ الْکُرْسِیِّ وَخَمْسَ اٰیَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ سُوْرَۃِ الْجِنِّ وَیَرُشُّ بِہٖ وَجْھَہٗ فَاِنَّہٗ یُفِیْقُ وَاِذَا اَحَسَّ بِالْجِنِّیِّ فِیْ مَکَانٍ فَرُشَّ مِنْ ذٰلِکَ الْمَاءِ فِیْ نَوَاحِی الْمَکَانِ فَاِنَّہٗ لَا یَعُوْدُ اِلَیْہِ۔

بھی عمل ہے کہ اس کے کان میں آخر سورۂ مومنون کی یہ آیتیں پڑھے۔

کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے کار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ بادشاہ برحق بلند ہے (شرک وغیرہ سے) اس کے سوا کوئی معبود نہیں (وہ) عرش کریم کا رب ہے اور جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا کہ وہ کافروں کو فلاح یاب نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مغفرت اور رحم فرما کہ تو ارحم الراحمین ہے۔

اور دفع آسیب کا یہ بھی عمل ہے کہ پاک پانی پر سورۂ فاتحہ اور آیۃ الکرسی اور پانچ آیتیں اول سورۂ جن کی پڑھے اور اس پانی کا اس کے منہ پر چھینٹا مارے کہ ہوش میں آجاوے گا اور جب کسی مکان میں جن معلوم ہو تو اسی پانی سے اس مکان کی نواحی[1] میں چھینٹے مارے تو وہاں پھر نہ آوے گا۔

مترجم کہتا ہے سورۂ جن کی آیات مذکورہ یہ ہیں۔

عمل آسیب زدہ برائے دفع جن از خانہ | قُلْ اُوْحِیَ اِلَیَّ اَنَّہُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝ یَّھْدِیْٓ اِلَی الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِہٖ

[1] نواحی بمعنی اطراف ۱۲

وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝ وَاَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝ وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝ وَاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝۔

وَلِاِلْمَامِ الشَّيْطَانِ بِالْبَيْتِ وَرَمْيِهِمْ بِالْحِجَارَةِ يَقْرَاُ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا اِلٰى رُوَيْدًا ۝ عَلٰى اَرْبَعَةِ مَسَامِيْرَ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً ثُمَّ يَدْفِنُهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَطْرَافِ ذٰلِكَ الْبَيْتِ۔

اور واسطے قریب ہونے شیطان کے گھر سے اور اُن کے پتھر پھینکنے کے لئے یہ آیت پڑھے اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۝ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا چار لوہے کی کیلوں پر ہر کیل پر پچیس پچیس بار پھر اُن کو گھر کے چاروں کونوں میں ٹھونک دے۔

برائے دفع جن از خانہ وَاَيْضًا يُكْتَبُ اَسْمَاءُ اَصْحَابِ الْكَهْفِ فِيْ جُدْرَانِ الْبَيْتِ۔

اور یہ بھی دفع جن کا عمل ہے کہ اصحاب کہف کے نام گھر کی دیواروں میں لکھے۔

بانجھ پن دور کرنے کیلئے وَلِلْعَقِيْمَةِ يُكْتَبُ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْ رَقِّ الْغَزَالِ بِالزَّعْفَرَانِ وَمَاءِ الْوَرْدِ ثُمَّ يُعَلَّقُ فِيْ عُنُقِهَا وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اِلٰى جَمِيْعًا وَاَيْضًا يَقْرَاُ عَلٰى اَرْبَعِيْنَ تَمْرًا نُقْلًا عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَوْ كَظُلُمٰتٍ اِلٰى نُوْرٍ ۝ تَاْكُلُ كُلَّ يَوْمٍ وَاحِدًا

اور عقیمہ یعنی بانجھ عورت کے واسطے ہرن کی جھلی پر زعفران اور گلاب سے یہ آیت لکھے۔ وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ۝ پھر اس تعویذ کو اُس کی گردن میں باندھے اور یہ بھی عقیمہ کے واسطے ہے کہ چالیس لونگوں پر سات سات بار اس آیت کو پڑھے۔

وَاَشَدَّ اَنْ يَّسُنَّ وَتُتِمَّ فَرَاغَتَهَا مِنْ غُسْلِ الْمَحِيْضِ وَيُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا فِيْ تِلْكَ الْاَيَّامِ۔ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۝ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

اور ایک لونگ کو ہر دن کھاوے اور شروع کرے حیض کے غسل کے ہونے سے اور انہی دنوں میں اُس کا زوج اُس سے صحبت کرتا ہے۔

ف۔ مولانا نے فرمایا اور شرط اس عمل کی یہ بھی ہے کہ لونگ رات کو کھائے اور اس پر پانی نہ پیئے۔

وَالَّتِيْ تُمْلِصُ جَنِيْنَهَا يَاْخُذُ خَيْطًا مُّعَصْفَرًا عَلٰى مِقْدَارِ طُوْلِهَا وَيَعْقِدُ عَلَيْهِ تِسْعَ عُقَدٍ يَنْفُثُ فِيْ كُلٍّ مِّنْهَا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِلٰى مُحْسِنُوْنَ ۝ وَقُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اِلٰى اٰخِرِهَا۔

برائے اسقاط جنین اور جو عورت بچہ اسقاط کر دیتی ہو تو ایک تاگا کسم کا رنگا اس کے قد کے برابر لے اور اس پر نو گرہیں لگاوے اور ہر گرہ پر وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝ اور قل یا ایہا الکافرون پڑھے اور پھونکے۔

وَالَّتِيْ ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ يُكْتَبُ فِيْ رُقْعَةٍ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ اِهْيًا

برائے درد زہ اور جس عورت کو درد زہ یعنی لڑکا پیدا ہونے کا درد و تکلیف دے تو پرچہ کاغذ میں یہ آیت لکھے: وَاَلْقَتْ

اَقْرَاءِهِمَا وَيَلُفُّ الرُّقْعَةَ فِيْ ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَيُعَلِّقُهَا فِيْ فَخِذِهَا الْيُسْرٰى فَاِنَّهَا تَلِدُ سَرِيْعًا قُلْتُ حَفِظْتُ مِنْ كِتَابِ الدُّرِّ الْمَنْثُوْرِ عَنِ الْاَعْمَشِ اَنَّ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ دُعَاءُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعْنَاهُ يَا حَيُّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَيَا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ۔

مَا فِيْهِمَا وَتَخَلَّتْ ○ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ○ اِهْيًا اَشْرَاهِيًا اور اس پرچے کو پاک کپڑے میں لپیٹے اور اُس کی بائیں ران میں باندھے تو وہ جلد جنے گی میں کہتا ہوں مجھکو یاد ہے جلال الدین سیوطیؒ کی کتاب درمنثور سے بروایت اعمشؒ کہ یہ کلمہ یعنی اِهْيًا اَشْرَاهِيًا جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے معنی اُس کے یہ ہیں کہ اے زندہ قبل ہر چیز کے اور اے زندہ بعد ہر چیز کے

ف۔ مترجم کہتا ہے اِهْيًا بکسر ہمزہ وَاَشْرَاهِيًا بفتح ہمزہ وشین لفظ یونانی ہے یعنی وہ ازلی کہ کبھی اُس کو زوال نہیں اور شَرَاهِيًا کہنا بدون ہمزہ کے خطا ہے بزعم علمائے یہود کے کذا فی القاموس مولاناؒ نے فرمایا کہ اگر اول سورۃ سے حقت تک شیرینی پر پڑھے اور حاملہ کو کھلادے تو بھی جلد جنے۔

وَالَّتِيْ لَا تَلِدُ اِلَّا اُنْثٰى يُكْتَبُ قَبْلَ اَنْ تَمْضِيَ عَلَى الْحَبَلِ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ عَلٰى رَقِّ الْغَزَالِ بِالزَّعْفَرَانِ وَمَاءِ الْوَرْدِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ○ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ ○ وَهٰذِهِ الْاٰيَةَ يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ الْاٰيَةَ ثُمَّ يُكْتَبُ بِحَقِّ

برائے زنے کہ فرزند نرینہ نزاید

اور جو عورت سوائے لڑکی کے لڑکا نہ جنتی ہو تو حمل پر تین مہینے گذرنے سے پہلے ہرن کی جھلی پر زعفران اور گلاب سے اس آیت کو لکھے اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ اور اس آیت کو لکھے يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ نِ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ

مَرْيَمَ وَعِيْسٰى اِبْنِهَا اَطَالَا طَوِيْلَ الْعُمْرِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ۔

يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ○ پھر لکھے بِحَقِّ مَرْيَمَ وَعِيْسٰى اِبْنِهَا اَطَالَا طَوِيْلَ الْعُمْرِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ پھر اس تعویذ کو حاملہ باندھے رہے۔

وَاَخْبَرَنِيْ مَنْ اَثِقُ بِهٖ [1] مِقْلَاةٍ لَا يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ يَاْخُذُ نَانَخْوَاهُ وَالْفُلْفُلَ الْاَسْوَدَ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ ظَهِيْرَةِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً سُوْرَةَ الشَّمْسِ يَبْدَأُ كُلَّ مَرَّةٍ بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْتِمُ بِهَا ثُمَّ تَاْكُلُهُمَا الْمَرْاَةُ كُلَّ يَوْمٍ مِّنْ حَمْلِهَا اِلٰى فِطَامِ الْوَلَدِ۔

برائے زنے کہ فرزندش نزید

اور اس شخص نے جس پر مجھکو اعتماد ہے خبر دی کہ جس عورت کا لڑکا نہ زندہ رہتا ہو تو اجوائن اور کالی مرچ لے دونوں چیزوں پر دوشنبے کے دن دوپہر کو چالیس بار سورۂ والشمس پڑھے ہر بار درود پڑھ کر شروع کرے اور اسی پر ختم کرے اُس کو ہر روز عورت کھایا کرے حمل کے دن سے لڑکے کے دودھ چھڑانے تک۔

وَاَخْبَرَنِيْ اَيْضًا الَّتِيْ لَا تَلِدُ اِلَّا اُنْثٰى اَنْ يَخُطَّ خَطًّا مُّسْتَدِيْرًا عَلٰى بَطْنِهَا سَبْعِيْنَ مَرَّةً فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ يَقُوْلُ مَعَ اِدَارَةِ الْاِصْبَعِ يَا مَتِيْنُ۔

ایضاً برائے فرزند نرینہ

اور یہی اُسی شخص معتمد نے مجھکو خبر دی کہ جو عورت سوائے لڑکی کے لڑکا نہ جنتی ہو تو اس کے پیٹ پر گول[2] لکیر کھینچے ستر بار ہر بار انگلی کے پھیرنے کے ساتھ یَا مَتِيْنُ کہے۔

ثُمَّ نَعُوْدُ اِلَى الْكَلَامِ الْاَوَّلِ نَنْقُوْلُ مِنْ تِلْكَ الْعَزَائِمِ

اعمال برائے چشم زخم ساحرہ کہ درہندی ڈائن وتھیا گویند

پھر ہم رجوع کرتے ہیں پہلے

[1] مقلاۃ بالکسر زنی کہ فرزندش نزید ۱۲ ص
[2] گول لکیر یعنی دائرہ ۱۲

الصَّبِيِّ الَّذِي أَصَابَتْهُ عَيْنُ عَائِنَةٍ يَخُطُّ خَطًّا مُسْتَدِيرًا بِالسِّكِّينِ وَهُوَ يَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَهٰذِهِ الْآيَاتِ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لَامَّةٍ يَا حَفِيظُ يَا رَقِيبُ يَا وَكِيلُ يَا كَفِيلُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ يَرْكُزُ السِّكِّينَ فِي وَسَطِ الدَّائِرَةِ وَيَقُولُ رَكَزْتُهَا فِي قَلْبِ الْعَائِنَةِ ثُمَّ يَسْتُرُهَا تَحْتَ صَحْفَةٍ أَوْ تَعْبٍ۔

کلام کی طرف تو کہتے ہیں اُن ہی عزیزوں سے یعنی جن کی والد ماجدؒ سے اجازت ہے یہ عمل ہے اُس لڑکے کے واسطے جس کو نظر لگانے والی عورت کی نظر لگ گئی اُس عورت کو ڈائن اور ٹونہیا بھی کہتے ہیں ایک گول لکیر چھری سے کھینچے آیۃ الکرسی اور ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پھر یہ دعا پڑھے: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لَامَّةٍ يَا حَفِيظُ يَا رَقِيبُ يَا وَكِيلُ يَا كَفِيلُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر چھری کو گول کے اندر گاڑ دے اور کہے کہ میں نے چھری ٹھونک دی نظر لگانے والی کے دل میں پھر اس کو ڈھک دے رکابی کے نیچے یا ٹب

وَأَيْضًا مَنْ قَالَ لِلْعَائِنِ أَوِ السَّاحِرِ يَا فُلَانُ وَدَعَاهُ بِاسْمِهِ وَقْتَ حِكَايَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ بَطَلَ عَمَلُهُ۔

وَأَيْضًا إِذَا تَحَقَّقَ الْعَيْنُ وَالْعَائِنُ أُمِرَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي إِنَاءٍ وَصَبَّ ذٰلِكَ الْمَاءَ عَلَى الْمَعْيُونِ بَرَأَ مِنْ سَاعَتِهِ قُلْتُ أَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ أَمْرَهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِنٍ تَرْتِيبًا مِنْ هٰذِهِ الْكَيْفِيَّةِ۔

کے نیچے یعنی طباق کے نیچے۔

برائے چشم زخم اور یہ بھی ہے کہ جو نظر لگانے والے یا جادوگر کو کہے یا فلانے اور اُس کا نام لے کر پکارے نظر لگانے کے وقت یا اُس وقت جب خود اُس کا ذکر کرے تو اُس کا اثر باطل ہو جائے گا۔

برائے چشم زخم اور یہ بھی ہے کہ جب نظر لگانا اور نظر کا لگانے والا ثابت ہو جاوے تو اس کے منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اور اُس کی شرمگاہ کو دھونے کو کہے ایک برتن میں اور اُس پانی کو اُس پر چھڑکے جس کو نظر لگی تو اُسی دم اچھا ہو جاوے میں کہتا ہوں امام مالکؒ نے موطا میں روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگانے والے کو اسی طرح کے مانند حکم کیا یعنی منہ وغیرہ کے دھونے کا۔

ف۔ مولاناؒ نے فرمایا کہ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا ٹھیک ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہوتی تو نظر غالب ہوتی اور جب کوئی تم سے دُھلا دے تو دھو دو یعنی اگر دفع نظر کے واسطے کوئی تم سے درخواست کرے کہ منہ وغیرہ دھو دیجئے تو دھو دینا چاہیے کہ شاید تمہاری ہی نظر لگ گئی ہو اس کا بُرا ماننا عبث ہے اور روایت ہے کہ عثمان غنیؓ نے ایک خوبصورت لڑکا دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں کالا ٹیکا[1] لگا دو کہ اس کو نظر نہ لگے۔

[1] کالا ٹیکا لڑکوں کے واسطے دفع نظر کے اثر سے ترمذی میں ثابت ہے ۱۲

مترجم کہتا ہے کہ یہ جو لڑکے کے کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں معلوم ہوا کہ بے اصل بات نہیں ہے واللہ اعلم۔

وَاَیْضًا اِذْرَعْ مِنْ خَیْطٍ طَاهِرٍ ثَلٰثَةَ اَذْرُعٍ وَاتْرُكْهُ عِنْدَ مَنْ يَحْفَظُهٗ ثُمَّ اقْرَأْ هٰذِهِ الْعَزِیْمَةَ عَلَى الْمَعْیُوْنِ ثُمَّ اذْرَعْ ثَانِیًا فَاِنْ زَادَ اَوْ نَقَصَ فَهُوَ مَعْیُوْنٌ فَكَرِّرِ الْعَمَلَ ثَلٰثًا يَذْهَبُ اَثَرُ الْعَیْنِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَتَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُوْلُ عَزَمْتُ عَلَیْكِ اَیَّتُهَا الْعَیْنُ الَّتِیْ فِیْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ اَوْ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانَةَ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَبِنُوْرِ عَظَمَةِ وَجْهِ اللّٰهِ بِمَا جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِلٰى خَیْرِ خَلْقِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَزَمْتُ عَلَیْكِ اَیَّتُهَا الْعَیْنُ الَّتِیْ فِیْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ بِحَقِّ اَشْرَاهِیَا بَرَاهِیَا اَدُوْنِیَا اَصْبَاؤُتُ اِلْ شَدَّاىْ عَزَمْتُ عَلَیْكِ اَیَّتُهَا الْعَیْنُ الَّتِیْ فِیْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ بِحَقِّ شَهَتْ بَهَتْ اِنْتَهَتْ بِانْقِطَاعِ النَّجَا بِالَّذِیْ لَا یَقْوٰى عَلَیْهِ اَرْضٌ وَّلَا سَمَآءٌ اِنْ اُخْرُجِیْ یَا نَفْسَ السُّوْٓءِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ كَمَا اُخْرِجَ یُوْسُفُ مِنَ الْمَضِیْقِ وَجُعِلَ لِمُوْسٰى فِی الْبَحْرِ طَرِیْقٌ وَالْاَمَانَاتِ بَرِیْئَةٌ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاللّٰهُ تَعَالٰى بَرِیْئٌ مِّنْكِ اُخْرُجِیْ یَا نَفْسَ السُّوْٓءِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ بِاَلْفِ اَلْفِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ ۙ وَلَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ اُخْرُجِیْ یَا نَفْسَ السُّوْٓءِ بِاَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۙ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَیْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللّٰهِ ۚ فَاللّٰهُ خَیْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ۚ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ ۚ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ۔

ایضاً برائے چشم زخم | اور یہ بھی چشم زخم کا عمل ہے کہ ایک پاک تاگا تین ہاتھ ناپ لے اور اس کے پاس رکھ جو نظر زدہ ہے پھر یہ عزیمت یعنی عَزَمْتُ عَلَیْكِ سے آخر تک پڑھ جس پر نظر لگی ہے پھر اُس تاگے کو دوسری بار ناپ سوا گر تین ہاتھ سے بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو معلوم کر کہ اُس کو نظر لگی ہے تو اس عمل کو تین بار مکرر کر نظر کا اثر دور ہوگا طریقہ عزیمت کا یہ ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کو تین بار پڑھے اور سورۂ فاتحہ کو تین بار پڑھ کر عزیمت مذکورہ شروع کرے اور بجائے فلان بن فلانة کے اُس کا اور اُس کی ماں کا نام لے۔

وَلِلْمَسْحُوْرِ وَالْمَرِیْضِ الَّذِیْ اَعْیَا الْاَطِبَّآءَ مَرَضُهٗ یَكْتُبُ فِیْ اِنَآءٍ صِیْنِیٍّ اَبْیَضَ یَا حَیُّ حِیْنَ لَا حَیَّ فِیْ دَیْمُوْمَةِ مُلْكِهٖ وَبَقَآئِهٖ یَا حَیُّ فَیَمْحُوْهُ بِالْمَآءِ وَیَشْرَبُ اِلٰى اَرْبَعِیْنَ یَوْمًا قُلْتُ وَرَاَیْتُ سَیِّدِی الْوَالِدَ یَزِیْدُ عَلَیْهِ الْفَاتِحَةَ۔

برائے مسحور و مریض مایوس العلاج | اور جس پر جادو کا اثر ہو اور اُس بیمار کے واسطے جس کی بیماری نے طبیبوں کو عاجز کر دیا ہو چینی کے سفید برتن میں یہ اسم لکھے، یَا حَیُّ حِیْنَ لَا حَیَّ فِیْ دَیْمُوْمَةِ مُلْكِهٖ وَبَقَآئِهٖ یَا حَیُّ[1] پھر اُس کو پانی سے دھو کر چالیس دن پیے۔ میں کہتا ہوں میں نے حضرت والد کو دیکھا کہ اس اسم پر سورۂ فاتحہ زیادہ کرتے تھے۔

وَمَنْ ضَاعَ لَهٗ شَیْئٌ فَقَالَ یَا حَفِیْظُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَّتِسْعَ عَشَرَ مَرَّةً مِّنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ وَّنُقْصَانٍ

برائے گم شدہ | اور جس کی کوئی چیز کھوئی جاوے پھر کہے یَا حَفِیْظُ ایک سو انیس بار بدون زیادتی اور کمی کے پھر یہ آیت

[1] یعنی اے زندہ اس وقت کہ نہیں تھا کوئی زندہ قائم ہے تو بیچ بادشاہت ہمیشہ اپنی کے اور بقا اپنی کے اے زندہ اچھا کر دے اس بیمار کو ۱۲

ثُمَّ قَرَأَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ إِلَى
يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ مِائَةَ مَرَّةٍ
وَتِسْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ
ضَالَّتَهُ

وَلِمَعْرِفَةِ السَّارِقِ يَتَقَابَلُ
اثْنَانِ وَيُمْسِكَانِ الْإِبْرِيقَ
بَيْنَهُمَا وَيَحْمِلَانِهِ بَيْنَ
إِصْبَعَيْهِمَا السَّبَّابَتَيْنِ وَيَكْتُبُ
اسْمَ الْمُتَّهَمِ فِي الْإِبْرِيقِ وَيَقْرَأُ
سُورَةَ يٰسٓ إِلَى مِنَ الْمُكْرَمِينَ
فَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي سَرَقَ دَارَ
الْإِبْرِيقُ فَإِنْ لَمْ يَدُرْ فَلْيَمْسَحِ
اسْمَهُ وَلْيَكْتُبِ اسْمَ غَيْرِهِ
وَهٰكَذَا حَتّٰى يَدُورَ قُلْتُ
وَيَجِبُ عَلَى مَنِ اطَّلَعَ عَلَى السَّارِقِ
بِأَمْثَالِ هٰذِهِ أَنْ لَا يَجْزِمَ
بِسَرِقَتِهِ وَلَا يُشِيعَ فَاحِشَةً بَلْ
يَتَّبِعَ الْقُرْآنَ فَإِنَّمَا هِيَ طَرِيقُ
اتِّبَاعِ الْقُرْآنِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ الخ

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ایک سو انیس بار پڑھے تو حق تعالیٰ اُس کی گم ہوئی چیز کو اُس کے پاس پھیر لا دے گا۔

برائے شناختن دزد اور چور کے پہچاننے کے واسطے دو شخص آمنے سامنے بیٹھیں اور بدھنی کو اپنے درمیان میں تھامے رہیں اور اُس کو کلمے کی دو انگلیوں سے اٹھائے رہیں اور جس پر چوری کی تہمت ہو اُس کا نام بدھنی میں لکھے اور سورۂ یٰسٓ کو مِنَ الْمُکْرَمِیْنَ تک پڑھے سو اگر وہی شخص چور ہوگا تو بدھنی گھوم جاوے گی پھر اگر نہ گھومے تو اُس کا نام مٹا کر دوسرے شخص کا نام لکھے اور وہیں تک پڑھے اور اسی طرح ہر شخص متہم کا نام لکھتا جاوے یہاں تک کہ گھومے میں کہتا ہوں کہ جو شخص یہ عمل یا ایسا کوئی اور عمل کرکے چور پر مطلع ہو تو اُس پر واجب ہے کہ اُس کے چرانے پر یقین نہ کرے اور اُس کو بدنام نہ کرے بلکہ قرآن کی پیروی کرے کہ یہ عمل بھی اتباع قرآن کا ایک طریقہ ہے حق تعالیٰ نے سورۂ بنی اسرائیل میں فرمایا اور نہ پیچھے پڑ اُس چیز کے جس کا تجھ کو

وَإِذَا أَبَقَ لَكَ آبِقٌ فَاكْتُبْ
فِي قِرْطَاسٍ وَاجْعَلْهُ فِي غِطَاءٍ
وَاتْرُكْهُ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَضَعْهُ
بَيْنَ حَجَرَيْنِ وَهِيَ الْفَاتِحَةُ وَ
آيَةُ الْكُرْسِيِّ ثُمَّ اكْتُبْ اَللّٰهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ فَاجْعَلِ
اللّٰهُمَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا
فِيهِمَا عَلَى عَبْدِكَ فُلَانِ ابْنِ
فُلَانَةَ أَضْيَقَ مِنْ خَلْقِهِ
حَتّٰى يَرْجِعَ إِلٰى مَوْلَاهُ بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ اكْتُبْ
أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ إِلٰى فَمَا لَهُ
مِنْ نُورٍ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ
إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَضَرَبَ لَنَا
مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَاللّٰهُ مِنْ
وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ
مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ثُمَّ

یقین نہیں ہے کان اور آنکھ اور دل ہر ایک کا سوال کیا جاوے گا۔

برائے بردہ گریختہ اور اگر تیرا غلام بھاگ گیا ہو تو ایک کاغذ میں لکھ اور اُس کو کسی چیز میں لپیٹ کر اندھیری کوٹھری میں دو پتھروں کے بیچ میں رکھدے یعنی سورۂ فاتحہ اور آیۃ الکرسی کو لکھ پھر اَللّٰهُمَّ سے یا ارحم الراحمین تک لکھ پھر یہ آیت لکھ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ پھر یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ سے آخر تک

لہ معمول مولانا اسحٰق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ گم ہوئی چیز کیلئے یا کسی کے لڑکے وغیرہ گم ہونے کیلئے درود شریف لکھکر دیتے تھے کہ اونچی جگہ یعنی درخت یا کھونٹی وغیرہ پر لٹکا دے۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اللھم صل علی محمد وعلی اٰل محمد و بارک وسلم الف الف مرۃ والف الف ذرۃ ۔ ۱۲ ق

يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَاَنْ تَرُدَّ الْعَبْدَ اِلٰى مَوْلَاهُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

ترجمہ: الٰہی میں تجھ سے ان آیات کے وسیلہ سے تیرے نبی محمدؐ اور انکی آل و اصحاب پر نزول رحمت و سلامتی کی درخواست کرتا ہوں کہ اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے اس فرار شدہ غلام کو اس کے آقا کے پاس پہنچا دے۔

وَاِذَا اَرَدْتَّ اَنْ يُّنْجِحَ اللّٰهُ حَاجَتَكَ فَاقْرَأْ سُوْرَةَ الْفَاتِحَةِ بِاَنْ تُوْصِلَ مِيْمَ الْبَسْمَلَةِ بِلَامِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَبْدَأُ مِنْ يَوْمِ الْاَحَدِ بَيْنَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَفَرْضِهٖ سَبْعِيْنَ مَرَّةً وَّالْيَوْمَ الثَّانِيْ سِتِّيْنَ وَهٰكَذَا تَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ عَشَرَةً حَتّٰى يَكُوْنَ يَوْمَ السَّبْتِ عَشَرَ مَرَّةً۔

برائے انجاح حاجت اور جب تو چاہے کہ حق تعالیٰ تیری مراد بر لاوے تو سورۂ فاتحہ کو پڑھ اس طرح کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی میم کو الحمد للہ کے لام سے ملاوے یکشنبہ کے دن سے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں شروع کرے ستر بار اور دوسرے دن اسی وقت ساٹھ بار اور تیسرے دن پچاس بار اسی طرح ہر روز دس دس بار کم کرتا جاوے یہاں تک کہ ہفتے کے دن دس بار پڑھے۔

وَاِذَا اَرَدْتَّ اَنْ تَرٰى فِيْ مَنَامِكَ مَا فِيْهِ مَخْرَجٌ مِّمَّا اَنْتَ فِيْهِ مِنَ الضِّيْقِ فَتَوَضَّأْ وَالْبَسْ ثِيَابًا طَاهِرَةً وَّنَمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ عَلٰى يَمِيْنِكَ وَاقْرَأْ وَالشَّمْسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّاللَّيْلِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

طریقہ استخارہ اور جب تو چاہے کہ اپنے خواب میں وہ حال دیکھے جس میں تیری خلاصی ہے اس تنگی سے جس میں تو مبتلا ہے تو وضو کر اور پاک کپڑے پہن اور قبلہ رو داہنی کروٹ پر لیٹ اور سورۂ والشمس کو سات بار اور سورۂ واللیل کو سات بار اور قل ہو اللہ کو سات بار پڑھ اور دوسری روایت میں قل ہو اللہ

سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّفِيْ رِوَايَةٍ بَدَلَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ سُوْرَةَ التِّيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْ اَللّٰهُمَّ اَرِنِيْ فِيْ مَنَامِيْ كَذَا وَكَذَا وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ اَمْرِيْ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا وَّاَرِنِيْ فِيْ مَنَامِيْ مَا اَسْتَدِلُّ بِهٖ عَلٰى اِجَابَةِ دَعْوَتِيْ فَاِنْ رَاَيْتَ مَا يَسُرُّكَ وَاِلَّا فَافْعَلْ مِثْلَ ذٰلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَاِنْ رَاَيْتَ وَاِلَّا فِي الثَّالِثَةِ اِلَى السَّابِعَةِ لَا يَعْدُوْهَا الْاَمْرُ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى جَرَّبَهَا جَمَاعَةٌ مِّنْ اَصْحَابِنَا۔

کے عوض سورۂ والتین کا سات بار پڑھنا آیا ہے۔ پھر یوں کہے خداوندا مجھکو میرے خواب میں ایسا اور ایسا دکھلا دے اور میرے اس حال میں کشادگی اور خلاصی کر دے اور میرے خواب میں وہ چیز دکھا دے جس سے میں اپنی دعا کے قبول ہو جانے کو دریافت کر جاؤں تو اگر تو اسی رات وہ چیز خواب میں دیکھے جس کو تو چاہتا ہے تو خوب ہوا اور نہیں تو اسی طرح دوسری رات کر سو اگر مطلب حاصل ہو نہو المراد اور نہیں تو تیسری رات بھی اسی طرح کر ساتویں رات تک انشاء اللہ تعالیٰ ساتویں کے آگے نہ بڑھے گا کہ حال کھل جائے گا اس عمل کا ہمارے صحبت والوں نے تجربہ کیا ہے۔

رُقْيَةُ الْمَحْمُوْمِ اَنْ يُّكْتَبَ وَيُعَلَّقَ عَلٰى عَضُدِهٖ يَبْرَأُ سَرِيْعًا بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ اِلٰى اُمِّ مِلْدَمٍ اَلَّتِيْ تَاْكُلُ اللَّحْمَ وَتَشْرَبُ الدَّمَ وَتَهْشِمُ الْعَظْمَ اَمَّا بَعْدُ يَا اُمَّ مِلْدَمٍ اِنْ كُنْتِ مُؤْمِنَةً فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنْ كُنْتِ يَهُوْدِيَّةً فَبِحَقِّ مُوْسَى الْكَلِيْمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنْ كُنْتِ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ الْمَسِيْحِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَنْ لَّا اَكَلْتِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ لَحْمًا وَّلَا شَرِبْتِ لَهٗ دَمًا وَّلَا هَشَمْتِ لَهٗ عَظْمًا وَّتَحَوَّلِيْ عَنْهُ اِلٰى مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَاِلَّا فَاَنْتِ بَرِيْئَةٌ مِّنَ

خزینۃ الاسرار ص ۲۴۱، ۲۴۲

اللهِ تَعَالٰی وَاللهُ تَعَالٰی بَرِیٌٔ مِّنْكِ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ۔

افسونہائے تپ جس کو تپ آتی ہو اس کا افسون یہ ہے کہ ایک کاغذ میں لکھے اور اس کے بازو میں باندھے جلد اچھا ہو جاوے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بسم اللہ سے آخر تک لکھے۔

ف۔ اُمِّ مِلْدَم عرب کی زبان میں تپ کی کنیت ہے اور بجائے فلان بن فلانۃ کے مریض کا اور اس کی ماں کا نام[1] لکھے۔

وَاَيْضًا يَقْرَأُ كُلَّ يَوْمٍ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ سُوْرَةَ الْمُجَادَلَةِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ۔

اور یہ بھی عمل ہے دفع تپ کا کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد سورۂ مجادلہ تین بار پڑھے تپ والے پر۔

وَلِمَنْ بِهِ الْخَنَازِيْرُ يَعْقِدُ عَلٰى سَيْرٍ مِّنَ الْاَدِيْمِ عَلٰى مِقْدَارِ طُوْلِ الْمَرِيْضِ اِحْدٰى وَاَرْبَعِيْنَ عُقْدَةً يَنْفُثُ فِيْ كُلِّ عُقْدَةٍ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِنُوْرِ اللهِ وَقُدْرَةِ اللهِ وَقُوَّةِ اللهِ وَعَظَمَةِ اللهِ وَبُرْهَانِ اللهِ وَسُلْطَانِ اللهِ وَكَنَفِ اللهِ وَجِوَارِ اللهِ وَاَمَانِ اللهِ وَحِرْزِ اللهِ وَصُنْعِ اللهِ وَكِبْرِيَاءِ اللهِ وَنَظَرِ اللهِ وَبَهَاءِ اللهِ وَجَلَالِ اللهِ وَكَمَالِ اللهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ۔

برائے خنازیر اور جس کی گردن میں کنٹھ مالا ہو تو چمڑے کے تسمے پر جو مریض کے

[1] معمول مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ اور مولانا اسحٰق رحمہ اللہ کا تپ کے دفع کے لئے یہ تھا کہ گلے میں باندھنے کے لئے یہ لکھ دیتے تھے، قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۞ اور بچے کے لئے بیماری دفع ہونے کے لئے سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ۞ ۱۲

قد کے برابر ہو اکتالیس گرہ دے اور ہر گرہ پر یہ دعا پھونکے یعنی بسم اللہ سے آخر تک۔

وَلِمَنْ ظَهَرَتْ عَلٰى بَدَنِهِ الْحُمْرَةُ يَرْقِيْهِ بِهٰذَا الدُّعَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّيُشِيْرُ بِالسِّكِّيْنِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ بِسْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ الْحَلِيْمِ الْكَرِيْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهٖ وَسُلْطَانِهٖ اَيَّتُهَا الْحُمْرَةُ جَآءَتْكِ جُنُوْدٌ مِّنَ السَّمَآءِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ اَيَّتُهَا الرِّيْحُ اَجِيْبِيْ دَاعِيَ اللهِ وَمَنْ لَّمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَمَا لَهٗ مِنْ مَّلْجَاءٍ وَّمَا لَهٗ مِنْ ظَهِيْرٍ بِسْمِ اللهِ وَبِالثَّنَاءِ الطَّيِّبِ عَلَى اللهِ اَللّٰهُ يَكْفِيْكَ وَاللهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَآءٍ يُّؤْذِيْكَ وَمِنْ كُلِّ اٰفَةٍ تَعْتَرِيْكَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا بِرَحْمَتِهٖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔

برائے سرخ بادہ اور جس کے بدن پر سرخ بادہ ظاہر ہو وہ افسون کرے اس دعا سے سات بار اور اشارہ کرتا جاوے پڑھنے کے وقت چھری سے وہ دعا بسم اللہ سے آخر تک ہے۔

وَلِمَنْ يَّشْكُوْ بَصَرَهٗ يَقْرَأُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۞ بَعْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ مَّكْتُوْبَةٍ۔

برائے ضعف بصر اور جو ضعف بصارت سے نالاں ہو وہ یہ آیت پڑھا کرے بعد ہر نماز فرض کے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۞

وَلِمَنِ ابْتُلِيَ بِالصَّرْعِ يَاْخُذُ لَوْحًا مِّنَ النُّحَاسِ

برائے صرع اور جو مرگی میں مبتلا ہو تو تانبے کی ایک تختی لے سو اس میں یکشنب

فَيَنْقُشُ فِيهَا أَوَّلَ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْأَحَدِ فِي طَرَفٍ مِنْهُ يَا قَهَّارُ أَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ يَا قَهَّارُ وَفِي الطَّرَفِ الْآخَرِ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ بِقَهْرِ عَزِيزِ سُلْطَانِهِ يَا مُذِلُّ وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ

کی پہلی ساعت میں اس تختی کے ایک طرف یہ کھدوادے، يَا قَهَّارُ أَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ يَا قَهَّارُ اور دوسری طرف یہ کھدوادے يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ بِقَهْرِ عَزِيزِ سُلْطَانِهِ يَا مُذِلُّ اور اللہ توفیق دینے والا ہے اور مددگار یعنی اعمال کا اثر توفیق اور اعانت ربانی پر منحصر ہے۔

مجرّب عملیّات و تعویذات

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عمر سربازی مدظلہ

خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر محمد عبدالمالک صدیقی خانپوری

برائے دفع وسواس

نوشتہ در گردن بندد و ۷ عدد شستہ بخورد۔ اینست۔

یا اللہ الرقیب الحفیظ الرحیم یا اللہ الحی الحلیم العظیم الرؤوف الکریم یا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت حل بینی و بین عدوی۔

برای حفاظت از جن و شیاطین و حال بندی و حفظ ولد از اسقاط و از ام الصبیان و تمام بلیات این حرز و حجاب مبارک مجرب و آزموده است

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيْمٍ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيْمِ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ اَللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ

عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ
حَفِيْظٌ. وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ
مَّحْفُوْظٍ. اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. اَللّٰهُمَّ يَا حَافِظُ لَا تَنْسٰى
وَيَا مَنْ نِعَمُهٗ لَا تُحْصٰى وَيَا مَنْ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى وَالصِّفَاتُ
الْعُلْيَا اَسْئَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَحْفَظَ
حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر فانك قلت و
قولك الحق اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. ۩ ااام ✻ ااااهو ۩ كهيعص
حمعسق قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ
يَهْدِيْنِ وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ
قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ

برای غنای ظاهری و باطنی و ادای قرض و دفع گدائی

اسم یا مُغْنِیُ را بعد نماز صبح یازده صد مرتبه بخواند اول و آخر درود ده ده بار بخواند این قدر استمرار بخواند تا مقصد بر آید

برای تپ یکی - بر سه دانه مغز بادام مقشر بنویسد بر اول بنویسد حست و در دوم مست و در سوم الفضت و هر روز کرتپ

آید یکی بعد دیگری تا سه روز دوا دهد.

یا بر سه عدد هسته خرما بنویسد. در یکی کوفا کوفا کوفا،
بر دوم لوفا لوفا لوفا بر سوم! حاجا احاجا احاجا احاجا
یا ام ملدم لا تأکلی اللحم ولا تشربی الدم هر روز وقت تپ یکی
دوا دهد

برای ولد که در شکم مادر دیر معطل شود و نزاید و از قرار نه ماه بگذرد

بر پهلت پاره کاغذ این آیات را نوشته روزانه یکی شسته بنوشد
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا
فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ
سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ
الْغَمِّ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ
الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً
فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ. وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ
يَّنْظُرُوْنَ. وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ

خاتم غزالی برای سهرک و گرمیک و قهو و کبل و سر و نفس تنگی و جنک و دردهای مختلف نوشته در گلو یا بازو یا محل درد ببندد

۴	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

برای تشنگی سخت

سه بار این دعا را خواند اگر دفع نشد دیگر سه بار همینطور تا دفع گردد

یا لطیفاً بخلقه یا علیماً بخلقه یا خبیراً بخلقه الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔

برای بند کردن زبانِ دشمن و ظالم

وقت رفتن نزد او سه یا هفت بار بخواند۔

اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓی اَفْوَاهِهِمْ وَلَا یُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَعْتَذِرُوْنَ صُمٌّۢ بُکْمٌ فَهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ

برای تکثیر شیر

این آیه را سه بار بر نمک خوانده دم زند و در غذا کرده بخورد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِیْ کُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ

برای زیادتی آبِ چاه و چشمه

بر سفال نوشته در آب اندازد ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُکُمْ الآیة پ۱ بقره

برای ویرانی و عزل ظالم

شب جمعه بعد نماز عشاء در خانه خلوت رود با وضو این درود را هزار بار بخواند اینست اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ در اول هر صد بار بگوید یا اللّٰه استجیر بک من

فلان ابن فلانة فخذ لی حقی منه۔ مقصود او حاصل می گردد

برائے ملاقاتی و تشرف بدیدارِ سرورِ کائنات صلی اللّٰه علیه وآله وصحبه وسلم

در شب جمعه سورهٔ کوثر را هزار بار بخواند اول و آخر صد صد بار درود خواند ان شاء اللّٰه تعالیٰ مشرف گردد

یا این درود را هزار بار شب جمعه خواند اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ کُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّکَ

برای پوشیده شدن از چشمِ دشمنان

چون او را کافر یا ظالم یا دزد تعقیب کند و خواهد که از چشم شان پوشیده ماند و او را نه بینند آیاتِ ذیل را آن وقت بکثرت تلاوت کند ان شاء اللّٰه تعالیٰ او را نمی بینند ولو اینکه در میانِ صاف و جلو شان بنشیند اعتقاد لازم است وانها مجرب المجرب اند۔ این اند یس شریف تا لا یبصرون و این آیات اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَکِنَّةً اَنْ یَّفْقَهُوْهُ وَفِیْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ۔ اَفَرَاَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰی سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهٖ غِشٰوَةً۔

دعا برای اُمّ الصّبیان

این را نوشته در گردنِ زن بندد و بعد از زائیدن همان ساعت فوری به کودک بسته شود معطّل نکند، از امّ الصبیان محفوظ میاند انشاءاللہ تعالیٰ اینست ای کنوش کنوش اره شش عطیطفتح یا معطرون قرباثیون ما وماسرما طیطالوس خطوش منقعلین سامعون اقربا الطفولی هذا وماکنا من الشاهدین اخرج یا امّ الصّبیان اخرج بقدرة الله منها ایتها اللّعین بقوة رب العالمین اخرج منها الاکنت من المسبوحین اخرج نایکون ۹۳ ۸۳ للک سایز میا امیا فاخرج انّک من الصاغرین اخرج منها مذموما مدحورا ملعونا لما لعنا اضراب البیت وکان امرالله مفعولا اخرج یا ذوالمحزون اخرج یا سوزا سوزا من هذا الکیا کل جنّ وجنیة وشیطان وشیطانیة وتابع وتابعة وساحر وساحرة وغول وغولة وکل طارق وعابث یبعث بابن آدم ولاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم اخرج یا جمیع العلّة از درندهٔ این دعا اخرج واسکن بعظمة الله یا ارحم الراحمین ... القیت محبة منّی ولتصنع علیٰ عینی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علیٰ من یکفله فرجعناک

۶۱۶ ۴۲ ۱۲۱۴۸۸ لہ الک لک للہ للک ۱۲۶۳۱ ۵۱۴ ۱۸ ۸۲ لسم لسم ۳۲ و

۸۴۶۴ الک لک ۸۱۸۴ و للک ۱۱۱۱۱ ۶۸ و ۱۱۱۱ ۸ ۲۸ ۱۱۱۱ للک للک للک ۱

۸۳۸۲۲۶۸ ۸۴۴۸۳۴ ۸۳۸۷ را ۱۳ ۱۸۲۸۳۴ الحریق ۸۳۸۲

۱۱۸۳۸۳۱۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳ ۳۳ ۲۸۳ ۳۶

۷۲۸۳۸۳ معطفیای ۸۳ ۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳ ۱ ۸۳۸۳۸۲۸۲ ۳

باسم دارندهٔ این دعا۔

برائے دیوپری وجنّ وجوگی وغیره

اگر کسی را گرفته یا سایهٔ او دیوی رسیده این نقشهٔ انگشتری حضرت سلیمان بن داؤد علیهم السلام نوشته بگلوی وی بندد واگر مسحور با خود دارد سحرِ او زائل گردد۔ اینست

بسم الله الرحمٰن الرحیم

یا سمیع

یا کریم یا رحیم یا رحمٰن

یا خالق یا متکبر یا غفار

یا ستار

یا رحیم

یا عظیم یا رحمٰن

یا وهاب

برائے حاجت برآری

اگر کسی این دائره را تا پنجاه روز هر روز بیست بیست بار نوشته در آبِ روان اندازد هر مقصدی که دارد تمام میشود انشاء الله تعالیٰ اینست

د	١	٦
٣	٥	٧
۴	٩	٢

برای خارش تمام بدن یا کدام اعضاء

این را نوشته در روز یکشنبه بنهار شسته بخورد. اینست

١٥	٧٩	١٢	١١ الله
صهر	٢ دد	٨١	٣ ٧
٢ طا	١٨٤	٣٩	سلم
لاد ٩٠	٢٢١٤	٩٣	٣

ایضاً - این را نوشته و شسته بخورد در عمر خود خارش نمی بیند انشاء الله تعالیٰ این است:

طٰهٰ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰىٓ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

برای سرخ باد

بنویسد شسته بخورد از برکت این دعا صحت یابد انشاء الله تعالیٰ اینست۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَفُوْرُ وَاَنَا الْمُذْنِبُ فمن يرحم المذنب الا الغفور رب اجب بحق یا الله

برای زحمت رسیده

این را نوشته بخورد از برکت این دعا در حال صحت یابد انشاء الله اینست اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَوِیُّ وَاَنَا الضعیف فمن یرحم الضعیف الا القوی یا رب بحرمة عزرائیل

برای تب سه روزه این را بر سه پاره کاغذ بنویسد هر روز جلو از آمد تب یکی شسته بخورد شفا یابد. انشاء الله این است۔ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

برای تب لرزه نوشته بگلوی آویزان کند این است لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ؕ

برای تب گرم نوشته و شسته بخورد این است وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ؕ

برای درد گلو نوشته در گلو بندد. اینست فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ

برای محبت زن و شوهر شش

نوشته بر گردن طالب به بندد انشاء الله محبت پیدا گردد اینست

یا حبیب من لا حبیب له یا طبیب من لا طبیب له یا مجیب من لا مجیب له یا شفیق من لا شفیق له یا رفیق من لا رفیق له یا مغیث من لا مغیث له یا دلیل من لا دلیل له یا انیس من لا انیس له یا ارحم من لا ارحم له یا صاحب من لا صاحب له۔

برائے درد ناف

نوشتہ بر ناف بند صحت یابد انشاء اللہ تعالیٰ. این است اللّٰھمّ انی اسئلك باسمك یا حبیب من لا حبیب له یا قریب یا مجیب یا رقیب یا حسیب یا منیب یا مثیب یا خبیر یا بصیر

برائے تپ گرم

نوشتہ در گلو ببندد۔ این است

حضرت ابوبکر صدیق	حضرت	حضرت عمر	عثمان
حضرت	علی بن ابی	طالب	تورات
انجیل زبور	فرقان	سک سک	سے سے
سے سے	سے یا	ص یا ص	یا ص

برای درد نیم سر ۔ این را نوشتہ بر سر بندد. اینست

۱۰۱	۱۱۱		۱۲
۲۷	۹		
۳	۰۱		۴
٤	۱۰		

برای درد دل ۔ این را نوشتہ بخورد این است

اِنّی نَذَرتُ لَکَ مَا فِی بَطنِی مُحَرَّرًا فَتَقَبَّل مِنّی اِنَّکَ اَنتَ السَّمِیعُ العَلِیم یا شافی یا کافی نرجو الشفا منك یا حی یا قیوم برحمتك یا ارحم الراحمین۔

برای کشادن مرد و زن بستہ

مردیکہ نمیتواند با زن خود صحبت کند بگیرد جامۂ پاکی از کرباس این تعویذ را دران پارچہ بنویسد و در کمر بندد فورًا کشادہ گردد بحکم خداوندی اینست :

۱۱۱۱	م د ہ	مراح
۵۹۱۱۵	۱۱۹۹۱۱۱	ع ط کشا
دم جوانی	فلان بن	فلان علی
فلانت	بنت فلانۃ	بنت فلان

ایضًا۔ برای کشادگی مرد یا زن کہ بستہ باشند در روز جمعہ وقت چاشت این تعویذ را بنویسد بر بازوی راست ببندد کشادہ گردد انشاء اللہ تعالیٰ ۔ اینست

ا ط ط ط	۱۱ ص۳	ص۳ ۲۲	۱۱۱۵۵
م ع ع	ط ی ر	۱۱ حو سماع	و فلان
سار سار	سار ۲	امانم	کشادم
ذکر فلان	بن فلان	بر فرج فلانۃ	بنت فلانۃ

برای فتح جمیع کارہا

بگردن بندد اینست اللّٰھمّ انی اسئلك باسمك یا اللّٰہ یا رحمٰن یا رحیم یا کریم یا عظیم یا قدیم یا علیم یا حکیم

برائے دفع جنون

بنویسد بگردن بندد اینست اللّٰھمّ انی اسئلك باسمك

یا حنّان یا منّان یا دیّان یا برهان یا سلطان یا رضوان یا غفران
یا سبحان یا ذو المنّ و البیان یا غافر الخطایا یا کاشف البلایا
یا منتهی الرجایا یا مجزل العطایا یا واهب الهدایا یا رازق البرایا
یا قاضی المنایا یا سامع الشکایا یا باعث البرایا یا مطلق الاسارٰی

هر که این مناجات را با خود دارد تمام دشمن وی مطیع گردند و عذاب قبر و تلخی سکرات بر وی آسان گردد و بخت و دولت بر وی کشاده گردد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

روایت کرده اند از شیخ المشائخ شیخ بهاء الدین زکریا قدس الله سره الاقدس فرمودند اگر کسی را فرزند نمی باشد این آیات را بمشک و زعفران بنویسد آن زن و شوهر هر دو روزه دارند و غسل کنند بوقت نماز شام این تعویذ را بشویند هر دو از آن آب افطار کنند و دیگر تعویذی بنویسد در کمر بندد تا مدت چهل روز از خود جدا نکند و بجرام نافتد درین آیات شک نیست مجرب است مقدار چهار هزار کس را خدای تعالی فرزند کرامت کرده است، اینست بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا بحرمة وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ۔

برائے تپ لرزه ازین نقش هر یکے یک روزی بخورد این است

روز اول: بسم الله
روز دوم: الرحمن
روز سوم: الرحیم

برای شکستن فوج و لشکرهای دشمن

این آیه کریمه را بر کاغذی بنویسد یا بخواند بر خاک یا کلوخ دم کرده بر آن فوج و لشکر بیفشاند در حال بحکم خدا فوج شکست میخورد انشاء الله تعالیٰ اینست
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

برائے دفع آتشک

این آیه را در روز یکشنبه نوشته و شسته بخورد و دیگری نوشته بر بازوی راست ببندد بحکم خدا دفع میگردد این است.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

برای کشادن مرد بسته

این اسم را بالای بیضهٔ مرغ نوشته او را دهد تا بخورد فوری کشاده میگردد انشاء الله این است ۔ لا ما ح ما ۷۷ لا م م م

برای درد چشم و چشم دُور

این الفاظ را صبح شام سه سه بار خوانده دم کند. بسم الله الخ

دخل الرَّمَدُ بِسَلَامَةٍ وَخَرَجَ الرَّمَدُ وَانكَفَتِ الدَّمْعَةُ بِسَلَامَةٍ وَاغْلَقَتِ الحُمْرَةُ بِسَلَامَةٍ بِالَّفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ اَللهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ تا عَلِيمٌ

برای بند کردن خون جاری از بینی و دهن و دبر و استحاضه ونفاس زنان وخون زخم وجرح وغیره

اینرا بنویسد وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ كَذٰلِكَ فانقلب یا دم بالف لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ. جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم لخ

برای خون بینی و دهن بر پیشانی بندد و برای خون شکم بر شکم بندد و برای زخم درمان اعضا بندد و برای استحاضه سه نوشته یکی زیر دامن جلوی یکی بر عقبی یکی زیر ناف به بندد و برای همین استحاضه اضافه ۴۰ عدد ـ م ـ بر چهار کاغذ ده ده عدد جدا نوشته یکی در گلو کند دیگی بر سر بندد و یکی دود دهد دیگی گلوله کرده همراه کاغذ بخورد. بارها آزموده است.

برای تمام دانه ها مثل سوم وغیره

این آیه را تلاوت کرده دم کند سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ

وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ. این جمله فَاَصْبَحَتْ الخ را هفت بار تکرار کرده و هفت بار آیه را همین طور خوانده دم کند

برای تمام عوارض جسمانی و دانه ها و ریشها و آماسهای جسم و گلو و بینی و دهن و اندام نهانی وغیرها.

اینها را نوشته شسته بخوراند یا بر جای درد بمالد.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلٰى كل علة لا تهيج ولا تريح ابدا انشاء الله تعالى حبوب طلعت في صخرة صماء نبتت لا اصل لها ثابت ولا فرع لها نابت بسم الله ارقيك وبنور الله اشفيك وبذكر الله اعافيك وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ايها الالم النابت في الجسم الذي يموت مت بقدرة الحي الذي لا يموت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

برای گَرِدین

یک سوزن گرفته بدوره گردین بگرداند واین آیه کریمه خوانده ۷ مرتبه و هر مرتبه سر سوزن تر کرده به آب دهن خود دوره گرداند و دم کند تا سه روز متواتر و هر دو غافل و معمول نهار باشند شَجَرَةٌ جَنَانِيْ صَخْرَةٍ صَمَّا لَا اَصْلَ لَهَا ثَابِتٌ وَلَا فَرْعَ لَهَا نَابِتٌ يُوْنُسُ ذُو النُّوْنِ ضَرَبَهَا بِعَصَاهُ

فَانْقَطَعَتْ فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ این لفظ اخیر را ۷ بار تکرار کند.

نیز برای گردین هر قسم و کوره ریش و سر

این را خوانده به آب دهن خود انگشت را تر کرده بر جای بمالد ۷ بار بخواند تا سه روز هُوْدَرِیْن کُوْدَسْ اَنْ بُوْرِکَ مَنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَکَهٗ صَلْدًا فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِیْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ لفظ اخیر را سه بار هر بار تکرار کند

نیز برای گردین هر قسم

هفت تار رشته گرفته و سه گره دهد بر هر عقده و گره سه بار این آیه دم کند و در گلو بندد. مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیْثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیْثَةِ ۨاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

یا این را بر سر گردین بنویسد فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِیْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ این لفظ را سه بار بنویسد.

برای دانه‌های روبه بلوچی زور و برای سکک بلوچی و برای ریش و دانه‌ها و آبله‌های سر و همه دانه‌های جسم

این آیه را خوانده دم کند یا بر روغن و دواملین دم زده بمالد. وَیَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یَنْسِفُهَا رَبِّیْ نَسْفًا فَیَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرٰی فِیْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا

برای اخراج کرم ریشهای حیوانات

بگیر دیک مشت خاک این کلمات ذیل را هفت مرتبه خوانده بر آنها دم زده بر ریش بیندازد بُوْشِیْ سه بار دُوْشِیْ سه بار (اَبُوْشِیْ) دو بار (اَنْدُوْشِیْ) دو بار بِالْکَهْفِ وَالرَّقِیْمِ بِالرَّبِّ الْمَلِكِ الْعَظِیْمِ اُخْرُجْ اَیُّهَا الدُّوْدُ مِنْ هٰذَا الْجُرْحِ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ

برای اخراج کرمهای چشم و گوش و بینی انسانان

یک مشت خاک گرفته این را سه بار خوانده وقت طلوع و وقت غروب و بجانب آفتاب بیفشاند تا هفت روز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حُوْشٌ مُوْشٌ دُوْشٌ دُرْیَانُوْشٌ دَنْیَانُوْشٌ هر لفظ را دو دو بار گوید، پس بگوید بِالطُّوْرِ بِالنُّوْرِ الْعَظِیْمِ بِاَصْحَابِ الْکَهْفِ وَالرَّقِیْمِ بِالرَّبِّ الْجَلِیْلِ بِالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ بِالْکِتٰبِ الْمَسْطُوْرِ وَالْبَیْتِ الْمَعْمُوْرِ وَمَنْ تَحْسَبُهُمْ اَیْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ اُخْرُجْ وَانْتَشِرْ اَیُّهَا الدُّوْدُ مِنْ عَیْنِ اَوْ اُذُنِ اَوْ مَنْخَرِ فلان بن فلانة وَلَا تَعُدْ کَمَا انْتَشَرَ هٰذَا التُّرَابُ مِنْ یَدِیْ بِحَقِّ الْمَلِكِ الْمَعْبُوْدِ بِالَّذِیْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ وصلی اللّٰه علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا موتوا موتوا اذهب وَانْتَشِرْ اَیُّهَا الدُّوْدُ بِقُدْرَةِ الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ.

برای آبلہ یعنی گرمپک فی سہرک

این نقشہ را نوشتہ در گلو آویزان کند خیلے مفید است۔

۸	۱	۱۴	۱۱
۱۰	۱۵	۴	۵
۳	٦	۹	
۱۳	۱۲	۷	۲

نیز برای آبلہ کسہرک نوشتہ در بازوی راست بند جلوتر از برآمدن یا بعد برآمدن یا نوشتہ بر در مکان خود چسپان کند۔

مسلی	مسلی	دالفرعہ
السر	السر	یادس
القوس	اس	...

برای وبا و طاعون ہیضہ ہر قسم نوشتہ در گردن بندد

این است۔ اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔ فردٌ صمدٌ حیٌّ قیومٌ حکمٌ عدلٌ قدوسٌ۔

یا این را بنویسد در گردن بندد وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا 8 ااا م H اااا ے و8۔ یا این حروف را با نام بیمار بلا واده نوشتہ در گردن بندد ج خ د ذ ر ز س ش ص ض

یا این نقش را بندد

طہ

یارقیب	یامقتدر
یاخلاق	یاعظیم

وبر در خود این را چہار مرتبہ بنویسد مؤمنٌ یا این را ۷ بار یا ۸ بار بنویسد حیٌّ

یا این را نوشتہ در گردن بندد یا بر در چسپان کند۔

۵۸٦

الہی بحرمۃ فرزندان گرامی خواجہ امام ربانی مجدد الف ثانی خواجہ شیخ محمد صادق اکابر اولیاء رحمہما اللہ ما را از شر و بلای وبا و طاعون نگہدار۔

اللہ شافی اللہ کافی

یا این را صبح و شام ہفت ہفت بار بخواند یا نوشتہ در خانہ خود آویزان کند لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَمَانٌ مِّنَ الطَّعْنِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ طَعْنٌ فِي الطَّاعُوْنِ سیدی عبد الوہاب الشعرانی سیدی شمس الدین الحنفی سیدی سراج الدین البلقینی سیدی عبد القادر جیلانی۔ حی صمد فرد باقی ولہ کنت وانی سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ۔

برای گریہ طفل نوشتہ در گردن طفل آویزان کند

عیسی ولد لیلۃ السبت فلا کلب ینبح ولا ریح تنفح ارقد ایہا الطفل بغیر بکاء الی ان تصبح بالف الف لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

برای طحال یعنی دلوھنگ بہ بلوچی

این نقشہ را در کاغذ نوشتہ ہمین کاغذ را بر سر پیراہن مقام طحال بندد

ویک قاشق را پر از خاکستر گرم کند و بر سر کاغذ بدارد تا کاغذ زرد گردد تا سه روز متواتر یا غیر متواتر کند آزموده است

ملق	٦	فتجهل
ک	ک	
فتبل	١٨	ملق

نیز برای او این را نوشته تا هفت روز بجای طحال به بندد.

طلطیش طلطیش یتوش یقوش هیطیط هیطیط هیطیط انسل ایها الطحال من جنب فلان ابن فلانة بحرمة الله الواحد القهار الذی علی العرش استوی و دور الفلک الدوار واسکن کما سکن عرش الرحمن علی الماء و له ماسکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم

برای زن دشوار زاینده و هر حیوان دشوار زای

این را نوشته در گردن او به بندد یا بر آب دم زده بنوشد یا دم کند حَنَّةُ وَلَدَتْ مَرْيَمَ وَمَرْيَمُ وَلَدَتْ عِيسٰى اُخْرُجْ اَيُّهَا الْمَوْلُوْدُ بِقُدْرَةِ الْمَلِكِ الْمَعْبُوْدِ

برای طفل یا کسیکه توت رفتار نداشته باشد یا پیش یا کمرش ضعیف باشد این را نوشته در گردن او به بندد

ب	ج	ج	ف	ق
ج	ج	ف	ب	ه
ج	ف	ب	ج	ق
ف	ب	ج	ج	ح

برای اخراج مشیمه در بلوچی چکک دان وزهک

کرزن نا تیده است و همراه بچه در شکم مانده است در کاغذ یا لباس نوشته

بر شکم به بندد دَخَلَ جبرئیل میکائیل و اسرافیل اللهم رب موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه وسلم انزلی ایها المشیمة من ...

برای گریز کردن و تنفر کردن دل از گناهها و افعال زیبا و برای نجات از بول بر بستر خواب. این اسماء را نوشته در گردن بندد یا شسته تا یکهفته هر صبح شسته بنوشد. عبدالله. عروه. قاسم. سعید. ابوبکر. سلیمان خارجة. عثمان بن عفان. تمیم الداری. عبدالرحمن بن عوف. ابی بن کعب زید بن ثابت. معاذ بن جبل رضی الله عنهم

برای کشادن مرد بسته بسحر وغیره

این آیه را (۲۱) عدد نوشته شوهر روزانه سر صبح یکی شسته بنوشد وزن نیز همین مقدار به همین طور.

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

برای گزیدهٔ مار و کژدم و درد شکم و ناف

اول سورهٔ فاتحه با تسمیه سه بار خوانده دم کند بعد از ان بخواند يَا مَنْ نادی الفجر فانشق وَبَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ اِلَيْنَا ثم الخلق وَهُمْ الرزق وَسُوءَ الخلق اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا اُبْرُدْ يَا سَمُّ وَاخْشَ اللهَ الْمَلِكَ الْاَعْظَمَ جِبْرِيْلُ عَلٰى رَأْسِهَا وَمِيْكَائِيْلُ عَلٰى وَسَطِهَا وَ اِسْرَافِيْلُ عَلٰى ذَيْلِهَا وَعِزْرَائِيْلُ عَلٰى سَنَامِهَا اُخْرُجْ يَا سَمُّ بِاِذْنِ اللهِ الْاَعَزِّ الْاَكْرَمِ از اُخرج تا آخر را سه بار تکرار کند هفت مرتبه دم کند و آب دهن را به جای گزیده بمالد.

نیز برای مار ۲۱ بار خوانده دم کند یا زیاده هر قدر که بخواهد

بسم الله الرحمن الرحیم کل کلین کلین پل پل کپوچ زهو بیاه ۲ باسم الله زهر مسکین بیا یدا.

نیز برای مار سلامٌ قولاً من رب رحیم، وسلامٌ علی نوحٍ فی العالمین را نوشته دیگر ۷ عدد حرف س هم بنویسد در ده کاغذ روزانه سه بشوید و بخورد سه وقت صبح ظهر شب.

برای کژدم شجینةٌ ۲ قرنیةٌ ۲ لمحةٌ بحر قمطار ۲ بار سلامٌ علی نوحٍ فی العالمین بار بار خوانده دم کند

ایضاً- بِاسمِ اللهِ وَبِاللهِ رَبِّ جبرئیلَ ومیکائیلَ کازمُ کازمُ وبرازمُ فنادرای مزن وشقنامرا سامرا هودا هیج والملکانا الرّاقی واللهُ شافی

برای بازیابی چیز گم شده

اسم یا حفیظ را یکصد و نوزده بار بخواند و بعد از آن یک صد و نوزده بار این آیه را بخواند

اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ همان گم شده بدست او میرسد.

برای باز آوردن گریخته یعنی سرگرد

این آیه را نوشته در همان خانه که گریخته است آویزان کند اَیْنَ مَا تَكُوْنُوْا یَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِیْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

برای دریافت دزد

ده مرتبه درود شریف خوانده بر پاره شنگرف دم کند و همان شنگرف را بر ران خود بمالد و این اسماء را چهل مرتبه بر استره دم کرده ران خود همان جا را بتراشد سر دزد تراشیده میشود، این اند بسم الله الرحمن الرحیم علیقه ملیقه تلیقه نلیقه بحق لا اله الا الله محمد رسول الله وعلی ولی الله

ایضاً بگیرد ۷ عدد دانه ماش و بر هر یک بار این را خوانده دم کند و بر سبزه کف دست بچه نابالغ سیاهی با روغن منده مخلوط کرده بمالد و هر بار یک ماش بر دست او بزند صورت دزدان نمودار گردد عزمت علیکم فتحون کنحون فتحون جیتک ۳ بار شفیعا ۳ بار عطینا ۳ بار سرورنا ۳ بار قدورا ۳ بار سهلا ۳ نهلا ۲ احضروا من جانب المشارق والمغارب بحق سلیمان ابن داود علیهما السلام

برای دفع موش و پشه و تمام موذیها

بر چهار چوب نخل آیه ذیل را نوشته هر یکی در یک گوشه خانه یا زمین یا باغ دفن کند لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا فَاَوْحٰۤی اِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِیْنَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ تا غلیظ سوره ابراهیم ع ۲ نوشته روز چهارشنبه قبل طلوع آفتاب باشد و وقت دفن کردن این آیات را سه بار بخواند

ایضاً برای موش سوره ابی لهب نوشته و این را هم بنویسد ایها الفار ارحل عنا فان لم ترحل والا فاذن بحرب من الله ورسوله

ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

ایضاً برچهار پارهٔ سفال این چهار آیت نوشته هر یکی در یک گوشهٔ باغ دفن کند. براول بنویسد وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الفار. بر دوم سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ الفارة. بر سوم يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ الفارة بر چهارم كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا الفارة

برای دفع مورچه ها

بگیرد خاکستر پس افگندهٔ بزغاله و در سوراخ مور بریزد و این الفاظ گوید یا ایها النمل یقول للصید ناعثمان بن عفان خذ هذا الرهاد فتله لنا الحبال والانار حل. این را سه بار تکرار کند و دعا را ۷ بار بخواند و تا یک هفته این عمل کند

برای دفع تمام کرمهای زراعت

بگیرد پارهٔ سفال پخته در آن سورهٔ فیل و اسماء خلفاء راشدین رض و عبید الله و عروه و قاسم و سعید و ابوبکر و سلیمان و خارجه و این آیه فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا نوشته آن سفال را در مزرعه بیندازد.

برای دفع ملخ از مزرعه

بگیرد دو عدد ملخ یک زرد و یک سرخ و بر هر یک ۷ بار آیة الکرسی خوانده این دعا خوانده بگذارد يَا أَيَّتُهَا الْجَرَادَةُ إِذْ تَحِلِّي بِأَصْحَابِكِ عَنْ هَذَا الْمَكَانِ بِحَقِّ مَا نَتْلُوهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ يَا أَيَّتُهَا الْجَرَادَةُ إِذْ تَحِلِّي بِأَصْحَابِكِ عَنْ هَذَا الْمَكَانِ وَإِلَّا لَقَدْ حَمَلْتِ ذَنْبَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِهَا فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝

برای دفع وسواس و درد

بر برگ خشک درختی نوشته در گردن بندد یا بجای درد بندد- این است قمش ۲ بار قمشیں ۲ بار قمشر ۲ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ تا تخرجون. اخرج ایها الوسوسة والنزة بالف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم -

برای زرد و آماسها

سورهٔ لم یکن ۶ عدد بنویسد یکی در گردن بندد و آن دیگر ها هر یکی یکروز شسته بنوشد

برای درد شکم و پیچش و درد ناف و آماسها و زیادتی شیر

این اسم را بر کاغذ نوشته بجای درد و ناف و آماس و بخاطر شیر میان دو پستان بندد (طماطیل فخجل)

برای حیواناتی که در تو کار یا راه می خسپند

برشاخ راست یا گوش بنویسد آدم و برچپ حواء
و برسم راست دست سیحون و برچپ جیحون و بر پای راست
الفرات و برچپ نیلِ مصر

برای شیرین و لذیذ شدن میوه

وقت بریدن آن بخواند فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ۞

برای چیز گم شده

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ خوانده تفتیش کند میرسد یا بهترین
میرسد۔

برای محبت بینِ زوجین

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا تا
شَدِيْدُ الْعَذَابِ اپ ع برشیرینی ۲ بار دم زده بخوراند۔

برای دشوار زائیدن

مؤطا امام مالک را در دست خود گیرد ان شاء اللہ فوری فرزند
متولد میگردد

برای تسخیرِ سواری

این آیه را ۳ بار در گوشِ آن بخواند رام گردد اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ
يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ
كَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۞

برای لرزش و هولِ دل

این را نوشته بر دل به بندد مجرب است لِيَرْبِطَ عَلٰى
قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ

برای هر گونه درد

بر مقام درد دست را نهاده این را چند بار خوانده دم کند
وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

برای خاموش کردن سگ درنده یا دیگر حیوانات حمله کننده

این را خوانده بطرفِ او اشاره کند وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
بِالْوَصِيْدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا۔

برای ازدیاد نور چشم

بعد از هر نماز سه مرتبه آیهٔ ذیل را خوانده بر انگشت دم کرده بر چشمان بمالد
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

برائے آبله

این تعویذ را نوشته در گردنِ مریض
بندد و هفت قرآن صدقه کند۔

یا حافظ	۷۸۶	یا حفیظ
	[illegible]	
الله شافی	[illegible]	الله کافی

برائے دردِ زه مجرب است

نوشته آن زن بدست راست
گرفته نگاه کند ان شاء اللہ کار حل
میگردد، این است

۷۸۶
ج ح خ ط ظ ع ق ی ک ل م
اشتم ھ ھ ھ اسوك ل و

برائے ہر آفت

بنویسد با خود نگاه دارد، این است

۹۹ ـــ ۹

۱۷	۲۱	۲۲	۱۰
۲۳	۱۱	۱۶	۲۲
۱۲	۲۶	۱۹	۱۵
۲۰	۱۴	۳	۲۵

یا باسط

برای زنیکه فرزند نزاید

در روز یکشنبه یا پنجشنبه نوشته در گلوی زن بندد این است

علی علی علی علی علی علی علی الله الله الله الله الله الله الله ھو ھو

ھو ھو ھو ھو ھو دہ دہ دہ دہ دہ دہ ھو دہ العجل العجل

الساعت الساعت الوحا الوحا

برائے مرد بستہ

این را نوشته بر ناف بندد شفا یابد ان شاء الله تعالی. این است

۲۳ ط ۹ ۲۲ ط ط
ی ۳ ۵ ۱۱۹۱۱۳

ایضًا - این نقش را هفت روز متواتر نوشته او را بخوردن بدهد. اینست

ہ ط علے علے علے علے علے علے ہ لہ لہ لہ لہ لہ لہ لہ

برای محبت و دوستی

این را نوشته بخوراند آزموده و مجرب است. این است

ع ج ع ع ع ع ع ع دہ دہ دہ دہ دہ لالالالالالالالالا

عج عج عج عج عج عج عج عج عج عج

برای درد

یکی بخوردن دهد و یکی در گلو بندد ان شاء الله دفع شود. اینست

۷	۱۱	۹۸	۱
۷۷	۲	۷	۱۲
۳	۹۷	۹	۹
۱۰	۵	۴	۹۷۹

یا حفیظ

برای چشم بندی و صحبت بازی گران

اگر خواهی که چشم بندی و صحبت بازیگران را بہ بندی و باطل گردانی این را بر کف دست نوشته کند. درمیان بازی گران بایستد بازی کردن نمی توانند اینست

حام و وح سوح صع صف عمرہ عمرہ

باب اول در بیان خاصیت اللہ الصمد

اول بیان دعوت نصاب و زکوٰۃ و عشر و قفل او این است

اگر خواهد که دعوت کند اول باید که اللہ الصمد را به این ترتیب بخواند که چهار لک مرتبه اللہ الصمد را بخواند یک لکی به نیت نصاب فی الله بخشد لک دوم را به نیت زکوٰۃ برای محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشد. لک سوم را به نیت عشر برای سید جلال مخدوم بخشد. چهارم را به نیت قفل برای جمله مسلمانان بخشد، تا که هر کاری که باشد از دین یا دنیا حاصل میگردد و در مرتبهٔ ولایت میرسد و بر هر چه نظر کند کیمیا گردد و هر چه در دل آرد زود میسر گردد که اَللہُ الصَّمَد اسم اعظم است و معنی صمد بی نیاز است. و بعد تمام بودن نصاب وغیرہ بحضرت باری تعالیٰ دعا کند و بگوید ای خداوندا ما نصاب و زکوٰۃ و عشر و قفل بقدر نارستی خود خواندم بلطف و کرم خویش جمیع مطالب مارا بر آر و یک بار این دعا را بخواند: اللّٰهُمَّ یا عَالِمَ السِّرِّ والنجوٰے ویا کاشف الضر والبلوٰی اکشف عنی الحزن والاذیٰ وافتح علی فی الحضر والسفر باب المرادات ما کان فی الدین والدنیا بحرمة هذه الاسماء وبحرمة اولاد الحسن والحسین سید باقر سید عثمان بخاری قدس سرہ اقض حوائجنا یا قاضی الحاجات ویا عالم السر والخفیات یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین.

باب دوم در بیان کفایت مهمات کلی و جزئی که پیش آید و بهیچ وجه کشاده نشود

باید که اللہ الصمد را بعد از نماز فجر و خفتن هزار بار بخواند و درود اول و آخر سه بار بخواند مهمات کلی و جزئی آسان گردند و اگر بعد از هر نماز صد بار اللہ الصمد را بخواند انشاء اللہ غم و اندوه از او رفع میشود و ایمان او سلامت می باشد. چنانچه روایت است:

سمعتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وقت الضحیٰ یا ولدی من قرأ اللہ الصمد بعد کل صلوٰۃ مائة مرة لا یسلب ایمانه عند الموت.

و نیز اگر کسی اللہ الصمد را بعد از نماز عصر پنج بار بخواند خداوند مرتبهٔ او را در هر دو جهان بلند می کند و قال سید السادات فخر العزة والاحسان قطب آخر الزمان سید باقر بن سید عثمان من قرأ اللہ الصمد بعد صلوٰۃ العشاء مائة مرة یری جمال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم فی المنام.

و در کتاب جواهر البخاری نوشته اند که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمود مر این اسم را هزار خاصیت است. اگر کسی شکل اللہ الصمد را نوشته در خانهٔ خود نگاه دارد هیچ دزد و دشمن زیان و نقصان نرساند اینست

ر۴	ع س	۵۳	و۴
۴س	۴۸	۴۳	۵ھ
ل۴	۵۱	۵۸	۴۴
ل ھ	۴۵	۴ع	۵۲

باب سوم دربیان کشف القلوب

اگر کسی خواهد کہ وہم مردمان را معلوم کند و بداند باید کہ دوازدہ روز ہر روز دوازدہ ہزار بار اللہ الصمد را بخواند و ہر کہ در نظر او می آید نام او و نام مادر و پدر و جد او را نیز معلوم و میداند لیکن این اسم را بصدق و اخلاص بخواند۔

باب چہارم دربیان کشف قبور

اگر کسی خواہد کہ احوالِ قبر را معلوم کند باید کہ بطرف پای قبر اللہ الصمد را بیست بار بخواند او را از غیب معلوم می شود کہ حقیقت چنان است و اگر کسی شکل اللہ الصمد را نوشتہ بطرف پای قبر نہد نیز حقیقت معلوم میشود۔

باب پنجم در جواب گرفتن از مردہ

باید کہ شب چہارشنبہ پیش قبر برود و السلام گوید و ختم کردہ بہ ارواح آن ببخشد۔ بعدًا انگشت را بر قبر او بنہد و شہادت بخواند و اللہ الصمد را پنجاہ بار بخواند جواب بدہد انشاء اللہ تعالی۔

باب ششم دربیان سیر کردنِ آسمان و زمین

اگر کسی خواہد کہ سیر آسمان و زمین را او حاصل شود و بمرتبۂ ولایت رسد و بمجلس رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت خضر علیہ السلام مشرف شود این اسم را بہ ترتیب بالا بخواند۔

باب ہفتم دربیان خزانۂ غیب

اگر کسی خواہد کہ خزانۂ غیب او را معلوم شود باید کہ پنج روز ہر روز دہ ہزار بار اللہ الصمد را بخواند خود معلوم کند یا بزرگی در خواب آید اطلاع دہد کہ فلان جای خزانہ ای موجود است۔ و اگر کسی این شکل را نوشتہ در گردن خروس سفید بہ بندد و رہا کند و ہر کجا کہ رفتہ بانگ میدہد آنجا خزانہ است۔ شکل این است :

ا	ہاو	وھا	۸
ن و	ن	۷	ع
ع	ع۲	او	س
۹۸۰	۴	ھ	ع سہ

باب ہشتم بر باد رفتن

اگر کسی خواہد کہ قدرت بر باد رفتن حاصل شود باید کہ نہ روز ہر روز ہفت ہزار بار اللہ الصمد را بخواند بفرمان خداوند تعالی قدرت رفتن و آمدن بہ بادی می شود و اگر کسی شکل اللہ الصمد را نوشتہ بوقت خواب بر سرِ خود بستہ کند انشاء اللہ در روز و سیر آن کردہ بیاید۔ شکل این است۔

اللہ ع	ص و	۴م۲	۴ د
۱۴	سر	۲ ع	م ۸
۲	۲۸	۲ و	۸ ع
او	د ع	۱	و ۳

باب نهم در بیان مسخر کردن پادشاهان و امراء و محبوب وغیره

اگر کسی خواهد که پادشاه وغیره مسخر شوند باید که الله الصمد را بیست روز هر روز هزار بار بخواند بادشاه وغیره مطیع و مسخر او شوند، آنچه فرماید قبول کند و چون کسی خواهد که زنِ خود را بر خود عاشق گرداند باید که الله الصمد را بعد از نمازِ عشاء قند بار بخواند بسوی خانهٔ محبوب بدمد مطیعِ او شود۔

باب دهم در بیان مسخر کردن جن و انس و دیو و پری که مسخر او شوند

باید که الله الصمد را روز یکشنبه بعد از نماز عشاء هر روز سه هزار بار بخواند تا هفت روز، جن و انس مطیعِ او شوند۔

باب یازدهم در بیان یافتن علوم کیمیا و سیمیا و هیمیا و ریمیا

چون خواهد که این علمها میسر شوند باید که الله الصمد را در بیابان هر روز هر روز هفت هزار بار بخواند یک شخص از غیب پیدا شود که او را این علمها را بیاموزد یا نظر کند که این علمها حاصل شوند و بدیدارِ حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم مشرف شود۔

و اگر کسی شکل الله الصمد را نوشته بر بازوی راست خود ببندد یک شخص میانِ راه آید و ملاقات کند و حقیقتِ این علمها

اطلاع دهد۔ شکل این است :

٨ د	ح	۴۴	۷ ع
۴۴	۶۶ الله	وحل	١
ع ع	۴	۴	او
٣	٢ و	٢۴	۴١

باب دوازدهم در بیان آب و طعام پخته و غیر پخته

اگر کسی خواهد که در بیابان الله الصمد را بخواند بر باد بدمد فی الحال طعام پخته و غیر پخته هرچه در دلِ او آید پیدا شود انشاء الله تعالیٰ۔

باب سیزدهم در بیان پیدا کردنِ رجال الغیب

اگر خواهد که رجال الغیب پیدا شوند باید که کارد گرفته دورهٔ خود را خط کشیده آیة الکرسی را ۷ بار خوانده دم کند پس هفتاد هزار بار اسم الله الصمد را بخواند رجال الغیب پیدا شود هرچه فرماید اجابت کند۔

برای زیادتی روغن

نوشته در گلوی هیزک ببندد و از آن روغن اول بنام خدا بدهد۔ نقش این است

١	١٠٠٢	٩٩٩	٧
١٠٠٠	٧	٢	١٠٠١
٦	٩٩٧	١٠٠۴	٣
١٠٠٣٠	عو	٥	٩٩ د

ایضا برای برکت شیر و روغن

این نقش را نوشته بر گردن هیمزک بندد هر گز روغن و شیر و خیرات را دیوان و پریان نمی برند اینست

۱۹۰	۲۰۲	۳۰۵	۱۲
۲۹۴	۱۳	۱۱	۲۳
۱۹۴	۲۷	۲۰	۱۷

برای اجابتِ دعاء

هر کہ روز پنجشنبہ بعد از نماز چاشت پانصد بار بخواند و بعد از ان دعاء کند ان شاء اللہ مستجاب میشود و اگر زراعت کاری می کند یا درخت می کاشد این اسم را بر کاغذ نویسد به آب بشوید و آن آب را دران کشت و زراعت بیندازد به برکتِ این اسم زود برومندی شود، اینست یا حلیمُ

و اگر یکی را زحمتی برسد

باید کہ این اسم را سہ بار نویسد بخوردن دهد شفا یابد، اینست یا غفورُ و اگر غم و اندوه غالب باشد یا دلِ او سیاه باشد این اسم را وظیفہ خود سازد ان شاء اللہ خلاصی یابد، این است یا علیُّ یا عظیمُ۔

برای اطلاع حال دزد یا دیگر امری پوشیده

این را بر کف دست راست نوشته وقت خواب زیر سر کند ان شاء اللہ

معلوم گردد این است مهیب مُهیب مهیب۔

اضافات۔ از احقر

تعویذ برای هر مرض نوشته در گلو بندد یا در بازو بندد یا شسته بخورد ان شاء اللہ مفید است

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات

کلها من شر ما خلق 8 ااا ع ـــــ H ا ا ا ا ه ه ه

کهیعص یا اللہ یا اللہ حمعسق یا ودود یا ودود

یا ودود اعوذ بکلمات اللہ

یا اللہ یا اللہ التامات کلها من شر ما خلق

ایضا برای هر مرض مثل اول استعمال کند اینست۔

العجائب	یابدیع	العجائب	یابدیع
یابدیع	بالخیر	یابدیع	بالخیر
العجائب	یابدیع	العجائب	یابدیع
یابدیع	بالخیر	یابدیع	بالخیر

د	ط	ب
ج	ه	ذ
ح	ا	و

یا حیّ حین لا حیّ فی دیمومة ملکه و بقائه یا حیّ۔

دعای مختصر برای دفع تمام امراض وبلیات ودفع فقر وتنگ دستی

این دعا را صبح وشام پنج پنج بار بخواند یا بعد هر نماز سه سه بار بخواند

تَوَکَّلْتُ عَلَی الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا



وصلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه محمد وآله وصحبه عدد خلقه ورضیٰ نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته ابد الآبدین ودهر الداهرین۔



مجرب عملیات وورد ووظائف خاندان ولی کامل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مهاجر مدنی

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

منزل

مؤلفہ: الحاج الحافظ حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندھلوی
ابن وجانشین حضرت شیخ الحدیث نوراللہ مرقدہ

یہ منزل آسیب سحر اور دوسرے خطرات سے حفاظت کے لئے ایک نہایت مجرب عمل ہے، قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نوراللہ مرقدہ اور ان کے خاندانی مشائخ و اکابر کے مجربات میں سے ہے

ناشر
المکتبۃ الحبیب دکھنی مسجد چوک کراچی

باسمہٖ سُبحانہٗ

حَامِدًا وَّمُصَلِّیًا وَّمُسَلِّمًا

ذیل میں جن قرآنی آیات کو درج کیا گیا ہے وہ ہمارے خاندان میں "منزل" کے نام سے معروف ہیں، ہمارے خاندان کے اکابر عملیات اور اَدعیہ میں اس منزل کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے اور بچّوں کو بچپن ہی سے یہ منزل بہت اہتمام سے یاد کرانے کا دستور تھا۔

نقش و تعویذات کے مقابلہ میں آیاتِ قرآنیہ اور وہ دُعائیں جو حدیثِ پاک میں وارد ہوئی ہیں یقیناً بہت زیادہ مفید اور مؤثر ہیں، عملیات میں انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیئے۔ فخر الرُّسل صلّی اللہ علیہ وسلّم نے دینی یا دُنیوی کوئی حاجت اور غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کے لئے دُعا کا طریقہ نہ تعلیم فرمایا ہو، اسی طرح بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لئے پڑھنا مشائخ کے تجربات سے ثابت ہے۔

یہ منزل آسیب، سحر اور بعض دُوسرے خطرات

سے حفاظت کے لئے ایک مجرّب عمل ہے۔ یہ آیات کسی قدر کمی بیشی کے ساتھ القول الجمیل اور بہشتی زیور میں بھی لکھی ہیں۔ القول الجمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدّث دہلوی قدس سرّہٗ تحریر فرماتے ہیں: "یہ تینتیس آیات ہیں جو جادو کے اثر کو دفع کرتی ہیں اور شیاطین اور چوروں اور درندے جانوروں سے پناہ ہوجاتی ہے" اور بہشتی زیور میں حضرت تھانوی نوّر اللہ مرقدہٗ تحریر فرماتے ہیں: "اگر کسی پر آسیب کا شبہ ہو تو آیاتِ ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں، اور پانی پر دم کرکے مریض پر چھڑک دیں اور اگر گھر میں اثر ہو تو ان کو پانی پر پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔"

ہمارے گھر کی مستورات کو یہ مشکل پیش آتی کہ جب وہ کسی مریض کے لئے اس منزل کو تجویز کرتیں تو اصل کتاب میں نشان لگا کر یا نقل کرا کر دینی پڑتی تھی، اس لئے خیال ہوا کہ اگر اس کو علیحدہ مستقل طبع کرا دیا جائے تو سہولت ہو جائے گی۔ یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ عملیات اور دُعاؤں میں زیادہ دخل پڑھنے والے کی توجہ اور یکسوئی کو ہوتا ہے۔ جتنی توجہ اور عقیدت سے دعا پڑھی جائے اتنی ہی مؤثر ہوتی ہے، اللہ کے نام اور اس کے پاک کلام میں بڑی برکتیں ہیں۔

وَاللہُ الْمُوَفِّقُ۔ فقط

بندہ محمّد طلحہ کاندھلوی

۲۴ شعبان ۱۳۹۹ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے / جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ

جو مالک ہیں / روز جزا کے / ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست

نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○

اعانت کی کرتے ہیں / بتلا دیجئے ہم کو رستہ / سیدھا

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے / نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو رستہ سے گم ہو گئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں

الٓمّٓ ○ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى

الم / یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں / راہ بتلانے والی ہے خدا سے

لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ

ڈرنے والوں کو / وہ ڈرنے والے ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں

الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

نماز کو / اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں / اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں

بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ

اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین

يُوْقِنُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ

رکھتے ہیں / بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے / اور یہ لوگ

هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

ہیں پورے کامیاب / اور جو تمہارا معبود برحق ہے وہ تو ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ

وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا / اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں زندہ ہے

الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ

سنبھالنے والا ہے (تمام عالم کا) / نہ اس کو اونگھ دبا سکتی ہے اور نہ نیند / اسی کے مملوک ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں ہیں

وَمَا فِی الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ

اور جو کچھ زمین میں ہیں / ایسا کون شخص ہے / جو اس کے پاس (کسی کی) سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے

یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ

وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر و غائب حالات کو / اور وہ موجودات / اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطۂ علمی

مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ

میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر (علم دینا) وہی چاہے / اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے

وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ○ لَآ اِكْرَاهَ

اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی / اور وہ عالیشان و عظیم الشان ہے / دین میں زبردستی

فِی الدِّیْنِ ۙ قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ ۚ فَمَنْ یَّكْفُرْ

(کا فی نفسہ کوئی موقع) نہیں (کیونکہ) ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے / تو جو شخص شیطان سے

بِالطَّاغُوْتِ وَیُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

بد اعتقاد ہو / اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو (یعنی دین اسلام قبول کر لے) تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ

الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ اَللّٰهُ

تھام لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں ہو سکتی اور اللہ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ

وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ

ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ان کو (کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر نور (اسلام) کی طرف لاتے ہیں

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ

اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں (انسی یا جنی) وہ ان کو نور (اسلام) سے نکال کر

النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا

لے جاتے ہیں کفر کی تاریکیوں کی طرف ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں (اور) یہ لوگ اس میں ہمیشہ

ع خٰلِدُوْنَ ○ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَ

ہمیشہ کو رہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور

اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ

جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى

پھر (بجز کفر و شرک کے) جس کے لئے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ

قدرت رکھنے والے ہیں اعتقاد رکھتے ہیں رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی

مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ

طرف سے نازل کی گئی ہے اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے

وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ

ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے

وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۤ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ

[illegible] سنا اور خوشی سے مانا ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اور آپ ہی کی طرف

الْمَصِيْرُ ○ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا

لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت (اور اختیار) میں ہو اس کو ثواب بھی

مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ

اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے اے ہمارے رب ہم پر دارو گیر نہ فرمائیے

اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا

اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجئے جیسے ہم سے پہلے

كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا

لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار (دنیا یا آخرت کا) نہ ڈالئے

مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟

جس کی ہم کو سہار نہ ہو اور درگزر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو

وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

اور رحم کیجئے ہم پر آپ ہمارے کارساز ہیں (اور کارساز طرفدار ہوتا ہے) سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر

ع الْكٰفِرِيْنَ ○ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ

غالب کیجئے گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور

الْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا ۢ بِالْقِسْطِ ۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں ان کے سوا کوئی معبود

ع هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي

ہونے کے لائق نہیں وہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں (اے محمد) آپ یوں کہئے کہ اے اللہ مالک تمام ملک کے آپ

الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۡ وَتُعِزُّ

ملک جس کو چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں اور جس کو چاہیں

مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ اِنَّكَ

غالب کر دیتے ہیں اور جس کو چاہیں پست کر دیتے ہیں آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی بلاشبہ

عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○ تُوْلِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَ

آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں ○ آپ رات (کے اجزاء) کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور

تُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیْلِ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ

دن (کے اجزاء) کو رات میں داخل کر دیتے ہیں اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں

وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ

اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں (جیسے پرند سے بیضہ) اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق

بِغَیْرِ حِسَابٍ ○ اِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ

عطا فرماتے ہیں ○ بیشک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی

اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا پھر عرش پر

عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهٗ

قائم ہوا چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب

حَثِیْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ

اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے

بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَکَ اللّٰهُ

حکم کے تابع ہیں یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ

رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ○ اُدْعُوْا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْیَةً

جو تمام عالم کے پروردگار ہیں ○ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی

اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ○ وَلَا تُفْسِدُوْا

(البتہ یہ بات) بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جاویں ○ اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی

فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا

وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ○

اور امیدوار رہتے ہوئے بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَیًّا مَّا تَدْعُوْا

آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمٰن کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو گے

فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِکَ وَلَا

سو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں اور اپنی نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھئے اور نہ

تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیْلًا ○ وَ

بالکل چپکے چپکے ہی پڑھئے اور دونوں کے درمیان ایک طریقہ اختیار کر لیجئے اور

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ

کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اسی اللہ (پاک) کے لیے خاص ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ کوئی

یَکُنْ لَّهٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُنْ لَّهٗ وَلِیٌّ مِّنَ

سلطنت میں اس کا شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی

الذُّلِّ وَکَبِّرْهُ تَکْبِیْرًا ○ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا

مددگار ہے اور اس کی بڑائیاں خوب بیان کیا کیجئے ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا

خَلَقْنٰکُمْ عَبَثًا وَّاَنَّکُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ○

کہ ہم نے تم کو یوں ہی بلا حکمت پیدا کر دیا ہے اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے

فَتَعٰلَی اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ

سو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے جو کہ بادشاہ حقیقی ہے اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں (اور وہ)

الْعَرْشِ الْکَرِیْمِ ○ وَمَنْ یَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا

عرش عظیم کا مالک ہے اور جو شخص (اس پر دلیل قائم ہونے کے بعد) اللہ کے ساتھ کسی

اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ

رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○ وَقُلْ رَّبِّ

اس کا اس کے رب کے پاس ہے یقیناً کافروں کو فلاح نہ ہوگی اور آپ یوں کہا کریں کہ اے

اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○

میرے رب میری خطائیں معاف کر اور رحم کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ○ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ○ فَالتّٰلِيٰتِ

قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں پھر ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں پھر ان فرشتوں کی جو ذکر

ذِكْرًا ○ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ○ رَبُّ السَّمٰوٰتِ

کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ تمہارا معبود (برحق) ایک ہے وہ پروردگار ہے آسمانوں کا

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ○

اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور پروردگار ہے طلوع کرنے کے مواقع کا

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ ○

ہم نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ اور حفاظت

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ○ لَا يَسَّمَّعُوْنَ

بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے وہ شیاطین عالم بالا کی طرف

اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ

کان بھی نہیں لگا سکتے اور وہ ہر طرف سے مار کر دھکے دیئے

جَانِبٍ ○ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ○

جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ

مگر جو شیطان کچھ خبر لے ہی بھاگے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ لیتا ہے

ثَاقِبٌ ○ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ

تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ بناوٹ میں زیادہ سخت ہیں یا ہماری پیدا

خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ○

کی ہوئی یہ چیزیں (دیکھو کہ) ہم نے ان لوگوں کو چپکتی مٹی سے پیدا کیا ہے

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ

اے گروہ جن اور انسان کے اگر تم کو یہ قدرت ہے

اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو (ہم بھی دیکھیں) نکلو مگر بدون زور کے

فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ○

نہیں نکل سکتے (اور زور ہے نہیں پس نکلنے کا وقوع بھی ممکن نہیں)

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا

سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے تم دونوں پر (قیامت کے روز)

شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ○

آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم (اس کو) ہٹا نہ سکو گے

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فَاِذَا انْشَقَّتِ

سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے غرض جب (قیامت آئے گی

السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ○

جس میں) آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جاوے گا جیسے سرخ نری (یعنی چمڑا)

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فَيَوْمَئِذٍ

سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے تو اس روز (اللہ تعالیٰ

لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ○

کے معلوم کرنے کے لیے) کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جائے گا

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ○ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا

سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے   اگر ہم اس قرآن کو   کسی پہاڑ

الْقُرْاٰنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاَیْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا

پر نازل کرتے   تو (اے مخاطب)   تو اس کو دیکھتا   کہ خدا کے خوف سے

مِّنْ خَشْیَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا

دب جاتا   اور پھٹ جاتا   اور ان مضامین عجیبہ کو   ہم لوگوں کے

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ

(نفع کے) لئے بیان کرتے ہیں   تاکہ وہ سوچیں   وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ

کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں   وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا   اور ظاہر چیزوں کا   وہی   بڑا

الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ

مہربان   رحم والا ہے   وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا   کوئی

اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ

معبود نہیں   وہ بادشاہ ہے   (سب عیبوں سے) پاک ہے   سالم ہے   امن دینے والا ہے

الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ

نگہبانی کرنے والا ہے   زبردست ہے   خرابی کا درست کر دینے والا ہے   بڑی عظمت والا ہے   اللہ تعالیٰ (جس کی

عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ

شان ہے) لوگوں کے شرک سے پاک ہے   وہ معبود (برحق) ہے   پیدا کرنے والا ہے   ٹھیک ٹھیک بنانے

الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ

والا ہے (یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے)   صورت بنانے والا ہے   اس کے اچھے اچھے نام ہیں   سب چیزیں اس کی

مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ

تسبیح کرتی ہیں   جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں   اور وہی زبردست

الْحَكِیْمُ ○

حکمت والا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں

قُلْ اُوْحِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

آپ (ان لوگوں سے) کہئے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت

فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ○ یَّهْدِیْٓ

نے قرآن سنا پھر (اپنی قوم میں واپس جا کر) انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست

اِلَی الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ

بتلاتا ہے   سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے   اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک

اَحَدًا ○ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ

نہ بنائیں گے   اور (انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ) ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے

صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ○ وَّاَنَّهٗ كَانَ یَقُوْلُ

اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا   اور نہ اولاد   اور ہم میں جو احمق   ہوئے ہیں

سَفِیْهُنَا عَلَی اللّٰهِ شَطَطًا ○

وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑھی ہوئی باتیں کہتے تھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں

قُلْ یٰٓاَیُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ○ لَآ اَعْبُدُ مَا

آپ (ان کافروں سے) کہہ دیجئے کہ اے کافرو (میرا اور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہو سکتا اور) نہ تو میں

تَعْبُدُوْنَ ○ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ

تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں   اور نہ تم   میرے معبود کی پرستش کرتے ہو

أَعْبُدُ ○ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ○ وَ

اور نہ (آئندہ استقبال میں) میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور

لَآ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ○ لَكُمْ دِينُكُمْ

نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور

وَلِىَ دِينِ ○

مجھکو میرا بدلہ ملے گا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ

آپ (ان لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ (اپنے کمال ذات و صفات میں) ایک ہے اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ

يَلِدْ ○ وَلَمْ يُولَدْ ○ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ○

کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِن شَرِّ مَا

آپ (یوں) کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے

خَلَقَ ○ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○

شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آجائے (اور شب میں شرور کا احتمال ظاہر ہے)

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ ○ وَمِن شَرِّ

اور (بالخصوص) گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر

حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ○

سے جب وہ حسد کرنے لگے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○

آپ کہیے (جس طرح کہ فلق میں گزرا) کہ میں آدمیوں کے مالک آدمیوں کے بادشاہ

إِلٰهِ النَّاسِ ○ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ

آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے پیچھے ہٹ جانے والے (شیطان)

الْخَنَّاسِ ○ الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى

کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ

صُدُورِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

ڈالتا ہے خواہ وہ (وسوسہ ڈالنے والا) جن ہو یا آدمی (ہو)

چہل حدیث
صلوٰۃ و سلام

درود شریف کے وہ صیغے جو احادیث مرفوعہ میں وارد ہوئے ہیں

ماخوذ از فضائل درود شریف

مؤلفہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب

① مختصر درود شریف کے فضائل

حادثات سے بچنے کا وظیفہ

حضرت طلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو الدرداء صحابی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا، فرمایا نہیں جلا، پھر دوسرے شخص نے یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا، پھر تیسرے آدمی نے یہی خبر دی آپ نے فرمایا نہیں جلا، پھر ایک اور شخص نے آکر کہا کہ اے ابو الدرداء آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ کے مکان تک آگ پہونچی تو بجھ گئی فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریگا (کہ میرا مکان جل جائے) کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی (میں نے صبح کو یہ کلمات پڑھے تھے اس لئے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا) وہ کلمات یہ ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَلَمْ يَشَأْ لَمْ
يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ
اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ
اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ
شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا
اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

پ ۱۵ بنی اسرائیل ع ۹

مُجرّبات عاملین کاملین

جس میں پاکستان اور کراچی کے مشہور و معروف عامل کامل محترم جناب محی الدین قریشی صاحب کے ماہر موکلین جنات کے مجرب روزمرہ کے زود اثر اوراد و وظائف اور آزمودہ نسخہ جات و تعویذات

(مع کامل اضافاتِ جدیدہ) کا بیش بہا مجموعہ

نوٹ

اس کتاب کے لکھنے میں وضو کا اہتمام کیا گیا ہے لہٰذا بلا وضو کے اس کتاب کو ہاتھ لگانا نامناسب ہے اور نہ اس کتاب سے تعویذ لکھا جائے

مؤلفہ

مولانا حاجی احمد علی بن شاہ دوست بنگوری ثم کراچوی

خطیبِ دکھنی مسجد پاکستان چوک، مقیم ریلوے ریسٹورنٹ بلڈنگ آؤٹ رام روڈ فلیٹ ۵۷ کراچی، وخلیفہ مجاز مرشدِ عالم حضرت مولانا حافظ الحاج پیر غلام حبیب نقشبندی مجددی مہتمم دار العلوم حنفیہ چکوال۔

سببِ تألیف

مُجرباتِ عاملینِ کاملین

نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

امّا بعد

آجکل کراچی میں سینکڑوں عاملین پائے جاتے ہیں۔ دس فیصد علماء حضرات ہوں گے اور نوّے فیصد غیر علماء۔ دن رات کام کر رہے ہوں گے اور اس وقت پورا ملک پاکستان انہیں کے لپیٹ میں گھوم رہا ہے اور لوگوں کے عقائد و نظریات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ باری تعالیٰ کے کلام پاک اور حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر یقین نہیں ہوتا جتنا کہ ایک جادوگر کے کلام پر الیقان کامل ہوتا ہے۔ دراصل یہ ایمان کے انتہا درجے کی کمزوری ہے۔ آجکل تو دنیا اپنے آپ کو سنگار کر اور سجا بنا کر اپنے چاہنے والوں کے گلے کا ہار بنتی ہے۔ دراصل یہ دنیا ایک اژدھا ہے جس نے اس اژدھا کیساتھ دوستی لگائی وہ ہمیشہ خاک بر سر و خاسر ہو کر ہلاکت کے گڑھے میں گر کر تباہ و برباد ہوگا۔ جو عاملین دنیا کمانے کی غرض سے سارے مکر و فریب بروئے کار لاکر مریض سے کیا مطالبے اور تقاضے کرتے ہیں اور جن کو پورا کرنا کسی بھی حالت میں فرض اور لازمی سمجھا جاتا ہے ایسے وقت میں اگر صحیح عاملین حضرات کو

تلاش کئے جائیں تو انشاء اللہ انسان صحیح راہ پا کر پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت قریشی صاحب ایک اچھے اور جید اور خدا ترس بندۂ خدا عامل تھے، جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھ سے درخواست کی کہ میں یہ عملیات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میری درخواست کو قبول فرماویں تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ میں نے یہ کام ایک عالم کو سونپا ہے۔ غرضیکہ دوسری ملاقات میں حضرت قریشی صاحب کی درخواست کو بندہ نے قبول کیا جبکہ میں اس وقت مدرسہ اسلامیہ عربیہ احرار الاسلام لیاری میں مدرس تھا اور میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا مگر حضرت قریشی صاحب کی درخواست کو میں نے مسترد نہیں کیا بلکہ عملی شکل پہنا دی۔ اب عرصۂ مدید کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ بندہ نے بیاض قریشی صاحب کو جو موکلین جنات کے ذریعہ سے تیار کی گئی تھی اضافہ تامہ کے ساتھ مکمل کر کے سپرد پریس کر رہا ہے تاکہ عوام و خواص اس سے مستفیض ہو جائیں۔

یاد رہے کہ سحر و جنات والے تعویذوں کے لئے چلہ نکالنا ضروری ہے ورنہ نقصان ہوگا۔

فقط دعاگو:

مولانا حاجی احمد علی

خلیفۂ مجاز مرشدِ عالم حضرت مولانا غلام حبیب صاحب

نقشبندی مجددی (چکوال والے)

ثبوتِ دم و تعویذ اور گنڈا از حدیث

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(پ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل ع ۹)

بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی مرض ہوتا تو آپ قُلْ هُوَ اللّٰهُ الخ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ الخ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے اور بچھو کے کاٹے پر منہ کا لعاب لگانے سے زہر اتر جاتا ہے یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی روایتیں کتب صحاح ستہ میں ہیں۔ اور بہت لوگوں کو تجربہ ہے کہ بہت سی آیتیں اس طرح کی ہیں کہ تعویذ کے طور پر لکھ کر باندھنے یا پڑھ کر دم کرنے سے طرح طرح کے امراض کو فائدہ ہوتا ہے۔

ابو داؤد، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ حدیث جس میں آپ نے تعویذ گنڈے سے منع فرمایا بلکہ اس کے مرتکب کو مشرک فرمایا ہے وہ ایسے تعویذ گنڈے کی نسبت ہے جو خلافِ شریعت، شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہوں۔

(بحوالہ ابن کثیر، خازن، فتح الباری)

جنّات کے اثرات

جنّات چونکہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں اس لئے نہ اس مخلوق کی صحیح تعداد کا علم ہو سکتا ہے اور نہ اس قوم کے تفصیلی حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔

احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ عہدِ رسالت میں جنّات کی ایک کثیر تعداد اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گئی تھی پھر بھی انسانوں کی طرح بیاہ، شادی اور توالد و تناسل سے اس قوم کی تعداد دنیا کے کل انسانوں سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہوگی۔ جس طرح انسانوں میں کوئی کسی مذہب کا پیرو کار ہے اور کوئی کسی کا۔ اسی طرح جنّات کے مذہب بھی انسانوں کی طرح مختلف ہیں کوئی صحیح راستہ پر ہیں کوئی غلط راستہ پر، کوئی نیک بخت ہے کوئی بدبخت، کوئی نیک ہے تو کوئی بدمعاش۔

دنیا میں جس طرح نیک انسان اپنی جنس کے افراد کو ستانا سخت گناہ تصور کرتے ہیں اسی طرح نیک جنّات بھی انسانوں کو آزار نہیں پہنچاتے۔ ایذا رسانی شریر نفوس کا خاصہ ہے، خواہ وہ انسان ہوں یا جنّات۔ انسان کی ایذا رسانی سے محفوظ رہنے کے لئے حکومت کی طرف سے بھی انتظام ہوتا ہے، اور ہر شخص قانونِ حفاظت خود اختیاری کے تحت اپنی حفاظت کا کچھ نہ کچھ انتظام رکھتا ہے۔ لیکن جنّات چونکہ ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے اور نہ ان کو ایذا پہنچاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لئے جنّات کے شر سے حفاظت ایک ٹیڑھا مسئلہ ہے۔

شریر جنات کی تعداد

ساتویں اقلیم کے بادشاہ جنات اور سلمان جنات سے ملاقات کے نتیجہ میں علامہ تلمسانی کو شریر جنات کی ایذاء رسانی کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئے تھے، اس سلسلہ میں انہوں نے وزیر شاہِ جنات اسماعیل کا قول نقل کیا ہے۔

قال اسماعیل انواع من الجنّ یصرعون النساء والرجال وھم مختلفون اعرف منھم خلقاً کثیراً ولکنی اعرفك بسبعین رھطاً تقریباً لك ولغیرك وکل رھطٍ منھا فیھا سبعون الف قبیلةٍ وکل قبیلة فیھا سبعون الفا لو وقعت اِبرة من السّماءِ ما وقعتْ الا علیھم۔

اسماعیل کہتے ہیں کہ جنات عورتوں اور مردوں کو ستایا کرتے ہیں وہ بہت سی قسم کے ہیں، مجھے بھی ان میں بہت سوں کا حال معلوم ہے۔ ایسے جنات کی ستر قومیں ہیں اور ہر قوم میں ستر ہزار قبیلے ہیں اور ہر قبیلے میں ستر ہزار افراد ہیں۔ اگر آسمان سے سوئی پھینک دی جائے تو وہ زمین پر نہ گرے گی، ان کے سروں پر رُک جائے گی۔

جنات کے ایک بہت بڑے افسر کے یہ الفاظ یقیناً اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جنات میں بھی انسانوں کی طرح نیک لوگوں سے زیادہ بدکار جنات کی تعداد ہے، جب ایذا رسان جنات کی تعداد کا یہ عالم ہے تو نیک جنات بھی یقیناً بڑی تعداد میں ہوں گے، اس لئے صحیح تعداد معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ انسان کے پاس نہیں ہے، جس سے وہ انسانوں کی

طرح جنات کی نفس شماری کر سکے۔

جنات کے رہنے سہنے کی جگہ اور ان کی قسمیں

اسماعیل وزیر شاہِ جنات کا بیان ہے کہ:

فالعفاریت منھم سکنوا العیون والکھوف والشیاطین سکنوا الدیار وعمروا القبور یعنی نزلوا بقوع قبور الانس و اما الطواغیث سکنوا بقرب الدم وبعض الزوابعة سکنوا الریاح وبعض کبار الشیاطین بقرب النار وبعض التواقیف العفاریت یعنی المتشکلین بصورة الانثٰی سکنوا بقرب الاشجار العالیة ودخلوا فی البساتین وبعض السیاسب سکنوا الجبال والخرائب العالیة۔

ترجمہ: عفریت چشموں اور گڑھوں میں رہتے ہیں اور شیاطین شہروں اور مقبروں دونوں جگہ آباد ہیں اور طواغیت ایسی جگہ جہاں خون ہو بود و باش رکھتے ہیں اور بعض زوابعہ ہواؤں میں بستے ہیں اور بڑے بڑے شیطان آگ کے قریب بود و باش رکھتے ہیں۔ اور بعض تواقیف عفاریت جو عورتوں کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں بڑے بڑے درختوں کے پاس مقام رکھتے ہیں اور باغات میں بھی اور بعض پہاڑوں اور ویران مقامات پر بود و باش رکھتے ہیں۔

وکثیرة ھولاء مضرٌ بالرجال والنساء من بنی آدم وفی شیاطین العفاریت من یجامع نساء الانس وبعضھم یحب ان تکون الانسیة زوجة لھم وبعضھم یفسدون خلق الانس

ویبطالون عضوًا من أعضاءِ ھم (کنوز الاسرار)

ترجمہ : جنات کی تمام قسموں میں اکثر افراد انسان مرد اور عورت کو ستایا کرتے ہیں اور بعض شیطان عفریت کی تو یہ حالت ہے کہ وہ انسان عورتوں پر شیدا اور فریفتہ ہیں اور وہ انسان عورتوں سے جماع کرتے ہیں اور انسان عورت کو اپنی بیوی بنانا بہت پسند کرتے ہیں۔

برائے ترقی دار العلوم مدرسہ و ادارہ

روزانہ جتنا ہو سکے پڑھ کر دعائیں کرنا مدرسہ کی ضروریات پوری ہوں گی دعا یہ ہے : اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝ پ۲۵ شوریٰ نہایہ ع۲

برائے وسعت رزق

وظیفہ مذکورہ بالا جو مدرسہ اور ادارہ کی ترقی کے لئے ہے اس کو بعد نماز فجر ستر مرتبہ پڑھا جائے۔

(از مفتی اعظم نمبر ص۱۱۷۸)

مؤکل عبدالرحمٰن صاحب مدرسے کے مدیر ہیں اور مؤکل عبدالجبار صاحب نائب مدیر ہیں

نومسلم جنات کی تعداد

پنجگور اور کراچی میں جتنے جنات میرے ہاتھ سے مشرف باسلام ہوئے ہیں، ان کی تعداد مؤکل عبدالرحمٰن صاحب کے قول کے مطابق دو ہزار تین سو نو (۲۳۰۹) ہو گئی ہے۔

مؤکل عبدالرحمٰن صاحب فرماتے ہیں یہ سب تبلیغی جماعت میں حصہ لے رہے ہیں اور مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ سب کے سب بڑے نیک اور اللہ والے بنے ہوئے ہیں اور آپ کے لئے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے ہم نیک بنے

اور میں نے ۱۳ ربیع الاول ۱۴۰۰ھ بمطابق ۳۱ جنوری ۱۹۸۰ء کو اپنے کمرہ یعنی درسگاہ میں بذریعہ ترجمان سب نومسلموں کو بلایا ماشاء اللہ سب کے سب میرے سامنے تشریف لائے، کچھ بوتل میں تشریف لائے اور اکثر و بیشتر ٹیبل کے اوپر قطار لگا کر حاضر ہوئے اور پھر میں نے مدرسے کے متعلق پوچھا تو بتلایا کہ پنجگور میں شہر عیسیٰ کے کورک کے سامنے ہمارا مدرسہ ہے اور یہ سب نومسلم وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں

مدرسہ کا نصاب و مدرسین کا نام

مدرسہ کا نام دار الہدیٰ ہے اور اس میں اس وقت پورا نصاب درجۂ خامسہ تک ہے جس میں چھ اساتذہ معلم مقرر ہیں۔ مدرسین کے اسماء مندرجہ ذیل ملاحظہ ہوں :

(۱) مولانا عبدالرزاق صاحب۔ یہ درجہ خامسہ کی کتابیں ھدایہ اولین تک پڑھاتے ہیں۔

(۲) مولانا عبدالحی صاحب۔ یہ درجہ رابعہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں (یعنی شرح جامی بھی ان کے پاس ہے۔

(۳) مولانا عبدالمالک صاحب۔ یہ درجہ ثالثہ تک پڑھاتے ہیں۔

(۴) مولانا عبدالقیوم صاحب۔ یہ درجہ اولیٰ کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔

(۵) مولانا فیض محمد صاحب۔ یہ درجہ اولیٰ کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور نحو میر بھی ان ہی کے پاس ہے۔

(۶) اور مولانا علی محمد صاحب درجہ قرآن اور سیپارے پڑھاتے ہیں میرے پاس جتنے نو مسلم ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا استاد مولانا علی محمد صاحب ہیں۔

درجوں کے طلباء کی تعداد

عبدالرحمٰن صاحب فرماتے ہیں درجہ خامسہ کے کُل طلباء ہمارے پاس اس وقت پندرہ ہیں اور درجہ رابعہ کے کُل آٹھ ہیں۔ اور درجہ ثالثہ کی تعداد بارہ ہیں۔ شرح وقایہ جو درجہ رابعہ میں ہے اس کے پڑھنے

والے چودہ طلباء ہیں۔ اور شرح تھذیب جو درجہ ثالثہ میں ہے اس کے پڑھنے والے صرف پانچ طلباء ہیں

عبدالرحمٰن موکل فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسہ کا نام

مدرسہ عربیہ دار الہدیٰ ہے

مدرسہ کی تعلیم کے اوقات

صبح کی نماز کے تھوڑی دیر بعد سے لیکر ساڑھے گیارہ بجے تک ہے اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد سے لیکر رات ساڑھے گیارہ بجے تک ہے۔

اور مدرسہ کا سب سے بڑا طالب علم محمد ادریس ہے اور وہ اس وقت میرے پاس درجہ سابعہ کی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ اور جب میں نے عبدالرحمٰن سے دریافت کیا کہ تمہارے ہاں کون سی تفسیر پڑھائی جاتی ہے تو فرمایا تفسیر قطبی ہے جو مولانا محمد زکریا صاحبؒ کی تفسیر ہے اور کہا کہ جب اجتماع ہوا کرتا ہے تو ہم مولانا محمد زکریا صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے ملتے بھی ہیں اور وہ جو تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں ہم نے وہ سب اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے اور وہ ہم اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں اور ان کی تفسیر کا نام ہم نے خود رکھا ہے یعنی تفسیر قطبی کے نام سے موسوم ہے

مدرسہ کا ناظم تعلیمات

مدرسہ دار الہدیٰ کے ناظم تعلیمات کا نام مولانا عبدالقیوم صاحب ہیں

اور مدرسہ کلاکے ناظم مطبخ کا نام مولانا عبدالحی صاحب ہیں۔

نوٹ: ۱۹۸۰ء میں ۲۳۰۹ جنات عاجز واثیم کے ہاتھ سے مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں۔ پنجگور میں ہم نے ان کا ایک مدرسہ دارالھدیٰ کے نام سے قائم کیا ہوا ہے اور وہاں ۱۹۸۰ء سے جو درجہ خامسہ تک کتابیں پڑھائی جاتی تھیں اب توماشاء اللہ دورۂ حدیث تک کا عاجز واثیم نے طلباء کرام رکھنے کا حکم دیا ہے اب تو دورۂ حدیث بھی پڑھایا جاتا ہے۔

محمد ادریس صاحب درجہ سابعہ تک نخبۃ الفکر میرے پاس پڑھ چکے ہیں اب توماشاء اللہ عالم و فاضل ہیں۔ مدرسہ دارالھدیٰ پنجگور بلوچستان میں طلباء کے منتظم اور نگران ہیں۔ محمد ادریس صاحب ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں۔

یہ مذکورہ بالا تعداد ۱۹۹۰ء سے قبل کی ہے۔ اب توماشاء اللہ مدرسہ دارالھدیٰ میں ڈیڑھ ہزار مسافر طلباء کے علاوہ دورۂ حدیث اور تخصص فی الفقہ والحدیث کے درجات کا بھی اہتمام وانتظام کیا گیا ہے۔ جیسے ترجمان عالمگیر ابن قریشی کے ذریعے معلوم ہوا

مریضوں کے لئے ہدایات

(۱) سُرخ نشان والی بتی نیلا کپڑا لپیٹ کر رکھ لیں۔ بوقتِ گھبراہٹ سُرخ نشان کی جانب سے جلا کر دھونی ناک میں سونگھائیں۔ گھبراہٹ ختم ہوتے ہی بتی بجھا کر رکھ لیں۔

(۲) سیاہ نشان کی بتی روئی میں لپیٹ کر مٹی کے دیئے میں سرسوں کا تیل ڈال کر سیاہ نشان کی جانب سے جلائیں۔ بتی کا ساتواں حصہ جلنے تک روشنی دیکھیں۔ سات رات تک ہر روز وقتِ مقررہ پر جلائیں۔ روشنی دیکھنے تک دیا ایک جگہ رکھیں تاکہ دیا حرکت سے محفوظ رہ سکے۔ ساتواں حصہ جلنے کے بعد بجھائیں۔ ہر دفعہ بتی کا ساتواں حصہ جلنا چاہئے۔

(۳) سات دانہ الائچی خورد پانی میں اُبال کر پانی ٹھنڈا ہونے پر تعویذ (نقش) اس میں ڈال دیا جائے۔ سات دن تک نہار منہ پیا جائے اور ہر دفعہ بتی سونگھانے کے بعد بھی پلایا جائے۔

اللہ رب العزت نے موجودہ وقت میں انسانوں کے اعمال کی خرابی پر جنات اور جادو کو عذاب کی شکل میں ظاہر فرمایا ہے۔ ان کی مدافعت صرف تعویذات وغیرہ سے نہیں کی جاسکتی جب تک اعمال کی درستگی کی طرف توجہ نہ کی جائے۔

جو قوم اپنے اعمال نہیں بدلتی خدائے پاک ان کے حالات نہیں بدلتے

خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت نہ بدلی
نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا

امراضِ ٹخنہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

	۴	۵	۶	
س	۲	۷	۹	
	۸	۱	۳	من
	۴	۲	۷	

۳- سم

اس مندرجہ بالا نقش کو سات دن تک پینا ہے اور ہر روز چار آدمیوں کو نماز کی ترغیب دینی ہے۔

(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم


۴	۵	۶	
۷	۸	۲	اس کو دودھ کے ساتھ پینا ہے
۱	۹	۷	
۴	۲	۲	

ک

	ل	م	ن	ر	
ک	ل	د	ک	ن	ک
	س	ک	ص	ص	

ک

یہ سات ایام تک پینا ہے۔



ھانڈی

۴	۵	۶
میکائیل	تنکائیل	اسرافیل
۱۲	۱۸	۱۹
جبرائیل	۱۵	عزرائیل



ھانڈی

۴	۵	۶
میکائیل	تنکائیل	اسرافیل
۱۲	۱۸	۱۹
جبرائیل	۱۵	عزرائیل

آسیب زدہ مریض کے دھونی کے لئے

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
وَ اَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِیۡنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِیَةٌ وَمَآ اَدۡرٰٮكَ مَا هِیَهۡ نَارٌ حَامِیَةٌ ۝ (سورۃ القارعہ)

الله	العجل	۱۹	۱۷	۲۶	۸	۲۹	۱	العجل	الله
باق	العجل	۲۱	۱۱	۱۴	۲۸	۱۲	۶	العجل	باق
من	العجل	۱۳	۲۲	۱۶	۲۴	۷	۱۰	العجل	من
کل	العجل	۲۷	۴	۳	۲۰	۱۵	۵	العجل	کل
فان	العجل	۱۶	۲	۹	۱۸	۲۳	۲۵	العجل	فان

اس نقش کے فتیلہ کو نیلا کپڑا لپیٹ کر مریض کے ناک میں بوقت گھبراہٹ دھونی دی جائے۔

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ اَللّٰهُمَّ اَحۡرِقِ الشَّیَاطِیۡنَ

۱۶	۲	۳	۱۳
۵	۷	۶	۸
۹	۱۱	۱۰	۱۲
۴	۱۴	۱۵	۱

یہ نقش بالا کو روئی میں لپیٹ کر سات رات جلانا ہے مقررہ وقت پر جلا کر روشنی کی طرف دیکھا کرے۔

ؑ شیاطین جنات کا مارنا جائز ہے از روی قتل الموذی قبل الایذاء اور اسی پر مفتیان عظام کا فتویٰ ہے۔

۷۸۶

۸	۱	۶
۳	۵	۷
۴	۹	۲

اگر آسیب زدہ زیادہ چیختا چلاتا ہے تو اظہر اجہز والا بالا نقش اور یہ ۹ کا نقش دونوں ساتھ لپیٹ کے دھونی دیا کریں

نقش تمام کلام مجید کا۔ گلے میں ڈالے

۸۱۰۵۲۸۴	۸۱۰۵۲۷۹	۸۱۰۵۲۸۶
۸۱۰۵۲۸۵	۸۱۰۵۲۸۳	۸۱۰۵۲۸۱
۸۱۰۵۲۸۰	۸۱۰۵۲۸۷	۸۱۰۵۲۸۲

نقش تمام کلام اللہ مع بسم اللہ کے

۶۱۰۱۲۱۵	۶۱۰۱۲۳۵	۶۱۰۱۲۲۵	۶۱۰۱۲۲۲
۶۱۰۱۲۲۶	۶۱۰۱۲۲۱	۶۱۰۱۲۱۶	۶۱۰۱۲۳۰
۶۱۰۱۲۲۰	۶۱۰۱۲۲۳	۶۱۰۱۲۳۳	۶۱۰۱۲۱۷
۶۱۰۱۲۳۲	۶۱۰۱۲۱۸	۶۱۰۱۲۱۹	۶۱۰۱۲۲۴

سورۂ جن کا نقش

۲۰۲۱۴	۲۰۲۰۷	۲۰۲۱۲
۲۷۲۰۹	۲۰۲۱۱	۲۰۲۱۳
۲۰۲۱۰	۲۰۲۱۵	۲۰۲۰۸

یہ نقش دائیں بازو یا گلے میں ڈالیں

مکان میں جنّات داخل نہیں ہوں گے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یاحفیظ	یاحیّ	یاقیّوم
یااللہ	یارحمٰن	یارحیم
یااللہ	یارحمٰن	یارحیم
یااللہ	یارحمٰن	یارحیم
یااللہ	یارحمٰن	یارحیم

اس نقش کو قبلہ کے سمت لگانا ہے (مؤکل سورۂ جن)

قرضہ اتارنے کا نقش

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یااللہ	یااللہ	یااللہ	یااللہ	یااللہ	یااللہ
یاکریم	یاکریم	یاکریم	یاکریم	یاکریم	یاکریم
یارحیم	یارحیم	یارحیم	یارحیم	یارحیم	یارحیم
یااللہ	یااللہ	یااللہ	یااللہ	یااللہ	یااللہ
یارحمٰن	یارحمٰن	یارحمٰن	یارحمٰن	یارحمٰن	یارحمٰن

اس نقش کو گلے میں ڈالنا ہے اور دوسرا نقش پانی میں بھگو کر کاروباری جگہ پر صبح و شام چھینٹے لگانا ہے

حُبّ کا، پینے کے لئے

(۱) ۷۸۶

۳	۹	۱۳	۶۳	۴۳	۹۳	۲۹	۱۴	
۵	۱۰	۳۳	۷۳	۸۳	۵۳	۳۰	۱۶	
۲	۱۲	۶۳	۷۲	۴۰	۸۲	۳۱	۱۹	
۱۱	۷	۲۳	۴۲	۵۲	۶۲	۳۳	۲۰	
۱	۸	۲۲	۳۲	۷۱	۱۵	۶	۴	

یہ نقش گلے میں ڈالنے کا ہے اور نمبر۲ والا نقش اس کے ساتھ پینے کا ہے

حُبّ کے لئے

(۲) ۷۸۶

۴۸	۱۳	۳۷	۳
۳۴	۹	۴۴	۲۰
یاودود	یاناصر	یاقہار	یاحافظ
یاغفار	یاحمید	یامجید	یاقیوم
یاحنان	یامنان	یاحیّ	یاجبار

بارہ ایام تک صبح پینے کا ہے

نقش برای جادو، سحر و جنّات

(۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم

یاحفیظ	یاحیّ	یاقیّوم
یااللہ	یارحمٰن	یارحیم
یااللہ	یارحمٰن	یارحیم
یااللہ	یارحمٰن	یارحیم
یااللہ	یارحمٰن	یارحیم

مشرق کی جانب لگایا جائے جس کا رُخ جانب مغرب میں ہو

جادو کو دفع کرنے کے لئے اور اثر جادو کو زائل کرنے کے لئے

یا ودود	یا ناصر	یا قہار
یا حافظ	یا حق	یا جبار
یا غفار	یا حمید	یا مجید
یا قیوم	یا حنان	یا منان

[illegible]

یہ نقش دس ایام تک پلانا ہے صبح و شام

نقش برائے ترقی کاروبار

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۱۴۴	۱۵۵	۱۷۲	۱۴۸
۱۶۱	۱۷۹	۱۹۱	۱۶۵
۱۶۹	۱۸۹	۱۶۷	۱۷۵
۱۵۹	۱۸۴	۱۸۱	۱۴۹
۱۸۶	۱۶۹	۱۹۸	۱۷۸

مشرق کی جانب لگانا چاہیے جس کا رخ جانب مغرب میں ہو

بازو کے درد کے لئے

(۱) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

٦	۳۵	۱۱	۲۷	٦
۲۹	۵	۱۵	۱۸	۳۳
۴	۱۰	۲٦	۱۲	۳۳
۳	۱۴	۳۱	۲۲	۲
۳۲	۳۷	۱۳	۳۸	۱۹
۹	۲۴	۳۴	۲۵	۷
۲۵	۲۰	۳۹	۳٦	۳
۱٦	۲۸	۸	۲۱	۱۷

[illegible]

تفریق کے لئے

۷۸٦

یا اللہ	یا باسط	یا رحیم
یا اللہ	یا باسط	یا رحیم
یا اللہ	یا باسط	یا رحیم
یا اللہ	یا باسط	یا رحیم

اس نقش بالا کو بیس سیر وزن کے نیچے رکھا جائے۔ اگر تفریق ناجائز طریقہ پر ہو چالیس ایام تک۔ مگر سخت گناہ ہے اگر میاں بیوی کے درمیان تفریق مقصود ہو تو دس ایام تک دونوں کو پلانا چاہیے جب بھی موقع ملے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی یہ صرف جائز صورت میں ہے۔

نافرمان اولاد یا بیوی وغیرہ کے لئے

نافرمان اولاد کو سات ایام تک پانی میں بھگو کر پلایا جائے

۲	۱٦۱	۱۵	۷۹	۱٦۹	۵۹	۲۵	
۳۵	۱۰۹	۷۱	۴۵	۹۰	۸۵	۵۱	
۱۹۹	۹۵	۱۰۱	۱۷۵	۱۸۱	۴۰	۱۰	

یہ نقش نافرمان اولاد کو میٹھا دودھ یا شربت میں ڈال کر سات دن تک پلانا چاہیے۔

برائے درد ڈاڑھ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

٤	٧	٢٢	٤٢	٨	٢٩	٣٦	١
١٨	٢٦	٣١	١٩	٢٧	٣٣	٢٤	٤٧
[illegible]	=	[illegible]	[illegible]	٥	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ھ

درد داڑھ کے لئے یہ نقش دانت کے نیچے رکھدیا جائے۔ اور تین دفعہ و ما أنت باللہ العظیم پڑھ لیں انشاء اللہ آرام ہو جائیگا۔ پھر تعویذ نکال کر باہر رکھدیں۔

مرگی زدہ کے لئے

کمص ۔ طٰہٰ ۔ کھٰیٰعٓصٓ ۔ یٰسٓ وَالقرآنِ الحکیم
حٰم ۔ عسق ۔ نٓ والقلم وما یسطرون

٣٩	١٩	٥١	١٧	٣٠	٨	٣٧	٤
٤٤	٣٣	٢٥	١١	٥٢	٢٧	١٤	٢١
٢	٤٧	٤١	٢٣	٣	١٩	٤٥	٦
٢٥	٣١	٤٩	٣٤	٤٨	١٢	٣٦	١٠
١٠	٤٦	١٨	٧	٢٨	٤٢	٢٤	٤
١١	٤٨	٣	٦٦	٩	٣٥	٥	٢٤
١٠	٥	٤٢	٢٩	٢٢	٤٩	١	٣٢

چینی کی پلیٹ پر عرق گلاب و زعفران سے لکھ کر تین تین دفعہ پلائی جائے۔

یہ نقش جسمانی جسمانی امراض اور مرگی کے لئے ہے۔ زعفران سے لکھا جائے اور عرقِ گلاب میں ڈال کر قبل زوال پلانا چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔

(بوتل)

تنکائیل	١٥	اجب	٢
اجب	١٩	١٧	
جبرائیل	٢٠	اسرائیل	٥

(ھانڈی)

جبرائیل	١٢	میکائیل	٢
١٥	١٨	تنکائیل	٥
عزرائیل	١٩	اسرائیل	٤

سحر سے حفاظت کے لئے

٧٨٦

یاحفیظ	یارحیم	یاحافظ
یاکریم	یاحق	یاقیوم

گلے میں ڈالنا ہے۔

اژدھا سانپ سے بچنے کا نسخہ اکسیر اَللّٰہُ وَلِیُّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا پ بقرہ ع ۲ کی کثرت سے ورد کریں۔

سر درد کے لئے (سر پر باندھیں)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ودود	۲۴	۷	۲۱	ودود
طاہر	۹	۱۷	۱۳	طاہر
زاہد	۱۵	۱۱	۱	زاہد
یاغفار	۴	۲۳	۱۹	یاغفار
الأخ	۱۶	۵	۲	الأخ
الدّین	۱۲	۱۸	۱۴	الدّین
شاہد	۲۲	۱۰	۳	شاہد
أنعم	۶	۲۰	۸	أنعم

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

(۱) اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ الْعَظِیْمِ وَکَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَکْتُ بِالْعُرْوَۃِ الْوُثْقٰی لَا انْفِصَامَ لَھَا وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ٥

(۲) ھُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ الْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَہُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی یُسَبِّحُ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَھُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ

لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

اس کو یعنی ۱ اور ۲ کو تحریر کرکے گلے میں ڈال دیا جائے۔

برائے سہولتِ نکاح

نامِ طالب مع والدہ - نامِ مطلوب مع والدہ

۲۸	۳۷	۱۹	۹
۶	۵	۱	۱۳
۵۶۰	۵۴	۵	۶
۱	۱۰	ط۱۳	ع۳۳

لکھ کر طالب اپنے گلے یا بازو پر باندھے اور مطلوب کے مکان کے دروازہ کے نیچے دفن کرے

برائے ازالۂ خوف

۳	ط	۵	ک	۷
ل	ا	ع	ن	۹
م	۳	۸	۴	ب
۲	ع	ط	۶	ص

یہ تعویذ پلایا جائے

غائب اور چوری شدہ مال معلوم کرنے کے لئے

صل	۳	۸	۷	۷	ع
	۲	۹	۴	۵	غائب چیز کا نام
نام مع والدہ					
ی			ل		
ق			م		

امراض آلۂ تناسل

(۱) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

يَخۡرُجُ مِنۡهُمَا اللُّؤۡلُؤُ وَ الۡمَرۡجَانُ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

(۲) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

یا رحمٰن	۲	۸	۵	یا رحمٰن
یا رحیم	۴	۱۰	۷	یا رحیم
یا ارحم الراحمین	۹	۶	۳	یا ارحم الراحمین

(۳) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

یا مالک القدوس نبنا

ربنا بالسلام وادخلنا

دار السلام تبارکت ربنا

و تعالیت یا ذ الجلال والاکرام

(نوٹ) ان اعمال کو لکھ کر تعویذ بنا کر [illegible]

[illegible]

(۴) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اللہ حق

۴	۷	۲	۱
۳	۲	۸	۱
۷	۲	۵	۱

اللہ حق (دائیں) — اللہ حق (بائیں)

اللہ حق حق حق

سورۃ الرحمٰن اس کو پانی میں ڈال کر ۹ ایام تک پینے اور خود نماز کی پابندی کرے اور پانچ آدمیوں کو نماز کی دعوت دیتی ہے

برائے امراض خصیہ

(۱) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

الَّذِيۡنَ تَتَوَفّٰٮهُمُ الۡمَلٰۤٮِٕكَةُ طَيِّبِيۡنَ (سورۃ النحل آیت ۳۲)

وَبَدَا لَهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمۡ يَكُوۡنُوۡا يَحۡتَسِبُوۡنَ

حلیم علیم و الصّٰفّٰت

(۲) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

هٰذِهِ اعْتَبَرْتَ لَكُمْ حَلُّوْا وَكَمْ رَحَلُوْا

وَاِنَّمَا النَّاسُ فِىْ حَلٍّ وَّمُرْتَحَلٍ


صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کثیرا کثیرا

(۳)

قال	۳	قال
لهم	۷	لهم

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

الٓمّٓ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ



(بقیہ امراضِ خصیہ)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ک

اللہ شافی					اللہ کافی
	۳	۹	۱	۲	
اللہ شافی	۷	۲	۸	۷	اللہ کافی
	۵	۳	۹	۱	
	۴	۲	۱	۷	
	۵	۳	۹	۸	

اللہ شافی

اس بالا نقش کو ٹھنڈے دودھ کے اندر ڈال کر ۹ دن تک بیمار مریض استعمال کرنا ہے۔ اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور دو آدمیوں کو نماز کی دعوت دے اور عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر روز ۱۰۱ دفعہ یا وَدُوْدُ پڑھے۔

امراضِ مقعد

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ (البقرہ پ بقرہ آیت ۳۴)

اس کو پانی میں ڈال کر صبح و شام پیتے رہیں۔

ایضاً سورۃ البقرہ آیت ۱۶ ایضاً سورۃ البقرہ آیت ۱۹

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ

(سورۃ البقرہ آیت ۱۳۰)

بقیہ امراض مقعد

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ (سورۃ البقرہ آیت ۱۶)

انت	۸	۱۰	۵	انت
ولیتنا	۶	۱۲	۹	واتمنا
فاغفرلنا	۳	۷	۱	فاغفرلنا
وارحمنا	۱۱	۴	۲	وارحمنا

امراضِ کولھا

(یعنی اعلیٰ حصۂ سُرین)

(۱) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

۱ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ۔

۲ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ

قصاص	قصاص	کریم	ضمن	تعجل
قصاص	قصاص	کریم	ضمن	تعجل
الرحمن	الرحمن	حفیظا	رحیم	رحیم

کولھے کے درد کے لئے ایک تعویذ نقش پی لیں اور ایک تعویذ نقش باندھیں۔ یعنی بازو یا گلے میں باندھے

(۲) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝ (سورۂ آل عمران ع۵ آیت ۱۴۳)

(باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

(۳) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحکمۃ	۹	۲	۴	الحکمۃ
للہ	۶	۸	۱۲	للہ
رب	۳	۱۰	۱	رب
العلمین	۱۱	۵	۷	العلمین

الحکمۃ للہ

(۴) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ولامر یوم اذ للہ

کل لکل کل فھو لکل

الامر منہ اکل

امراضِ کمر

(۱) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیٰنِ
بَیْنَھُمَا بَرْزَخٌ لَّا یَبْغِیٰنِ (سورۃ الرحمٰن)

طریقہ استعمال : کمر کے برابر دھاگہ پر یہ آیتیں نمبروالی پڑھ کر دم کر کے کمر پر ۴۰ ایام تک باندھے رہیں

(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَقُلْنَا یٰاٰدَمُ اسْکُنْ اَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّۃَ وَکُلَا مِنْھَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا ھٰذِہِ الشَّجَرَۃَ فَتَکُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِیْنَ (سورۃ البقرۃ آیت ۳۵)

(باقی اگلے صفحہ پر)

(بقیہ امراضِ کمر)

(۳) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اَللّٰہُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (سورہ نور آیت ۳۵)
وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْٓ اَنْفُسِکُمْ اَوْ تُخْفُوْہُ یُحَاسِبْکُمْ بِہِ اللّٰہُ
(سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۴)

امراض ریڑھ کی ہڈی

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ث ث ث

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

باقی باللہ باقی

بسم ث بسم ث ث بسم

اس کو تیل بابونہ میں ملا کر ملنا ہے اور روزانہ دو آدمیوں کو نماز کی دعوت دینی ہے اور خود نماز کا اہتمام کریں

(۲)

اللہ	اللہ
اللہ	اللہ

۹ دن پینا ہے

اللہ حق حق حق

اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ

اللہ حق حق حق

اللہ حق حق

اس نقش کو سات دن تک پینا ہے

اللہ شافی

امراضِ پسلیاں

(۱) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیٰنِ بَیْنَہُمَا بَرْزَخٌ لَّا یَبْغِیٰنِ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ (سورۂ رحمٰن)

(۲) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَبٰرَکَ اسْمُ رَبِّکَ ذِی الْجَلٰلِ وَالْاِکْرَامِ (سورۂ رحمٰن)

الله	۲	۱۴	۹	۴	الله
الذی	۱۱	۷	۳	۲۰	الذی
یاجلال	۵	۱	۵	۳	یاجلال
جل جلاله	۱۶	۱۰	۸	۱۲	جل جلاله

ان نقوش میں سے کوئی بھی ایک تل کے تیل میں دس ایام تک ڈال کر صبح و شام مالش کریں۔

(۳) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا حفیظ	۲۴	۶	۱۳	یا حفیظ
وهاب	۱۶	۱۰	۱۸	وهاب
هاد	۷	۳	۲۲	هاد
الغام	۱۱	۱۴	۲۰	الغام
الشمس	۲	۲۱	۸	الشمس
أنت السّلام	۲۳	۱۵	۱۷	أنت السّلام
	۹	۱	۱۲	
مرسلون	۹	۵	۴	مرسلون

پسلیوں میں اگر درد ہو تو یہ نقش باندھیں۔

امراضِ پسلی

(پسلی کے پچھلے والا حصہ)

(۱) (سورۂ رحمٰن) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰہُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْض

قال	ما	۱۲	۷	۴	ما	قال
الم	من	۵	۹	۱۱	من	الم
اقل	منه	۸	۳	۲	منه	اقل
لکم	فصله	۱	۱۰	۶	فصله	لکم

سورہ السجدہ آیت ۴

(۲) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُوْنَ كَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ

پانی میں دم کر کے چھینٹے لگائے اور ۱۴ ایام تک پیتے رہیں۔

(۳) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَا یُدْرِیْكَ لَعَلَّهٗ یَزَّكّٰۤی اَوْ یَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰی (سورۂ عبس)

امراضِ ران

(۱) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اسۡتَعِیۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَالصَّلٰوةِ
اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصّٰبِرِیۡنَ (سورۃ البقرۃ آیت ۱۵۳)

الله	۲۰	۶۰	۴۹۰	۸	۲۱	۴۴	۱۵	۳۹	۶	۶۱	الله
جمع	۳۳	۴۱	۱۷	۴۷	۲۵	۲	۳۱	۵۰	۳۴	۲۴	جمع
جامع	۲۸	۵	۵۴	۱۳	۳۶	۹	۴۸	۹	۵۲	۱۲	جامع
شاهد	۳۷	۶۳	۴۰	۴۹	۳۲	۵۸	۴۶	۲۷	۲۳	۳۹	شاهد
علیم	۲۲	۳	۳۷	۱۰	۵۳	۲۲	۱۴	۵۵	۶۴	۴۵	علیم
هاد	۶۵	۵۹	۵۱	۴۵	۲۶	۶۳	۳۰	۳۸	۴	۵۷	هاد
وهاد	۶۶	۱۸	۱۱	۱۶	۲۳	۷	۱	۵۹	۲۰	۶۷	وهاد

ایک نقش ران پر باندھ لیں اور ایک نقش سات دن پی لیں آرام ہونے کے بعد نقش اتار دیں اور بوقتِ تکلیف پھر باندھ لیں۔

(۲) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَدِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ
عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ وَلَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ ۝ (سورۃ التوبہ آیت ۳۳)

(۳) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

کن	اسما	۷	۲	۵	اسما	کن
طرائق	الله	۱۲	۱۶	۱۰	الله	طرائق
له	الذی	۴	۱۴	۱۸	الذی	له
ماشاء	کان	۱۵	۱۱	۳	کان	ماشا
لله	هی	۹	۸	۳	هی	لله
الله	الم	۱	۶	۱۷	الم	الله

امراضِ گھٹنہ

(۱) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اِنَّهٗ عَلٰی رَجۡعِهٖ لَقَادِرٌ ۝ یَوۡمَ تُبۡلَی السَّرَآئِرُ ۝ فَمَا لَهٗ
مِنۡ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ (سورۃ الطارق)

مزمل	امی	۱	۱۰	۱۵	۲۳	۱۳	۶	مزمل	امی
نبی	هامی	۱۸	۲۲	۴	۹	۲۱	۱۹	نبی	هامی
مصطفیٰ	رحیم	۷	۱۶	۳	۱۲	۱۷	۸	مصطفیٰ	رحیم
فان	قسم	۵	۲۰	۱۴	۲۴	۱۱	۲	فان	قسم

بوقتِ درد یہ نقش تعویذ گھٹنہ پر باندھ لیں۔ آرام کے بعد اتار دیں جب ضرورت ہو پھر باندھ لیں

(۲) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

فَبِمَا کَسَبَتۡ اَیۡدِیۡکُمۡ قُلۡ لَّاۤ اَمۡلِکُ لِنَفۡسِیۡ نَفۡعًا وَّلَا
ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰہُ ۔ (سورۃ الاعراف آیت ۱۸۸)

(۳) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

او کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام

۷۸۶

هم	عن	۴	۷	۳	عن	هم
کما	الهوا	۱۲	۹	۱۱	الهوی	کما
قال	فان	۱۹	۱	۵	فان	قل
هو	جامع	۶	۲	۸	جامع	هو

امراضِ پنڈلی

(۱)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

اَلتَّآئِبُوۡنَ الۡعٰبِدُوۡنَ الۡحٰمِدُوۡنَ السَّآئِحُوۡنَ (سورہ توبہ آیت ۱۱۲)

دائم	۵	۲۰	۶۶	۱۰	۴۶	۶۳	۱۳	۸۰	۱۶	دائماً
محمد	۷	۶۲	۴۱	۷۰	۵۲	۲۵	۴۲	۲۹	۷۵	محمد
احمد	۹	۲۸	۵۴	۳۱	۷۹	۱۱	۳۵	۶	۴۷	احمد
رسول	۴۵	۷۳	۱	۲۴	۴۳	۵۸	۱۸	۳۹	۶۴	رسول
طیب	۶۹	۲۳	۴۸	۳۸	۲۱	۵۳	۱۲	۵۵	۲	طیب
مبارک	۲۷	۸	۳۵	۳۳	۵۴	۳	۶۰	۲۲	۵۰	مبارک
فیہ	۷۱	۷۸	۳۶	۴۰	۸۲	۱۴	۳۷	۴۳	۶۸	فیہ
عن	۶۷	۶۱	۵۹	۶۵	۵۱	۳۴	۷۷	۱۵	۱۹	عن
کان	۱۴	۷۶	۲۶	۴۲	۳۲	۲	۴۴	۵۶	۷۹	کان

پنڈلی کے درد کے واسطے ایک تعویذ نقش کا پانی لگادیں اور ایک نقش پی لیں

(۲)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَاِذۡ نَجَّیۡنٰکُمۡ مِّنۡ اٰلِ فِرۡعَوۡنَ یَسُوۡمُوۡنَکُمۡ سُوۡٓءَ الۡعَذَابِ یُذَبِّحُوۡنَ اَبۡنَآءَکُمۡ وَیَسۡتَحۡیُوۡنَ نِسَآءَکُمۡ ؕ وَفِیۡ ذٰلِکُمۡ بَلَآءٌ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ عَظِیۡمٌ سورۃ البقرۃ آیت ۴۹

نور	۱۱	۹	۲	۱۴	۴	۱۵	۷	نور
رحیم	۵	۳	۱۵	۲۱	۱۵	۶	۱۲	رحیم
شاھد	۱۹	۸	۱۷	۳	۱۳	۲۰	۱	شاھد

امراضِ ٹخنہ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ

(۲)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

لہ	اشکر	اشکر	لہ
ماتوا	لک	لک	ماتوا
لو	اذا	اذا	لو

اس تعویذ کو پانی میں حل کرکے ۷ دن پینا ہے اور ہر روز ۷ آدمیوں کو نماز کی دعوت دینی ہے۔

(۳)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

بسم ۔ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

۴	۵	۶
۳	۷	۹
۸	۱	۳
۴	۲	۷

(۴)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

س بسم

۴	۵	۶
۷	۸	۲
۱	۹	۷
۴	۲	۲

اس کو دودھ میں ڈال کر پینا ہے

(۵)

کٓ

	ل	م	ن	د	
کٓ	ل	د	ک	ن	کٓ
	س	س	ص	ض	

کٓ

اس کو سات ایام تک پانی کے ساتھ پینا ہے۔

امراضِ ایڑی

(۱)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِیْ یُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ الخ (سورۃ البقرۃ آیت ۲۶۴)

غفی	۳۱	۱۶	۲۹	۳	۲۷	۱۲	۲۱	غفور
یحب	۵	۲۴	۷	۱۷	۲۳	۳۵	۱۰	احب
الا	۱۹	۳۳	۱۱	۱۵	۹	۳۰	۱۸	ان
جنت	۱۴	۴	۲۲	۳۴	۱	۲۵	۸	بطوۃ
الله	۲۶	۶	۲۸	۱۳	۳۲	۲۰	۲	الله


ایڑی کے درد کے لئے استعمال فرمادیں۔ پانی کے اندر نقش بھگو کر رکھ کر پیئے اور باقی پانی پی لے۔

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَیْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللّٰهِ سورۃ الحشر آیت ۲۱

رشید	أخ	۱۵	۱۱	۲۶	۱۷	۲۵	۱	۳۲	أخ	رشید
احمد	أنتم	۳۹	۳۵	۱۰	۳۳	۸	۹	۲۲	أنتم	احمد
حمید	أجلج	۵	۲۴	۳۷	۶	۲۹	۱۳	۴	اجلج	حمید
نعیم	اخ	۳۴	۱۴	۲۰	۴۲	۳۸	۱۸	۳۱	اخ	نعیم
جاهد	ان	۲۷	۳۰	۲۳	۴۰	۱۲	۳۶	۹	ان	جاهد
ید	من	۲	۷	۴۱	۱۶	۲۱	۳	۲۸	من	ید

(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



امراضِ مورچہ

یعنی ایڑی اور ٹخنے کے درمیان والے حصہ پر باندھ لیں

(۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اُوْحِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا یَّهْدِیْۤ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ

(بدایۃ سورۃ الجن آیت ۱-۲)

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قال عبد الله فقال البشری
یهدونا انا کنا نطمع

{ اس کا تعویذ بنا کر مورچہ پر باندھیں۔ }

(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لوکنا	غنم	۲	۴	غنم	لوکنا
طرائقہ	غنی	۹	۷	غنی	طرائق
الله	عن	۵	۱	عن	الله
آنا	هر	۱۰	۸	هر	انا
انما	اهی	۳	۶	اهی	انما

امراضِ تلووں

(یعنی پاؤں کا نچلا باطنی حصہ)

(۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنِّیْۤ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

سورہ بقرہ آیت ۳۳

۱۲	۳۳	۴۶	۷	۲۴	۲۹	۳۷	۴۰	۴۴
۲۰	۲۷	۴۳	۳۰	۲	۹	۱۶	۲۶	۳۱
۳۵	۴۷	۱۱	۱۵	۱۹	۳۴	۲۳	۳۶	۲۱
۴۵	۳۹	۱۰	۲۵	۳۲	۳	۴۳	۱۴	۵
۱	۱۷	۶	۲۲	۱۳	۳۸	۸	۲۸	۱۸

(بقیہ امراضِ تلوؤں)

(۲) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

کَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ثُمَّ کَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ (سورۃ النبا)

(۳) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَقَالَ الۡاِنۡسَانُ مَا لَهَا يَوۡمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخۡبَارَهَا (الزلزال)

(۴) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

احیاء	کذب	٥	٨	٣	کذب	احیاء
ولا	ولا	٢	١٠	٦	ولا	ولا
کن	الا	٧	۴	١	الا	کن

اس تعویذ نقش کو تیل بابونہ میں ڈال کر چودہ ایام تک مالش کیا جائے

امراضِ انگلی (پاؤں کی)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

(۱) وَاللّٰهُ عَزِيۡزٌ ذُو انۡتِقَامٍ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخۡفٰى عَلَيۡهِ شَىۡءٌ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ۝ (سورۃ آل عمران رکوع ۱ آیت ۵)

احمد	١٣	٦۴	١٨	٢١	٥٢	۴٠	١٥	٣٣	۴٨	٦	احمد
رجل	٢٨	٢٣	٥٠	٣١	٦٥	٢٦	٥٦	١٧	٢٢	٣٥	رجل
شریف	٣	٢١	٢٦	٦١	١٣	٥٩	٢	٧	٥٢	١١	شریف
امین	٦٣	٣٢	٨	۴٣	٢٩	٢٣	٥۴	١٩	٢٧	٣٠	امین
صدیق	٣٠	٥٨	٣٩	٦۴	٢٣	۴٩	٥١	۴١	١٦	٥٧	صدیق
احمد	١٥	٧٠	٣٥	٦٠	٩	٦٨	٢٧	١٠	۴	٣٢	احمد
هاه	٥	٣	١١	٥٥	٢٠	٦٩	٣٨	٣٩	٦٣	٢۴	هاه

[illegible]

(۲) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَاِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسًا فَادّٰرَءۡتُمۡ فِيۡهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخۡرِجٌ مَّا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ ۝ (سورۃ البقرہ آیت ۷۲)

٩	١٣	٣٢	٧١	٣٥	٣	۴٩	٢٢	٢٩	٨٠
٢١	٣٩	٦٧	٥	٥٠	٢٥	٥٥	١٨	۴٣	٧٦
٢٨	٨٣	١٠	٥٢	٣١	٥٩	١٣	٥٧	۴٠	٨٦
٥۴	٧٢	۴۴	١٩	۴٨	٥٣	١٧	٣٣	٣٨	٥١
۴٥	٢۴	٨٨	١۴	٦١	۴١	٦۴	٢	٧٣	٢٣
٦٢	١	٥٨	٨٥	٣٩	٧	٣٦	٧٩	٣٠	٨٢
٧٨	١٦	٣٧	٨١	٨٩	٢٦	٦٣	١٥	٦٥	٨
٧۴	۴٧	٦	٧٥	٣	٦٦	٧٧	۴٩	٥٦	٦٠
	٢٧	٨٧	۴٢	٩٠	٦٨	٨۴	٢٠	٣۴	٧٥

انگلی کے درمیان میں درد ہونے کے لئے استعمال فرمئیں۔

انگلی کے درمیان میں دبائیں اور ایک تعویذ پی لیں

امراضِ ناخن
(ہاتھ پاؤں کے)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَخُوۡنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوۡلَ وَتَخُوۡنُوۡۤا اَمٰنٰتِكُمۡ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

سورۃ الانفال آیت ۲۷

۷۸۶

اللہ شفیع	اللہ رحیم
اللہ کریم	اللہ علیم
محمد صلی اللہ	علیہ وسلم

محمد رسول اللہ

امراضِ بال

(۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

٥٠	٧٤	٤٩	٢١	٦٥	٧٨	١٦	٧٣	٤٦	٦٤
٣١	٧	٤١	٥٣	٨	٣٩	٢٤	١	٤٦	٩
٤٤	١٧	٥٩	٢٧	١٢	٥١	٥٦	٢٨	٣٠	٧٠
٥٢	١٤	٤٠	٢	٣٢	٤٨	١٩	٦٨	٤٥	٥٤
٦	٦٣	٢٥	٣٢	٣٨	٤٢	٢٦	٤	٥٧	١٥
٦٧	٢٢	٣٦	٦٦	٣٥	١٣	٢٣	٧٥	٤٣	٦١
٣٣	٣	٥٥	٦٠	٦٩	٧٢	٣٥	٤٩	٧٧	٧١
٤٧	٧٩	١١	٣٧	٥٨	٥	١٨	١٠	٢٩	٦٢

اس تعویذ نقش کو تیل میں ڈال کر گیارہ دن تک استعمال کریں۔

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وصار من احب الناس فی عجل

نحو المغسل یا شی یغسلنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كان	٩	٢	من
يد	٧	٤	يد
الدنيا	١	٦	حرث
لاخرة	٣	٨	وفى

الله نور السموت والارض۔

امراضِ جلد

من جانب موکلینِ کرام سورۂ رحمٰن شریف

(۱)

٧٨٦

١	٩	٧	١١
٨	٣	٥	٤
٦	١٢	٢	١٠

اس تعویذ نقش کو زیتون کے تیل میں ڈال کر جسم کی ایک ہفتہ تک مالش کی جائے۔

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

واشتد انزعی وصار الموت یجذبها

من کل عدق بلا رفیق ولاهون

الله الله الله الله

(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وصار من کان احب الناس فی العجل

فبعد ذلك لا یریدون ما فقدوا

(۴)

الله باق

الله الصمد

يا رحيم

من کل فان صلی الله علیه وسلم واتباعه

الله الصمد

الله باق


(۵) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَسُلَّ رَوْحِی وَظَلَّ الْجِسْمُ مُنْطَرِحًا

بین الاهالی وایدیهم تقلبنی

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَکُلّ مَن حَلَّ فِی الدُّنیا فمرتحلٌ   یوماً المنزلہ فی اثرہ مرتحلٌ



امراضِ دماغ

(۱) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَللّٰہُ نُوۡرُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ

یا رحیم یا غفار

یا نور	۱۵	۳۴	۴۹	یا نور
یا حفیظ	۱۱	۴۵	۶۱	یا حفیظ

دیوانگی دور کرنے کے لئے ایک نقش تعویذ گلے میں ڈالیں اور دوسرا نقش عرق گلاب میں ڈال کر گیارہ دن تک صبح نہار منہ پلائیں۔

(۲) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

۹۵	۱۶۴	۱۹۵	۱۲۸	۱۹۹	۱۳۴	۱۷۹	۵۹
یا اللہ	۱۷۵	۱۹۱	۱۴۴	۱۷۴	۱۱۹	۱۶۹	یا اللہ
۵۴	۱۸۸	۱۰۱	۱۵۵	۱۴۱	۱۱۲	۱۸۲	۶۱

له مجربات عاملین کاملین (چند ایک عربی اشعار کا ماخذ) قصیدہ موت کی یاد ... ملاحظہ فرمائیں

(۳)

اللہ	۱	۳	۲۱	۱۰	اللہ
ان اللہ	۲۶	۲۸	۱۶	۱۳	ان اللہ
علی	۴	۲۳	۱۹	۶	علی
کل	۸	۱۷	۲۵	۲۷	کل
شئ	۹	۱۵	۱۱	۱۲	شئ
قدیر	۲۰	۲۴	۲۲	۱۸	قدیر
اللہ	۷	۱۴	۲	۵	اللہ

امراضِ ناخن

(۱)

اللہ ۵ اللہ ۹ اللہ اللہ اللہ اکبر

اس کو تیل کے تیل میں حل کر ناخن پر باندھنا ہے

(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

	۷	۳	۹	
اللہ	۵	۲	۱	اللہ
	۴	۶	۲	

اللہ

اس تعویذ کو پانی کے اندر تھوڑی چینی ملا کر پینا ہے

(۳) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ اُوۡحِیَ اِلَیَّ اَنَّہُ اسۡتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الۡجِنِّ فَقَالُوۡۤا اِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡاٰنًا عَجَبًا۔ (سورۂ جن)

(۳) بسم اللہ الرحمن الرحیم

قال عبداللہ فقال البشریٰ

یھدوننا انا کنا نطمع

(۴) بسم اللہ الرحمن الرحیم

لوکنا	غنتم	۲	۴	غنتم	لوکنا
طرائق	غنی	۹	۷	غنی	طرائق
اللہ	عن	۵	۱	عن	اللہ
انشا	ھو	۱۰	۸	ھو	انشا
أنما	اھی	۳	۶	اھی	أنما

امراض زبان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ اکبر

لا الہ الا اللہ	لا الہ الا اللہ	لا الا اللہ
لا الہ الا اللہ	لا الہ الا اللہ	لا الا اللہ
لا الہ الا اللہ	لا الہ الا اللہ	لا الا اللہ
لا الہ الا اللہ	لا الہ الا اللہ	لا الا اللہ

اشف

اللہ شافی

اس تعویذ کو پانی میں ڈال کر اور چینی ملا کر ۹ ایام استعمال کریں اور بیمار روزانہ پانچ آدمیوں کو نماز کی دعوت دے۔

(۲)

اللہ

بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ
بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ
بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ
بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ

اللہ اللہ

اللہ

اس تعویذ کو شہد میں ڈال کر بارہ دن استعمال کرنا ہے اور تین مرتبہ روزانہ استعمال کرنا ہے

امراض شحنہ

(۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم

س

۴	۵	۶
۳	۷	۹
۸	۱	۳۰
۴	۲	۷

من

۳ - سم

اس مندرجہ بالا نقش کو سات دن تک پینا ہے اور ہر روز چار آدمی کو نماز کی دعوت دینی ہے۔

(۲) بسم اللہ الرحمن الرحیم

۴	۵	۶
۷	۸	۲
۱	۹	۷
۴	۲	۲

اس کو دودھ کے ساتھ پینا ہے۔

ک

ک

ل	م	ن	ر
ل	د	ک	ن
س	ک	ص	ص

ک

امراضِ خصیہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

کٹ

اللہ شافی (دائیں) — اللہ کافی (بائیں)

٣	٩	١	٢
٧	٢	٨	٧
٥	٣	٩	١
٤	٢	١	٧
٥	٣	٩	٨

اللہ شافی

مندرجہ بالا نقش کو ۹ ایام تک نہار منہ ٹھنڈے دودھ کے ساتھ پینا ہے۔ مریض نماز کا اہتمام کرے۔ روزانہ دو آدمی کو نماز کی دعوت دے اور دو رکعت نماز نفل بعد نمازِ عشاء ادا کرے اور ہر روز ۱۰۱ مرتبہ یا وَدُوْدُ پڑھنا ہے۔

امراضِ بغل

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اللہ

٧	٢	٤	٢
٩	٢	د	٧
٥	٢	٤	٢
٧	٩	٨	٢
٤	٣	٢	١

اللہ اللہ اللہ اللہ

اس نقش کو ۹ ایام تک پانی کے ساتھ پینا ہے اور مریض نماز کی پابندی کرے اور روزانہ چار آدمیوں کو نماز کی دعوت دے۔

امراض انگلی



اس کو سرسوں کے تیل کے ساتھ ملا کر ملنا ہے اور روزانہ تین آدمی کو نماز کی دعوت دینی ہے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اللہ (دائیں) — اللہ (بائیں)

٤	٥	٢
٣	٩	١
٧	٢	١

اللہ

امراض ریڑھ کی ہڈی

اللہ حق حق حق

اللہ شافی (دائیں) — اللہ حق حق حق م (بائیں)

اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ

اللہ شافی

اس نقش کو تیل یا بونہ میں ملا کر ملنا ہے اور خود نماز کا اہتمام کرے اور روزانہ تین آدمی کو نماز کی دعوت دینی ہے

(۲)

اللہ	اللہ
اللہ	اللہ

اس نقش کو ۹ ایام تک پینا ہے

امراضِ سر

(۱) آدھے سر کے درد کے واسطے سر کے درمیان میں باندھیں

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۲	۱۱	۲۵	۱۷	۶
۱۹	۲۹	۱۳	۳۲	۲۲
۳۳	۴۵	۲۱	۳۴	۸
۴	۱۵	۲۸	۷	۳۶
۳۷	۲۳	۳۹	۱۲	۲۶
۹	۱	۳۱	۱۸	۱۰
۳۵	۱۶	۲۰	۲۷	۲۴
۵	۳۰	۱۴	۳۸	۳

(۲) پورا سر کے درد کے لئے سر پر باندھیں

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ودود	۲۲	۷	۲۱	ودود
ظاہر	۹	۱۷	۱۳	ظاہر
زاہد	۱۵	۱۱	۱	زاہد
یاغفار	۴	۲۳	۱۹	یاغفار
الاخ	۱۶	۵	۲	الاخ
الدین	۱۲	۱۸	۱۴	الدین
شاہد	۲۲	۱۰	۳	شاہد
انعم	۶	۲۰	۸	انعم

(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دَارُ الْخُلُوْدِ مَقَامًا دَارُ الْاٰخِرَةِ

اِنَّ الْاِقَامَةَ فِی الدُّنْيَا اِلٰی اَجَلٍ

(۴) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَكُلُّ مَنْ حَلَّ فی الدنيا فَمُرْتَحِلٌ

يَوْمًا لِمَنْزِلِهٖ فِیْ اِثْرِ مُرْتَحِلٍ

(۵) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰہ	لَآ اِلٰـهَ اِلَّآ اَنْتَ	اللّٰہ
حلیم	سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ	حلیم
اٰمین	مِنَ الظّٰلِمِيْنَ	فی
صدیق	محمد احمد محمد احمد صدیق	

امراضِ پیشانی

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اللّٰہ	۲۱۱	۷	۳	۵	۱۹	اللّٰہ
شافی	۲۳	۹	۵	۹	۱۸	شافی
	۴	۵	۹	۷	۲۰	
اللّٰہ	۵	۲	۱	۸	۲۵	اللّٰہ
	۹	۱		۳	۳۰	
شافی	۸	۸	۸	۱	۲۲	شافی
	۲	۹	۹	۲	۱۱	

ترکیب استعمال: جب سر میں درد ہو تو اس کے اوپر باندھ دیں۔ تین دفعہ استعمال کریں ان شاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی اور تین دفعہ تسمیہ پڑھ کر دم کریں۔


(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

هل اعتبرت فكم حلّوا وكم رحلوا
وانما الناس في حلٍّ ومرتحلِ

(۳) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اِذا تجهّم امرٌ لا مردّ لهٗ
لم يغن عنك اقتناءُ المالِ والخولِ

(۴) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم



(۵) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

لا يقومُ عنك الاطباءُ والصديقُ اِذا
وقد طووا صحفَ التدبيرِ والحيلِ

(۶) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

فيدرجونك في الاكفان منتزعًا
عنك الثياب من الابرادِ والحللِ

(۷) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۱۱۲۵	۱۱۳۲	۳۱۱۷	۵۲۱۹
۵۱۱۰	۳۷۲۲	۴۶۲۱	۲۱۱۳
۵۱۱۵	۲۱۱۶	۱۱۸۱	۱۱۴۳
۵۱۱۹	۳۱۰۸	۱۱۲۱	۵۱۱۲

امراضِ کان

کان کے درد کے واسطے تیل کے اندر بھگو کر استعمال کریں

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ (العنکبوت آیت)
لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوْنَ (سورۃ النحل آیت ۹۰)

اللہ	یاحافظ	یاحافظ	یارحیم	یارحیم	رحیم	اللہ
عزیز	شفیع	شفیع	مالک	المنکر	نورالله	عزیز
جبار	علیم	علیم	نعیم	نعیم	نعیم	جبار
جمیل	الخالق	الباریٔ	المصور	جامع	المنکر	جمیل

(باقی نقوش برائے امراضِ کان اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہوں)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یٰاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِکُمْ وَاَوْلَادِکُمْ عَدُوًّا لَّکُمْ

(سورۃ التغابن ع ۲)

[illegible]

۴	۴۷	۷۶	۶	۷۰	۸۶	۶۴	۱۳	۹۰	۱
۱۹	۱۲	۵۱	۳۸	۴۱	۸۳	۳۰	۷۹	۳۹	۲۲
۲۸	۴۵	۲۲	۸۰	۲۰	۳۵	۶۹	۷۴	۸۸	۵۸
۳۲	۶۵	۵۳	۱۰	۵۹	۹	۴۶	۳۱	۴۰	۱۷
۴۳	۶۱	۳	۴۴	۵	۲۷	۷	۲۵	۱۱	۶۲
۵۲	۸۴	۵۰	۶۷	۲۳	۵۷	۲۱	۳۴	۶۰	۲
۷۲	۳۳	۱۵	۳۷	۷۳	۱۸	۶۹	۳۶	۵۵	۷۱
۸	۵۶	۷۷	۲۶	۸۰	۴۸	۴۳	۱۴	۸۲	۲۹
۶۳	۸۹	۵۴	۸۵	۷۸	۷۵	۸۷	۶۶	۴۹	۱۶

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝ وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝ وَاِنَّهٗ

لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝ (سورۃ العٰدیٰت)

یاحفیظ	۶	۱۵	۳۱	۷	۱۴	۲۸	۲۵	یاحفیظ
یارحیم	۱۳	۱۷	۹	۲۲	۱۹	۲۶	۱۱	یارحیم
یاکریم	۲۳	۳۰	۳	۱	۱۸	۴	۲۱	یاکریم
ستار	۳۲	۲۰	۱۲	۱۶	۲۴	۸	۱۰	ستار
غفار	۲۶	۵	۲۶	۳	۳۳	۶	۲۷	غفار

کان کے پردے خراب ہونے کے لئے ایک تعویذ تیل میں ڈال کر کان میں ڈالیں اور ایک تعویذ پی لے اور ایک تعویذ گلے میں ڈالے۔

(بقیہ امراضِ کان)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝ اِنَّكُمْ لَفِیْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝ یُّؤْفَكُ

عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۝ (بدایۃ سورۃ الذّٰریٰت)

محمود	رسول	۶	۳۱	۴۸	۱۷	۵۶	۳۷	رسول	محمود
قاسم	رحیم	۴۰	۵۳	۱۲	۴۵	۲۶	۵۰	رحیم	قاسم
عاقب	ولی	۵۷	۹	۲۱	۳۶	۱۸	۷	ولی	عاقب
فاتح		۲۴	۴۴	۳۳	۱۳	۴۱	۵۸		فاتح
		۲۹	۳	۵۴	۸	۴۹	۲۲		
		۳۸	۴۷	۱۶	۳۴	۲۵	۳۰		
		۱۹	۵۲	۲۳	۳۹	۴	۴۲		
		۱۴	۱۱	۴۶	۳۲	۲۰	۵۱		
		۵۹	۲۷	۴۳	۲	۲۸	۵۵		
		۵	۶۰	۳۵	۱۵	۱	۱۰		

کان پٹی میں اگر درد ہو تو نقش بالا مقامِ درد پر باندھ لیں

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَیُوَدِّعُوْنَكَ تَحْتَ الْاَرْضِ مُنْفَرِدًا ۝ وَیَتْرُکُوْنَكَ مَحْجُوْبًا مِنَ الْمُقْبِلِ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَقَائِلٌ مِّنْهُمْ قَدْ كَانَ خَيْرَ اٰبٍ

وَقَائِلٌ مِّنْهُمْ قَدْ كَانَ خَيْرَ وَلِیٍّ

امراضِ آنکھ

(۱) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ ھَادُوْا وَالنَّصٰرٰی

وَالصَّابِئِیْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ (سورۃ البقرۃ آیت ۶۲)

١٥	٥٩	١	٥٧	٣٦	٣٠	٤	٤٥	٥	١٢
٦٠	١٤	٢٣	١٠	٤٨	٤٦	٢٠	٥٢	٣٢	٥٨
١١	٢٦	٢٩	٤١	١٧	٥٦	٣٨	٢٤	٤٠	١٩
٧	٣٥	٢٢	٨	٣٣	٣٧	١٣	٢٨	٦	٥٣
٥١	٤٩	٤٧	٢٧	٥٥	٢٣	٢	٥٠	٣٤	٤٣
٣	٤٢	١٨	٣١	٥٢	٢١	٣٩	١٦	٩	٢٥

نقش کو پانی میں بھگو کر دو تین قطرے سرمے میں ملا کر استعمال کریں۔

(۲) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَقَائِلٍ قَدْ جَآءَ اللّٰہُ مَنْفَرَۃً

وَقَائِلٍ طَابَ فِی الدُّنْیَا مِنَ الرَّجُلِ

(۳) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَبَعْدَ ذٰلِکَ لَا یَدْرُوْنَ مَا فَقَدُوْا

وَھُمْ فِیْ اَقْسَامِ الْاِرْثِ بِالْجَدَلِ

امراضِ ناک

مکھن میں ڈال کر گیارہ دن تک ناک پر لگائیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنِّیْٓ اِذًا لَّفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ اِنِّیْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّکُمْ

فَاسْمَعُوْنِ قِیْلَ ادْخُلِ الْجَنَّۃَ (سورہ یٰس آیت ۲۴)

نزلہ زکام کے لئے گلے میں ڈالیں

٧٣	١١	٣١	٥٨	٤٠	٧١	٥٦	٧٩	١	٧٧
٨٧	٦٩	١٠	٤٠	٤٩	٢٩	٣٣	٦٣	٥٤	٨٥
٨١٠	٦	٨	٦٧	٢١	١٢	٦٥	٢٨	٤١	٩٢
٨٤	٣٥	٣٠	٤٧	٢٦	٣٨	٩٠	١٤	٦١	٨٣
٩	٧٦	١٣	٤٢	٢	٢٥	٥٢	٤	٤٣	٧٢
٧٨	٣٧	٥١	٣٤	٢٣	٦٦	١٧	٨٩	٢٧	٧٥
٨٦	٢٢	٣	٦٨	٦٤	٥٥	٤٦	٣٩	١٥	٨٠
٨٢	٣٢	٤٨	٥٣	٥٠	٣٦	٦٢	٢٤	٤٥	٨٨
٧٣	٦	٢٠	٥٩	١٠	٥٧	٥	٤٤	٧٠	٩١

(۲) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ ھُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِہٖ وَعَلَیْہِ تَوَکَّلْنَا فَسَتَعْلَمُوْنَ

مَنْ ھُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ (نہایہ سورۃ الملک آیت ۲۹)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَبَعْضُھُمْ مَعَ بَعْضٍ فِیْ مُخَاصَمَۃٍ

وَاَنَّھُمْ لَبَیْنَ مَنْصُوْرٍ وَمُنْخَذِلِ

(۳) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَیَأْخُذُوْنَ قُرْبًا فِیْ مَعَایِشِهِمْ
لَا یَذْکُرُوْنَکَ فِیْ خَلْوٍ وَمُحْتَفِلٍ

(۴) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَا اَیُّهَا الْغِرُّ لَا تَغْرُرْکَ صُحْبَتُهُمْ
خَیْرُ الْمَصَاحِبِ عِنْدِیْ صَالِحُ الْعَمَلِ

(۵) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فِیْمَ التَّغَافُلُ وَالْاَیَّامُ دَائِرَةٌ
فِیْمَ التَّکَاسُلُ وَالْاَحْوَالُ فِیْ حَوَلٍ

(۶) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لِلّٰهِ الْعَوِیْلُ لَدٰی دَارٍ خَلَتْ وَعَفَتْ
فِیْمَ الْبُکَاءُ عَلَی الْاٰثَارِ وَالطَّلَلِ

امراضِ ہونٹ

(۱) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد للہ رب العالمین — اللہ کافی

اللہ کافی	ک	ن	ص	س	اللہ کافی
	س	م	ل	ر	
	ل	ن	س	ک	

اللہ کافی

اس کو گلے میں ڈالنا ہے اور الحمد شریف ۹ دفعہ پڑھ کر ہونٹ پر دم کرنا ہے
اور مریض کو پلا کر اللہ سے دعا کرے

(۳) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فِیْمَ التَّصَابِیْ وَاَیَّامُ الصِّبَا غَبَرَتْ
فِیْمَ التَّشَبُّبُ وَلَا اِبَّانَ لِلْغَزَلِ

سات ایام تک صبح شام پلانا ہے۔

(۴) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فلا املای لنفسی ولا نفعا						
اللہ	۷	۱۰	۴	۲	اللہ	
خالق	۳	۱۱	۸	۶	خالقُ	
کل شیٔ	۵	۹	۱	۱۲	کل شیٔ	

امراضِ منہ

(۱) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۱ ۲ ک ن د ۳ ۵ ۹ ۷ ۸
س - ص - ل - م ۱۱۱ ۲۲۲ ۹
ک - ن
۵ ۵۵۵ ل - ل
اللہ اللہ اللہ اللہ
ن م ل ر س ن ک پینا ہے
ا - ا - ا - ا - ا

اس کو گلے میں استعمال کریں۔ ل۔ل۔ل۔ل
م۔م۔م۔م

پہلے اس کو نگلنا ہے ۱
دوسرا " " م
تیسرا " " ل

(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَکَیْفَ تَلْعَبُ وَالْخَمْسُوْنَ قَدْ کَمُلَتْ

وَکَیْفَ تَلْهُوْا وَنَارُ الشَّیْبِ فِیْ شُعَلٍ

ترجمہ: پچاس کی عمر ہو چکی پھر کھیل کود کا کیا مطلب۔ بڑھاپے کی آگ بھڑک گئی پھر اس کھیل تماشے کا کیا معنیٰ


بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

هذه لسان عربی ماکان۔ هی۔ لک۔ امنا۔ هو۔ هن۔ هما۔ عن


امراض زبان

برائے صاف گویائی زبان

(۱)



(۲)



یہی نقش بنا کر روزانہ نہار منہ استعمال کریں

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

فدع ذکر لیلی ولبنی وازد یارهما

شتراتها انهما من هذه الحیله

طریقہ استعمال: اس تعویذ کو چینی اور پانی میں ڈال کر ۴۰ دن استعمال کریں نیز مریض روزانہ پانچ آدمیوں کو نماز کی دعوت دیوے اور کیس دن تک بعد نماز عشاء اسم ذات یعنی لفظ اللہ کی ایک تسبیح پڑھا کرے

اللہ

	بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ
اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ
	بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ
	بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ

اللہ

اللہ

اس نقش تعویذ کو ۱۲ دن تین مرتبہ شہد میں ڈال کر استعمال کرنا ہے

امراض دانت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتّٰی فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی

فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْیُسْرٰی وَمَا یُغْنِیْ عَنْهُ مَالُهٗ اِذَا تَرَدّٰی (سورۃ اللیل آیت ۱۱)

خالق	۴	۳۲	۱۱	۲۶	۳۶	۹	۱۶	۳	۴۱	خالق	
باری	۳۷.	۱۷	۴۲	۳۴	۲۳	۹	۴۴	۲۷	۳۳	باری	.
مصور	۴۵	۳۱.	۸	۲	۱۳	۳۹	۲۱	۱۹	۳۰	مصور	
۴	۱	۲۲	۳۸	۱۸	۳۵	۲۴	۱۳	۱۵	۷	الکلام	
الحسنیٰ	۲۸	یارحیم ۴۵	یارحیم ۲۰	یاکریم ۵	یاکریم ۱۲	تشفع ۲۶	کلهم ۲۳	کلهم ۳۵	۴ ۱۰	الحسنیٰ	

دانت کے درد کے لئے ایک تعویذ دانت کے نیچے رکھئے ایک پی لیجئے۔

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تِلْکَ الْغَوَانِیْ وَاِنْ اَخْلَصْنَ خُلَّتَهَا

وَاللّٰهِ لَسْنَ بَرِیْئَاتٍ مِنَ الدَّخَلِ

(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حُبُّ الحَبَائِبِ حِرْمَانٌ وَ مَنْدَ مَةٌ

فَالعَذُولُ عَاقِبَةٌ لِلشَّارِبِ الثَّمِلِ

ترجمہ: ان نازنینوں کی محبت سراپا بدنصیبی و ندامت ہے،
نشہ شراب کا انجام بدمستی اور مدہوشی کے سوا اور کیا ہے

امراضِ مسوڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ش		ش		ش	- ش
م	-	م -	م	—	م
م	-	ن -	د -	ا - م - ل	۱۱۱
ص	-	ص -	ص -	ص	
س	اکبر	اللہ	و	اللہ	اکبر اللہ	س

اس نقش کو سرسوں کے گرم تیل میں ڈال کر مَل لیا کریں۔ اور نقش کو گلے میں باندھنا ہے

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِبْرَأُ اِلَی کُلِّ حِبٍّ مِنْ مَحَبَّتِهٖ

وَ لِيْ بِحُبِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ اتَّكِلُ

(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ الَّذِيْ حُبُّهٗ نُوْرٌ وَّ مَكْرُمَةٌ ۔ وَحُبُّهٗ اٰيَةُ الْاِيْمَانِ فَاكْمِلُ

امراضِ رخسار

(۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ

اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ (نہایہ سورہ بقرہ آیت ۲۸۴)

۱۷	۵۴	۳۷	۷	۵۱	۵	۲۵	۴۰	۳۵	۶۹	۵۷	ایک نقش گلے میں ڈالا جائے دوسرا نقش زیتون کے تیل میں ڈال کر گیارہ دن تک مالش کریں۔
۳۰	۴۵	۲۲	۵۸	۲۹	۱۱	۴۷	۱۳	۳۳	۵۲	۶۲	
۳۶	۱۰	۱۵	۲۶	۷۲	۲۱	۵۹	۶۵	۲۴	۱۸	۷۷	
۷۶	۲	۵۳	۴۲	۷۴	۳۲	۴۳	۴	۳۹	۵۶	۸	
۳۴	۶۴	۲۰	۵۳	۶۱	۱۹	۴۱	۴۴	۴۶	۶۶	۴۸	
۶۰	۲۷	۶۷	۱۲	۳۱	۱	۲۳	۱۶	۶۸	۲۸	۵۰	
۶	۵۵	۷۳	۴۹	۷۵	۳	۷۱	۳۸	۹	۶۳	۷۰	

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (سورۃ الانبیاء آیت ۸۷)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(۲) يَا حَبَّذَا حُبُّهٗ اُنْسٌ لِمُنْفَرِدٍ

ذُخْرٌ لِمُدَّخِرٍ زَادٌ لِمُنْتَقِلٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(۳)

قال بل سلا لتکم

الخالق	لاامولا	انجوم	انجوم	لاامولا	الخالق
الجبار	لاامولی	النیم	النیم	لاامولا	الجبار
الستار	لهم	الشاهد	الشاهد	لهم	الستار
القهار	کان	الرجل	الرجل	کان	القهار
القهار	قال	انجوم	انجوم	قال	الغفار

امراضِ ٹھوڑی

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَلْ فِیْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِیْ حِجْرٍ (سورۃ الفجر)

ٹھوڑی کے درد کیلئے ہاتھ سے تعویذ نقش پڑھ کر ۱۰ منٹ تک ٹھوڑی کو لگا رکھیں اور ایک نقش پی لیں

رسول	مجتبیٰ	۱۱۷	رسول	مجتبیٰ
عزیزؑ	زوجؑ	۱۱۵	عزیزؑ	رءوف
حریص علیکم	طسٓ	۱۱۹	حریص علیکم	طسٓ
ہاشمی	الابطحی	۱۱۶	ہاشمی	الابطحی

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۲) اُحِبُّهٗ وَلِذَا اَرْجُوْ اشْفَاعَتَهٗ

اِنَّ الْمُحِبَّ مِنَ الْمَحْبُوْبِ فِیْ اَمَلٍ

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ اَشْكُرُ لِقَآئِلِهٖ

وَذٰلِكَ وَعْدٌ بِلَاخُلْفٍ وَلَا خَطَلٍ

امراضِ حلق

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (سورۃ النور آیت ۳۵)

گلے کے ابھروں کو دور کرنے کے واسطے ایک نقش گلے میں ڈالیں اور دوسرا نقش عمل میں لاکر گرم کر کے موم تک جڑ لگنے تک اور لگائیں

۱	۴۴	۳	۹	۱۶	۴	۱۲
۳۲	۵۵	۲۱	۹۳	۴۹	۹۱	۳۱
۱۳	۹۲	۳۵	۶۵	۱۴	۱۷	۵۱
۶۲	۱۸	۵	۸۲	۷۴	۵۳	۸
۱۱	۶۵	۷۲	۹۱	۸۵	۲۴	۷۲
۲۰	۸۳	۶۳	۱۹	۶۴	۳۹	۱۷
۷	۱۵	۵۲	۸۸	۱۰	۳۳	۲

تعویذ نقش ۲ کو ناف پر باندھیں۔ تلی کے گرم تیل میں ملا کر مالش کریں۔ نہانے کے بعد جسم کو پاک کر لینا ہے۔ اسی طرح تعویذ ۲ کو بھی ناف پر باندھ لیں اور تیل کو کوئی پاک جگہ پر استعمال کریں

امراضِ گردن

(۱) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا وَّكَاْسًا

دِهَاقًا (نہایہ سورۃ نازعات)

گردن میں درد کے واسطے گردن پر باندھ لیں

۱	۳۷	۵۷	۴۷	۷	۶۷	۴۴	۷۲	۳۸	۲۹
۴۹	۶۵	۴۳	۶۲	۲۶	۳۵	۹	۱۶	۸۱	۵۲
۷۴	۲۰	۱۳	۳۲	۲۲	۱۴	۴۱	۷۶	۴۶	۳۳
۱۲	۶۸	۳	۵۴	۳۸	۶۱	۳	۵۰	۱۱	۷۹
۷۷	۵۱	۷۱	۲۷	۸	۲۱	۵۵	۵۹	۷۰	۳۹
۲۴	۲۸	۱۷	۶۴	۳۱	۸۲	۳۶	۱۹	۶۳	۷۸
۶۰	۱۰	۵۸	۴	۶۶	۱۸	۳۰	۴۵	۸۰	۴۲
۴۰	۳۴	۲۳	۷۵	۲۵	۵	۶۹	۵۳	۶	۷۳

(۲) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلٰی نَبِیِّكَ طٰهٰ سَیِّدِ الرُّسُلِ

(۳) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یٰٓاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْیُكُمْ

(عَلٰٓی اَنْفُسِكُمْ مَّتَاعَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا) (یونس)

(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

٦	٢٢	٤	٣٤	١
٢٩		٢٧	١٩	٣٤
١٢	٣٧	٧	٢٦	١٠
٨	٣١	١٤	٣٥	٣٠
٣٣	٢٣	١٧	٢٩	٢٥
٢	٢٨	٢٥	٣٢	١٦
١١	١٨	٥	٩	٣
٣٨	١٣	٥	٢١	٣٦

امراضِ جسمانی گردن سے لے کر ناف تک

حصۂ ثانی

(۱) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

شغلُ الصّلوٰۃ علیہ والسّلام کفٰی

فبارک اللہ لی فی ذٰلک الشّغل

(۳)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ ش

اللہ

اللہ

اللہ

ش اللہ ش

اللہ

اللہ

اللہ ش

اللہ

اللہ

اللہ

م م

(۲)

ش۔ک۔ن۔د

اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ
شافی	شافی	شافی
کافی	کافی	کافی
اللہ اکبر	اللہ اکبر	اللہ اکبر

اس کو ۹ ایام تک پیئے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

(۴) ثُمَّ اِلَیْنَا مَرْجِعُکُمْ فَیُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (سورہ یونس۔۲۳)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۵

اللہ	۴۵۶	۴۲۲	اللہ
غنی	۴۸۱	۴۳۴	غنی
للہ	القہار	الواحد	للہ

صلی اللہ علیہ وسلم

امراضِ ہنسلی

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

(۱)

لا الٰہ الا اللہ

اللہ

اللہ

اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ شافی شافی شافی شافی

شافی شافی شافی اللہ شافی

یہ نمبر۱ اللہ شافی والا پیئے

(۲) اللہ اکبر

احد	احد	احد
احد	احد	احد
احد	احد	احد
احد	احد	احد

اس نقش کو گلے میں ڈالے

(۳) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَکُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰہُ طٰٓئِرَہٗ فِیْ عُنُقِہٖ (الاسرٰی)

(۴) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَنُخْرِجُ لَہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ کِتٰبًا یَّلْقٰہُ مَنْشُوْرًا (الاسرٰی)

(۵) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا (سورۃ الاسراء)

(۶) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

امراض کندھے

(۱) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ

اس کو سات دن تک پلانا ہے

(۲)

اللہ	اللہ	اللہ	اللہ
اللہ شافی		ک۔ ل۔ م۔ ن	اللہ شافی

اس کو بازو پر باندھنا ہے

(۳) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم


اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (سورہ یٰس)

(۴) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ (سورہ یٰس)
آیت ۳۷

امراضِ کہنی

(۱) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم



(اس کو بازو پر باندھنا ہے)

(۲)

اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ

اس کو بارہ ایام تک پلانا ہے۔

(۳) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ
پ ۲۳۔ یٰس ۲۴

(۴) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ

امراضِ بازو

(۱) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

٦	٢٧	١١	٣٥	١
٢٣	١٨	١٥	٥	٢٩
٣٣	١٣	٢٦	١٠	٤
٢	٢٢	٣١	١٤	٣
١٩	٣٨	٢٤	٣٧	٣٢
٧	٢٥	٣٤	٢٤	٩
٣٠	٣٦	٣٩	٢٠	٤٥
١٧	٢١	٨	٢٨	١٦

درد کی صورت میں یہ نقش بازو پر باندھیں

(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

(۳) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ (وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ)

امراض کلائی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ (سورۂ یٰس)

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (سورۃ البینۃ)


(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (سورۂ توبہ)

کلائی یا کسی جوڑ میں درد ہو تو لکھ کر باندھ دیں۔

٦	۵٦	۴	٦۳	۴٦	۳۱	۴۱	٦۱
۱۷	۲۵	۲۳	۳۷	۲۰	۲	۲۷	۱۲
۲۹	۳۴	۴۴	۸	۵۰	۱۴	۲۴	۱٦
۳۸	۴۷	۵۳	۲۴	۳۹	۱۸	۳۳	۱۰
۴۵	۴۸	۳۲	۳	۱۳	۳۵	۲۸	۵۲
۵۷	۴۰	۵۴	۳۰	۲٦	۴۱	۱۷	۹
۵۱	۱۸	۳٦	۱۹	۴۹	۵	۴۲	٦۰
۵۸	۴۳	۵۹	۵۵	۷	٦۴	۱۵	٦۲

امراض ہتھیلی



اس کو سرسوں کے دان پیس کر صاف ہتھیلی استعمال کریں اور جو سرسوں کا بھوسہ ہو اس کو پاک جگہ یا سمندر میں ڈالا جائے۔

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

(الاعراف ع ۱۲ آیت ۱۸۱)

(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً (سورۃ النحل ع ۲۰ آیت ۹۷)

امراضِ انگلی

ہاتھ کی انگلیوں میں اگر درد ہو تو اس نقش کو پانی میں بھگو کر انگلیاں ۵ - ۱۰ منٹ تک پانی کے اندر ڈال رکھیں۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

(۱) اَللّٰہُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (سورۃ النور آیت ۳۵)

احسنت	حفیظ	۷	۲	۵	حفیظ	احسنت
مبشر	کریم	۹	۴	۸	کریم	مبشر
حامد	غفار	۳	۶	۱	غفار	حامد

(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ۔

اللہ	۲	۶	۳۵	۸	۳۲	۱۵	۳۸	۲۳	۱۷	۲۸	اللہ
حلیم	۳۹	۱۲	۱	۲۴	۳۰	۲۲	۱۹	۲۶	۲۸	۱۱	حلیم
جمل	۲۷	۹	۱۸	۲۱	۳۴	۵	۱۳	۴۰	۲۰	۷	جمل
احد	۱۴	۳۷	۲۵	۲	۱۶	۲۹	۱۰	۳۶	۳	۳۳	احد

ہاتھ کی انگلیوں کے درد کے لئے یہ نقش پانی میں ڈال کر انگلیوں پر لگائیں اور باقی ماندہ پی لیجئے۔

(۳) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(سورۃ النحل ع ۲۰ آیت ۹۶)

(۴) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ۔ (سورۃ الرعد)

الکریم	ار	۲	۶	۴	۱۱	الکریم
نعیم	برھان	ما	۸	ما	برھان	نعم
المولا	لی	۳	۵	۷	لی	المولا
کل	لا	تکونا	۱	تکونا	لا	کل

امراضِ ناخن

۷۸۶

(۱) ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ

ناخن کے خراب یا ناخن میں درد ہونے کی صورت میں پانی میں بھگو کر ناخن کو اس پانی میں ڈبو کر استعمال کریں

قل ھو اللہ	۳	۱۰	۱۲	۱۶	احد
اللہ	۱۵	۱	۶	۸	الصمد
لم یلد	۱۳	۱۱	۱۴	۵	ولم یولد
ولم یولد	۷	۲	۹	۴	کفواً احد

(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الانفال ع ۱۷ - آیت ۲۷)

(۳)

اللہ شفیع	اللہ رحیم
اللہ کریم	اللہ علیم
محمد صلی اللہ	علیہ وسلم

(۴) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

فَقَالُوۡۤا اِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡاٰنًا عَجَبًا یَّہۡدِیۡۤ اِلَی الرُّشۡدِ فَاٰمَنَّا بِہٖ (سورۃ الجن)

(۵) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَلَنۡ نُّشۡرِکَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا وَّاَنَّہٗ تَعٰلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَۃً وَّلَا وَلَدًا۔ سورۃ الجن


(۶) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

برب	۹	۲	۴	برب
احد	۶	۱	۸	احد
وانہم	۳	۷	۵	وانہم

(۷) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَاِذۡ قَالَ رَبُّکَ لِلۡمَلٰٓئِکَۃِ اسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ (سورۃ البقرہ)

امراضِ پوروے



اس نقش کو ہلدی گھی میں ڈال کر انگلی پر ملنا ہے اور ہر نماز کے بعد دعا کرنا ہے

۲ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَہَا ؕ لَہَا مَا کَسَبَتۡ وَعَلَیۡہَا مَا اکۡتَسَبَتۡ

(نہایہ سورۃ البقرۃ)

	بسم اللہ الرحمٰن الرحیم	
۶ ۷ ۳ ۱۲	الرحیم	۵ ۴ ۲ ۱ ۳
۵ ۲ ۸ ۲ ۱۳		۴ ۷ ۲ ۶ ۱
	بسم اللہ الرحمٰن الرحیم	

امراضِ بغل

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

(۱)

اللہ اکبر

اللہ کافی	۲۷۸	۲۱۷	۵۲۱	۹۹۹	۲۱۱	اللہ کافی
	۱۹۵	۱۲۵	۱۲۷	۷۵۲	۱۲۳	
	۸۲۷	۱۲۷	۸۷۲	۸۲۱	۵۲۴	
	۰۲۳	۱۴۹	۲۸۶	۷۵۳	۲۷۹	

اللہ اکبر

(۲)

بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ	اللہ الصمد
بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ	اللہ اکبر
بسم اللہ	بسم اللہ	بسم اللہ	اللہ الصمد

نوٹ: تعویذ نقش ۱ کو مریض کے گلے میں باندھنا ہے اور سرسوں کے دانوں کو پیسنے کے بعد درد کی جگہ لگانا ہے اور تعویذ نقش ۲ کا پانی لگانا ہے۔

۳ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اللہ باق

اللہ	۷	۲	۴	۲
	۹	۲	۱	۷
اللہ	۵	۲	۴	۲
	۷	۹	۸	۲
اللہ	۴	۳	۲	۱

اللہ اللہ

اس تعویذ کو پانی میں ڈال کر نو دن تک پینا ہے اور خود نماز کی پابندی کرنی ہے اور چار آدمیوں کو روزانہ نماز کی دعوت دینی ہے

امراضِ سینہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اللہ ج

اللہ ع	اللہ ع اللہ ع	اللہ خ	اللہ خ اللہ خ
اللہ ب	اللہ ب اللہ ب	اللہ ب	اللہ ب اللہ ب
اللہ ت	اللہ ت	اللہ ت	اللہ ن اللہ ن اللہ ف

م م م م م م

اس تعویذ نقش کو مریض کو پانی میں پلانا ہے اور یہی تعویذ کو گلے میں ڈالنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔

(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (سورۃ القمر)

(۳) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

فی اذکر اللہ	۴	۸	فی اذکر اللہ
كَذِكْرِكُمْ	۲	۶	كَذِكْرِكُمْ
اٰبَآءَكُمْ	۷	۳	اٰبَآءَكُمْ
اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا	۵	۱	اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

(۴) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (الاحزاب ۲۲۔ آیۃ ۵۶)

امراضِ پستان

(۱) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ (سورۃ الملک)

یا حفیظ یا کریم یا حفیظ یا کریم لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۔ اول آخر درود شریف پڑھ کر بند کردیں۔

ماں کا دودھ خشک اور سوکھ جانے کے لیے اس تعویذ کو دونوں پستانوں کے درمیان باندھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ دودھ جاری رہے گا۔

(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (سورۃ بنی اسرائیل ۱۷ آیۃ ۸۲)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٣) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (البقرۃ ع ٤ - آیت ٣٠)

(٢) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ	لَا اِلٰـہَ اِلَّا	یارحیم
یاکریم	اَنْتَ سُبْحٰنَکَ	یارحمٰن
یاعلیم	اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ	الظّٰلِمِیْنَ

امراضِ پیٹھ


(منجانب مؤکلین سورۃ رحمٰن شریف)

٣	٧	١
٩	٥	١٠
٢	١١	٤
٦	٨	١٢

اس نقش کو روغنِ سرسوں میں ملا کر پیٹھ کی مالش کریں

(٢) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ لَّآ اَمْلِکُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰہُ۔ (الاعراف آیت ١٨٨)

(٣) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



امراضِ دل

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

١٨	٧٩	٩٢	٤٢	٣١
١٢٠	٦٢	٨٨	٣٩	٢٤
١	٨٢	٣٩	٥٩	٩٨

(١) برائے ہولِ دل ایک نقش کو دل پر لٹکانا ہے اور دوسرا عرقِ گلاب میں گھول کر گیارہ یوم تک صبح کے وقت پینا ہے

(٢) برائے وساوسِ قلب

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یا مالک القدوس ربنا بالاسلام یا ربّ العالمین یا ذا الجلال والاکرام بیدہ الخیر وھو علی کل شیٔ قدیر یاحفیظ یاحفیظ یاحفیظ

(٣) شک و تردد دور کرنے کے لئے

المؤمن ہر نماز کے بعد ١١ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور چھٹی بار المؤمن ١١١ بار بعد نماز صبح اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں کچھ حصہ پانی اپنے اوپر چھینٹا ماریں اور بقیہ پانی پی لے۔ اکتالیس دن تک مستقل یہ عمل جاری رکھے

(بقیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

(٣) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (البقرۃ ع۴-آیت ۳۰)

(۴) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ	لَآ اِلٰـہَ اِلَّآ	یارحیم
یاکریم	اَنْتَ سُبْحٰنَکَ	یارحمٰن
یاعلیم	اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ	الظّٰلِمِیْنَ

امراضِ پیٹھ

(منجانب موکلین سورۂ رحمٰن شریف)


٣	٧	١
٩	٥	١٠
٢	١١	۴
٦	٨	١٢

اس نقش کو روغنِ سرسوں میں ملاکر پیٹھ کی مالش کریں

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ لَّآ اَمْلِکُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۔ (الاعراف آیت [illegible])

(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



امراضِ دل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٨	٧٩	٩٢	۴٢	٣١
١٢٠	٦٢	٨٨	۴٩٠	٢۴
١	٨٢	٣٩	٥٩	٩٨

(١) برائے ہولِ دل ایک نقش کو دل پر لٹکانا ہے اور دوسرا عرقِ گلاب میں گھول کر گیارہ یوم تک صبح کے وقت پینا ہے

(٢) برائے وساوسِ قلب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بسم اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ یا مالک القدوس ربنا بالاسلام یا ربّ العالمین یا ذا الجلال والاکرام بیدہ الخیر وھو علی کل شیٴ قدیر یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ

(٣) شک و تردد دور کرنے کے لئے

المؤمن ہر نماز کے بعد ١١ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور چھٹی بار المؤمن ١١١ بار بعد نماز صبح اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں کچھ حصہ پانی اپنے اوپر چھینٹا ماریں اور بقیہ پانی پی لے۔ اکتالیس دن تک مستقل یہ عمل جاری رکھے

(بقیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

(۴) ہول دل خوف کے اور دل کے دورے کے لئے گلے میں ڈالیں اور ایک نقش عرقِ گلاب میں ڈال کر ۱۱ یوم تک پینا ہے

(۵) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَوْ یَذَّکَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّکْرٰی اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰی فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰی

(سورۃ عبس آیت ۴تا۶)

الم	۲۲	۳۶	۱۴	۲۸	۱۱	۱۹	۴۲	۵	۲۹	الم
اِنّی	۴۲	۲۵	۳۶	۸	۱۵	۳۳	۱۰	۲۴	۲۸	انی
عالم	۴۴	۳۱	۳	۲۱	۲۳	۴۱	۲	۱۶	۳۴	عالم
الجبر	۴۰	۲۷	۱۷	۱	۳۲	۱۸	۱۲	۳۰	۷	الجبر
خالق	۶	۳۷	۲۰	۲۶	۹	۴	۳۵	۱۳	۳۹	خالق

دل درد اور دل کی تکلیف کے لئے ایک تعویذ نقش دل کے اوپر باندھیں اور دوسرا نقش پی لیں۔

امراضِ پھیپھڑا

لَاشَرِیْکَ لَهٗ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ

لَا تَہْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ

الشمس القمر الکریم الرحیم الرحمٰن الجامع الناس

شاھد بشیر المورود یغنی عنک شیٔ

لَا تَبْدِیْلَ لِکَلِمَاتِ اللّٰہِ

(۲) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کلا	الم	۳	۶	الم	کلا
سیعلمون	الارض	۸	۱	الارض	سیعلمون
ثم	مہا	۵	۱۰	مہا	ثم
کلا	وجا	۷	۴	وجا	کلا
سیعلمون	ام	۲	۹	ام	سیعلمون

(۳) منجانب موکلین کرام سورہ رحمٰن

۱	۹	۱۳	۶	۷	۱۴
۱۱	۱۷	۲	۱۲	۲	۱۰
۸	۱۵	۵	۲۴	۳	۲۲
۲۱	۱۹	۲۳	۱۴	۱۸	۴

اس نقش کو عرقِ گلاب میں ملا کر پلایئے

(۴) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا تَجَهَّمَ اَمْرٌ لَا مَرَدَّ لَهٗ

لَمْ یُغْنِ عَنْکَ اِتِّیَاءُ الْمَالِ وَالْحِیَلِ

وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یُغْنِیْ عَنْکَ شَیْئًا


امراضِ جگر

(١)

٨٨	١٠٢	٧٢
٣٢	١١١	١٨
٤٨	١٢٢	٥٤

یہ نقش سات دن تک صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

(٢)



یہ نقش تین دن پلائیں اگر آرام نہ ہو پھر تین دن پلائیں

(٣) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر (اعراف آیت)

امراضِ گردہ

ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا
تشعرون (سورۃ البقرۃ ٢٤ آیت ١٥٣) (نقش الٹے ...)

(١) ٧٨٦

چینی کی پلیٹ پر لکھ کر (٤٠ ایام) تک پلایا جائے

١٠٦	١	٥٢	٧٥	١٨	٥٨	١٣	٨٢	٩	١٠٣	٦٥	٨١
٢٢	٨١	٢٨	٥٩	٣٠	٩٤	٤٩	٢٥	٩٣	٣٢	٩٨	٢٠
٥	٦٧	٦٣	١٠٩	٨٨	١٦	٤٠	٦٩	٥٦	٤٥	٣٨	٢٩
٩٩	٤٢	١٤	٨٧	٥٣	٥١	٨٠	٦	٩٠	١٢	١٠٢	٤٤
١٧		٧٣	٣٤	٢	٦٨	٢٣	٨٦	٢٧	٦٢	٧٤	٥٥
٤٧		٣	٤١	٨٩	٣١	٧٦	٣٣	١١	١٠٠	٧٩	٦١
٧٨	٦٠	٥٧	٩٦	٢٤	٩١	٦٤	٥٤	٩٥	٧١	٤	١٠٥
١٥	١١١	٧	٧٠	١٠٣	٦٦	١٨	٨٣	٩٧	٧٧	٤٦	١٠٨
٣٩	٧٢	٩٢	١٠١	٤٣	٨٣	١٠	٣٥	١٠٧	٢١	٨٥	١٠

یا قابض یا شفیع یا کلیم یا شاہد الباسط الوہاب حافظ حافظ
گردے کی تکلیف کے لئے ایک تعویذ باندھ لیں اور ایک تعویذ پی لیں۔

(٢) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم
یؤمنون (الاعراف ع ٢٤ آیت ١٨٨)

(٣) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یا قہار	٣	٥	یا قہار
یا جبار	١	٧	یا جبار
یا رحیم	٦	١٠	یا رحیم
یا کریم	٢	٤	یا کریم

امراضِ پتّہ

(۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (سورۃ الاحزاب آیت ۵۶)

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهٖ لِيَنْظُرَنِيْ

وَاَسْبَلَ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ وَقَبَّلَنِيْ

اللّٰهُمَّ اِنَّكَ مَنْ اَحِبُّ مِنْ اللّٰه

اس کو چینی کی پلیٹ پر لکھوا کر ۴ ایام تک پلایا جائے

۳ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(وَقَالَ الْمَلِكُ) اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (سورۂ یوسف)

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

احد احد احد احد للہ

احمد	حامدہ	اللہ
رشید	حمدہ	رشید
احمد	علماء	احمد

امراضِ تلووں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ اَلَمْ تَرَ

كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِيْ لَمْ

يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۔ (سورۃ الفجر)

۴۳	۲۶	۱۴	۷	۲۲	۱۸	۴	۳۷	۸
۲۱	۳۲	۱۰	۴۰	۲	۲۳	۱۲	۳۱	۱۵
۳۸	۱۷	۳۰	۱۳	۲۰	۲۴	۳۳	۱۹	۲۶
۱۱	۳	۲۳	۳۴	۹	۳۹	۱۶	۴۴	۳۶
۴۲	۳۶	۲۵	۶	۲۷	۲۹	۵۰	۳۵	۴۱

یاحفیظ یاحفیظ یاحفیظ یارحیم یارحیم یارحیم

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

حلیم ذاھب یارحیم

یاکریم یارحمٰن

اس کو چینی کی پلیٹ میں لکھ کر

۴ ایام تک پلایا جائے

(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلرَّحْمٰنُ

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ (سورۂ رحمٰن)

(۴) وَاتَّقُوْا یَوْمًا لَّا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَیْئًا وَّلَا یُقْبَلُ
مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ یُنْصَرُوْنَ
(البقرہ ع ۵ آیت ۴۸)

امراضِ نالی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَهٰذَا کِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَکٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا
لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُوْنَ (سورۃ الانعام آیت ۱۵۶)

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
علیم خبیر شفیع کریم شافع

۱۷	۹	۱۲	۱۶	۵
۴	۱۵	۱	۷	۱
۱۹	۱۳	۲۲	۱۱	۲
۳	۶	۱۴	۱۸	۸

طیب الھم اعصر خبیرا

(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

الرحمٰن	الشمس	القران	الشمس	الرحمٰن
الرحیم	القمر	النجوم	القمر	الرحیم
الکریم	الشجر	ھو	الشجر	الکریم

(۴) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
فانماء الطھرایدا انماء العد
الیسرا۔ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰی رَبِّكَ فَارْغَبْ
(سورۃ الانشراح ۳)

نعیم فاکھۃ صاغو سریع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۷	۹	۱۲	۱۶	۵
۴	۱۵	۱	۷	۱۰
۱۹	۱۳	۲۲	۱۱	۲
۳	۶	۱۴	۱۸	۸

طیب الھم اعصر خبیرا

اول آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر دونوں نقشوں کو پانی میں حل کرکے پی جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔

امراضِ جسمانی ناف سے لیکر پیر کے ناخن تک

(۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ
دُوْنِهٖٓ اَوْلِیَآءَ قَلِیْلًا مَّا تَذَکَّرُوْنَ بدایہ سورہ اعراف آیت ۳

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ
اِنَّكَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (سورۃ آل عمران ع ۳-آیت ۲۶)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مالک	مزمل	شافع	یوم الدین
اللہ	علیم	علیم	اللہ
مستقیم	طاہر	مطہر	مستقیم
مالک	صلی اللہ علیہ	آلہ وسلم	یوم الدین

اول آخر درود شریف ۳ بار پڑھ کر دم کیا جائے اس کے بعد اس نقش کو سرسوں کے تیل میں ڈال کر جہاں تک تکلیف ہو ۷ یوم تک مالش کرے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہوگی

امراض ناف

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۱	۴۶	۴۳	۶	۱۴	۹
۳۸	۱۸	۳۴	۲۳	۳۰	۲۱
۱۲	۴۹	۲۰	۱۳	۲۵	۱۷
۱۰	۲۲	۱۶	۴	۳۲	۵
۴۴	۴۸	۴۵	۴۷	۷	۳۶
۳۷	۱۹	۳	۴۰	۵۰	۲۹
۲۴	۴۲	۳۱	۳۵	۳۹	۲۱
۸	۱	۱۵	۳۳	۲۷	۲

برائے درد ناف۔ ناف کے درمیان میں باندھ لیں

(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اَلْخَبِیْثٰتُ لِلْخَبِیْثِیْنَ (سورہ نور) بِمَا حَفِظَ اللّٰہُ (سورۃ النساء ع آیت ۳۴)

لطیف	۶	۱۱		۲	۲۰	۱۰	۲۵	لطیف
خبیر	۱۴	۸	۱۶	۲۶	۱۸	۲۸	۴	خبیر
جاهد	۲۷	۳	۲۴	۲۱	۱۲	۷	۱۵	جاهد
مجاهد	۱۹	۲۳	۵	۹	۱۷	۱۳	۱	مجاهد

ناف کے نیچے درد کے واسطے باندھ لیں اور ایک پی لیں

(۳) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

لن ان فض قل هو هود
تن شعاعلا الطریقة

صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

امراض معدہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۱	۴۵	۳۴	۵	۳۲	۴۸
۲۳	۲۷	۱۸	۳۷	۱۹	۲۹
۴۷	۱۰	۴	۴۱	۲۱	۲
۴۳	۱۷	۱۵	۲۴	۳۹	۱۱
۲۶	۳۱	۱۳	۳۵	۴۶	۳۰
۱۲	۲۰	۲۸	۳۳	۲۵	۳۸
۴۴	۳	۱۶	۷	۸	۴۵
۶	۹	۱۴	۲۲	۳۶	۴۲

پیٹ کے درد کے لئے پیٹ پر باندھیں

کن ل م ان انت

ه ا ب ث ت

لـن تت فعـلم

اجـمن احمر

کلهـم شفـاء لله

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یا علیم یا خبیر یا رحمٰن لم یلد ولم یولد

الله اصمد

یا رحیم یا رحیم

ولم یکن له کفوا احد

امراض انتڑیاں

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَ
یُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ وَّاٰخَرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا
یَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ بدایه سورہ جمعه پ ۲۸

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الا اذن	من له	٦ ٦٢	٨١ ٣٨	٢ ٥١	٢٥ ٤١	٥٦ ٣١	٨ ٥٩	١٢ ٤٩	٣٥ ٧٦	الا اذن	من له
ربه انت	الا ما	٨٨ ١٨	٧١ ٢٢	٤٢ ٧٥	٦٨ ١٤	٥٤ ٦٣	٧٩ ٣٣	٢١ ٤٦	٢٢ ٦١	ربه انت	الا ما
کان کلیم	لی عظیم	٤٨ ٨٧	٥٧ ٩	٢٧ ٧٨	٦٦ ٣٢	٣٧ ١١	٥٨ ١٥	٨٤ ١٩	٧ ٦٩	کان کلیم	لی عظیم
قال	کن	٦٠ ١٣	٣٦ ٨٥	٣٦ ٢٩	٤٥ ٥٠	٤٧ ٤	٥٥ ٢٣	٢٨ ٦٤	٣٩ ١٠	قال	کن
اشاء	ان	٨٣	٣٣	٧٧	١٧	٢٤	٧٣	٢٦	٨٣	اشا	ان
لم	یلد	٢٢	٧٠	٤٠	٦٥	٣٠	٦٧	٣٠	٥٢	لم	٣
ولم	یولد	١	٥٣	٣	٧٤	٨٦	١٣	٨٠	٥	ولم	

بڑی آنت میں تکلیف ہو تو ایک تعویذ نقش باندھ لیں اور ایک گھول کر پی لیں

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم (۲)

وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ
فِیْ كَبَدٍ (سورۃ البلد)

الغنی	الحج	تعلمون	الحج	الغنی
الرحمٰن	وعشرًا	واللہ	وعشرًا	الرحمٰن
علم	فبلغن	لاجدکم	فبلغن	علم
نعیم	اجلهن	لاجدکم	اجلهن	نعیم

اوپر والی یعنی چھوٹی آنت میں درد ہو تو ایک تعویذ نقش باندھ لیں
اور ایک گھول کر پی لیں انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی

قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم
یولد و لم یکن له کفوًا احدٌ
احد احد احد احد

امراضِ رحم (بچہ دانی)

(۱) ۷۸۶


یا قہار	یا غفور	یا قوی
یا جبار	یا رحیم	یا قوی
یا ولی	یا کریم	یا قوی

حفاظتِ حمل کے لئے اپنے پاس رکھنا ہے

(۲)

یا جلال	یا کریم	یا ناصر	یا رحیم
یا مبدی	یا منیب	یا رحمٰن	یا رحیم

اولاد کے لئے گلے میں ڈالیں



ہر مصائب و آلام جادو جنات کیلئے گلے میں ڈالا جائے

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اٰمَنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ
وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ
اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَرِّ مَا خَلَقَ
یاحفیظ یاحفیظ یاحفیظ یاحفیظ

مریض کے تشخیص کے وقت ڈاڑھ کے نیچے رکھوانا ہے

یابدوح ۷۸۶ یابدوح

٨	١	٦
٣	٥	٧
٤	٩	٢

یابدوح (right) — یابدوح (left)

یابدوح یابدوح یابدوح

۷۸۶

یاحفیظ	یارحیم	یاحافظ
یاکریم	یاحی	یاقیوم
یارحیم	یارحیم	یارحیم

سات دانہ الائچی خورد پانی میں اُبال کر پانی ٹھنڈا ہونے پر تعویذ (نقش) اس میں ڈال دیا جائے سات دن تک نہار منہ پیا جائے اور ہر دفعہ بتی سونگھانے کے بعد بھی پلایا جائے۔

(۳)

یاحفیظ	ذلك	۸	۴۵	۲۵	زاهد	یاحفیظ
واللہ	واللہ	۳۹	۴۸	۴۰	واللہ	واللہ
یاسمیع		۸۱	۶۴	۵۵		یاسمیع
واسع	شاهد	۷۹	۱۵	۷۱	شاهد	واسع
هاد	یاستار	۳۵	۲۹	۱۹	یاستار	هاد

برائے اولاد گلے میں ڈالیں

(۴) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

جبّار حلیم رحیم علیم کریم

محمد رحمٰن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً

رحمٰن الرحیم

اس کو مشک و زعفران سے لکھیں

امراضِ مثانہ

(۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَنْتَ وَلِيُّنَا (فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورۃ آل عمران ع)

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا

اس نقش کا تعویذ بنا کر دائیں ران کے نیچے باندھے جب درد ختم ہو تو دوبارہ باندھے

قال	۷	۹	۳	قال
انی	۱۴	۱۳	۵	انی
جاعلك	۱۱	۲۱	۱۰	جاعلك
للناس	۴	۲	۱۲	للناس
اماما	۸	۶	۱۵	اماما

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً

STOMACH
SPLEEN
LUNGS
LIVER
KIDNEYS
HEART

ہر مصائب و آلام جادو جنات کیلئے گلے میں ڈالا جائے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ الْعَظِیْمِ وَکَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ
وَاسْتَمْسَکْتُ بِالْعُرْوَۃِ الْوُثْقٰی لَا انْفِصَامَ لَھَا وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْم
لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ
اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰہِ التَّامَّاتِ مِنْ کُلِّ شَرِّ مَا خَلَقَ
یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ

مریض کے تشخیص کے وقت ڈاڑھ کے نیچے دکھوانا ہے

یابدوح ۷۸۶ یابدوح

۸	۱	۶
۳	۵	۷
۴	۹	۲

یابدوح (right) — یابدوح (left)

یابدوح یابدوح یابدوح

۷۸۶

یا حفیظ	یا رحیم	یا حافظ
یا کریم	یا حی	یا قیوم
یا رحیم	یا رحیم	یا رحیم

سات دانہ الائچی خورد پانی میں اُبال کر پانی ٹھنڈا ہونے پر تعویذ (نقش) اس میں ڈال دیا جائے سات دن تک نہار منہ پیا جائے اور ہر دفعہ تتی سونگھانے کے بعد بھی پلایا جائے۔

ترجمان بنانے کے عملیات

توے کے راکھ کے ساتھ سرسوں کا تیل ملا کر موٹے کاغذ پر گہرا نشان لگایا جائے یا کہ سیاہ روشنائی گاڑھا کر کے لگائی جائے اور بارہ سال کا لڑکا اس کی طرف دیکھتا جائے۔ اس کو جنات کے اشکال مختلف قسم کے نظر آئیں گی۔ حتیٰ کہ جب اس لڑکے کو بالکل سفید لباس پہنا ہوا شخص، سفید رنگ، سفید داڑھی والا نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارا موکل ہے۔ اور اس لڑکے کے اوپر یَا عَلِیْمُ یَا خَبِیْرُ گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے۔ اور اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ والا نقش تعویذ اس کے ہاتھ میں دیا جائے تا کہ اس کو ہاتھ میں پکڑتا رہے۔ اس عمل سے لڑکے کے اوپر کوئی اثر آسیب کا نہ ہوگا۔

ترجمان کی رکاوٹوں کی مدافعت

جب خبیث جنات ترجمان کے سننے اور دیکھنے کے راستے بند کریں تو ترجمان کو لال اور سیاہ والی بتیاں سونگھائی جائیں۔ اور اس کے باوجود اگر رکاوٹیں پیش آئیں تو سورۂ جن اور سورۂ رحمٰن کے موکلین کو بلائے جائیں۔ وہ اس طرح سے کہ عامل سورۂ جن کے موکل کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ کہہ کر کہے کہ اس سلام کا جواب ترجمان کے کان میں ڈالیں سورۂ رحمٰن کے موکل کو بھی اسی طرح سے کہے تو انشاء اللہ تعالیٰ رکاوٹیں ختم

ہو جائیں گی۔ سورۂ جن کا موکل خبیث جنوں کے پکڑنے کے لئے ہے۔ اور سورۂ رحمٰن کا موکل خبیث جنوں کو بلانے کے لئے ہے۔

جن کو خواب میں یا جاگنے میں بلائیں نظر آتی ہیں اس نقش تعویذ کو گلے میں ڈالیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یاحفیظ	۲۵	۴۵	۵۸	یاحفیظ
یاوہاب	۸۹	۹۵	۶۱	یاوہاب
ھاد	۶۹	۷۱	۸۲	ھاد
شاھد	۱۵	۶۴	۴۵	شاھد

(۲) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنِّیْٓ اَنَا اللّٰہُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ فَاتَّقُوْنِ یٰٓاُولِی الْاَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ

گمشدہ انسان کی بازیابی کے لئے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۰۱	۱۲۵	۱۶۹	۷	۱۲	۱۹۶	۱۸۵	۱۳۰	۱۱۵	۱۴۵	۱۳۹
۱۱۵	۱۱۹	۱۱۸	۴	۱۳	۱۶۶	۱۲۹	۱۴۳	۱۸۸	۱۲۱	۱۶۱
۴۹	۵۵	۱۹۲	۲۹	۱	۱۹۹	۱۰۵	۱۴۴	۱۳۵	۱۵۹	۱۰۸

گمشدہ بچے کا نام مع والدہ لکھ کر چرخہ پر باندھ کر ساتھ چکر اُلٹے لگائے اور تین چکر سیدھے لگائے۔ اور یہ عمل چالیس ایام تک کرنا ہے

برائے تکلیف زدہ اور پریشان حال

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

حَسۡبُنَا اللّٰہُ وَنِعۡمَ الۡوَکِیۡلُ نِعۡمَ الۡمَوۡلٰی وَنِعۡمَ النَّصِیۡرُ ۝

[illegible]	[illegible]	[illegible]	٦	[illegible]	ه	[illegible]	[illegible]	٥	۴۹
٨	۴۲	۵۲	۴۲	۴۹	۴۸	۱۲	۱۵	۳۹	۴۸
۱۷	۳٦	۱۹	۳۴	٦	۲۴	۲۹	۴٦	۳۱	۷
۱۰	۴۵	۲۵	۲۳	۴۵	۱٦	۳۸	۱	۳۵	۱۸
۴	۳۰	۱۲	۴۳	۲۱	۴۷	۲	۴۱	۲۷	۲

تعویذ بنا کر گلے میں یا سیدھے بازو پر باندھا جائے۔

دو آدمی کے مابین تفریق ڈالنے کے لئے

۷۸٦

یا الله	یا باسط	یا رحیم
یا الله	یا باسط	یا رحیم
یا الله	یا باسط	یا رحیم

برائے حفاظتِ حمل

۷۸٦

یا قہار	یا غفور	یا قوی
یا جبار	یا رحیم	یا قوی
یا ولی	یا کریم	یا قوی

گلے میں ڈالے

جسم کے درد کے لئے

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

محمد	شاهد	۲۱	۹	۲۴	شاهد	محمد
احمد	فتاح	۴	٦	۱۲	فتاح	احمد
جبار	جمال	۳	۱۴	۱۸	جمال	خبیر
لطیف	اِن	۲۰	۲۳	۱۰	ان	لطیف
نورٌ	الله	۱٦	۷	۱	الله	نور
رحیم	نار	۱۳	۱۹	۲	نار	رحیم
کریم	جنت	۱۱	۲۲	۵	جنت	کریم
جلال	احمد	۵	۸	۱۷	احمد	جلال

بچے یا بڑے کے جسم میں درد ہو جسم کے درمیان باندھیں

نافرمان اولاد کے لئے

۷۸٦

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

سات یوم تک پانی میں دوپہر کے وقت بھگو کر پلانا ہے

برائے ادائیگی قرض

۷۸٦

یا قوی	یا ارحم	الراحمین	یا الله
یا قوی	یا ارحم	الراحمین	یا الله
یا قوی	یا ارحم	الراحمین	یا الله

اس نقش تعویذ کو اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ قرض ادا ہو جائیگا

پریشان حال کے لئے

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

یاحفیظ	۲	۹	۶۱	۶	یاحفیظ
یاعلیم	۱۳	۱۸	۲۳	۲۱	یاعلیم
یاغفار	۷	۱۵	۵	۴	یاغفار
یاقہار	۱۹	۱	۴۵	۱۷	یاقہار
یاجلال	۱۰	۲۴	۱۴	۳۱	یاجلال
محمد	۱۶	۳	۲۲	۱۱	محمد
احمد	۱۲	۸	۲۰	۲۵	احمد

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

گیارہ روز تک دعا مانگ کر ۸ یوم تک اس کا پانی پی لے۔

برائے ہلاکتِ دشمن

یاحفیظ	۱۰۱	۱۲۵	۱۸۸	۱۶۱	یاحفیظ
یانور	۱۳۸	۱۱۵	۱۴۰	۱۹۵	یانور
الٓمٓ	۱۴۴	۱۵۲	۱۷۱	۱۵۹	الٓمٓ
اللہ	۱۳۲	۱۶۹	۱۴۸	۱۷۹	واللہ
یاحافظ	۱۰۸	۱۷۸	۱۸۱	۹۹۱	یاحافظ

دشمن قاتل کے گھر میں اس نقش تعویذ کو پانی میں بھگو کر چھینٹے لگائے دشمن ہلاک ہو جائیگا یا گناہوں سے تائب ہو جائے گا یاکر اس کے گھر میں بے برکتی ہوگی۔

دیوانگی دور کرنے کے لئے

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

یانور	۱۵ ۳۴	۴۹	۶۴	یانور
یاحفیظ	۱۱ ۴۵	۶۱	۶۹	یاحفیظ

گلے میں ڈالیں

اَللهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَاسَتَّار یاغفار یارحیم

برائے فالج

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

اللہ اللہ اللہ

ش ج ج ج ح س

ک ح ع ص

ف ف ف ف ف

طریقۂ استعمال: ایک جمعرات سے لے کر دوسرے جمعرات تک پانچوں نمازوں کے بعد ایک ایک پیالہ پانی پیا کریں۔ سادہ تازہ پانی کے ساتھ زم زم کا پانی ملایا جائے۔ اگر زم زم نہ ہو تو دو کنوؤں کا پانی ملا کر تعویذ کے ساتھ پیا جائے۔

میاں بیوی میں سے کسی کی بھی بدخوئی بدماغی کو دور کرنے کیلئے

میاں بیوی میں سے کسی کی بھی بدخوئی، بدماغی اور خردماغی کے دور کرنے کے لیے مندرجہ ذیل آیاتِ قرآنی سات ایام تک پلایا جائے

انشاء اللہ تعالیٰ میاں تابعدار ہوجائیگا یا بیوی تابعدار ہوجائے گی۔
وہ آیتِ کریمہ یہ ہے رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

برائے ذیابیطس (مرضِ شوگر)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یااللہ (قل اللہ احد) یارحیم

یااوّل (قل اللہ احد) یاآخر

یاقوی (قل اللہ احد) یاقدوس

یاحافظ (قل اللہ احد) یاحفیظ

یاباسط (قل اللہ احد) یاحافظ

یااللہ (قل اللہ احد) یا اللہ

یافتاح (قل اللہ احد) یارحمٰن

نوٹ: تعویذ بالا کو بوتل میں ڈال کر سات دن تک پانچوں نمازوں کے بعد ایک ایک پیالہ پانی پیا جائے۔ بوتل کا پانی جب ختم ہوجائے تو اور پانی اس میں ڈالا جائے تاکہ پورا ہفتہ تعویذ استعمال ہو۔

تعویذ برائے بندش کردن عضو مخصوص مرد از زنا وغیرہ

(۱) بستم عضو مخصوص فلان بن فلانہ و فروج عاشقاتِ او

۴۸۳	۴۹۴	۴۹۷	۴۸۲
۴۸۷	۴۹۳	۴۹۰	۴۸۸
۴۹۱	۴۸۹	۴۸۶	۴۹۲
۴۹۶	۴۸۱	۴۸۴	۴۹۵

این نقش برجائے آب دفن کردہ شود

(۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اصنع الزنا والزيغ مِن قَلْبِ فلان بن فلانة فَاِنَّكَ تَعَالٰى لِمَا تَشَاءُ وَاِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔

این تعویذ را در قبر دفن کردہ شود کہ آن میت را شما نمی دانی یا نمی شناسی۔

(۳) رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝

وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
سع اللہ
درمیان فلان بن فلانة و عاشقاتِ او تفریق واقع شود

این نقش را درمیانِ دو قبر قدیم دفن کردہ شود۔ ایضاً این آیت و نقش را بر سر ہرن جھلی نوشتہ کردہ شود

برائے دفعیہ لقوہ وفالج

جو بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو تیمار دار اوّل آخر گیارہ بار درود شریف پڑھے درمیان میں سورۂ یٰسین اکتالیس بار سورۂ مزمل اکتالیس بار اور سورۂ جمعہ بھی اکتالیس بار پڑھ کر عرقِ گلاب پر دم کرے اور مریض پر نیم گرم (گنگنا) کر کے ملتے اور پلائے۔ یہ عمل چالیس دن مسلسل کرنا ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ شفایابی ہوگی

ایضاً برائے دفعیہ لقوہ وفالج

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سے لیکر وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ سورۂ نور کی یہ آیت ۳۵ چالیس دن زعفران سے لکھ کر پلائے۔ مجرب ہے۔

برائے دفعیہ مرضِ لاعلاج

جو مرض لاعلاج ہو حکیم اور ڈاکٹر اس سے عاجز ہوں تو درود اول و آخر گیارہ بار اور یہ آیت سورۂ نمل کی سات ہزار مرتبہ اکیس دن تک پڑھنا مجرب ہے۔ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

برائے سلب درد خواہ کسی جگہ ہو

سلبِ درد کے لئے خواہ کسی جگہ ہو۔ جس جگہ درد ہو مریض خود پکڑ کر یا پھر دوسرا شخص ہاتھ رکھ کر سورۂ فرقان کی یہ آیتیں پانچ یا سات

یا گیارہ بار، درود اول آخر تین بار کے ساتھ دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ درد فوراً چلا جائے گا اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا۔

شفائے امراض کے لئے

امراض کے شفاء کے لئے کسی قسم کا کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو یہ سات اسماء باری تعالیٰ فوراً اثر کرتے ہیں۔ چاہے سب پڑھے یا پھر تین، پانچ یا سات بار پڑھے۔ اسماء مبارکہ یہ ہیں۔

یَا حَفِيْظُ۔	یَا سَلَامُ۔	یَا نَافِعُ۔	یَا بَاقِیْ۔	یَا کَرِیْمُ۔	یَا غَفُوْرُ۔	یَا هَادِیْ
۹۹۸	۱۳۱	۲۰۱	۱۱۳	۲۷۰	۱۲۸۶	۲۰

دفعیہ امراضِ چشم کے لئے

یاشکور۔ درود اول و آخر گیارہ مرتبہ پڑھے درمیان میں یاشکور ۴۱ بار پانی پر دم کر کے پئے اور آنکھوں میں ڈالے ہر قسم کی تکلیف اور ضعف دور ہوگا۔ (مجرب ہے)

سانپ کے زہر اتارنے کا علاج

جس شخص کو سانپ نے کاٹ لیا ہو تو حسب ذیل آیات زعفران سے لکھ کر بعد درود اول و آخر سات بار پڑھ کر دم کرے اور اس کو پلائے، انشاء اللہ زہر اتر جائے گا۔ آیات یہ ہیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ لا الہ الا ھو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ
ومن اصدق من اللہ حدیثا ان اللہ یمسک السموات
والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکھما من احد من
بعدہ انہ کان حلیما غفورا

ایضاً برائے ازالہ زہر سانپ

جب کسی کو سانپ نے کاٹا ہو تو اس پر یہ دعا پڑھ کر دم کرے اور لکھ کر پلائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القھا یموسی فالقھا فاذا ھی حیۃ تسعی قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی ۔

نوٹ: اس آیت کو سانپ کے کاٹے کی خبر لانے والے کی پیشانی پر کلمے کی انگلی سے لکھے اور سات بار درود شریف اول آخر کے ساتھ پڑھ کر دم کرے تو سانپ کا کاٹا جہاں ہوگا اچھا ہو جائے گا

برائے تحفظ از مار سیاہ (کالے سانپ کے لئے)

جہاں کہیں بھی سانپوں کا خوف ہو تو یہ آیت گیارہ مرتبہ اور درود اول آخر سات بار پڑھ کر حصار کرے اور دم بھی کرے محفوظ رہے گا۔
سلام علی ال یاسین ۔

افسر کے جابرانہ فیصلے کا احتمال

اگر یہ اندیشہ ہو کہ افسر کوئی ظالمانہ فیصلہ نہ کرے تو عدالت

میں حاضر ہوتے وقت سات دفعہ یہ کلام پڑھو سبحٰن اللہ عما یشرکون ۰ وربک یعلم ما تکن صدورھم وما یعلنون ۰ وھو اللہ لا الہ الا ھو لہ الحمد فی الاولی والاخرۃ ۔
اللہ غالب اللہ غالب اللہ غالب

وسعت رزق کے لئے

عامل کو چاہیے کہ وسعتِ رزق کے واسطے جمعہ کے روز سورۂ کہف اور ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورۂ واقعہ دو بار معمول رکھے کیونکہ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ سنا میں نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کوئی پڑھے سورۂ واقعہ ہر شب نہیں پہنچے گا اس کو فاقہ ۔

بھاگنے والے کے لئے

ترکیب: جس شخص کا بچہ کھو گیا ہو یا بڑا بھاگ گیا ہو تو وہ اس مکرم نقش کو لکھ کر انار کے درخت میں لٹکائے انشاء اللہ کھویا یا بھاگا ہوا فوراً واپس ہوگا نہایت مجرب ہے۔ بھاگنے والے اور کھونے والے کا نام اور اس کی ماں کا نام ضرور لکھے ۔

یا اللہ	یا الف
ھھ	مدوح
یا اللہ	یا الف

الٰہی بحق این نقش مفرور فلاں بن فلاں بے قرار شود زود بیاید زود بیاید زود بیاید ۔

اکسیر علاج برائے سخت سحر وجادو بذریعہ فتیلہ نیلگون این است

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللّٰھم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل داءٍ و دواء وبعدد کل علة وشفاء۔ یا الٰہ الحق حٰمٓ عسق وبحق کھیعص بحق ماھو ھی وبحق یا بدوح افرج عن ھذا المریض یا اللہ یا غفور العجل العجل العجل الوحا الوحا الساعة الساعة الساعة

الٰہی بحرمة خاملہ حضرت غوث الاعظم سلطان سید احمد کبیر معشوق یا اللہ افرج عن ھذا المریض وھمہ آزار وسحر وجادو وآسیب ومرض بدن برطرف شود۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یاشافی یاشافی یاشافی۔ یا غفور یا غفور یا غفور یا بدوح۔

این فتیلہ نوشتہ در پنبہ ملفوف نمودہ وبعد ریسمان نیلہ بر آن بپیچیدہ بوجہے کہ ہیچ جائے سفید نماند بعد ازاں چراغ نو بتعہد وآن را بر سبوچہ معکوس داردو آن را بر زمین پاک متعین کردہ بسوزد وپنج فلوس زیرش نگاھدارد وبعدہ نیاز میر محی الدین کردہ صدقہ دھد تا گر سہ دفعہ یا ہفت بار کند۔

نوٹ: مذکورہ عبارت پوری کی پوری فتیلہ کے اوپر لکھا جائیگا یعنی کاغذ پر تحریر کر کے فتیلہ

بنایا جائے گا جس کو فتیلہ نیلگون کہا جاتا ہے۔ جادو سحر جتنا سخت ہو اتنا ہی یہ کامیاب فتیلہ علاج کے لئے اکسیر ہے اس فتیلہ پر روئی لپیٹ کر پھر اس پر ریشم کے نیلے رنگ کا دھاگہ لپیٹا جائے۔ اتنا باریک اور گنجان لپیٹ لیا جائے کہ روئی کی سفیدی بالکل چھپ کر رہ جائے۔ پھر اس کو دیہ میں یا پیالہ میں ڈال کر سرسوں کے تیل سمیت جلایا جائے گا۔ اور دیہ کے نیچے پانچ سکے رکھدیئے جائیں گے اور جلاتے وقت مریض مسلسل دما کرتا چلا جائے تین دن یا سات دن میں انشاء اللہ شفا ہوگی۔

برائے بازیابی گمشدہ

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہ۔ اول آخر ایک ایک تسبیح درود ابراھیمی کی پڑھئے اور پانچسو مرتبہ وظیفہ بالا پڑھ کر دعا بدرگاہ خدا کیجئے گا۔

نوٹ: روزانہ یہ عمل جاری رکھیں انشاء اللہ جلد از جلد کامیابی ہوگی۔

علاج برائے ہر پریشانی وقضائے حاجات

بعد نماز عشاء دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف اسکے بعد آیت کریمہ لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ تین سو ساٹھ مرتبہ اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں انشاء اللہ ہر پریشانی دور اور ہر حاجت پوری ہوگی۔

جنّات کے عامل بننے کے لئے

(۱) آیات کرسی کو سات مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے
(۲) چاروں قل معہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۷ مرتبہ۔ معہ بسم اللہ اسلئے کہا کہ اس کے ضمن میں آیات کرسی بھی آجاتی ہے
(۳) آمنتُ باللہ الخ والا تعویذ کے الفاظ ۷ مرتبہ
(۴) لایلٰف قریش سے لے کر والنّاس تک ۷ مرتبہ

اول آخر درود شریف بھی پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے سینے پر دم کرے۔ یہ ہوا صرف رات کا عمل

اب رات دن کو ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ آمنتُ باللہ الخ پڑھے اسی طرح سے سنتوں سے جب فراغت ہو تو بھی تین مرتبہ پڑھے اس کے بعد اپنے سینہ پر دم کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور جب مریض کی تشخیص کرے تو بھی سب سے پہلے تین مرتبہ آمنتُ باللہ الخ پڑھ کر کام شروع کرے۔ تصوراً گھر کے افراد کو بھی پھونک مارے انشاء اللہ سب حصار میں آئیں گے۔

اکتالیس ایام تک یہ معمولات ادا کرتا رہے اور اس کے بعد ایک ایک مرتبہ ہر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ کر سینہ پر دم کرے اور یہ ایک ایک مرتبہ کا معمول عمر بھر کرنا پڑے گا انشاء اللہ تعالےٰ جنّات کا پورا ایک عامل جید بنے گا

قریشی صاحب کا پرانا طریقہ برائے عامل آسیب وزود اثر

(۱) آیت الکرسی سات مرتبہ سونے سے قبل
چاروں قل 〃 〃 〃 〃

الم تا مفلحون سات مرتبہ سونے سے پہلے
امنت باللہ الخ 〃 〃 〃 〃
درود شریف اول آخر صرف ایک مرتبہ
بستر پر بیٹھ کر روبقبلہ ہو کر بیٹھے اور پڑھ کر سینہ پر دم کرے اور پورے بدن پر ہاتھ پھیرے

(۲) اور دن رات میں ہر نماز کے بعد سات مرتبہ آمنتُ باللہ پڑھے شرطیہ ہے کہ نشست نہ بدلے اگر غلطی سے اٹھا تو یاد آنے کے فوراً بعد بیٹھے اور پڑھے۔ یہ عمل ۴۱ ایام تک کے لئے ہے۔ اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ کر عمر بھر کا معمول بنایا جائے۔ یعنی آمنتُ باللہ کا معمول

اہم تدابیر اور ھدایات

قریشی صاحب فرماتے ہیں: جہاں پر ترجمان مہیا نہ ہو تو اسی مریض کے ذریعہ سے کلام چلایا جائے وہ اس طرح سے کہ مریض کو بوتل دکھایا جائے اور عبدالجبار صاحب سے کہا جائے کہ اس کے دیکھنے اور سننے کے راستے کھول دے۔ اور اسی طرح سے اگر فتیلے جلائے جائیں تو زیادہ مفید ہے فتیلے سونگھانے سے فوراً مریض کے راستے کھل جاتے ہیں پھر مریض براہِ راست آسیب سے بات کر سکتا ہے

راستے کھولنے کے طریقے

اگر کھلے ہوئے راستے خبیث جنّات کیوجہ سے بند ہوں تو فوراً سورۂ مزمل یا سورۂ رحمٰن اور سورۂ جن کے موکل کو اس طرح سے پکار کر بلائے کہ موکل سورۂ مزمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے سلام کا جواب سامنے ترجمان کے کان میں ڈالدیں اور ترجمان کے سماع اور نظر دونوں کے راستے کھول دیں انشاء اللہ تعالےٰ راستے کھل جائیں گے۔ یا کہ نئے ترجمان کے ناخن پر سیاہ سیاہی سرسوں کے تیل کے ساتھ ملا کر لگائیے اس کو دیکھتا رہے۔ مختلف اشکال آتی جاتی ہیں۔ بالکل اخیر میں ایک بزرگ سفید ریش اور سفید لباس اور سفید رنگ میں جب نظر آئے تو پھر اس کو بوتل میں بلایا جائے اور نیا ترجمان عمر میں بارہ ۱۲ برس کا ہو اس کو کہے کہ وہ بوتل میں دیکھا کرے۔ جب وہ سفید

جنّات کے عامل بننے کے لئے

① آیات کرسی کو سات مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے

② چاروں قل معہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۷ مرتبہ۔ معہ بسم اللہ اسلئے کہا کہ اس کے ضمن میں آیات کرسی بھی آجاتی ہے

③ آمنتُ باللہ الخ والا تعویذ کے الفاظ ۷ مرتبہ

④ لایلٰف قریش سے لے کر والناس تک ۷ مرتبہ

اول آخر درود شریف بھی پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے سینے پر دم کرے۔ یہ ہوا صرف رات کا عمل

اب رات دن کو ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ آمنتُ باللہ الخ پڑھے اسی طرح سے سنتوں سے جب فراغت ہو تو بھی تین مرتبہ پڑھے اس کے بعد اپنے سینہ پر دم کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور جب مریض کی تشخیص کرے تو بھی سب سے پہلے تین مرتبہ آمنتُ باللہ الخ پڑھ کر کام شروع کرے۔ تصوراً گھر کے افراد کو بھی پھونک مارے انشاء اللہ سب حصار میں آئیں گے۔

اکتالیس ایام تک یہ معمولات ادا کرتا رہے اور اس کے بعد ایک ایک مرتبہ ہر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ کر سینہ پر دم کرے اور یہ ایک ایک مرتبہ کا معمول عمر بھر کرتا پڑے گا انشاء اللہ تعالےٰ جنات کا پورا ایک عامل جید بنے گا

قریشی صاحب کا پرانا طریقہ برائے عامل آسیب و زدو داثر

(۱) آیت الکرسی سات مرتبہ سونے سے قبل
چاروں قل 〃 〃 〃 〃

الم تا مفلحون سات مرتبہ سونے سے پہلے
امنت باللہ الخ 〃 〃 〃 〃
درود شریف اول آخر صرف ایک مرتبہ
بستر پر بیٹھ کر رو بقبلہ ہو کر بیٹھے اور پڑھ کر سینہ پر دم کرے اور پورے بدن پر ہاتھ پھیرے

(۲) اور دن رات میں ہر نماز کے بعد سات مرتبہ آمنتُ باللہ پڑھیے شرط یہ ہے کہ نشست نہ بدلے اگر غلطی سے اٹھا تو یاد آنے کے فوراً بعد بیٹھے اور پڑھے۔ یہ عمل ۴۱ ایام تک کے لئے ہے۔ اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ کر عمر بھر کا معمول بنایا جائے۔ یعنی آمنتُ باللہ کا معمول

اہم تدابیر اور ہدایات

قریشی صاحب فرماتے ہیں: جہاں پر ترجمان مہیا نہ ہو تو اسی مریض کے ذریعہ سے کام چلایا جاتا ہے وہ اس طرح سے کہ مریض کو بوتل دکھایا جائے اور عبدالجبار صاحب سے کہا جائے کہ اس کے دیکھنے اور سننے کے راستے کھول دے۔ اور اسی طرح سے اگر فتیلے جلائے جائیں تو زیادہ مفید ہے فتیلے سونگھانے سے فوراً مریض کے راستے کھل جاتے ہیں پھر مریض براہ راست آسیب سے بات کر سکتا ہے

راستے کھولنے کے طریقے

اگر کھلے ہوئے راستے خبیث جنات کی وجہ سے بند ہوں تو فوراً سورۃ مزمل یا سورۃ رحمٰن اور سورۃ جن کے موکل کو اس طرح سے پکار کر بلائے کہ موکل سورۃ مزمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے سلام کا جواب سامنے ترجمان کے کان میں ڈال دیں اور ترجمان کے سماع اور نظر دونوں کے راستے کھول دیں انشاء اللہ تعالےٰ راستے کھل جائیں گے۔ یا کر نئے ترجمان کے ناخن پر سیاہ سیاہی سرسوں کے تیل کے ساتھ ملا کر لگائیے اس کو دیکھتا رہے۔ مختلف اشکال آتی جاتی ہیں۔ بالکل اخیر میں ایک بزرگ سفید ریش اور سفید لباس اور سفید رنگ میں جب نظر آئے تو پھر اس کو بوتل میں بلایا جائے اور نیا ترجمان عمر میں بارہ ۱۲ برس کا ہو اس کو کہے کہ وہ بوتل میں دیکھا کرے۔ جب وہ سفید

رنگ کا بزرگ بوتل میں آجائے تو سمجھ لے کہ اب ترجمان کے راستے کھل گئے۔ پھر ترجمان کے ذریعہ سے کام شروع کرے

آسیب زدہ کو ترجمان بنانے کا طریقہ

مؤکل عبدالرحمٰن صاحب کا کہنا ہے کہ سورۃ یٰسین کی پہلی والی آیات یٰسین والقرآن الحکیم کو پڑھ کر آسیب زدہ کے اوپر پھونک مارا جائے تو اُس کا جن، خود حاضر ہو کر عامل سے بات کرے گا۔

حفاظتی تدابیر برائے عامل

مؤکل عبدالرحمٰن صاحب کا فرمان ہے کہ رات کو سوتے وقت عامل کو چاہیے کہ قل اعوذ برب الناس الخ کو ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دم کر کے پھونک مارے تاکہ عامل کو جنات نکالتے وقت خبیث جنات دوبارہ اس عامل پر حملہ نہ کر سکیں۔

ان مذکورہ تدابیر پر عمل درآمد کرنا از حد ضروری ہے

ترجمان کی رکاوٹوں کے دفعیہ کے لئے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم



اگر ترجمان کے راستے بند ہو جائیں تو تازہ وضو کرا کر یہ نقش تعویذ ...کر یعنی دائیں ہاتھ میں، پھر مؤکلین میں سے کسی ایک کو بلایا جائے تو انشاءاللہ مؤکل ساتھ دیں گے۔ اور ترجمان کے راستے کھل جائیں گے

(از جانب مؤکل عبدالجبار صاحب)

برائے دردِ کمر

کمر کے درد کے لئے دائیں بازو پر باندھیں

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یارحمٰن	یارحیم	یاغفار	یاجبار	یاغفور
یاستار	یاعزیز	یاباسط	یاخالق	یامالک

برائے گیس

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) ابوبکر رضی اللہ عنہ (۳) عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(۲) عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۴) علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

یا بدوح یا بدوح

بعد نمازِ ظہر مذکورہ بالا اسماء کرام کو پلیٹ میں کالی سیاہی سے تحریر کر کے تین ایام تک دھو کر پیا جائے۔

پورے سر کے درد کے لئے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

سر درد کے لئے سات مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے۔

آدھ سر کے درد کے لئے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

اَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّیْ

سر کے درد دور کرنے کے لئے ہاتھ میں چاقو لے کر مریض سے پوچھا جائے کہ تیرے سر کے درد کو چاقو سے ٹوک دوں۔ جب وہ یوں کہے پھر ابتدا میں سورۂ فاتحہ پڑھ کر چاقو کے ذریعہ سے ان حروف کے اوپر یک بیک چاقو رکھ کر ہاتھ کے ذریعہ سے ٹوکتا جائے انشاء اللہ تعالیٰ درد جاتا رہے گا۔

سانپ، بچھو اور بھڑ کے لئے

سانپ، بچھو اور بھڑ کے لئے بتیرہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کر دیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ آرام ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ

بچوں سے پیشاب کی عادت چھڑانے کے لئے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا وَّاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ○

تعویذ دائیں بازو پر باندھ لیں۔ اور پلا بھی سکتے ہیں۔

بند پیشاب کھولنے کے لئے

یہ کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل چودہ ایام تک مالش کر لینا۔ یعنی مثانہ پر مالش کیا جائے صبح و شام۔ انشاء اللہ تعالیٰ پیشاب کھل جائیگا۔

نظرِ بد کے لئے

نظر بد کے لئے گلے میں ڈال دے

٧	١٩	٦	٥
٣	١٤	٨	١٦
٢٤	٣١	١٧	٤٢
٢٨	٣٦	٢٥	٩١

درد گھٹنہ کے لئے

پوری سورۂ طارق کو لکھ کر پانی میں بھگو دیں تین ایام تک استعمال کریں اور گلاس بھر پانی کو کسی بھی وقت پی لیں۔

اور اگر گھٹنہ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو سورۂ طارق پڑھ کر یعنی ایک مرتبہ پڑھ کر کوئی بھی تیل پر دم کر کے مالش کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آرام ہوگا۔

حافظہ تیز کرنے کیلئے

رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا وَّارْزُقْنِیْ فَهْمًا۔

رَبِّ یَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَیْرِ

ذہن تیز کرنے کے لئے مندرجہ بالا دعاء ایک مرتبہ پڑھ کر کتاب کھولا جائے، انشاء اللہ ذہن قوی ہوگا

(۲) حافظہ تیز کرنے کے لئے پانچوں نمازوں کے بعد ایک تسبیح درود ابراھیم پڑھنا چاہیے۔

(از حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ)

گلی کوچوں میں خلافِ شرع افعال کی بندش کیلئے

گلی کوچوں میں اگر خلافِ شرع کوئی کام ہو رہا ہو اس کی بندش کے لئے یہ دعا طاق مرتبہ پڑھ کر اس طرف پھونکا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ اضْرِبِ الشَّیَاطِیْنَ وَاحْرِقِ الشَّیَاطِیْنَ

دمہ اور کھانسی کے لئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۸	۱۴	۳	۷
۲	۶	۴	۹
۵	۳	۸	۱۲

ایک گلاس پانی میں نقش گھول کر بارہ بجے دن تین ایام تک پی لیا جائے انشاء اللہ شفا ہوگی۔

بدن کے کسی حصہ میں زخم ہو یا کہ پھول جائے

گردن، بغل، ران اور بدن پر کوئی زخم نکلے یا کہ پھول جائے تو اس کے لئے سورۂ کافرون یعنی قُلْ یٰاَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ کو تین یا پانچ یا نو مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا جائے۔

آنکھ دُکھنے کے لئے

سورۂ قریش پانچ مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے۔

بواسیر بادی وخونی کے لئے

بواسیر خونی اور بادی کے لئے یا کہ کسی اور تکلیف کے لئے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ کو نو مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے۔

ایضًا کھوئی ہوئی چیز کی بازیابی اور ملنے کے لئے ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح پڑھی جائے انشاء اللہ تعالیٰ وہ چیز ملے گی یا اس کا نعم البدل مل جائے گی۔

سورۂ رحمٰن کے مؤکل عبدالرحمٰن کا ارشاد دربارہ کشادنِ سحر از بدنِ مریض

عبدالرحمٰن مؤکل سورۂ رحمٰن فرماتے ہیں: ایک گول گلاس تانبے کا پانی سے بھرا ہوا اور اسی طرح ایک چھرا لیا لیکر اس گلاس میں ڈال دیا جائے اور سورۂ یٰسین گیارہ مرتبہ پڑھ کر گیارہویں دفعہ اس چھرا کو اس گلاس میں

زور سے دبا کر مارا جائے۔ اگر مارتے وقت مریض کو اس چھرا مارنے کی ضرب محسوس ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ سحر مکمل گیا ہے ورنہ سحر بدن میں باقی ہے اس لئے عبدالرحمٰن مؤکل کا کہنا ہے کہ جب تک سحر نہ کھلے تو مریض کو پورا آرام نہ ہوگا۔

مرگی اور اُمّ الصبیان کے لئے

زیتون کے تیل پر سورۂ طارق پڑھ کر دم کیا جائے اور بدن پر مالش کیا جائے۔ اگر بچہ سوکھتا چلا جا رہا ہے تو سات ایام تک صبح و شام مالش کیا جائے۔ اور آسیب والے دونوں فتیلے بھی سونگھائے جائیں اور رحیم والا نقش تعویذ سات دانہ الائچی خورد میں جوش دے کر صبح شام سات ایام تک پلایا جائے اور آمنتُ والا تعویذ گلے میں ڈالا جائے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہوگی

اگر جنات کسی وقت حملہ کریں تو اس کا علاج۔ اور ان کا تعلق اس وقت بدن سے نہ ہو

آمنتُ والا تعویذ گلے میں ڈالے رحیم والا نقش کا سات رات تک پانی پئے۔ اور احتیاطاً پلیٹ کو لوبان اور اگر بتی سے دھونی دیکر غسل کیا جائے اور ایک بوتل دس رات استعمال کرے اور اسی طرح گھر کے کونوں میں چھینٹے لگائے سوائے غسل خانہ اور بیت الخلاء کے۔

رات کو خبیث جنّات کے ستانے کا علاج

آمنت باللہ والا تعویذ تکیہ کے نیچے رکھے اور دونوں فتیلے سُرخ اور سیاہ نشان والے استعمال کرے انشاء اللہ تعالیٰ کچھ نہ ہوگا۔

پیٹ کے پھول جانے اور بدن میں درد ہونے کیلئے

آمنتُ باللہ کا تعویذ والے الفاظ گیارہ مرتبہ پڑھ کر سرسوں کے تیل پر دم کیا جائے صبح بعد طلوع اور شام بعد غروب تمام بدن پر مالش کیا جائے۔ آمنت باللہ والا تعویذ گلے میں ڈالا جائے اور رحیم والا نقش کا سات رات تک بعد نماز عشاء پانی میں پئے

تپ لرزہ

آمنتُ باللہ والا تعویذ گلے میں ڈالا جائے اور رحیم والا نقش تعویذ بوتل میں ڈال کر سات ایام تک تینوں ٹائم پیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

کثرت سے حیض و نفاس و احتلام کی بندش کے لئے

آمنت باللہ والا تعویذ ناف کے نیچے باندھ دیا جائے اور جب تک شکایت ختم نہ ہو اور حیض و نفاس وغیرہ بند نہ ہو جائے تعویذ نہ کھولا جائے اور جب بند ہو جائیں تو ناف کے نیچے سے کھول کر گلے میں لایا جائے۔ اور پینے کے لئے پورے قرآن مجید کا نقش پانی میں

ڈال کر دس ایام تک صبح و شام پیتا رہے پورے قرآن مجید کا نقش ذیل میں ملاحظہ ہو۔

۷۸۶

۸۱۰۵۲۸۴	۸۱۰۵۲۷۹	۸۱۰۵۲۸۶
۸۱۰۵۲۸۵	۸۱۰۵۲۸۳	۸۱۰۵۲۸۱
۸۱۰۵۲۸۰	۸۱۰۵۲۸۷	۸۱۰۵۲۸۲

خارش کے لئے

یَارَحِیْمُ والا نقش جو مندرجہ ذیل ہے تیلِ بابونہ یا تیل زیتون یا تِل کے تیل میں ڈال کر دس ایام تک طلوعِ شمس اور غروبِ شمس کے بعد پیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔ رحیم والا نقش حسب ذیل ہے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یاحفیظ	یارحیم	یاحافظ
یاکریم	یاحیّ	یاقیوم
یارحیم	یارحیم	یارحیم

برلئے اتفاق زوجین

(طبیعت کی خشونت، میاں بیوی کے اتفاق اور نافرمان اولاد کے لئے)

میاں	۱	۳۰	۳۵	۸۵	۷	۵۸	۹۵	۴۸
بیوی	۱۳	۵۵	۱۲۵	۱۲۰	۱۵۴	۱۳۰	۱۷۱	۶۱
میں	۶۴	۲۵	۷۲	۹۸	۱۹	۱۵۹	۳۵	۱۰۱
اتفاق	۴۰	۱۱۵	۱۴۹	۶۱	۸۵	۱۷۵	۵۲	۱۳۰
ومحبت	۸۰	۱۳۵	۱۷۹	۷۵	۹۲	۱۳۵	۵	۶۹

پیدا کرنے کے لئے یہ نقش پانی میں ڈال کر دونوں کو بے خبری میں پلایا جائے۔

چوری شدہ مال کی واپسی کے لئے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۱۱۹	۱۳۳	۱۵۱	۱۳۹	۱۶۴	۱۱۱
۱۵۶	۱۷۱	۱۰۹	۱۸۱	۱۹۵	۱۸۴
۱۲۷	۱۴۵	۲۱۳	۱۲۰	۱۲۸	۱۴۹
۱۵۹	۲۰۲	۱۱۲	۲۲۹	۱۸۰	۱۹۷
۱۴۱	۱۰۱	۲۴۵	۱۵۵	۲۰۹	۱۲۵
۱۳۵	۱۷۹	۲۳۹	۲۳۵	۲۱۱	۱۶۹
۱۸۲	۱۹۱	۲۱۰	۲۳۱	۱۳۲	۱۷۵
۱۱۸	۱۶۱	۱۸۵	۱۴۸	۱۹۲	۱۲۲

اس نقش تعویذ کو اپنے گھر میں پنکھے کے ساتھ چپکائے اور روزانہ بعد طلوع اور بعد غروبِ شمس پنکھے کو دس منٹ تک چلائے اور یہ عمل چالیس ایام تک کرنا ہے۔ اگر طلوعِ شمس سے اور غروبِ شمس سے آگے پیچھے پنکھا چلایا جائے تو کوئی حرج نہیں مگر وقتِ مقررہ پر چلانا ضروری ہے۔ اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کو روزانہ ۱۱۱ مرتبہ پڑھے اور اول آخر درود شریف بھی پڑھ لے پنکھا اور نقش جو چپکا ہوا ہے اس پر پھونک مار کر دم کرے انشاء اللہ چالیس ایام تک چور چوری کا مال واپس کریگا یا کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عنایت کریں گے یعنی اس کا بدلہ ملے گا

جادو جنات کے اثر دور کرنے کے لئے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یا اللہ	یا باسط	یا رحیم
یا اللہ	یا باسط	یا رحیم
یا اللہ	یا باسط	یا رحیم
یا اللہ	یا باسط	یا رحیم

اس نقش کو فریم کر کے گھر میں جانبِ مشرق میں لٹکائیں

برائے ازالہ اثراتِ آسیب وسحر

۶۷۸

۴	ل	ط	۳
۱	۷	سبح	۷
کعق	ص	بن	سید
ح	صح	سنا	دا

ابتداء سے اولاد نہ ہو یا درمیان میں سلسلہ بند ہو گیا ہو دونوں کے لئے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۴	۳۷	۸	۳۰	۱۷	۵۱	۹	۳۹
۲۱	۱۴	۲۷	۵۲	۱۱	۲۵	۲۳	۴۴
۶	۴۵	۱۹	۳	۲۳	۴۱	۴۷	۲
۱۰	۳۶	۱۲	۲۸	۲۴	۴۹	۳۱	۲۰
۴	۲۴	۴۲	۳۸	۷	۱۸	۴۶	۱۵
	۵	۳۵	۵۳	۶۶		۱۳	۴۸
۱۶	۳۲	۱	۴۹	۲۲	۲۹	۴۳	۵

اس نقش تعویذ کو گلے میں ڈالنا چاہیئے اور جب بچے کی امیدواری ہو تو نقش کو گلے سے اتار کر ناف کے نیچے باندھے اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو ناف سے ہٹا کر بچہ کے گلے میں ڈالیں۔

نوٹ: یہ نقش پیپلے کے لئے مفید ہے۔ بعد طلوع شمس بدن پر چنبیلی کے تیل سے مالش کریں۔ دوپہر اور رات میں بھی مالش کریں۔

حمل کے وقت قلب پر بوجھ کا ہونا

حمل کے وقت اگر قلب پر بوجھ محسوس ہو تو الم نشرح الخ کو سادی پلیٹ میں لکھ کر سات ایام تک نہار منہ پینا چاہیئے۔

شبکوری کے لئے

شبکوری کے لئے فتیلے دونوں جلائے گلے کے تعویذ کے ساتھ ساتھ پلانے کا نقش بھی استعمال کرے۔

سر کے چکر کے لئے

سرسوں کے تیل سات ایام تک مالش کریں دونوں ٹائم، یعنی صبح شام۔ انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔ سورۂ فاتحہ ۱۰۱ مرتبہ پڑھ کر سرسوں کے تیل پر دم کیا جائے۔

جنات کی وجہ سے دیوانگی دور کرنے کیلئے

دونوں فتیلے جلا دیئے جائیں اندازاً انشاء اللہ تعالیٰ چالیس ایام کے اندر شفا پائے گا ورنہ بعض مریض کے لئے سال بھر بھی فتیلے جلائے جاتے ہیں۔

دل کے دھڑکن کے لئے

دل کے دھڑکن کے لئے آمنتُ باللہ والا نقش اس طرح

سے باندھے کر تعویذ چالیس یوم تک قلب پر پڑا رہے اس کے بعد قلب سے اتار کر گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ تعالیٰ شفاء ہوگی۔ (یہ مؤکل عبدالرحمٰن کا مجرب شدہ ہے)

ہاتھ یا بدن میں کھجلانے کی وجہ سے زخم پڑ جاتا ہے جس کو بلوچی میں گدرین کہتے ہیں اس کا علاج

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۲۴	۲۸	۱۶
۱۴	۲۲	۱۸

یہ نقش واسلین میں ڈال کر بارہ ایام تک صبح و شام مالش کریں اور پیا کریں

ہاتھ پاؤں کے سن ہو جانے کے لئے

۷۸۶

۸۸	۸۹	۷۵
۷۷	۷۸	۷۹
۸۰	۸۱	۸۲
۸۴	۸۵	۸۶

جب ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو ایک نقش گلے میں ڈالے دوسرا نقش بالٹی بھر پانی میں ڈال کر غسل کیا جائے۔

دشمن کے مرعوب ہونے کے لئے

دشمن کے مرعوب ہونے کے لئے اکتالیس ایام تک آیات کریمہ بعد نماز عشاء ستر مرتبہ پڑھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی

چاہیئے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ اور دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔
نوٹ: دعاء کرنے کے بعد سو جائے۔

ملازمت کی ترقی کے لئے

طریقہ بالا بھی یعنی دشمن کے مرعوب ہونے کا عمل ملازمت کی ترقی کے لئے بھی مجرب ہے اور اسی طرح سے آمنتُ باللہ والا تعویذ گلے میں ڈالے۔

اندھیرے میں خوف و ہراس کے لئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

جہاں بھی جانے کا ارادہ ہو اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا جائے۔

کاروبار کے سست پڑنے کے لئے

کاروبار کے سست ہونے کو دور کرنے کے لئے اکتالیس ایام تک پانچوں نمازوں کے بعد ستر مرتبہ آیات کریمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعاء کرے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی

(مؤکل عبدالرحمٰن کا مجرب ہے)

تپ نوبت کے لئے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۱۴	۱۲	۱۰	۶
۲۲	۱۹	۱۸	۱۶
۳۱	۲۸	۲۶	۲۴
۹۲	۴۸	۴۵	۴۲
۹۹	۸۹	۴۶	۴۳

اس نقش کا تعویذ بنا کر اکتالیس ایام تک سر پر باندھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہوگی۔ تپ نوبت سے مراد باری والا بخار یہ تعویذ اس کے لئے اکسیر ہے۔

چیچک اور طاعون کے لئے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۹۱۱	۷۸۰	۱۶
۶۲۷۶	۲۰۲۹	۱۸۳۰
۹۲۶۸۹	۸۹۹۹	۸۱۸۶

یہ نقش تعویذ گلے میں ڈالیں

لقوہ کے لئے

لایلٰف قریش پوری سورت کاغذ پر لکھ کر شہد میں ملا کر سات ایام تک روزانہ نہار منہ چاٹ لیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہوگی۔

(موکل عبدالرحمٰن کا مجرب ہے)

کالے دانے یعنی ہو کے لئے

۱۳	۸	۱۶	۲۱
۹	۱۰	۱۲	۱۷
۳۰	رحیم	۲۷	۲۵

یہ نقش تعویذ ہاتھ پاؤں کے کالے دانے جن کو بلوچی میں ہو کو کہتے ہیں، اس کے لئے ہے۔ گلے میں ڈالیں

(از جانب موکل عبدالجبار صاحب)

ہر مرض کے لئے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

جبرائیل — میکائیل

یاجلیل	یاودود	۴	میکائیل	۲۱
یاشافی	یاحمید	یاغفار	مصطفیٰ	۱۸
یارحیم	۱۹	۱۶	یاقہار	یاجبرائیل
۱۳	۱۴	۱۲	۳۳	۲۰
۱۰	۹	۵	یارحیم	یارحمٰن

اسرافیل — عزرائیل

یہ نقش تعویذ ہر مرض کے لئے ہے۔ اس کو سبز رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر اگر چمڑا میں ڈالا جائے تو بہتر ہوگا گلے میں ڈالا جائے یا دائیں بازو پر باندھا جائے۔

(از جانب موکل عبدالجبار صاحب)

ہائی بلڈ پریشر کے لئے
ایضاً عرق النساء کے لئے بھی

بلڈ پریشر کے لئے یارحیم والا نقش اکتالیس مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور آمنتُ باللہ والا تعویذ نقش گلے میں ڈالیں آخری عد اس کی ۱۴، ایام ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مریض صحتیاب ہوگا (موکل عبدالرحمٰن صاحب کا تجربہ شدہ عمل ہے)

دل کے دورہ کے لئے

اَلَمْ نَشْرَحْ الخ پوری سورت پلیٹ پر لکھ کر سات ایام تک پلایا جائے انشاء اللہ تعالیٰ مریض صحت یاب ہوگا

مرض موتہ یعنی خسرہ کیلئے (بلوچی میں سُہرک)

جب کسی بچہ کو مرض موتہ لگ جائے تو سورۃ فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر گیارہ ایام تک پلا کر دم کیا جائے۔ بچہ انشاء اللہ صحتیاب ہوگا

ریوڑ سے بکری وغیرہ غائب ہو

جب ریوڑ سے بکری غائب ہو تو چاروں سمت میں سات سات مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھ کر پھونکا جائے انشاء اللہ تعالیٰ جانور صحیح سالم ملیگا اسی کو حصار کہا جاتا ہے۔

کالی کھانسی کے لئے

۷۸۶

یامتین — یامستعان — یارحمۃ للعلمین — یاقیوم — یاربی

۸	۶	۲	۱
۹	۴	۲۰	۱۰
۱۴	۵	۱۱	۳

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پ۱ آیت ۱۳۷

اس نقش تعویذ کو پلاسٹک میں بند کر کے چمڑے میں ڈالا جائے عورت بائیں یا دائیں بازو پر باندھے اور مرد گلے میں ڈالے۔ (یہ نقش کالی کھانسی کیلئے ہے اِس کو عبدالجبار صاحب نے نثار احمد صاحب کو دیکر بھیجا ہے جس کی تصدیق و تائید عبدالرحمٰن صاحب نے بھی کی ہے)

ہر بیماری کے لئے

ہر بیماری کے لئے سورۃ یٰسین یا سورۃ رحمٰن یا آیۃ الکرسی لکھ کر گلے میں ڈالا جائے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہوگی۔ یٰسین سے یٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيمِ تک پڑھنا مراد ہے، رحمٰن سے مراد اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ہے اور آیۃ الکرسی پوری مراد ہے۔

آسیب کے حاضر ہونے کیلئے

یٰسٓ ۝ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيمِ پڑھ کر آسیب زدہ کے اوپر پھونک

مارنے سے اس کا جن حاضر ہو کر عامل سے بات کرے گا۔

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ کا عمل

مؤکل عبدالرحمٰن صاحب کا کہنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کو دو سو مرتبہ پڑھے تو اس آیت کا غلام حاضر ہو کر کہے گا کہ کیا چیز چاہیئے غلام حاضر ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ کا عمل

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ یہ وظیفہ ہے۔ اس کو تین سو مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے اور عامل اپنے اوپر دم کرنے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی دم کرے اس کے بعد ایک بزرگ حاضر ہو کر کہے گا کہ جو تم مجھے بولو گے میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا مگر احتیاط ضروری ہے کہ بعد نماز عشاء سوتے وقت پڑھے اور اپنے اوپر اور بچوں کے اوپر دم کرے۔

آسیب کی وجہ سے بچہ روتا ہو اور دودھ نہ پیتا ہو

اگر آسیب کی وجہ سے بچہ روتا ہو تو مندرجہ ذیل نقش تعویذ چھ عدد بنا کر صبح و شام ایک ایک گوندے ہوئے آٹے سے جو کچھ برتن کے ساتھ بچ جاتا ہے اس میں پانی ملا کر پھر خوب توا گرم کر کے اس آٹے والا پانی کو توا پر ڈالے اور جو بخارات توے سے اٹھیں مریض کے جسم پر پہنچائیں اور مریض بچے کو سونگھائیں انشاء اللہ شفا ہوگی۔ بچے کی والدہ بھی اپنا گریبان کھول کر وہ دھواں ضرور لیں۔

(قریشی صاحب کا بتایا ہوا نقش اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

۱۱۱۵ F N ۱۱۱ھ

۱۱۱۵ F N ۱۱۱ھ

اور بیاض محمدی کا نقش بھی درج ذیل ہے

۱۱۱۵ سمن ▭ ۱۱۱ھ

کھیتی کے کیڑے دفع کرنے کیلئے

اگر کھیتی میں کیڑا پڑ جاتا ہے تو ریتی لیکر اس پر آمَنْتُ بِاللّٰهِ والا تعویذ کے الفاظ پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ ریت کھیت کے چاروں کونوں میں چھڑکنا چاہیئے انشاء اللہ تعالیٰ کیڑا نہیں لگے گا

جانوروں کا دست بند کرنے کے لئے

اگر بکری وغیرہ جانوروں کو دست لگ جائے تو آمَنْتُ بِاللّٰهِ والا تعویذ نقش اُس کے گلے میں ڈالا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ دست بند ہوگا۔

جو بچہ مٹی کھاتا ہو

جو بچہ مٹی کھاتا ہو اس کے گلے میں آمَنْتُ والا تعویذ ڈالا جائے انشاء اللہ تعالیٰ یہ عادت چھوٹ جائے گی۔

مریض غائب کی بھی تشخیص کی جاتی ہے

مریض غائب یا معذور ہو چلنے پھرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو کہ

پرانہ سالی کی وجہ سے گھر میں پڑا ہوا ہو تو اس کی چیکنگ بھی بذریعۂ مؤکلین کرائی جا سکتی ہے اور پھر اس کے لئے علاج تجویز کیا جاتا ہے

اشیاء غائب کو از خانہ بذریعۂ مؤکلین تلاش کیا جا سکتا ہے

اشیاء غائب کو اس طرح سے تلاش کیا جاتا ہے کہ مثلاً کسی کے کاغذات گھر سے غائب ہیں اس کو پتہ نہیں کہ کہاں پڑے ہیں تو بذریعہ مؤکلین ان کو تلاش کیا جاتا ہے وہ تلاش کر کے بتلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی تجویز کیا جا سکتا ہے۔

ظالم کے دل نرم کرنے کیلئے بذریعہ مؤکلین اس کو دم کیا جا سکتا ہے

ظالم کا دل بذریعۂ دم مؤکلین نرم کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح سے کہ اگر ایک شخص باپ کی میراث وغیرہ[1] یا اور کسی وجہ بھائی وغیرہ کو مال نہیں دیتا تو بذریعہ مؤکلین دونوں کو دم کیا جا سکتا ہے دم ان کے دل پر کیا جاتا ہے تاکہ ظالم کا دل نرم ہو جائے اور وہ مظلوم کا حق ادا کرے۔

مسحور کا ایک اور علاج

وہ یہ ہے کہ رات والی سرخ اور سیاہ نشان والی بتی جلانے کے ساتھ ساتھ گلے کا تعویذ اور رحیم والا نقش کو عرقِ گلاب میں ڈالا جائے وہ اس طرح سے کہ ایک بوتل عرقِ گلاب تین حصہ میں کرے۔ اس میں دو حصہ پانی کا ہو، ایک حصہ عرقِ گلاب کا،

[1] یعنی تعویذ گنڈا وغیرہ۔

اس کے ساتھ رحیم والا نقش تعویذ ڈال کر استعمال کرے یعنی نہار منہ صبح پیا کرے۔ ایک بوتل عرقِ گلاب کو تین ہفتوں تک چلائے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

مرگی کے لئے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ب	س	م	ن
۸	۶	۹	۱۱
۴	ح	ن	۱
۷	۵	۱۰	یا شافی

یہ نقش تعویذ کو مرگی والے کے گلے میں ڈالنا ہے اور صبح شام پلانا بھی ہے انشاء اللہ مریض کو شفا ہوگی
(نوٹ) یہ تعویذ حافظ القرآن جن شفیع الرحمٰن صاحب کا عطیہ ہے

اصلاحِ زوجین کے لئے

اگر میاں بیوی کے درمیان کشیدگی ہو اور آپس میں اختلاف بڑھتا جائے اور اسی طرح اگر بیوی کی ساس وغیرہ سب مخالفت کریں کہ میاں اپنی بیوی کو طلاق دے کر چھوڑ دے تو ایسے حالات میں مندرجہ ذیل تعویذ نقش کو ایک بیوی اپنے گلے میں ڈال دے اور دوسرا تعویذ نقش کسی درخت کی ٹہنی پر لٹکائے جس کو ہوا لگتی رہے اور ایک تیسرا تعویذ ہے جس کو بیس سیر وزن کے نیچے ۴۱ ایام تک

رکھا جائے اور یَا وَدُوْدُ کا وِرد صبح وشام ایک سو گیارہ مرتبہ رہے اور اول آخر میں گیارہ گیارہ دفعہ درود شریف پڑھتی رہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائے۔ انشاء اللہ تعالےٰ میاں کا دل نرم ہوکر خود بخود وہ بیوی کی طرف رغبت کرکے واپس آئے گا اور مخالف سب کے سب موافق بن جائیں گے۔

یا ولی	یہاں پر میاں کا نام بمع والدہ لکھا جائے گا	یا ولی
	علیٰ حُبّ	
یا ولی	یہاں بیوی کا نام مع والدہ لکھا جائے گا	یا ولی

اور اگر مثلاً بیوی کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو اس کی نسبت حوا کی طرف کیجائیگی اسی طرح اگر میاں کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو اسکی نسبت حضرت حوا کی طرف کیجائے گی
اور اگر میاں بیوی میں سحر وغیرہ کا اثر ہو تو دونوں کو سورۂ فاتحہ اور معوذتین پلیٹ میں تحریر کرکے عرق گلاب کے ساتھ ملاکر ایک ایک ہفتہ پینا ہوگا، یعنی عشاء کے بعد پئیں۔ تین ہفتے تک پینا پڑے گا۔
اگر سخت ناراضگی کی وجہ سے میاں اپنی بیوی اور سسرال والوں کے پاس نہیں جاتا تو مؤکلین کے ذریعہ سے اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے دم کیا جاسکتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا ولی	نام مطلوب مع والدہ	یا ولی
	علیٰ حُبّ	
یا ولی	نام طالب مع والدہ	یا ولی

بوجہ سحر و جنّات کے نامردی کا علاج

ہمارے مؤکل عبدالرحمٰن صاحب کا کہنا ہے کہ اگر سحر و جنّات کی وجہ سے نامردی پیدا ہو اور قوتِ باہ میں کمزوری آجائے تو اس کا علاج مندرجہ ذیل ملاحظہ ہو
اَلْمُؤْمِنُ کو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھ کر صرف ایک مرتبہ اخیر میں بوتل بھر پانی پر دم کیا جائے اور آمنتُ والالنقش اس میں ڈالنا چاہیئے اور دس ایام تک صبح وشام یہ پانی میاں بیوی پیتے رہیں اور میاں بیوی کے علاوہ اگر کوئی اور بھی پی لے تو اس میں حرج نہیں۔ اور سات دانے الائچی خورد بھی ڈالنا چاہیئے اور جب پانی ختم ہونے پر آئے تو دوبارہ پانی اسی بوتل میں ڈالنا چاہیئے۔
اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ کو دن میں کسی بھی وقت ستر دفعہ پڑھ کر دعا مانگی جائے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی اور قوتِ باہ واپس آجائے گی۔
مؤکل عبدالجبار صاحب فرماتے ہیں کہ جنّات کی وجہ سے اگر کمزوری پیدا ہو یعنی حقوقِ زوجیت ادا کرنے سے مرد قاصر ہو تو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ۲۰ مرتبہ استغفار پڑھتا رہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ۵۰ دفعہ یا اس سے زائد تسمیہ پڑھتا رہے مگر مذکورہ عدد سے بالکل نہ بڑھے انشاء اللہ تعالیٰ قوتِ باہ کے لئے مفید ہے اور رات کو روئی والا فتیلہ بھی جلاتا رہے اس سے بہت فائدہ ہوگا

نقشِ انگشتری

اس نقش مثلث کو چاندی کی انگشتری بنا کر پہن لیا جائے، سحر و جادو اور دفع جنات کے لئے بہت

۹	۴	۳
۱۵	۱۲	۱۸
۱۱	۴۰	۱

مفید ہے۔ البتہ مرد کے لئے ایک تولہ چاندی استعمال کرنا جائز ہے اس سے زائد حرام ہے۔

(۲)

ع	ع	ا
ف	ک	ف
لا	ل	ق
ر	ی	م

اس نقش انگشتری کو جو مؤکل عبدالعلیم صاحب یا علیم الدین صاحب کی طرف سے ہے اور مجرب ہے۔ اگر اس کو گلے میں ڈالی جائے تو جنات اور جادو سے حفاظت ہوتی ہے۔ مگر اس کو دینے سے قبل سات دفعہ آیۃ الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے تاکہ خبیث جنات شرارت نہ کر سکیں اور اس کو ہاتھ سے نہ نکالیں۔

رفع دردِ سر

سورۂ اخلاص کو دس مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے انشاء اللہ تعالےٰ درد آرام ہوگا۔

برائے رفع درد نیم سر

پندرہ مرتبہ سورۂ فاتحہ ہر دفعہ معہ تسمیہ پڑھ کر دم کیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ درد آرام ہوگا۔

کتا بھگانے کے لئے

اگر کتا کاٹتا ہو تو اس کے پاس آنے سے ذرا قبل چار دفعہ تسمیہ اور تین دفعہ سورۂ فاتحہ پڑھ کر اور صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ کو بھی ملائے ان مذکورہ کو پڑھ کر مٹی پر دم کر کے اس کی طرف پھینکے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کتا بھاگ جائے گا یا بالکل خاموش ہوگا۔

چوری شدہ یا غائب شدہ مال کی واپسی کے لئے

چوری شدہ یا غائب شدہ مال کی واپسی کے لئے ص۲۹۹ کا نقش تعویذ استعمال کیا جائے۔ (جو "چوری شدہ مال کی واپسی" کے عنوان پر ہے) اور اگر گھر میں پڑا ہو اور جگہ کا پتہ نہ لگتا ہو کہ گھر کے کس طرف پڑا ہوا ہے تو اس کے لئے اکیس مرتبہ سورۂ الم نشرح الخ پڑھ کر اپنے اوپر اور گھر کے چاروں کونوں کو پھونک مار کر دم کرے انشاء اللہ تعالےٰ غائب شدہ شئی مل جائیگی۔

(مؤکل عبدالرحمٰن صاحب کا مجرب ہے)

⁂

تفریق برائے ناجائز محبّت

یہ پندرہ کا نقش ہے

۸	۱	۶
۳	۵	۷
۴	۹	۲

فلاں بن فلاں درمیان تفریق فلاں بن فلاں

دو آدمیوں کے درمیان اگر ناجائز محبت ہو رہی ہے جس سے ایک دوسرے کے والدین یا رشتہ داروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس نقش کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان جلد جدائی ہوگی۔

غائب کی بازیابی کے لئے

یا ولی		یا ولی
	نام مطلوب مع والدہ	
	نام طالب مع والدہ	
یا ولی		یا ولی

اگر کسی شخص کا کوئی رشتہ دار یا اپنا بھائی وغیرہ گھر سے غائب ہو اور جگہ کا پتہ نہ لگے تو مندرجہ بالا نقش تین بنا کر، ایک مطلوب کی والدہ کو پہنایا جائے دھاگہ اتنا لمبا ہو کر دل پر لٹکتا رہے۔ اور دوسرا نقش درخت کی ٹہنی پر باندھا جائے جس کو ہوا لگ کر ہلتا رہے

تا کہ مطلوب خود بخود مجبور ہو کر گھر واپس حاضر ہو۔ تیسرا نقش لیکر دفن کر دیا جائے۔ یعنی گھر کے اندر دفن کر دیا جائے یا کہ وزنی چیز کے نیچے دبایا جائے۔ علاوہ ازیں کچھ پڑھنے کے بھی وظائف ہیں۔

یَا وَدُوْدُ کو ایک سو گیارہ مرتبہ بعد نمازِ فجر پڑھنا ہے اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا بھی ضروری ہے اور بعد نماز ظہر سورۂ والضحیٰ الخ کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور درود شریف بھی ما قبل جیسے۔ یعنی شروع اور اخیر میں گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھا جائے۔ اور رَبِّ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ کو بھی ہر وقت پڑھا جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جناب میں گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں مانگی جائے انشاء اللہ تعالیٰ مہربانی ہوگی۔

اس عمل کی آخری حد اکتالیس ایام تک ہے ورنہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ وہ آنِ واحد میں سب کچھ کر سکتے ہیں

اغوا شدہ لڑکا یا لڑکی یا چیز کی بازیابی کے لئے

یاحفیظ ایک سو انیس (۱۱۹) بار پھر یٰبُنَیَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ایک سو انیس مرتبہ پڑھا کریں انشاء اللہ گم شدہ لڑکا یا لڑکی یا کوئی شئی ہو واپس آجائے گی۔

(عملیاتِ مدنی۔ بحوالہ ماہنامہ انوارِ مدینہ لاہور ص۲۲)

علاج علے اَمْسَيْتُ فِيْ اَمَانِ اللّٰهِ وَاَصْبَحْتُ فِيْ جِوَارِ اللّٰهِ سوا لاکھ مرتبہ پڑھیں
(حوالہ بالا)

رکھا جائے اور یَا وَدُوْدُ کا وِرد صبح وشام ایک سو گیارہ مرتبہ رہے اور اول آخر میں گیارہ گیارہ دفعہ درود شریف پڑھتی رہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ میاں کا دل نرم ہو کر خود بخود وہ بیوی کی طرف رغبت کر کے واپس آئے گا اور مخالف سب کے سب موافق بن جائیں گے۔

یا ولی

یا ولی

یہاں پر میاں کا نام بمعہ والدہ لکھا جائے گا

علیٰ حُبّ

یہاں بیوی کا نام مع والدہ لکھا جائے گا

یا ولی

یا ولی

اور اگر مثلاً بیوی کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو اس کی نسبت حواکی طرف کی جائیگی اسی طرح اگر میاں کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو اسکی نسبت حضرت حوا کی طرف کی جائیگی۔

اور اگر میاں بیوی میں سحر وغیرہ کا اثر ہو تو دونوں کو سورۂ فاتحہ اور معوذتین پلیٹ میں تحریر کر کے عرق گلاب کے ساتھ ملا کر ایک ایک ہفتہ پینا ہوگا، یعنی عشاء کے بعد پئیں۔ تین ہفتے تک پینا پڑے گا۔

اگر سخت ناراضگی کی وجہ سے میاں اپنی بیوی اور سسرال والوں کے پاس نہیں جاتا تو مؤکلین کے ذریعہ سے اس کے دل کو نرم کرنے کے لئے دم کیا جاسکتا ہے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یا ولی

یا ولی

نام مطلوب مع والدہ

علیٰ حُبّ

نام طالب مع والدہ

یا ولی

یا ولی

بوجہ سحر وجنّات کے نامردی کا علاج

ہمارے مؤکل عبدالرحمٰن صاحب کا کہنا ہے کہ اگر سحر وجنات کی وجہ سے نامردی پیدا ہو اور قوتِ باہ میں کمزوری آجائے تو اس کا علاج مندرجہ ذیل ملاحظہ ہو

اَلْمُؤْمِنُ کو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھ کر صرف ایک مرتبہ اخیر میں اٰمَنْتُ والانفس اس بوتل بھر پانی پر دم کیا جائے اور دس ایام تک صبح وشام یہ پانی میاں بیوی پیتے رہیں اور میاں بیوی کے علاوہ اگر کوئی اور بھی پی لے تو اس میں حرج نہیں۔ اور سات دانے الائچی خورد بھی ڈالنا چاہیے اور جب پانی ختم ہونے پر آئے تو دوبارہ پانی اسی بوتل میں ڈالنا چاہیے۔

اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ کو دن میں کسی بھی وقت ستر دفعہ پڑھ کر دعا مانگی جائے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی اور قوتِ باہ واپس آجائے گی۔

مؤکل عبدالجبار صاحب فرماتے ہیں کہ جنات کی وجہ سے اگر کمزوری پیدا ہو یعنی حقوقِ زوجیت ادا کرنے سے مرد قاصر ہو تو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ۲۰ مرتبہ استغفار پڑھتا رہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ۵۰ دفعہ یا اس سے زائد تسمیہ پڑھتا رہے مگر مذکورہ عدد سے بالکل نہ بڑھے انشاء اللہ تعالیٰ قوتِ باہ کیلئے مفید ہے اور رات کو روئی والا فتیلہ بھی جلاتا رہے اس سے بہت فائدہ ہوگا

علاج ۱۱ سورۂ والضحیٰ پ۳۰ سات مرتبہ پڑھیں پھر اپنے انگشتِ شہادت پھیریں اور سات مرتبہ مندرجہ ذیل کلمات کہیں اَصْبَحْتُ فِیْ اَمَانِ اللّٰہِ وَاَمْسَیْتُ جَوَارِ اللّٰہِ پھر دستک دیں ہر صبح و شام کو تا واپسی مفرور یا ضائع شدہ عمل میں لا دیں۔

ایام ماہواری کی کمی کے لئے

عورت کی ماہواری میں کمی ہو اور اس سے تکلیف ہو تو آیاتِ ذیل کو ترتیب وار لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالدیں کہ تعویذ رحم پر پڑا رہے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَجَعَلْنَا فِیْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِیْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِیْهَا مِنَ الْعُیُوْنِ لِیَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَیْدِیْهِمْ اَفَلَا یَشْكُرُوْنَ ۝ اَوَلَمْ یَرَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ اَفَلَا یُؤْمِنُوْنَ ۝

ایام ماہواری کی زیادتی کے لئے

عورت کی اگر ایام ماہواری میں زیادتی ہو اور اس سے تکلیف ہو تو آیاتِ ذیل کو لکھ کر گلے میں ڈال دیں کہ تعویذ رحم پر پڑا رہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَقِیْلَ یٰٓاَرْضُ ابْلَعِیْ مَآءَكِ وَیٰسَمَآءُ اَقْلِعِیْ وَغِیْضَ الْمَآءُ وَقُضِیَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَی الْجُوْدِیِّ وَقِیْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ

چور جنات کا علاج

عبدالرحمٰن مؤکل کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شریر جن مریض کے گلا کا تعویذ نکال کر بھاگے اور چوری کرے تو اس تعویذ کے اوپر سات مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے پھر گلے میں ڈالا جائے انشاء اللہ تعالیٰ پھر کچھ نہ ہوگا۔ اور گلہ پر دم کردہ پانی جس پر آیۃ الکرسی سات مرتبہ پڑھی گئی ہو چھینٹیں مارے جائیں۔

جو جنات مریض کا گلہ دبائیں

اس کا علاج یہ ہے کہ آیۃ الکرسی سات دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے اور گلے پر چھینٹیں زور سے لگائے جائیں

جو جنات جانوروں پر اثر ڈالتے ہیں ان کا علاج

اٰمَنْتُ والا تعویذ گلے میں ڈالا جائے۔

اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ والا تعویذ اس کے سینگ پر باندھا جائے۔ اور بالٹی بھر پانی پر سات مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھ کر جانوروں کو وہ پانی پلایا جائے انشاء اللہ تعالیٰ اثرات ختم ہوں گے۔

جو جنات گھروں میں پتھر مارتے ہوں

جو خبیث شیاطین گھروں میں پتھر مارتے ہوں پانی پر سات مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھ کر چھینٹیں لگائے جائیں انشاء اللہ تعالیٰ شیاطین

رک جائیں گے اور آئندہ پتھر نہیں پھینکیں گے۔

جس شخص پر کوئی چیز کھلانے پلانے سے اثرات آئے ہوں، ان اثرات کے ازالہ کے لئے

جس شخص کو اگر کسی نے پان وغیرہ کھلایا ہو اور اس کی وجہ سے اس پر دماغی توازن خراب ہو گئے ہوں تو اس کا علاج مندرجہ ذیل ملاحظہ ہو۔ (۱) سورۃ فاتحہ سات مرتبہ

سورۃ الفلق " "

سورۃ الناس " "

پڑھ کر صبح اور شام اس پر دم کیا جائے انشاء اللہ تعالےٰ صحت ہوگی اور اگر ان مذکورہ وظائف کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالا جائے تو بھی گنجائش ہے

برائے ازالۂ نامردی

مؤکل جناب علیم الدین صاحب کی ھدایات

مؤکل علیم الدین صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنات کے سحر و جادو کی وجہ سے نامرد اور کمزور ہو تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ الم نشرح اور معوذتین سورتوں کو ایک پرچی پر چاروں سورتوں کو زعفران سے تحریر کر کے اکیس ایام تک روزانہ ایک ایک پرچی پیتا رہے انشاء اللہ تعالےٰ اس کی نامردی اور کمزوری ختم ہو جائے گی

برائے دفع جنّ و شیاطین

اگر گھر میں پتھر پھینکتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھے۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَّأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ چار میخ لوہے کی لیکر ہر ایک پر پچیس پچیس بار پڑھے اور گھر کے ہر گوشے میں ایک ایک دفن کر دے۔

ایضاً اصحابِ کہف کے نام لکھ کر گھر کے چاروں طرف چسپاں کرے (تجلیاتِ صدیقی ص ۲۷۴)

دودھ چھڑانے کے لئے

جب بچہ کا دودھ چھڑانا ہو تو سورۃ بروج لکھے اور اس کے گلے میں باندھے آسانی سے دودھ چھوڑ دے اور یہ دعا لکھ کر چند روز پلائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ المتين الذی یرزق من یشاء بِقُوَّةِ المتین برحمتك یا ارحم الراحمین

علاج سحر

اٰمنتُ باللہ الخ ۷ مرتبہ اور سورۃ فاتحہ ۷ مرتبہ اور معوذتین ۷ مرتبہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ الخ فَلَمَّا أَلْقَوْا موسیٰ الخ دونوں آیتوں کو تین تین مرتبہ پڑھ کر دم کیا کریں سحر ختم ہوگا۔ یہ عمل سات ایام تک کیا جائے۔

یا کر سونف ڈیڑھ چھٹانک اور گل قند پاؤ بھر ملا کر پیس کر کھانا وجود کے اندر سے اثراتِ سحر خارج ہو جائیں گے۔ سونف کو صبح کھانا ہے اور گل قند شام کو کھانا ہے

غائب کا حال معلوم کرنے کے لئے

۷۸۶

ص | ۳ | ۸ | ۷ | ۷ | ع
۲ | ۶ | ۴ | ۵

جو چیز معلوم کرنی ہو اس کا نام
طالب کا نام مع والدہ
غائب شدہ کی جگہ کا نام

ک ک
ق م

اس نقش تعویذ کو سفید کپڑے میں سلائی کر کے بیس سیر وزن کے نیچے رکھا جائے۔ اس طرح چالیس ایام تک کرتا رہے جو اس کی آخری حد ہے اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ غائب چیز یا انسان ملے گا یا ضرور معلوم ہو گا۔

کاروبار دکان و تجارت کی ترقی کے لئے اور پریشانی دور ہونے کے لئے

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ کو ۷۰ مرتبہ پڑھ کر

ترقی کی طرف دھیان و توجہ کی جائے اور دو رکعت نفل صلوٰۃ حاجت پڑھ کر کاروبار کی پریشانی دور ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔

علاجِ سحر

رات بھر ایک کبوتر کو پکڑ کر مریض کے سامنے باندھنا اور صبح سات مرتبہ سورۂ یٰسین پڑھ کر اس کبوتر پر دم کر کے سورج نکلنے سے قبل دور جا کر اس کبوتر کو اڑانا اس طرح سے اڑائے کر اس کی طرف اس وقت بالکل نظر لگا کر نہ دیکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے اُڑنے سے ہی اثراتِ سحر زائل ہوں گے۔ (مجرب شدہ است)
سورۂ یٰسین ایک آدمی کے علاوہ دوسرے بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں۔

سحر کا ایک اور علاج

اگر مسحور کو کسی صورت میں کوئی چیز نہیں کھلایا جا سکتا اور وہ بالکل اپنوں سے ہٹ کٹ کر غیروں میں مدغم ہو گیا ہو اور فحش کاموں میں مبتلا ہو گیا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ تھوڑی سی پاک صاف مٹی کپڑے میں باندھ کر جس جگہ مسحور رات بھر سوجاتا ہے اس میں رکھ دیا جائے اور صبح اس کی بے خبری سے اٹھا کر اس مٹی کو سات ایام تک صبح تھوڑی تھوڑی ہواؤں میں اڑاتے رہیں۔ اور اس سے قبل سات مرتبہ آمنتُ باللہ والی دعا، پڑھ کر دم

کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس مٹی کو ہوا میں تھوڑی تھوڑی اڑائی جائے۔ ایک ہفتہ کے بعد اگر وہ درست نہ ہوا تو اس پر جنات مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تاکہ مٹی کے اُڑانے سے اس کے دل پر اس کا اثر پڑ جائے اور جنات کے دم کرنے پر وہ جلد از جلد اپنی بُری حرکتوں سے باز آجائے اور اثراتِ سحر ختم ہو جائیں۔

اگر میاں بیوی کا نکاح کورٹ میں ہوا ہو اور وہ آپس میں ایک جگہ رہنا سہنا چاہیں۔

اگر میاں بیوی کا نکاح کورٹ میں چپکے سے ہوا ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ ایک جگہ رہیں سہیں اور جو مخالف ہیں وہ خاموش رہیں تو اس کے لئے مندرجہ ذیل نقش عمل میں لے آئیں۔ ایک گلے میں ڈالنے کے لئے، ایک درخت پر لٹکانے کے لئے اور تیسرا تعویذ وزن دار پتھر وغیرہ کے نیچے رکھنے کے لئے انشاء اللہ حالات درست ہو جائیں گے۔ نقش یہ ہے:

یا ولی　　　　یا ولی

نام مطلوب مع والدہ
ملی حب
نام طالب مع والدہ

یا ولی　　　　یا ولی

غائب شدہ موٹر اور گاڑی کی بازیابی کے لئے


اگر کسی کی گاڑی یا موٹر غائب ہو تو اس کی بازیابی کے لئے چوری والا نقش دو عدد بنا دیئے جائیں ایک گھر میں لگانے کے لئے

جانبِ مشرق میں لگائے جس کا رُخ جانبِ مغرب میں ہو اور ایک نقش وزن دار پتھر کے نیچے ڈالا جائے اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ والی آیت پانچوں نمازوں کے بعد ایک سو گیارہ دفعہ اور ہر وقت پڑھی جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ غائب شدہ مال مل جائے گا۔ (از جانبِ نور الاسلام جن)

نقش یہ ہے:

ع	۷	۷	۸	۳	قل
غائب چیز کا نام	۵	۴	۶	۲	
نام مع والدہ					
ل			ی		
م			ق		

برائے اُمّ الصبیان



اس تعویذ کو موکل اختر احمد صاحب نے عطیہ کیا ہے جس کو ام الصبیان والے بچہ کے گلے میں ڈالا جائے گا۔

برائے فالج



صبح نہار منہ ۷ ایام تک پانی میں گھول کر پی لینا

برائے پھوڑا پھنسی

بسم اللہ الرحمن الرحیم




حافظ محمد ایوب صاحب چوکندی والے کا نسخہ

۲۸ رمضان المبارک ۱۴۰۱ھ م ۳۰ اگست ۱۹۸۱ء

بروز جمعۃ المبارک

میں، مشتاق غوری، حسن احمد، شہاب الدین چوکندی گئے وہاں ۱۳۳۰ھ کی قبریں موجود ہیں جس میں حافظ محمد ایوب صاحب جن کا مکان وہاں پر ہے، اس نے ہم کو یہ مندرجہ ذیل نسخہ دیدیا

نامردی، جنات و جادو کے ازالہ کے لئے




شہد میں ملا کر اکیس ایام تک پانچوں وقتات کی اذان کے بعد چاٹ لیں اور بعد میں کنوئیں کا پانی پی لیں۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

اس کو زعفران سے لکھنا ہے

برائے ازالہ جادو وسحر فقط



اس کو کالی سیاہی سے لکھ کر زعفران میں ڈبو کر کے بوتل میں سادہ پانی ڈال کر یہ ڈال دیا جائے۔ سات ایام تک استعمال کریں۔ اور پانچوں اوقات کی اذان کے بعد پی لیں۔

علاجِ جادو و نامردی

مصری شکر کو زعفران میں ملا کر ایک ہفتہ تک بعد نماز عشاء کھالیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ نامردی ختم ہو جائے گی۔

مصری شکر اور زعفران کے اوپر سورۃ نساء کی ابتدائی آیات يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ الخ کو سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔

ایضاً اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ الخ والا تعویذ کے جملے سات مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے۔

برائے علاج ہر درد

جب بھی کوئی تکلیف ہو اور کوئی درد وغیرہ کہیں بھی ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کر رَبِّ اِنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ کا ورد کرے چند منٹ تک پڑھا کریں اور عجز و عاجزی کے ساتھ اس کو دعا میں دھرائے انشاء اللہ تعالیٰ اسی وقت درد آرام ہوگا۔ مجرب ہے۔

بچے کے رونے کو بند کرنے کے لئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَضَرَبْنَا عَلٰۤى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْۤا اَمَدًا

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ ثُمَّ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ۔ لکھ کر گلے میں ڈالا جائے

بچہ مٹی کھاتا ہو

گلے میں ڈالنے کے لئے

وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ بَعِيْدٍ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ۔

بچہ سوتے میں پیشاب کرتا ہو

ھف ھف ھف ھد ھد ھف ھف ھات ھات انا لہ کف کف ھف ھفف ھفف مھم سعد لم قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ الغالب من حیث ویستحر العدو ابلیس شیخ لنبی آدم کما الذی سجد لآدم الملئکۃ باذن اللہ انہ کریمۃ بنت کریمۃ ولا فلان بن فلان لا لا لا لا لا لا شدرت بسورۃ منتۃ صفت ختمت بخاتم سلیمان ابن داؤد للہ رب العلمین۔

پوست آہو پر لکھ کر گلے میں ڈال دیں۔

اہم برائے استغنا (مجرب ہے)

شب کو سوتے وقت دس مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ کثرت سے پڑھا کریں۔

برائے ردِ سحر

ایضاً مرد کو بیوی کی مجامعت سے روک دیا گیا ہو

بیری کے سات سبز اور تازہ پتے لیکر ان کو دو پتھروں سے پیس کر پانی میں ڈال دو اور اس پانی پر آیۃ الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر دم کرو اور پھر بیمار کو تین گھونٹ پلا دو اور باقی پانی سے وہ بیمار غسل کرے۔ یہ نسخہ بیمار کے لئے تیر بہدف ثابت ہوگا۔ جبکہ جادو کے ذریعہ مرد کو بیوی کی مجامعت سے روک دیا گیا ہو۔

حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی قدس سرہٗ نے فرمایا ہے کہ یہ عمل چودہ دن تک کیا جائے۔ تین مرتبہ چاروں قل اور ایک مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھی جائے۔ مریض کے مستعمل پانی کو دفن کر دینا چاہیے۔

اسلحہ کو بے اثر بنانے کے لئے

کسی کاغذ پر سورۂ ھود تحریر کرے جس کے تمام حروف صاف و روشن ہوں اپنے پاس رکھو بفضلہٖ تعالےٰ دشمن کے تمام اسلحہ بے اثر ثابت ہوں گے، تم اس پر قابو پالو گے اور وہ منہ دکھا کر بھاگ جائے گا۔ اگر سورۂ ھود نہ لکھی جاسکے تو اس کے ابجد والا

حساب کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے تو بھی انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔

۷۸۶

۱۲۸۶۸۷	۱۲۸۷۰۱	۱۲۸۶۹۸	۱۲۸۶۹۵
۱۲۸۶۹۹	۱۲۸۶۹۴	۱۲۸۶۸۸	۱۲۸۷۰۰
۱۲۸۶۹۳	۱۲۸۶۹۶	۱۲۸۷۰۳	۱۲۸۶۸۹
۱۲۸۷۰۲	۱۲۸۶۹۰	۱۲۸۶۹۲	۱۲۸۶۹۷

برائے امساک

ترکیب: اس نقش کو لکھ کر حاجت کے وقت مرد اپنی زبان کے نیچے رکھے یا دھجی میں لپیٹ کر موم جامہ کر کے اپنی کمر میں باندھے انشاء اللہ تعالیٰ امساک ہوگا۔ مجربؐ ونقش مکرم یہ ہے:

ما	ن	ن	و
ص	د	د	ما
ع	ی	و	س
ع	ھ	ن	م

نقش برائے علَم جنگ

اگر جنگ میں علَم (جھنڈے) پر لکھ جائے تو دشمنوں کے ہتھیار کا اثر نہ ہو بلکہ ان کے لشکر میں ابتری پیدا ہوجائیگی (نقش اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

ی الف یاسطیح س ط س غ

۸	۹۹	۱۰۴	۱
۱۰۱	۲	۷	۲۸
۳	۱۴	۹۷	۶
۹۸	۵	۴	۱۰۳

عمل برائے علاج عرق النساء

ایسے مریض کے لئے سورۂ فاتحہ اور سورۂ اخلاص یعنی الحمد شریف اور قل ھو اللہ شریف پوری سات مرتبہ اور اس دعاء کو ایک مرتبہ پڑھ کر دم کرے انشاء اللہ جلد از جلد شفاء ہوگی۔ دعاء یہ ہے:
بسم اللہ الکافی بسم اللہ الشافی بِسْمِ اللّٰہِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِہٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا ھُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ
اس آیت کو سات مرتبہ پڑھے

امتحان کی کامیابی کے لئے

بعد نماز عشاء اول آخر گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ تین سو مرتبہ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ پڑھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ نتیجہ نکلنے تک جاری رکھا جائے۔

برائے علاج دمہ

صبح کی سنت اور فرضوں کے مابین بسم اللہ شریف سے سورۂ فاتحہ ملا کر ۴۱ مرتبہ، اول آخر درود شریف سات سات مرتبہ پانی اور البی سات ماشہ پر دم کر کے ۲۱ روز تک صبح نہار منہ ہلکا سا جوش دے کر میٹھا کر کے پیئے انشاء اللہ تعالیٰ دمہ بالکل جاتا رہے گا

خواص اسماء اصحاب کہف

امام نیشاپوری نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ اسماء کہف بہت سے کاموں میں سریع الاثر اور تیر بہدف ہیں
(۱) اگر کہیں آگ لگ جائے تو ایک کپڑے پر اصحاب کہف کے اسماء لکھ کر آگ کے بیچ میں ڈال دیں آگ سرد ہو جائے گی
(۲) اگر بچہ بہت روتا ہو تو یہ اسماء اصحاب کہف لکھ کر بچے کے سرہانے گہوارہ میں رکھ دیں۔ بچہ کا رونا موقوف ہو جائے گا
(۳) باغ اور کھیتی کی حفاظت کے لئے ایک کاغذ پر لکھ کر کسی لمبے بانس میں باندھ کر لٹکا دیں۔
(۴) دردِ سر اور تپ تیہہ بخار، بادشاہ یا ظالم حاکم کے پاس جانے کے وقت اپنی داہنی ران میں باندھیں۔
(۵) عسر ولادت، پانی کے جہاز یا کشتی میں اپنی حفاظت کے لئے اسماء اصحاب کہف لکھ کر بائیں ران پر باندھیں۔ اسماء اصحاب کہف یہ ہیں:
(۱) یَمْلِیْخَا (۲) مَکْسَلْمِیْنَا (۳) مَثْلِیْنِیَا (۴) مَرْنُوْش

۵ بَرْنُوْش ۶ شَاذْنُوْش ۷ كَشْفَطَطْيُوْش وَكَلْبُهُمْ قِطْمِيْر ۔

حضرت ابوسعید مفتی خادم فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں اصحابِ کہف کو دیکھا، میں نے کہا کہ ہم آپ کے اسماء بطور تبرک لکھتے ہیں مگر کوئی تاثیر ظہور میں نہیں آتی۔ توانھوں نے فرمایا کہ ہمارے نام گول دائرہ کی صورت میں لکھ کر قطمیر وسط دائرہ میں لکھا کریں

برائے حصولِ اولاد

۱۔ اَبْجَدْ ۔ هَوَّزْ ۔ حُطِّي ۔ كَلِمَنْ ۔ سَعْفَصْ ۔ قَرَشَتْ ۔ ثَخَذْ ۔ ضَظَغْ ۔ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّاہ قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا

سورہ مریم ۱۹

فَحَمَلَتْهُ وَبِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى حَمَلَتْهُ بِلُطْفِ اللّٰهِ تَعَالٰى ۔ فَحَمَلَتْهُ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ۔ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۔ سُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۔ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ان آیات سے پہلے سورۂ فاتحہ اور درود شریف لکھ کر بوقت جماع عورت کو پلائے انشاء اللہ تعالیٰ استقرار حمل ہوگا۔ اگر کاغذ پر لکھنے کے بجائے

کسی پاک برتن میں لکھے تو بہتر ہوگا۔

ایضاً برائے حصولِ اولاد

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۔

اول وآخر گیارہ گیارہ بار درود شریف اور درمیان میں ۲۵۰۰ ڈھائی ہزار مرتبہ آیتِ بالا تلاوت کرے اور مندرجہ ذیل نقش اکیس ایک مرتبہ روزانہ لکھ کر دریا۔ یا نہر یا جاری کاریز میں ڈالے انشاء اللہ تعالیٰ چالیس ایام کے اندر اندر استقرارِ حمل ہوگا اور اس کے ہاں باری تعالیٰ فرزند نرینہ عطا کرے گا بشرطیکہ نیت یہ ہو کہ بچہ کا نام محمد یا احمد رکھے گا۔ مجرب ہے۔ نقش یہ ہے :

۷۸۶

۸۱۲	۸۱۵	۸۱۸	۸۰۵
۸۱۷	۸۰۶	۸۱۱	۸۱۶
۸۰۷	۸۲۰	۸۱۳	۸۱۰
۸۱۴	۸۰۹	۸۰۸	۸۱۹

دفینہ کی جگہ معلوم کرنے کا عمل

سورہ شعراء زعفران اور گلاب سے اتوار کے دن ساعتِ شمس میں لکھیں اور اس حرز کو گوہ کی کھال میں سی کر اور اس میں تھوڑی سی پرانی قبر کی مٹی رکھ کر زرد اور نیلے رنگ کے مرغ کی گردن میں لٹکا دیں اور جس جگہ دفینہ ہو وہاں جا کر مرغ کھڑا ہوجائے گا اور دونوں پنجوں سے زمین کریدنے لگے گا۔

دفینے اور خزانے دریافت کرنے کا عمل

اسم اَلْخَبِیْرُ ۸۱۲ بار روزانہ پڑھا کریں۔ خواب میں اس کا موکل سب باتیں بتلائے گا۔

جس عورت کی شادی نہ ہوتی ہو

پوری سورہ طٰہٰ ریشمی کپڑے پر لکھ کر بازو پر باندھیں

ایضاً جس عورت کی شادی نہ ہوتی ہو

پوری سورہ طٰہٰ لکھ کر اس کے پانی سے غسل کریں بہت جلد نکاح ہو جائے گا۔

غلام نوکر یا اولاد یا بیوی کہنا نہ ماننے

اگر چوپایہ شوخی کرے یا اولاد باغی ہو کہنا نہ مانے تو یہ آیت پڑھ کر اس کے کان میں پھونکیں اور کئی دن یہ عمل کریں انشاء اللہ تعالیٰ مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا۔ آیت یہ ہے: اَفَغَیْرَ دِیْنِ اللّٰہِ یَبْغُوْنَ وَلَہٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّکَرْھًا وَّاِلَیْہِ یُرْجَعُوْنَ۔ پ۳ ع آخری

ہچکی لگنا

سورۃ دھر کی یہ مبارک آیتیں مٹی کے کورے برتن میں عرق گلاب

سے لکھ کر پھر برتن سے عرق گلاب دھو کر مریض ہچکی والے کو پلائیں اور یہ آیتیں سات سات مرتبہ پڑھ کر دم پھونک مارنا انشاء اللہ تعالیٰ ہچکی بند ہو جائے گی۔ آیتیں ملاحظہ ہوں: یُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَیَخَافُوْنَ یَوْمًا کَانَ شَرُّہٗ مُسْتَطِیْرًا ٥ وَیُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّہٖ مِسْکِیْنًا وَّیَتِیْمًا وَّاَسِیْرًا ٥ اِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْہِ اللّٰہِ لَا نُرِیْدُ مِنْکُمْ جَزَآءً وَّلَا شُکُوْرًا ٥ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِیْرًا فَوَقٰہُمُ اللّٰہُ شَرَّ ذٰلِکَ الْیَوْمِ وَلَقّٰہُمْ نَضْرَۃً وَّسُرُوْرًا

قے اور متلی

سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک آیتیں وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّھِمْ اگر کسی کو متلی ابکائی ہو اور کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو ایک کورے مٹی کے پیالے کو عرق گلاب سے دھو کر خشک کرنے کے بعد ان مبارک آیات کو لکھ کر مریض کو اس میں تین دفعہ پانی پلائیں یا دوا پلائیں نہایت اور مجرب ہے۔ سورہ دھر کی یہ مبارک آیتیں وَیُسْقَوْنَ فِیْھَا کَاْسًا کَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبِیْلًا ٥ عَیْنًا فِیْھَا تُسَمّٰی سَلْسَبِیْلًا ٥

ابکائی کو روکنے کے لئے ایک کورے برتن پر ان آیات کو لکھ کر عرق گلاب گاؤزبان سے دھو کر پلانا نہایت مجرب ہے۔

تبادلہ کی منسوخی کے لئے

ملازمت کے سلسلے میں کسی جگہ سے دوسری جگہ یا ایک شہر سے دوسر

شہر میں تبادلہ ہوگیا ہو اور اس کو گھر کو انا مقصود ہو تو اس کے لئے عشاء کی نماز کے بعد انیس ایام تک انیس دفعہ سورۃ لھب یعنی تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ الخ (پوری سورہ) پڑھ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور ہوگی۔

بچوں کی ضد کا علاج

بچوں کی ضد ختم کرنے کے لئے ام الصبیان والا تعویذ آمَنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ کے نیچے لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں انشاء اللہ مرضِ ضد ختم ہوگا۔ اُم الصبیان والا تعویذ یہ ہے:

۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳

۲

بچوں کا خواب میں ڈرنا زیادہ رونا چیخ چیخ کر رونا، لرزنا خود کو یا دوسروں کو نوچنا بغیر کسی وجہ کے بار بار بخار رہنا کسی قسم کی پیدائشی بیماری یا کمزوری، صحیح نشوونما نہ ہونا، جسم پر سے گوشت ختم ہوجانا، سوکھ کر کانٹے کی طرح ہونا، پانی کی طرح دست آنا اور آنکھوں میں حلقے بن جانا یہ سب ام الصبیان کے مرض کی علامتیں ہیں۔ یہی ام الصبیان والا تعویذ گلے میں ڈالا جائے۔

بخار چڑھانے کے لئے

سورۃ قٓ کی یہ مبارک آیت:
يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ
اگر کسی مریض کے لئے بخار چڑھانا مفید ہو اس کے ماتھے پر اس آیت کا لکھنا نہایت مفید ہے اور اسی آیت کو لکھ کر مریض کو پلانا بھی مفید ہے انشاء اللہ تعالیٰ مریض کو بخار ہو جائیگا۔

جس شخص کو رات کو نیند نہ آتی ہو

سورۃ فرقان کی یہ مبارک آیت وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا جس مریض کو رات کو نیند نہ آتی ہو وہ مریض خود یا دوسرا شخص پانچ سو مرتبہ اسی آیت کو پڑھ کر پانی پر دم کرکے مریض کو پلائے اور سات ایام تک برابر اس عمل کو کرے انشاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا۔

بچہ کا رونا اور خواب میں ڈرنے کا علاج

یہ سورہ رعد کا نقش ہے اس کو مریض کے گلے میں ڈالتا ہے

۷۸۶

۸۱۵۶۵	۸۱۵۶۰	۸۱۵۲۷
۸۱۵۶۶	۸۱۵۶۴	۸۱۵۶۲
۸۱۵۶۱	۸۱۵۶۸	۸۱۵۶۳

ایضاً بچہ کے رونے کے لئے

یہ سورۃ ابراھیم علیہ السلام کا نقش ہے۔ مریض کے گلے میں ڈالنا ہے

۷۸۶

۶۱۴۴۷	۶۱۴۶۰	۶۱۴۵۷	۶۱۴۵۴
۶۱۴۵۸	۶۱۴۵۳	۶۱۴۴۸	۶۱۴۵۹
۶۱۴۵۲	۶۱۴۵۵	۶۱۴۶۲	۶۱۴۴۹
۶۱۴۶۱	۶۱۴۵۰	۶۱۴۵۱	۶۱۴۵۶

عیدالاضحیٰ کی قربانی کے جانور ذبح کرنیکی دعا

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عیدالاضحیٰ کی قربانی کے دو دنبے موٹے تازے اپنے دست مبارک سے کاٹے جب جانور کو قبلہ رُخ لٹایا تو آپ نے یہ دعا پڑھی

اِنِّیْ وَجَّھْتُ وَجْھِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰی مِلَّۃِ اِبْرَاھِیْمَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰھُمَّ مِنْکَ وَلَکَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّاُمَّتِہٖ بِسْمِ اللّٰہِ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ

اَللّٰھُمَّ ھٰذَا عَنِّیْ وَعَمَّنْ لَّمْ یُضَحِّ مِنْ اُمَّتِیْ۔

جانور کے ذبح سے قبل یہ دعا آپ نے پڑھی کہ یا اللہ یہ قربانی تیرے ہی لئے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی کرنے کی طاقت واستطاعت نہیں رکھتے۔

ماشاء اللہ نبی علیہ السلام کے امت کے اوپر کتنے احسانات ہیں کہ غریبوں کی طرف آپ قربانی کرتے تھے اور ان کے حصے ڈالتے تھے صاحب ہدایہ والے نے باب الھدایا میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک سو اونٹنیاں نحر فرمائے۔ تریسٹھ چونکہ آپ کی عمر تھی اس لئے ۶۳ اپنے دست مبارک سے نحر مائے اور باقی سینتیس ۳۷ اونٹنیاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے فرمائے کہ آپ ان کو نحر کیجئے اور فرمایا کہ یہ ایک سو اونٹنیوں کی قربانی میری اور میری امت کی طرف سے ہیں۔ اب امت کے ذی استطاعت حضرات کو چاہیئے کہ آپ کا احسان یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستقل موٹا تازہ بکرا قربانی میں پیش کریں۔ ورنہ گائے اونٹ جو سات آدمی کی طرف سے ہوتے ہیں اس میں ضرور آپ کا حصہ ڈالیں۔

انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے حصہ کے طفیل اور وسیلہ سے سب شرکاء کی قربانیاں قبول ہوں گی۔ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہو جاتی ہے ورنہ ترکِ واجب کا مرتکب ہو کر سخت گنہگار ہوگا۔

اور قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کے بعد یہ دعاء پڑھی جائے۔

اَللّٰھُمَّ تَقَبَّلْہُ مِنِّیْ کَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِیْبِکَ مُحَمَّدٍ وَّ عَنْ خَلِیْلِکَ اِبْرَاھِیْمَ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ۔ اگر قربانی کرنے والا ایک آدمی ہے تو مِنِّیْ کہے اگر بہت شرکاء ہیں تو مِنِّیْ کی بجائے جمع لائے مِنَّا کہے۔

قربانی کرنے والا اگر ذبح کرنا جانتا ہو تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح

کرے ورنہ ذبح کراتے وقت خود موجود ہو جو افضل طریقہ ہے۔

عقیقہ کرنے کی دعاء

عقیقہ کا حکم مستحب کا ہے نہ کہ واجب کا۔ البتہ اس کے کرنے سے بچہ تمام آفات و بلیاتِ سماوی و ارضی سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے حدیث ملاحظہ ہو۔

عن یوسف بن ماھك انھم دخلوا علی حفصة بنت عبدالرحمٰن فسألوھا عن العقیقة فأخبرتھم ان عائشة اخبرتھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرھم عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریة شاة رواہ الترمذی ص۲۱۸ ج۱

ترجمہ: یوسف بن ماھک سے روایت ہے کہ وہ حضرت حفصہ بنت عبدالرحمٰن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عقیقہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا حضرت نے اس سے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے کہ لڑکے کے عقیقہ میں دو ہم عمر بکریاں اور لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکری۔

یہی روایت ام کرز رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ لڑکے کے لئے دو بکریاں اور لڑکی کے لئے ایک بکری۔ نر و مادہ میں کوئی فرق نہیں۔ بکرا ہو یا بکری، دنبہ ہو یا دنبی ہو دونوں جائز اور باعثِ فضیلت و ثواب ہیں۔

عقیقہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن ہونا چاہئے۔ اگر ساتویں دن میسر نہ ہو تو پھر چودھویں دن ہونا چاہئے۔ اور اگر چودھویں دن

بھی موقعہ ہاتھ نہ آئے تو پھر اکیسویں دن کو ہونا چاہئے۔ جس دن عقیقہ ہوگا اسی روز بچہ کے سر کے بالوں کا منڈوانا بھی سنت ہے۔ اور ان بالوں کو چاندی کے ساتھ وزن کر کے غرباء کو صدقہ و خیرات کیا جائے اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈیاں توڑنا جائز نہیں یہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر نیک فالی کے طور پر کسی نے اس طرح کیا تو کوئی حرج بھی نہیں۔ جیسے کہ حضرت عبدالرحمٰن کی بیوی کے گھرانے کی ایک عورت نے نذر مانی تھی کہ اگر عبدالرحمٰن کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو ہم اونٹ ذبح کریں گے اور جوڑوں سے اس کو کاٹا جائے گا ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی۔

عقیقہ کا گوشت قربانی کی طرح ہے۔ عقیقہ والا خود بھی کھا سکتا ہے جس طرح دوسروں کو کھلاتا ہے۔ عقیقہ کی دعاء ملاحظہ ہو۔

اَللّٰھُمَّ اِنَّ ھٰذِہٖ عقیقة ابنی فلاں (بچہ کا نام لے) دَمُھَا بِدَمِہٖ وَلَحْمُھَا بِلَحْمِہٖ وَعَظْمُھَا بِعَظْمِہٖ وَجِلْدُھَا بِجِلْدِہٖ وَشَعْرُھَا بِشَعْرِہٖ اَللّٰھُمَّ تَقَبَّلْھَا مِنِّیْ وَاجْعَلْھَا فِدَاءً لِابْنِیْ مِنَ النَّارِ

(ترجمہ) اے اللہ یہ میرے فلاں بیٹے کا عقیقہ ہے، اس کا خون گوشت، ہڈیاں، چمڑہ اور اس کے بال اس کے خون گوشت ہڈیوں چمڑے اور اس کے بالوں کے عوض میں۔ اے اللہ اسے میری طرف سے قبول فرمانا اور اسے نارِ جہنم سے میرے بیٹے کا فدیہ بنانا۔

استخارہ کی دُعا اور حدیثِ استخارہ بروایتِ حضرت جابرؓ

عن جابر بن عبد اللہ رضؓ قَالَ کان رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم یُعلّمنا الاِستخارَۃَ فی الاُمُور کُلّھا کما یُعلّمنا السُّورۃَ مِنَ القرآن یقول اِذَا ھَمَّ اَحَدُکم بالامر فلیرکعْ رکعتَین من غیر الفریضۃِ ثُمّ لیقُل: اَللّٰھُمَّ اِنّی اَستخیرُکَ بِعِلمِکَ وَاَستقدرُکَ بِقُدرَتِکَ وَاَسئَلُکَ مِن فَضلِکَ العَظِیم فَاِنّکَ تَقدِرُ وَلَا اَقدِرُ وَتَعلَمُ وَلَا اَعلَمُ وَاَنتَ عَلّامُ الغُیُوبِ اَللّٰھُمَّ اِن کُنتَ تَعلَمُ اَنَّ ھٰذَا الاَمرَ خَیرٌ لِّی فِی دِینِی وَمَعَاشِی وَعَاقِبَۃِ اَمرِی او قال عَاجِلِ اَمرِی وَآجِلِہٖ فَاقدُرہُ لِی وَیَسِّرہُ لِی فِی دِینِی وَمَعَاشِی وَعَاقِبَۃِ اَمرِی اَوقَالَ فی عَاجِلِ امری وَ آجلہ فاصرفہُ عَنّی واصرِفنِی عَنہُ وَاقدِر لِیَ الخَیرَ حَیثُ کَانَ ثُمّ اَرضِنِی بِہٖ (قال) ویُسمّی حاجتہ۔

(بحوالہ صحیح بخاری ج ۱ ص۱۵۵ تا ص۱۵۶ ملاحظہ ہو)

ترجمہ: حضرت جابر عبداللہ انصاریؓ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عام معاملات میں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن پاک کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپؐ فرمایا کرتے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی (اہم) کام کا ارادہ کرے تو اسے دو رکعت نفل (بعد عشاء) ادا کرنی چاہیے پھر دعا مانگنا چاہیے: اے اللہ بے شک میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے طلب خیر کرتا ہوں تیری ہی قدرت کے ذریعے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے عظیم فضل میں سے کچھ فضل وکرم کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اسلئے کہ تو تو بے شک (ہر کام کی) قدرت رکھتا ہے (جبکہ) میں کسی کام کی (از خود) قدرت نہیں رکھتا تُو تو سب کچھ جانتا ہے اور میں (کچھ بھی) نہیں جانتا۔ اور تو ہی غیب کی باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے حق میں میرے دین، میری دنیاوی زندگی اور میرے انجامِ کار کے اعتبار سے یا فرمایا کہ میری دنیوی اور اُخروی زندگی کے لحاظ سے میرے حق میں بہتر ہے تو تو اس کو میرے لئے مقدر فرما دے اُسے میرے لئے آسان کر دے اور پھر اس میں میرے لئے برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے دین و دنیا اور انجام کے لحاظ سے۔ یا فرمایا: میری دنیوی اور اُخروی زندگی کے اعتبار سے میرے حق میں بُرا ہے تو تُو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے۔ اور جہاں (جس وقت اور کام میں) میرے لئے خیر ہو وہ میرے لئے مقدر کر دے اور پھر مجھے اس کام کے ساتھ راضی بھی رکھ۔ راوی کہتے ہیں: کہ اور اپنی ضرورت بیان کرے۔

غرضیکہ استخارہ کے متعلق تاجدارِ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی، فعلی حدیثیں موجود ہیں اسی طرح تقریری حدیث بھی موجود ہے۔

اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ آپؐ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کا نکاح سن ۲ ہجری میں اپنے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ سے کر دیا۔ لیکن بوجہ ان میں نباہ نہ ہو سکا اور

طلاق کی نوبت آگئی۔ عدت گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے خود ان سے نکاح کرنا چاہا۔ تو حضرت زید ہی کو پیغام نکاح دیکر بھیجا۔ ان کی مرضی معلوم کرنا چاہی۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ میں نے جب پیغام دیا تو وہ کہنے لگی
کہ میں اپنے پالنے والے سے استخارہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گی پس وہ اپنے گھر میں اسی جگہ پر چلی گئیں جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھیں۔ وہاں جاکر انھوں نے نماز استخارہ پڑھی اور اسی وقت قرآن کا حکم اُترا جس میں خدا نے ان دونوں کی شادی کا اعلان کردیا تھا۔ (بحوالہ سنن نسائی ج ۲ ۔ ص ۶۱)

دراصل استخارہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندہ عاجز اپنے قوی وقدیر رب سے مشورہ کرتا ہے اور اس میں جو کچھ منجانب اللہ فیصلہ ہوتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ اس لئے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے اور ہمارا اس پر سو فیصد ایمان ہے کہ جو بندہ اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ سے صلاح ومشورہ نہ لے اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت اور بدنصیب نہیں۔ اور جس کام میں استخارہ کیا جائے گا ان شاء اللہ العزیز اس کام میں ضرور کامیابی اور کامرانی ہوگی اور کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے گی۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ استخارہ کی نیت کرکے دو رکعت نماز نفل بعد نماز عشاء کے پڑھے، اس کے بعد خوب دل لگاکر مذکورہ دعاء تین مرتبہ پڑھے۔

تکبیرات التشریق کی دعاء اور اس کا ثبوت

وعن شقیق عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یکبر بعد صلوٰۃ الفجر یوم عرفۃ الی صلوٰۃ العصر من آخر ایام التشریق ویکبر بعد العصر رواہ ابو بکر بن ابی شیبۃ واسنادہ صحیح

وفی حاشیۃ آثار السنن رقم ۷۲۸ قول الحافظ ابن حجر فی الدرایۃ ج۱ ص۲۲۲ قول علی اخرجہ ابن ابی شیبۃ باسناد صحیح عنہ وکذا قول ابن مسعود

ترجمہ: حضرت شقیق حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ذی الحجۃ کی ۹ تاریخ کو بعد نماز فجر سے لیکر ایام تشریق کے آخری دن یعنی ۱۳ ذی الحجہ کی عصر تک جو ۲۳ نمازیں بنتی ہیں، آپ یہ دعاء پڑھا کرتے تھے۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو ہر نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا پڑھنے والے اس میں برابر ہیں اسی طرح مرد وعورت دونوں پر واجب ہے۔ البتہ عورت باواز بلند تکبیر نہ کہے، آہستہ کہے۔ (شامی)

حافظ ابن حجر العسقلانیؒ شارح بخاریؒ نے درایہ کے اندر اس قول کی تصدیق وتائید کرکے فرمایا کہ یہ مذکورہ روایت حضرت علیؓ کی بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ (بحوالہ آثار السنن مصنف محدث کبیر محمد بن علی نیموی)

دفع متلی وقے واضطرابِ قلب

مندرجہ ذیل کلمات زبان سے کہے انشاء اللہ تعالیٰ تکلیف دور ہوجائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے عبد اللہ کے، عبد اللہ بیٹے ہاشم کے، ہاشم بیٹے عبد مناف کے

نقش برائے مقہوری اعداء

عطیۂ شاہ عبد الغنی پھولپوری ؒ بامفتی محمد شفیع صاحب ؒ

ق	ا	ھ	ر
ھ	ر	ق	ا
ر	ھ	ا	ق
ا	ق	ھ	ر

برائے وسعتِ رزق

صبح کی نماز کے بعد ستر مرتبہ یہ آیت پڑھے اَللّٰہُ لَطِیْفٌ بِعِبَادِہٖ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ وَھُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ

تمام حوائج ومصائب کے لئے

۳۴۱ مرتبہ حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ ہر روز صبح کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھے۔
عملِ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی ؒ بروایتِ حضرت مولانا

پھولپوری ؒ۔ ناقل حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

عطیۂ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری ؒ برائے مقصد برآری

ناقل حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ؒ

چار رکعت نفل پڑھ کر یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ (۳۶۰) تین سو ساٹھ مرتبہ۔ اول آخر سات سات مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر بالحاح وزاری مقصد کے لئے دعاء کریں۔

برائے تسخیر
(عطیۂ حضرت گنگوہی قدس سرہٗ)

یَا عَزِیْزُ کی کثرت کرے، کوئی تعداد مقرر نہیں۔ شوہر کے لئے حاکم کے لئے بہت آزمودہ اور مجرب ہے۔

برائے منظوری درخواست وعرضی

لکھی ہوئی درخواست پر بغیر روشنائی کے خالی انگلی سے یہ کلمات لکھے بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ اللّٰہَ وَعَدَ الصَّابِرِیْنَ نَصْرًا وَمَنْ یَّتَوَکَّلْ عَلَیْہِ یُسْرًا کَلَّآ اِنَّ کِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِیْ عِلِّیِّیْنَ

برائے کشائشِ رزق از حضرت گنگوہی ؒ

کوئی وقت معین کرکے ہر روز اسی وقت گیارہ سو مرتبہ یَا بَاسِطُ

پابندی سے پڑھا کرے

بچے کے غیر معمولی رونے کا علاج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ
تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں ڈالا جائے۔

کشائش رزق کے لئے

صبح کی سنت اور فرض کے درمیان ایک تسبیح (سو مرتبہ) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْم پڑھنا مجرب ہے۔

ناجائز محبت کا توڑ

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۲۶۰ مرتبہ نمک پر پڑھیں اور کھلائیں انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا

غلط التعلق کا توڑ


اس تعویذ نقش کو گھول کر پلائیں انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا

۹	۹۵	۳۱	۲۲	۴۱	۲۵
۷	۴۵	۲۳	۶۴	حره	لو
۳د	ھ	۶ب	۶	لحر	۴۲

تعویذ برائے بجا شدن ناف

اس کو نقش کو ناف پر باندھیں انشاء اللہ تعالیٰ فوراً آرام ہوگا

الٰہی بحرمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ



برائے پیغام شادی و نکاح

دیا مدید اجعلها ساده فرحتی تاتی فلانة بنت فلانة وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ عجل الله الوحا الله الصور انهم سا يقون

شادی و نکاح کے بعد برائے محبت زوجین

میاں بیوی کے نکاح و شادی کے بعد دونوں کی محبت کیلئے

مندرجہ ذیل آیت کو لکھ کر دونوں کو پلایا جائے یا کر گلے میں ڈالا جائے انشاء اللہ تعالیٰ دونوں میں بے انتہا محبت پیدا ہوگی۔

وَاَلَّفَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَیْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ

زبان کی لکنت دور کرنے کے لئے

اللّٰهم اطلق لسانی بحرمة خاتم الانبیاء اپنی شہادت کی انگلی کو اپنی زبان کے مقابل یا اوپر رکھ کر تین دفعہ پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ (آمین)

تین مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِیْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ کو پڑھ کر اپنی سبابہ والی انگلی پر دم کر کے چاٹ لیوے۔ بعد ازاں تین دفعہ مذکورہ بالا دعا پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ کامیاب اور فائدہ ہوگا۔

امتحان میں کامیابی کے لئے

① صبح کی نماز کے بعد ۲۱۱ مرتبہ یَا عَلِیْمُ پڑھا کرے اور جب پرچہ

دینے لگے تو اس کی کثرت کرے ② پرچہ دینے سے پہلے سورۃ نٓ وَالْقَلَمِ ایک دفعہ پڑھے۔

بچے کے رونے کا علاج

سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، معوذتین۔ اَللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلَا یُغْلَبُ اللّٰهُ غَالِبٌ وَلَا یُعَوِّقُهٗ هَارِبٌ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ صہ صہ صہ صہ صہ صہ صہ صہ صہ اُصْمُتْ اَیُّهَا الْمَوْلُوْدُ بِقُدْرَةِ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْمَعْبُوْدِ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا وُجُوْهٌ یَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وُجُوْهٌ یَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ لکھ کر بچے کے گلے میں لٹکا دیں۔

غضب و غصہ دور کرنے کے لئے

ایک چھری پر اسماء ذیل حَقٌّ حَیٌّ بَارٌّ حَبِیْبٌ حَكِیْمٌ مُعِیْدٌ حَفِیْظٌ حَكِیْمٌ قُلْنَا یٰنَارُ كُوْنِیْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا وَّسَلٰمًا وَّسَلٰمًا وَّسَلٰمًا لکھ کر آگ پر گرم کر کے پانی میں بجھا کر پلائیں۔ ایضاً روٹی کے ٹکڑے پر سورۃ الم نشرح لکھ کر اس کو کھلا دیں تو بھی غصہ انشاء اللہ تعالیٰ جاتا رہے گا۔

چوپاؤں کے پاؤں کے پھوڑوں کا علاج

اسماء ذیل اس کے چاروں کُھروں پر لکھ دیں
هَبْتَ دَيْتَ نَفْرَتَ مَرْتَ

دافع اثرِ سحر ہر قسم

چینی کی صاف طشتری پاک میں یہ آیت پاک سیاہی سے لکھ کر گھی سے محو یعنی مٹا کر مسحور کو چٹا دیں خواہ قدرے شکر بھی چھڑک دیں انشاء اللہ اثرِ سحر زائل ہو جائے گا اور مرتے دم تک نہ ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ پ۵ نساء، ع ۱۴

(نوٹ) با وضو لکھیں۔ صبح چٹائیں ۳-۵-۷ ایام تک کریں

برائے تحصیل علم وحفظ قرآن

سورۂ مدثر پ۲۹ صبح پڑھا کریں۔ اور سورۂ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ مُدَّثِّر پوری چینی کی طشتری میں پاک قلم و دوات سے لکھ کر ۲۱ دن پیا کریں۔ لکھنے سے پہلے ۷۸۶، اوپر یعنی بسم اللہ شریف کے عدد یا بسم اللہ پوری لکھ لیا کریں۔ پانی سے دھو کر روز پیا کریں۔ دیگر یہی سورت کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیں۔ انشاء اللہ تعالے

علم نصیب ہوگا۔

برائے رفع کردن بدخوئی طفل

بچہ کی بدخوابی کے واسطے لکھ کر بچے کی گردن میں لٹکا دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا

شادی شدہ عورت کا خاوند کو اپنی طرف راغب کرنے کیلئے

۷۸۶

٦٠٠٩	٦٠١٣	٦٠١٦	٦٠٠٢
٦٠١٥	٦٠٠٣	٦٠٠٨	٦٠١٤
٦٠٠٤	٦٠١٨	٦٠١١	٦٠٠٧
٦٠١٢	٦٠٠٦	٦٠٠٥	٦٠١٧

اس نقش کو عورت اپنے بازو پر باندھے

چور پکڑنے کا عمل

چور پکڑنے کی ترکیب نابالغ لڑکے یا لڑکی کے دونوں ہاتھوں پر سیاہی تیل میں ملا کر ملے اور یہ منتر ماش کے دانوں پر ایک ایک مرتبہ پڑھ کر ایک ایک دانہ ہاتھ پر مارتا جائے۔ ساتوں دانہ پر بچے کی ہتھیلی پر چور کی صورت نمودار ہوگی۔ انشاء اللہ تعالے

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ فَتَحُوْنَ فَتَحُوْنَ فَتَحُوْنَ جِسْتَكَ

جنتك جنتك شفيعاً شفيعاً عطيثا عطيثا عطيثا سروراً سروراً سروراً اقدوراً قدوراً قدوراً سهلاً سهلاً سهلاً نهلاً نهلاً نهلاً احضروا من جانب المشارق والمغارب بحق سليمان بن داؤد عليهما السلام

جو بچہ ضد کرکے زیادہ روتا ہو

جو بچہ ضد کرکے زیادہ روتا ہو مندرجہ ذیل آیت لکھ کر گلے میں ڈالنا چاہیے اِذْ قَالَتِ امْرَاَةُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

برائے گریۂ طفل وضد کردن بچۂ کوچک

جو بچہ بہت روتا ہو اور بظاہر تندرست ہو تو یہ نقش پاک سیاہی سے لکھ کر گلے میں ڈالیں انشاء اللہ بُرے اثرات دور ہوں گے۔

۷۸۶	یابدوح	۷۸۶
یابدوح	الله	یابدوح
۷۸۶	یابدوح	۷۸۶

قید سے خلاصی کے لئے

سورۂ والطور پ۲۷ قیدی ہر روز پڑھتا رہے انشاء اللہ تعالیٰ

بہت جلد رہائی حاصل ہوگی۔ اور تلاوتِ قرآن کا ثواب یعنی دوہرا فائدہ۔ استغفار اور درود شریف بھی ساتھ پڑھا کریں

استخارۂ مجرّبہ

عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضوء کرکے پاک بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر تین بار درود شریف پڑھیں، پھر دس بار الحمد شریف اور گیارہ بار قل شریف پڑھ کر سینہ پر دم کریں۔ اور رُو بقبلہ دائیں پہلو سوئیں نیت دل میں یہ کریں کہ اللہ کریم اپنے پاک کلام کی برکت سے خواب میں آگاہی بخشیں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ یا کون سا کام بہتر ہے انشاء اللہ تعالیٰ صحیح حال معلوم ہوگا۔ چند دن تک یہ عمل ضرور کریں

استخارہ کا مختصر طریقہ اور مختصر دعاء

اگر کام میں عجلت اور جلدی ہے اتنی مہلت باقی نہیں رہی کہ استخارہ مذکورہ کرسکے تو کام شروع کرنے سے پہلے گیارہ مرتبہ یہ دعاء ذیل پڑھے، جو کنز العمال میں ہے۔

اَللّٰھُمَّ خِرْلِیْ وَاخْتَرْلِیْ۔ ترجمہ: اے اللہ میرے لئے خیر کر اور جو صورت بہتر ہو اس کو ظاہر فرما اور پھر جس طرف قلب کا میلان دیکھے عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہی بہتر ہوگا۔

دراصل اگر کوئی شخص اس اسلامی تعلیم پر عمل کرے تو کبھی اور کسی حال میں پریشان نہ ہوگا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم مسلمان اپنے کاروبار میں ہر بچہ اور بڑے سے مشورہ کرتے ہیں، ظاہری تدبیروں اور

ان کی فکروں میں ہزاروں پریشانیاں اٹھاتے ہیں مگر چند منٹ اس سنتِ حسنہ کے لئے صرف نہیں کئے جاتے اور اسی لئے اکثر وبیشتر تدبیریں اپنی پریشانیوں میں اضافہ کا سبب ہو جاتی ہیں۔

حدیث میں ہے استخارہ کرنے والا نقصان نہیں اٹھاتا اور مشورہ کرنے والا نادم و پشیمان بھی نہیں ہوتا۔

علاج برائے عقیمہ۔ نسخۂ مجربہ

حضرت حسین رضی اللہ تعالےٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی عورت برسوں سے بانجھ ہو اور اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کے لئے پندرہ روز تک ایک ایک سُپاری (پان والا) ترلائی جائے اور اس پر تین بار یہ دعاء پڑھ کر بانجھ عورت کو کھلائی جائے ضرور نطفہ قرار پکڑ دیگا اور خدا کے فضل سے لڑکا ہوگا۔ اور اگر نہ ہوگا تو قیامت کو میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہو۔

دعاء سے مراد کیمیائے سعادت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے

دعائے کیمیائے سعادت

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الرَّبُّ وَاَنَا الْعَبْدُ فَمَنْ یَرْحَمُ الْعَبْدَ اِلَّا الرَّبُّ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْخَالِقُ وَاَنَا الْمَخْلُوْقُ فَمَنْ یَرْحَمُ الْمَخْلُوْقَ اِلَّا الْخَالِقُ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ

الْمَالِکُ وَاَنَا الْمَمْلُوْکُ فَمَنْ یَرْحَمُ الْمَمْلُوْکَ اِلَّا الْمَالِکُ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْغَنِیُّ وَاَنَا الْفَقِیْرُ فَمَنْ یَرْحَمُ الْفَقِیْرَ اِلَّا الْغَنِیُّ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْقَوِیُّ وَاَنَا الضَّعِیْفُ فَمَنْ یَرْحَمُ الضَّعِیْفَ اِلَّا الْقَوِیُّ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْقَیُّوْمُ وَاَنَا الزَّائِلُ فَمَنْ یَرْحَمُ الزَّائِلَ اِلَّا الْقَیُّوْمُ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْعَفُوُّ وَاَنَا الْمُسِیْءُ فَمَنْ یَرْحَمُ الْمُسِیْءَ اِلَّا الْعَفُوُّ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْغَفُوْرُ وَاَنَا الْمُذْنِبُ فَمَنْ یَرْحَمُ الْمُذْنِبَ اِلَّا الْغَفُوْرُ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الرَّحِیْمُ وَاَنَا الْخَاطِیْ فَمَنْ یَرْحَمُ الْخَاطِیْ اِلَّا الرَّحِیْمُ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْمُغِیْثُ وَاَنَا الْمُسْتَغِیْثُ فَمَنْ یَرْحَمُ الْمُسْتَغِیْثَ اِلَّا الْمُغِیْثُ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْمُجِیْبُ وَاَنَا الدَّاعِیْ فَمَنْ یَرْحَمُ الدَّاعِیْ اِلَّا الْمُجِیْبُ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْمُجِیْرُ وَاَنَا الْمُسْتَجِیْرُ فَمَنْ یَرْحَمُ الْمُسْتَجِیْرَ اِلَّا الْمُجِیْرُ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْعَزِیْزُ وَاَنَا الذَّلِیْلُ فَمَنْ یَرْحَمُ الذَّلِیْلَ اِلَّا الْعَزِیْزُ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْمُعْطِیْ وَاَنَا السَّائِلُ فَمَنْ یَرْحَمُ السَّائِلَ اِلَّا الْمُعْطِیْ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْوَھَّابُ وَاَنَا الْیَائِسُ فَمَنْ یَرْحَمُ الْیَائِسَ اِلَّا الْوَھَّابُ یَارَبِّ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْمُفَرِّجُ وَاَنَا الْمَغْمُوْمُ فَمَنْ یَرْحَمُ الْمَغْمُوْمَ

الا المفرج یا رب انت المنجی وانا الغریق فمن یدع الغریق الا المنجی یا رب اللھم انت الرزاق وانا المرزوق فمن یدع المرزوق الا الرزاق یا رب اللھم انت الغفار وانا المتضرع فمن یدع المتضرع الا الغفار یا رب اللھم انت الکاشف وانا المضطر فمن یدع المضطر الا الکاشف یا رب اللھم انت السید وانا المبتھل فمن یدع المبتھل الا السید یا رب اللھم انت سیدی ومولائی فاغفر ذنوبی واعتقنی من النار برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین (نقل شد از جواہر خمسہ کامل، دوسرا جوہر ص۹۹ وغیرہ)

برائے دفع کاہلی در زھد

اگر کسی کو زہد میں کاہلی اور سستی آتی ہو تو اس کے دفعیہ کے لئے یہ اسم دو سو مرتبہ پڑھے بفضلِ خدا کاہلی دور ہوگی۔ اسم یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلکائیل بحق جبار الذی خضع کل جبار بجبروتہ یا کلکائیل

برائے دفع خطرات بعوراتِ اجنبیہ

اگر کسی شخص کو خطرہ نفسانی اجنبی عورتوں کی طرف سے پیش آئے یعنی اجنبی عورتوں کی طرف میلانِ خاطر ہو تو اس کو چاہیے کہ اس طرف سے یا جس کی طرف میلان ہو اس کے پاؤں کی مٹی لیکر اور یہ اسم اعظم پڑھ کر اس طرف ڈالدے اللہ تعالیٰ کے فضل وہ خطرہ دور ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شمعیثا الذی یقلب الشمس

من المغرب الی المشرق

خاوند کا اجنبیہ کے ساتھ ناجائز تعلقات توڑنے کا علاج

اگر کسی کا خاوند غیر عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہو تو عورت کو چاہیئے کہ اس آیت شریفہ کو عروج ماہ نوچندی جمعرات سے شروع کرے۔ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور ایک ہزار بار اس آیت کو پڑھ کر شیرینی پر دم کر کے گیارہ دن کھلائے، انشاء اللہ تعالیٰ خاوند موافق ہو جائے گا اور غیر عورت سے تعلق چھوڑ دے گا۔ آیت یہ ہے: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

مُردہ یا زندہ کو خواب میں دیکھنے کا عمل

سونے سے قبل وضوء کرے اور پاک لباس پہنے، خوشبو اور عطر وغیرہ لگائے اور ایک مرتبہ سورۃ واللیل اور ایک مرتبہ سورۃ والتین پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعاء پڑھے اللھم ارنی فی منامی کذا وکذا واجعل لی من امری فرجا ومخرجا وارنی فی منامی ما استدل بہ علی اجابۃ دعوتی۔ لیکن یہ عمل کرنے میں کپڑوں اور بستر کا پاک ہونا ضروری ہے۔

ایضاً مردے یا زندوں کو خواب میں دیکھنے کا عمل

جس چیز کا خواب میں دیکھنے کا ارادہ ہو تو چاہیئے کہ سونے سے

قبل اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھے۔

اللّٰھمّ یا ربّ ابراھیم وموسیٰ وربّ اسحٰق ویعقوب وربّ جبرائیل وربّ میکائیل وربّ اسرافیل وربّ عزرائیل مُنزل التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان العظیم ارنی فی منامی ما فیہ الخیرات۔

برائے تسخیر وحُبّ

تسخیر کے لئے ذیل کا عمل دس بار پڑھ کر اپنے منہ پر مل کر جس کے پاس جائے گا وہ بے حد محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اور اس میں بہت سے فوائد ہیں مجرب ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَیَّ وَاْتُوْنِیْ مُسْلِمِیْنَ یَا خَیْرَ الْمَقْصُوْدِیْنَ یَا خَیْرَ الْمَطْلُوْبِیْنَ یَا خَیْرَ الْمَحْبُوْبِیْنَ یُحِبُّوْنَھُمْ کَحُبِّ اللّٰہِ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰہِ۔

ایضاً برائے تسخیر۔ مجرب المجرّب ہے

یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَیْرِ یَا بَدِیْعُ پانچسو مرتبہ پڑھے۔ اول آخر دس بار درود شریف خدا کے فضل وکرم سے تمام لوگ تابع رہیں گے۔ اس کے پڑھنے کے لئے کوئی وقت متعین نہیں۔ کوئی سا بھی وقت مقرر کر لے۔ مجرب المجرب

نقش برائے تسخیر خلائق

اکسیر و مُجرب ہے

۷۸۶

۱۹۶	۱۹۹	۲۰۲	۱۸۹
۲۰۱	۱۹	۱۹۵	۲۰۰
۱۹۱	۲۴	۱۹۷	۱۹۴
۱۹۸	۱۹۳	۱۹۲	۲۰۳

باوضو، لکھ کر اور عطر لگا کر سیدھے بازو پر باندھے

نقش برائے تالیف وتسخیر قلوب

۷۸۶

۲۹۰۳	۲۹۰۶	۲۹۰۹	۲۸۹۵
۲۹۰۸	۲۸۹۶	۲۹۰۲	۲۹۰۷
۲۸۹۷	۲۹۱۱	۲۹۰۴	۲۹۰۱
۲۹۰۵	۲۹۰۰	۲۸۹۸	۲۹۱۰

یہ نقش سیدھے بازو پر باندھے بے حد مجرب المجرب ہے

یہ نقش محبت کے لئے اکسیر و مجرب ہے

۷۸۶

یہ نقش طالب اپنے سیدھے بازو پر باندھے

۸	۱۱	۱۴	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۵

الحبّ یا جبرئیل بحق آدم و حوّا فلان بنت فلانہ را مبتلا گردد بحق یا بدوح یا بدوح یا بدوح

نقش برائے محبت

مجرب المجرب ہے

اس نقش کو لکھ کر جس کو پلائے گا محبت کرے گا۔
ایک دن درمیان میں ناغہ کرکے پلایا جائے ورنہ تاثیر باطل ہوجائیگی

۷۸۶

۸	۲	۱۰
۹	۷	۴
۳	۱۱	۶

نقش برائے محبتِ زوجین

۷۸۶

۴۴۶	۴۴۱	۴۴۸
۴۴۷	۴۴۵	۴۴۳
۴۴۲	۴۴۹	۴۴۴

یہ نقش کاب اپنے سیدھے بازو پر باندھے

الحب فلان بن فلان علی حب فلان بن فلان

برائے محبت و برائے کامیابی کیس عدالت

القیوم	۷۸۶		ھوالحی
۲۳	۲۶	۲۹	۱۶
۲۸	۱۷	۲۲	۲۷
۱۸	۳۱	۲۴	۲۱
۲۵	۲۰	۱۹	۳۰

یامعز بعزتک یامعز یاعزیز

اس نقش کو پگڑی وغیرہ میں موم جامہ کرکے اپنے پاس رکھے۔ عدالت یا اپنے آقا کے پاس جائے تو انشاء اللہ سب لوگ اس کے مطیع ہوں گے۔

برائے پھوڑا پھنسی خارش اور صفائی خون کیلئے

ل	ل	ل	ل	ل
ل	ل	ل	ل	ل
ل	ل	ل	ل	ل
ل	ل	ل	ل	ل
ل	ل	ل	ل	ل

چینی کی پلیٹ پر مندرجہ بالا نقش کھانے کے زرد رنگ یا زعفران سے لکھ کر پانی سے دھو کر پیئیں یا بڑی پلیٹ پر لکھ کر اور بالٹی میں دھو کر اس پانی سے غسل کیا جائے۔ معمولی پھوڑے پھنسیوں کے لئے گیارہ روز اور زیادہ کے لئے ایک مہینہ اور خون کی صفائی کے لئے ایک پلیٹ روزانہ چالیس ایام تک دھو کر پی لیں۔

بہن بھائیوں کا آپس میں جھگڑے کا علاج

اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَّاَكِيدُ كَيْدًا

ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ پڑھ کر تکیوں پر چالیس روز تک دم کیا جائے لیکن یہ احتیاط ہو کہ دورانِ علاج ایک کا تکیہ دوسرا استعمال نہ کرے۔

مرضِ برص سے احتیاط اور اس کا علاج

علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالےٰ عنہ نے ارشاد

فرمایا کہ دھوپ کے گرم پانی سے نہ نہلایا کرو کیونکہ یہ برص پیدا کرتا ہے۔

صحبت کے وقت عورت کی شرمگاہ دیکھنے کی ممانعت

علاج : شرعۃ الاسلام میں لکھا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ وقتِ قربت عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھا کرو اس لئے کہ اس میں خوف ہے کہ کہیں اولاد نابینا پیدا نہ ہو اور اس سے اولاد بے حیا اور بے غیرت بن جاتی ہیں۔ بوقتِ صحبت میاں بیوی دونوں یہ دعا پڑھیں اَللّٰھُمَّ جَنِّبْنَا الشَّیْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ عَلٰی مَا رَزَقْتَنَا۔ اس دعا کے پڑھنے سے شیطان وہاں نہیں آسکتا۔ انشاء اللہ اگر مقدر میں اولاد ہو تو اولاد ضرور صحیح و سالم پیدا ہوگی۔

سخت دل کو نرم دل کرنے کا طریقہ

اسم اَلْمَلِکُ کو جو شخص کثرت سے ذکر کرتا رہے گا سرکش و سخت دل نرم دل اور مطیع اور فرمانبردار ہو کر رہے گا (شمس المعارف ص ۹۸)

سَلَامُ کے پڑھنے سے سانپ اور بچھو کو ہاتھ میں لینے سے بھی کچھ ضرر نہ ہوگا

اسم سَلَامُ کا جو شخص کثرت سے ذکر کرے کُل آفات سے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ اور جس پر اس کا حال غالب ہو جب وہ سانپ اور بچھو کو بھی ہاتھ میں لے تو بھی کچھ ضرر و نقصان نہ ہوگا

انشاء اللہ تعالیٰ۔ اس کا ایک نقش مربع لکھ کر اپنے پاس رکھ کر ظالم کے پاس جائے اسکے شر سے محفوظ رہے اور کوئی ہتھیار اس پر اثر نہ کرے۔ شکل نقش سَلَامُ مندرجہ ذیل ملاحظہ (شمس المعارف ص ۹۸)

س	ل	ا	م
۲۹	۲	۳۹	۶۱
۲۸	۵۸	۴۰۲	۳
۴	۴۱	۲۹	۴۱

سُستی، تھکان اور درد کا علاج
ایضاً فالج اور عرق النساء کیلئے شافی کافی ہے

جو شخص سورۃ فاتحہ کثرت کے ساتھ پڑھے اس کو تھکان اور سُستی اور درد نہ ہو۔ اور اگر اس کو پاکیزہ برتن میں لکھ کر گلاب سے دھوئیں اور درد والے کان میں ڈالیں تو درد آرام ہو جائیگا۔ اور اگر اس کو لکھ کر خالص روغنِ بکائن سے دھوئیں اور ستر مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں پھر فالج یا عرق النساء والے کو ملیں آرام ہوگا اور جس شخص کو کوئی حاجت ہو تو اس کو لازم ہے کہ اس سورت کو بترتیب وتنزیل ایمان اور صدقِ دل کے ساتھ قبلہ رو ہو کر ۷ مرتبہ پڑھے اور اس سے پہلے دو رکعت نماز میں فاتحہ اور سورۃ اخلاص سہ بار پڑھ چکا ہو پھر اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگے پوری ہوگی بارہا تجربہ ہے کہ جو شخص فرض و سُنتِ فجر کے درمیان ۴۱ بار سورۃ الفاتحہ چالیس

روز تک پڑھے اس کی حاجت ضرور ہوگی۔ (شمس المعارف ص۱۱۹)

عہدہ دوبارہ حاصل ہونا

جس شخص کا عہدہ کم کر دیا ہو وہ اس کو چاندی کی تختی پر مع اسم موکل کندہ کر کے اپنے پاس رکھے۔ اور اسم جلیل کے ساتھ ذکر اسم مجید کا کرے تو عہدہ دوبارہ حاصل ہوگا۔

۷۸٦

ال	م	جی	د
١٦	١	٣٠	٣١
٢	١٥	٤٢	٣٩
٣٩	٣٣	٣	١٤

کمزوری دور ہو قوت حاصل ہو

خلوت میں اسم قوی کا ذکر کر کے تمام حواس اور اعضاء میں قوت ظاہر ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ بارہ ایام تک پیا کرے قوت آجاتی ہے۔

قوت اور چلنے پھرنے کی طاقت کیلئے اسم المتین

اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے جس کی قوت کسی مرض کی وجہ سے جاتی رہی ہو قوت اور صحت دونوں واپس آئیں گی۔ جو بچہ چلنے پھرنے کی سکت نہ رکھتا ہو اس کے گلے میں باندھنے سے وہ جلد چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ (نقش اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

اسم المتین کا نقش

۷۸٦

ال	م	ت	ین
٤٥١	٥٩	٣٢	٣٩
٥٨	١٩٨	٤٢	٨٣٣
٤١	٣٤	٥٧	٣٩٩

برائے دفع گرگری اسپ

اگر کسی گھوڑے کا پیشاب پاخانہ بند ہو گیا ہو تو یہ نقش لکھ کر اس گھوڑے کو پلائیں۔ ایک دو مرتبہ پلائیں انشاء اللہ تعالیٰ کھل جائے گا۔

نقش ملاحظہ ہو

۷۸٦

یا نافع	١١٠	یا نافع
٢٠	یا نافع	یا نافع
یا نافع	یا نافع	یا نافع

باری کے بخار کے لئے

بخار ہونے سے قبل تین گھنٹہ پہلے ایک کاغذ پر یہ آیت لکھ کر مریض کے ماتھے پر چسپاں کر دیں انشاء اللہ تعالیٰ بخار نہ ہوگا۔ آیت یہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط
دیگر: ایسے ہی مریض کے دونوں ہاتھ دھلا کر دائیں ہاتھ کے ناخنوں پر ک ھ ی ع ص یعنی ک صرف انگوٹھے پر ھ انگشتِ شہادت

پر ی تیسری پر ع چوتھی پر ص آخر پر لکھیں اور بائیں ہاتھ کے ناخنوں پر یہ پانچ حروف ح م ع س ق لکھدیں۔ مرض ان کو گاہے گاہے دیکھتا رہے انشاء اللہ تعالیٰ پہلی بار ورنہ دوسری بار ضرور بخار رُک جائے گا۔

پہلے حرف کھیعص اور دوسرے حم عسق ہیں۔

بچے کے رونے کے لئے

اگر بچہ بہت روتا ہو یہ آیت لکھ کر گلے میں باندھے شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ انشاء اللہ تعالیٰ بچہ کو فوراً سکون اور آرام ہوگا۔

فائدہ: حضرت مولانا شیخ محمد محدث تھانوی فرماتے ہیں کہ آیتِ بالا کا عمل مع نقش یاحفیظ حضرت سید امیر علی صاحب لکھنوی مہاجر مکی کی بیاض سے حاصل ہوا بنظر رفاہ عام یا رفاہ خلائق نقل کیا جاتا ہے بارہا آزمایا ہوا مجرب ہے۔

دیگر یہ نقش شیرخوار بچہ کے دانت آسانی سے نکلیں یہ نقش لکھ کر گلے میں باندھیں اور یہی نقش نظر بند اور آسیب کے لئے بھی ہے اس نقش کے اوپر آیتِ مذکورہ عند اللہ الاسلام تک لکھے اور نیچے لکھے بحق یاحفیظ دارندۂ این نقش را از جمیع بلیاتِ ارضی وسماوی محفوظ دار۔ (نقش اگلے صفحہ پر ہے)

اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰہِ الْاِسْلَامُ پ ۳ آل عمران ۔ ع ۲

۷۹		۸۹۸	۹
۱۳		ح	۸۹۷
۷		ی	۸۱
۹۹		۸۲	۱۱

بحق یاحفیظ دارندۂ این نقش را از جمیع بلیاتِ ارضی وسماوی محفوظ دار

ایضاً بچے کے رونے کے لئے

اَسْكِنْ بِعِزَّةِ اللّٰهِ اَسْكِنْ بِقُدْرَةِ اللّٰهِ اَسْكِنْ بِجَلَالِ اللّٰهِ لکھ کر گلے میں باندھے انشاء اللہ بچے کا رونا بالکل بند ہو جائیگا۔

خاصیت اسماء اصحاب کہف

زمین سرکاری پیمائش میں کم آئے اور دریا بردی سے محفوظ رہے ان دونوں اغراض کے لئے زمین میں دفن کرنا اور دریا کے کنارے گاڑنا مجرب ہے۔ اور ان اسماء کے مزید خواص یہ ہیں

(۱) مال اور زمین غصب اور چوری سے محفوظ رہیں۔

(۲) زمین کے دفینے غیر کی نظر سے بچے رہیں

(۳) حاملہ کے پیٹ پر باندھنے سے حمل محفوظ رہے۔

(۴) وضع حمل کے وقت بائیں ران میں باندھنے سے بچہ آسانی سے پیدا ہو

(۵) اگر کہیں آگ لگ جائے آگ میں ڈالنے سے آگ سرد ہو جائے۔

⑥ وبا کے زمانہ میں ان اسماء کی برکت سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ اسماء یہ ہیں ملاحظہ فرمائیں:

الہی بحرمت ① یملیخا ② مکسلمینا ③ کشفوططط ④ کشافطیونس ⑤ تبیونس ⑥ فطیونس ⑦ بوانس بوس ⑧ وکلبھم قطمیر وعلی اللہ قصد السبیل ومنھا جائر ولو شاء لھدکم اجمعین

برائے دریافتِ دزد۔ چور کے پیٹ میں ضرور درد ہوگا

ترنج کے پتے لاکر ہر ایک پتہ پر اس آیتِ کریمہ کو لکھے اور جن افراد پر شبہ ہو ان کے نام اس آیت کے نیچے لکھے اور آگ میں جلائے چور کے پیٹ میں شدید درد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیھما جزاءً بما کسبا نکالاً من اللہ۔

برائے دریافت دزد اور چور کے سر کے تمام بالوں کا گرنا

اگر کسی کے ہاں چوری ہوجائے اور اس کا چور معلوم نہ ہو تو عامل دس مرتبہ درود شریف شنگرف پر پڑھ کر اپنی ران پر ملے اور چالیس بار ان اسماء کو اُسترہ پر پڑھ کر اپنی ران کے بال مونڈے چور کے سر کے تمام بال خود بخود اتر جائیں گے۔ یہ ایک عجیب عمل ہے۔

چور معلوم کرنے کا عمل

جن کے اوپر چوری کا شبہ ہو ان کے نام علیحدہ علیحدہ کاغذ پر لکھ کر

گیہوں کے آٹے میں گولے بنالیں اور ایک طشت پانی سے بھرلیں۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی اور چاروں قل ایک ایک مرتبہ پڑھ کر ان گولوں کو پانی میں ڈالیں۔ چور کے نام کا گولہ اوپر آئیگا اور باقی غرق ہوجائیں گے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دھلوی "القول الجمیل" میں رقمطراز ہیں کہ اس قسم کے اعمال پر یقین کا درجہ نہ رکھے اور خواہ مخواہ متہم شخص سے نہ اُلجھے۔ اگرچہ اس کا نام بھی عمل میں نکل آئے۔ اس لئے کہ معاملہ حقوق العباد کا ہے اور یہ اعمال ظنی اور یقینی نہیں جب تک قرینہ واضح طور پر نہ ہو۔

برائے بند نمودنِ مار و کژدم و بھڑ

یعنی سانپ کو کیل دینا جس سے وہ حرکت نہ کرسکے۔ جن کنکریوں پر پانی نہ لگا ہو ان پر سات مرتبہ اِنَّھُمْ یَکِیْدُوْنَ کَیْدًا وَّاَکِیْدُ کَیْدًا پڑھ کر دم کرے سانپ، بچھو اور بھڑ پر مارے ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرسکے گا۔

برائے فرزند عقیمہ

٧٨٦

٥	١٠	١٥	٤
١٦	٣	٦	٩
٢	١٣	١٢	٧
١١	٨	١	١٤

اس نقش کو عورت عقیم کی کمر میں باندھیں خدا کے حکم سے لڑکا پیدا ہوگا۔

ایضاً برائے فرزند عورت عقیمہ


د ۴	ط ۹	ب ۲
ج ۳	ہ ۵	ز ۷
ح ۸	ا ۱	و ۶

اس نقش کو عورت کے بائیں ران پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ فرزندِ نرینہ پیدا ہوگا

مجرب نواب صدیق حسن مرحوم

پیپل کے تین پتوں پر ہر پتے پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ۔ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ لکھ دیں مریض وقت بخار سے تین گھنٹے پہلے ایک پتہ زبان سے چاٹ لے پھر ایک گھنٹہ بعد دوسرا پھر تیسرا، وقت سے پہلے چاٹ لے انشاء اللہ تعالیٰ باری کا بخار کبھی نہ ہوگا

نقش برائے عرق النساء یعنی لنگڑی کا درد



ہدایات اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

پہلے مریض کو الٹا لٹا دیں پھر گری کے اوپر جو سخت لکڑی ہوتی ہے اس کی پیالی میں تعویذ کا نقش رکھیں اور سات پرت کپڑے کی گدی بنا کر مریض کے کولہے کی ہڈی پر رکھیں اوپر سے نقش کی پیالی رکھیں۔ اور کپاس کی لکڑی دو عدد لے لیں ایک لکڑی کے کنارے میں آگ لگا کر نقش پر رکھیں جب اس لکڑی کی آگ بجھ جائے تو دوسری لکڑی کو آگ لگا کر جو پہلے ہی سے تیار رکھی ہو اس نقش پر رکھ دیں۔ اسی طرح بار بار دونوں لکڑیوں کو نقش پر رکھیں مریض کو ایسے وقت میں سخت پریشانی ہوگی دو آدمی مریض کو پکڑے رہیں۔ پھر مریض کے مقامِ ماؤف پر اسی وقت چھالہ پڑ جائے گا کچھ دیر بعد چھالوں پر مکھن وغیرہ لگا دیں چھالہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک ہی دفعہ اس عمل سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ بعض مریضوں کو دوبارہ بھی اس عمل کی ضرورت پڑتی ہے

نقش برائے عارضہ پسلی طفلان

۷۸۶

یاھادی	یا اللہ
یاھادی	یا اللہ
یاھادی	یا اللہ
یافتاح	یافتاح

ڈبہ اطفال یعنی بچوں کا مرض پسلی، جس بچہ کو پسلی کا عارضہ ہو جائے یہ نقش باندھیں۔

ایضاً برائے پسلی طفلان کو چکان

(نقش اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

۱۴۲	۱۰۰۹	۱۴۷	۳۱۰۲
یاسلام	یاحفیظ	یامؤمن	یاشافی
۱۴۸	۳۱۰۱	۱۴۳	۱۰۰۸
۳۱۰۰	۱۴۵	۱۰۱۱	۱۴۴
۱۰۱۰	۱۴۶	۳۰۹۹	۱۴۶

یہ نقش واسطے پسلی کے گلے میں ڈالیں

مرض مالیخولیعنی مرضِ وہم

درحقیقت یہ مرضِ مالیخولیا مرضِ وہم ہے جس میں مریض ہمیشہ دوست کو دشمن سمجھتا ہے یا دشمن کو دوست۔ اس بیمار پر ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ معوذتین اور گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کی جائے
مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ

ایضاً برائے مالیخولیا

مالیخولیا کے مریض کے سر پر یہ آیت تین سو تیرہ مرتبہ روغنِ جنبیلی پر دم کرکے مالش کیا جائے۔
فَانْظُرْ إِلٰى اٰثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

برائے اولادِ عقیمہ

جب عورت حیض سے فارغ ہوجائے تو بکری کا ایک موٹا فربہ بچہ

ذبح کرکے دیگچی میں پکا کر اس کی یخنی دن میں پی لے اور یہ آیت پاک و صاف برتن میں اس طرح لکھے کہ کوئی حرف مٹا ہوا نہ ہو اور پھر اسے دے کر وہ پانی بوقتِ جماع عورت پی لے انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے استقرارِ حمل ضرور ہوجائیگا اور بچہ پیدا ہوگا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّيْ كَلَمَنْ سَعْفَصْ قَرَشَتْ ثَخَذْ ضَظَغْ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ بِإِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَحَمَلَتْهُ بِعَوْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَحَمَلَتْهُ بِلُطْفِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَحَمَلَتْهُ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا إِنَّمَا أَمْرُهٗ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

بچہ کے رونے کے لئے

ترکیب: جو بچہ روتا ہو اس قدر کہ گھر میں سب پریشان

ہوں تو اس کے لئے اس نقش کو لکھ کر بچے کے تکیے میں سی کر سر کے نیچے رکھے انشاء اللہ تعالیٰ رونا بند ہو جائیگا۔

ص	ل	ع	ع
۱۳	۱۷	۱۷	و
۱۳	۱۶	۷	ع
۱	۲	۲۴	۱۵

برائے نظرِ بد یا سونے میں ڈر لگتا ہو یا بچہ ضد کرتا ہو

اس کا اکسیر علاج

ترکیب: جس بچے کو نظرِ بد لگ جائے یا ضد کرتا ہو یا سونے میں ڈرتا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق پوری اور قل اعوذ برب الناس پوری تین دفعہ پڑھ کر اس پر دم کرے اور یہ آیات اور دعاء لکھ کر تعویذ بنا کر موم جامہ کر کے بچے کے گلے میں ڈالے قرآنی آیات اور دعاء یہ ہیں یٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ۔

اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔

ایمان پر خاتمہ یا خاتمہ بالخیر کے لئے

جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعاء کے پڑھنے کی عادت بنالے انشاء اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جس قدر چاہو پڑھو کوئی تعداد مقرر نہیں رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

نوٹ: خاتمہ بالایمان یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کو یہ نعمت نصیب ہوا انشاء اللہ تعالیٰ سیدھا جنت کی طرف گامزن ہو کر رضائے الٰہی سے متمتع ہوگا

برائے کشائش رزق

کشائش رزق اور ادائیگی قرض کے لئے مندرجہ ذیل وظیفہ پڑھنے کے لئے عام اجازت ہے۔ نہایت مجرب ہے۔ پڑھ کر فائدہ اٹھائیں۔ اول آخر تین بار درود شریف اور درمیان میں یہ آیۃ کریمہ ایک سو بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرلیں۔ یہ عمل صبح کی نماز کے بعد معمولات سے فارغ ہو کر کریں، آیۃ کریمہ یہ ہے: اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ

برائے درد داڑھ مجرب ہے

اَيُّهَا الضِّرْسُ الْمَضْرُوْسُ اسْكُنْ بِقُدْرَةِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ لکھ کر درد والے دانت کے سوراخ میں دبادیں انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔

حج بیت اللہ کے لئے عمل


سحری کے وقت دو رکعت نفل پڑھے پہلی رکعت میں سورۃ الم نشرح، دوسری میں سورۃ کوثر ۱۴، ۱۴ مرتبہ پڑھے اور سجدہ میں تین بار تسبیح پڑھ کر یہ پڑھے فَقِيْرُكَ بِفِنَائِكَ، عُبَيْدُكَ بِفِنَائِكَ سَائِلُكَ بِفِنَائِكَ سات دن تک یہ عمل کرے۔

نیند نہ آنے کا علاج

اگر پریشانی یا خشکی کی وجہ سے نیند نہ آئے تو سات دفعہ سر پر ہاتھ رکھ کر یہ آیت پڑھے فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ

برائے درد گہن

اس تعویذ کو لکھ کر کمر پر باندھیں انشاء اللہ تعالیٰ فوراً درد دور ہوگا۔



وَاللّٰهُ	غَالِبٌ	عَلٰى	اَمْرِهٖ
غَالِبٌ	عَلٰى	اَمْرِهٖ	وَلٰكِنَّ
عَلٰى	اَمْرِهٖ	وَلٰكِنَّ	اَكْثَرَ النَّاسِ
اَمْرِهٖ	وَلٰكِنَّ	اَكْثَرَ النَّاسِ	لَا يَعْلَمُوْنَ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

برائے درد زِہ

طریقہ یہ ہے کہ پہلے لکھ کر تین دفعہ دکھائیں پھر بائیں ران پر باندھیں۔ تعویذ یہ ہے:

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا

(۱) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

(۲) وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا۔

قیامت کی رسوائی سے حفاظت

سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران قیامت کے روز دونوں ابر کی طرح سایہ بن کر یا دو سائے یا قطار باندھے پرندوں کے دو گروہ بن کر آئیں گی۔ اور پڑھنے والے کی طرف سے حجت بن جائیں گی (وکالت و سفارش کریں گی) ان کی پابندی کرنا برکت ہے اور ان کا چھوڑنا حسرت ہے اور لغو لوگ اس کے پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

قیامت کی رسوائی سے بچنے کے لئے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قرآن والوں کے لئے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئیگا۔

برائے جملہ جانوران

اس آیت کو لکھ کر گلے میں باندھے اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

بچھو کے کاٹنے کا علاج

حدیث میں آیا ہے کہ چند صحابہؓ کہیں جارہے تھے اور ایک بستی میں پہنچے اور ان سے روٹی مانگی انہوں نے روٹی نہ دی، اچانک ان بستی والوں میں سے کسی کو بچھو نے کاٹ لیا تو وہ صحابہؓ کے پاس آئے اور کہا کہ اس پر دم کر دو، صحابہ کرامؓ نے فرمایا کہ ہم مفت دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمیں تیس بکریاں نہ دیں، انہوں نے تیس بکریاں دے دیں تو ایک صحابی نے سات دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا اور اس کو اسی وقت آرام آگیا۔ ایضاً: جس کو بچھو کاٹ لے تو اس کو چاہیے کہ ایک کھلے برتن میں پانی ڈال کر اس میں نمک بھی ڈال لے، پھر کاٹی ہوئی جگہ اس میں رکھے پھر نیم کی چھوٹی سی چھڑی لے کر اس عضو پر پھیرتا رہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس چھڑی کو جھاڑ دے پھر دوسری مرتبہ دو دفعہ پڑھے تیسری مرتبہ تین دفعہ پڑھے، چوتھی مرتبہ چار دفعہ، پانچویں مرتبہ پانچ دفعہ پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آرام ہوگا

جس کو سانپ ڈس جائے تو چالیس روز تک عشاء کے بعد اندھیرے

میں وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ایک سو، ا بار پڑھے پھر چپ چاپ بغیر کسی کے ساتھ بولنے کے سو جائے ایک چلہ کے آپ عامل ہو جائیں گے پھر جس کو سانپ کاٹے اس پر گیارہ گیارہ بار پڑھ کر تین دفعہ دم کریں، بفضلہ تعالیٰ زہر کے قطرے ٹپکتے نظر آئیں گے۔

موذی جانور سے نجات

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

آیت کریمہ تین دفعہ پڑھ کر سینہ پر دم کرے، سانپ بچھو کے کاٹنے سے انشاء اللہ تعالیٰ محفوظ رہے گا۔

برائے دفعیہ از شر حاکمان

بارشادِ حضرت درخواستی مدظلہٗ یہ دعاء مبارک لکھ کر جیب میں رکھے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْنِيْ بِسِتْرِكَ الْجَمِيْلِ الَّذِيْ سَتَرْتَ بِهٖ نَفْسَكَ فَلَا عَيْنٌ تَرَاكَ ۔ اور یہ نقش بھی دعاء کے ساتھ لکھے:

النصر	الفتح	البشریٰ
العاجل	المبین	من اللہ

برائے تزکیۂ نفس و دفعیۂ شرِّ حاسدان و شرِ حاکمان

دعاء مبارک جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جور و جبر کے وقت پڑھی پھر یہ دعاء مبارک حضرت شیخ مولانا غلام محمد دین پوری ؒ نے حضرت درخواستی صاحب مدظلہ کو فرمائی تھی۔ دعاء یہ ہے

یَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ وَيَا قَرِيبًا غَيْرَ بَعِيدٍ وَيَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ اِجْعَلْ لِيْ فِيْ هٰذَا الْاَمْرِ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا۔

بعد از نمازِ عشاء و نمازِ صبح سات مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے بدن پر ملیں۔

حضرت درخواستی کا بیان ہے کہ جب میں بہاولنگر میں قید تھا تو میں مذکورہ دعاء بھولے ہوئے تھا، اچانک عشاء کے وقت مجھے یاد آئی اور میں نے پڑھ لی تو بفضلِ ایزدی مجھے کہا گیا کہ آپ بہاول پور چلے جائیں یہاں آتے ہی میری رہائی ہو گئی۔

فتح جنگ و کامیابی بر دشمن

روایت ہے کہ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضؓ کو جنگِ خیبر کو جاتے وقت ارشاد فرمایا دعاء مذکورہ پڑھ کر میدانِ جنگ میں جاؤ کوئی تیرے مقابلہ کی تاب نہ لاسکے گا اور بالمقابل میدان ہار جائیں گے اور میدان جنگ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دعاء مبارک یہ ہے: اَللّٰهُمَّ اسْتُرْنِيْ بِسِتْرِكَ الْجَمِيْلِ الَّذِيْ سَتَرْتَ بِهٖ نَفْسَكَ فَلَا عَيْنٌ تَرَاكَ

نیز یہی دعاء دشمن یا حاکم کی طرف نظر بچا کر دم کرے دشمنوں حاکموں کے شر سے محفوظ رہے گا انشاء اللہ۔

فتح یابی مقدمہ

اس نقش کو لکھ کر دائیں بازو پر باندھیں اور جب حاکم کے سامنے جائیں تو اس کو سامنے کر لیں۔ نقش یہ ہے: انشاء اللہ کامیابی ہوگی

اذا	جاء	نصر	الله	والفتح	ورایت	الناس	یدخلون	فی	دین
جاء	نصر	الله	والفتح	ورایت	الناس	یدخلون	فی	دین	الله
نصر	الله	والفتح	ورایت	الناس	یدخلون	فی	دین	الله	افواجا
الله	والفتح	ورایت	الناس	یدخلون	فی	دین	الله	افواجا	فسبح
والفتح	ورایت	الناس	یدخلون	فی	دین	الله	افواجا	فسبح	بحمد
ورایت	الناس	یدخلون	فی	دین	الله	افواجا	فسبح	بحمد	ربک
الناس	یدخلون	فی	دین	الله	افواجا	فسبح	بحمد	ربک	واستغفرہ
یدخلون	فی	دین	الله	افواجا	فسبح	بحمد	ربک	واستغفرہ	انه
فی	دین	الله	افواجا	فسبح	بحمد	ربک	واستغفرہ	انه	کان
دین	الله	افواجا	فسبح	بحمد	ربک	واستغفرہ	انه	کان	توابا

سورۂ یٰسٓ ۳۱ کا عمل

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یٰسٓ ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا: جو شخص صبح شام

سورہ یٰسین پڑھیگا اس کی اتنی ضروریات پوری ہوں گی اور ادنیٰ ضرورت فقر اور محتاجی کی ہے۔

قضائے حاجات کے لئے نمازِ جمعہ کے بعد دو زانو قبلہ رو ہو کر سورۃ یٰسین اس طریق پر پڑھے کہ جب پہلے مبین پر پہنچے سورۃ اخلاص تین بار پڑھے۔

(۲) دوسرے مبین پر پہنچے تو سورۃ کوثر تین بار پڑھے۔

(۳) تیسرے مبین پر پہنچے تو سورۃ الم نشرح تین بار پڑھے۔

(۴) چوتھے مبین پر پہنچے تو سورۃ الفاتحہ تین بار پڑھے۔

(۵) پانچویں مبین پر پہنچے تو آیۃ الکرسی تین بار پڑھے۔

(۶) چھٹے مبین پر پہنچے تو یہ دعا تین بار پڑھے۔

اَللّٰہُ لَطِیْفٌ بِعِبَادِہٖ یَرْزُقُ	اللہ مہربان ہے ساتھ بندوں اپنے کے
مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَّھُوَ	رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہی
الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ	زور آور ہے۔

(پ۲۵ سورۃ الشوریٰ رکوع ۲- آیت ۱۹)

(۷) ساتویں مبین پر پہنچے تو تین بار درود شریف پڑھے اور یہ دعا سات بار کرے اَللّٰھُمَّ وَسِّعْ رِزْقِیْ وَسْعَۃً لَّا اَحْتَاجُ اِلٰی اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِکَ اور پھر سورۃ مکمل کرلے

ظالم حاکم سے نجات

حاکم کے سامنے جانے سے پہلے سات مرتبہ سورۃ الناس کے لفظ کا تین بار تکرار کرے، سات دفعہ سورۃ پڑھنے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی کو لب لگا کر اپنے ماتھے پر صرف لام بنائے اب حاکم کے سامنے جاوے سورۃ یہ ہے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِکِ النَّاسِ اِلٰہِ النَّاسِ

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ

اس سورۃ کو تین مرتبہ سوتے وقت غصّہ والا منہ کرکے دشمن کا تصور کرکے اپنی انگلی سے ان کے درمیان میں اشارہ کرے ایک ہفتہ تک یہ عمل کرے انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔

اگر ایک سو مرتبہ والناس الخ ہر روز پڑھا کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے حفاظت رہے گی۔

تعویذ برائے حمل واولادِ نرینہ جننے کے لئے

اسم یا مُبْدِئُ کو نو ٹکڑے کاغذ پر لکھے اور جس وقت عورت حیض سے فارغ ہو اول مہینے میں تین رات مجامعت کریں اور صبح کو ہر روز ایک تعویذ پئیں اس ترکیب سے تین ماہ میں یہ ۹ عدد تعویذ نوش کریں اور مندرجہ ذیل آیت کو لکھ کر عورت کے گلے میں اس طرح لٹکا دیں کہ وہ تعویذ آیت شریفہ کا ناف سے دو انگل نیچے لٹکا رہے انشاء اللہ تعالیٰ عورت حاملہ ہوکر فرزندِ نرینہ جنے گی۔ وہ آیتِ شریفہ یہ ہے:

اَللّٰہُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ اُنْثٰی وَمَا تَغِیْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہٗ بِمِقْدَارٍ ۝ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَۃِ الْکَبِیْرُ الْمُتَعَالِ

یٰزَکَرِیَّآ اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلٰمِ ِۨ اسْمُہٗ یَحْیٰی لَمْ نَجْعَلْ لَّہٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا بحق مریم وعیسٰی ابناً صالحاً طویل العمر بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

برائے استقرارِ حمل۔ از حد مجرّب ہے

۲۱ عدد چوہارے لے کر اس پر سورۂ تغابن ۲۱ بار پڑھیں پھر ایک مہینہ میں سات چوہارے مرد و عورت اس طرح کھائیں کہ ایک چوہارے کو آدھا کر لیں۔ آدھا عورت کھائے آدھا مرد کھلائے پھر جماع کریں۔ اگر پہلے مہینہ میں حمل ٹھہرے تو بہتر ورنہ پھر دوسرے مہینہ میں اسی طرح کریں، حمل ٹھہر جائے تو بہتر ورنہ پھر تیسرے مہینہ میں اسی طرح کریں انشاء اللہ کام بن جائیگا۔

نیز جس رات جماع کریں تو عشاء کی نماز پڑھ کر دونوں مرد و عورت ایک تسبیح رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ کی پڑھ کر پھر ہمبستر ہوں یہ تعویذ عورت کے گلے میں باندھے جب جماع کریں اس وقت اتار کر پیٹ پر ناف سے اوپر باندھے، جماع کے بعد پھر گلے میں ڈالیں اور یہ تعویذ بچوں کی ہر بیماری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ
وَمِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ اللّٰهُ يَشْفِيكَ

۲	۷	۶
۹	۵	۱
۴	۳	۸

[illegible]

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ اللّٰهُ يَشْفِيكَ

برائے بقائے حمل

بروز بدھ بوقت عصر عورت میٹھی روٹی پکائے، اس روٹی پر اس سورۃ کو لکھیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝ مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝
رات کو عورت اپنے ہاتھ سے دو حصے کرے آدھا خود کھائے اور آدھا مرد کھلائے پھر جماع کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور کام بن جائے گا۔
یہ آیت اور اس تعویذ کو لکھ کر عورت کے گلے میں ڈالیں۔

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

یا قابض	یا قابض	یا قابض
یا قابض	یا قابض	یا قابض
یا قابض	یا قابض	یا قابض

دفعیہ امراض وباء

یہ مرض وباء جانوروں اور انسانوں میں لاحق ہوتی ہے۔ اور وہ موت کا شکار ہوجاتے ہیں، تو یہ دعاء مبارک لکھ کر مکان کے چاروں کونوں میں لٹکائے۔ دعاء ملاحظہ ہو:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ لی واحد اطفی بها حر الوباء الحاطمة ربُّ المصطفٰی والمرتضٰی وابناهما والفاطمة

ذہن اور قوتِ حافظہ کے لئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

اس آیت کو صبح کی نماز کے بعد چالیس روز ۲۱ مرتبہ پانی پر دم کرکے پلائے ذہن قوی ہوگا۔

سر کے گنجہ پن کے دفع کے لئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ یہ آیت سات مرتبہ اور درود شریف اول آخر سات سات مرتبہ پڑھ کر تھتکارے، ۲۱ یا ۴۰ ایام تک کرے انشاء اللہ تعالیٰ سر کا گنجہ پن دور ہوگا۔

دیگر اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ الخ والی دعاء سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو فائدہ ہوگا۔

نیند آنے کے لئے

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ پ ۳ ع ۱۱ س آل عمران

اس آیت کو باوضو بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھنا شروع کرے انشاء اللہ بہت جلد اور بہت زیادہ اچھی نیند آئے گی۔

سخت کھانسی کے دفعیہ کے لئے

سفید نمک چھوٹی چھوٹی سات کنکریاں لیکر ہر ایک کنکری پر آیت الکرسی سات سات بار پڑھ کر دم کرے اور نہار منہ ایک ایک کنکری سات روز تک کھائے اور اگر سات مرتبہ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ

یاحفیظ یاحفیظ یاحفیظ کو بھی سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ جلد شفا ہوگی۔

علاج برائے زیادتی بلغم

جس کو کھانسی کی وجہ سے یا کہ بلغمی امراض کی وجہ سے بلغم زیادہ آتا ہو تو صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف سات مرتبہ اور سورۃ فاتحہ مع بسم اللہ سات بار، آیت الکرسی بھی سات بار، تین ماشہ کلونجی پر دم کرے۔ صبح کو سات دانہ کلونجی کے پھانک لیا کرے یا شہد میں ملا کر کھا لیا کرے بلغمی تمام امراض کا خاتمہ ہوگا

پیچش[۱] کے لئے

سورۃ دخان کو لکھ کر پینے پیچش دور ہوتی ہے آیۃ الکرسی سات بار پڑھ کر اسپغول پر دم کرکے ایک چٹکی تین روز تک یا سات روز تک کھلائے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

علاج عسر البول و پتھری کے لئے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ان آیات کو چینی کی رکابی میں لکھ کر پانی سے دھو کر پلائیں انشاء اللہ تعالیٰ مرض بالکل جاتا رہے گا اور باذن اللہ پتھری

[۱] ثابت وغیرہ یا سفید زیرہ صبح شام ایک ایک چٹکی کے ساتھ چینی ملا کر منہ میں پھانکنا جلد شفا دکھاتی ہے۔

نکل جائیگی سات روز تک اس کو پلائیں۔

پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے کے لئے

سورۃ الم نشرح کو چینی کی پلیٹ میں زعفران سے لکھ کر پلائے انشاء اللہ تعالیٰ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکلے گی۔ مسحور کو پلانے سے شفا ہوگی

پیشاب رُک جانے کے لئے

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ اس آیت کو چینی کی رکابی میں لکھ کر دھو کر پلائے انشاء اللہ تعالیٰ جاری ہو جائے گا۔

سلسل بول کے لئے

وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ پ ۱۲ ع ۴ ھود

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ تک ۲۱-۲۱ مرتبہ پڑھ کر جس کو پیشاب زیادہ آتا ہو یا بار بار آتا ہو تو ان آیات کو صبح کی نماز کے بعد یا بھر تلوں پر پڑھ کر اس کے لڈو بنا کر روزانہ صبح کو ایک تولہ کھائے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا ہوگی۔

یاحفیظ یاحفیظ یاحفیظ کو بھی سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ جلد شفا ہوگی۔

علاج برائے زیادتی بلغم

جس کو کھانسی کی وجہ سے یا کہ بلغمی امراض کی وجہ سے بلغم زیادہ آتا ہو تو صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف سات مرتبہ اور سورۂ فاتحہ مع بسم اللہ سات بار، آیت الکرسی بھی سات بار، تین ماشہ کلونجی پر دم کرے۔ صبح کو سات دانہ کلونجی کے پھانک لیا کرے یا شہد میں ملا کر کھا لیا کرے بلغمی تمام امراض کا خاتمہ ہوگا

پیچش[1] کے لئے

سورۂ دخان کو لکھ کر پینے پیچش دور ہوتی ہے آیۃ الکرسی سات بار پڑھ کر اسپغول پر دم کرکے ایک چٹکی تین روز تک یا سات روز تک کھلائے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

علاج عسر البول و پتھری کے لئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ان آیات کو چینی کی رکابی میں لکھ کر پانی سے دھو کر پلائیں انشاء اللہ تعالیٰ مرض بالکل جاتا رہے گا اور باذن اللہ پتھری

[1] ثابت و منہ یا سفید زیرہ صبح شام ایک ایک چٹکی کے ساتھ چینی ملا کر منہ میں پھانکا جلد نشانی دکھاتی ہے۔

نکل جائیگی سات روز تک اس کو پلائیں۔

پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے کے لئے

سورۂ الم نشرح کو چینی کی پلیٹ میں زعفران سے لکھ کر پلائے انشاء اللہ تعالیٰ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکلے گی۔ مسجد کو پلانے سے شفا ہوگی

پیشاب رُک جانے کے لئے

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ اس آیت کو چینی کی رکابی میں لکھ کر دھو کر پلائے انشاء اللہ تعالیٰ جاری ہو جائے گا۔

سلسل بول کے لئے

وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ پ ۱۲ ع ۴ ھود

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ تک ۲۱-۲۱ مرتبہ پڑھ کر جس کو پیشاب زیادہ آتا ہو یا بار بار آتا ہو تو ان آیات کو صبح کی نماز کے بعد پاؤ بھر تلوں پر پڑھ کر اس کے لڈو بنا کر روزانہ صبح کو ایک تولہ کھائے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا ہوگی۔

دفع احتلام کے لئے

دن یا رات کو سوتے وقت وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ
مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝
فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝
يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝

بدایۃ سورہ طارق پ ۳۰
کے پڑھنے سے احتلام نہیں ہوتا۔ ایضاً سورۂ نور کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے احتلام نہیں ہوتا

دیگر رات کو سوتے وقت چاروں قُل اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو احتلام نہ ہوگا۔ ایضاً عمرِ فاروق انگلی کے اشارے سے مثانہ پر پھیرا جائے۔

برائے اِمساک

انگور کے پتہ پر لکھ کر بائیں ران پر باندھے

اَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّيْ كَلِمَنْ سَعْفَصْ قَرَشَتْ ثَخَذْ
ضَظَغْ وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ
وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا
لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ۔ اَمْسِكْ اَيُّهَا الْمَآءُ النَّازِلُ
قلب فلان بن فلانۃ بِلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

ایضاً: اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا
وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۝۔
مصطگی اور دار چینی پر ۱۲ مرتبہ دم کر کے ماشہ دو ماشہ روزانہ کھائے انشاء اللہ مفید ہوگا۔

برائے استرخاء عضو مخصوص

تین روز روزہ رکھے پھر شب کے وقت اٹھ کر اپنی ہتھیلی پر تانبہ کے قلم سے گلاب و زعفران سے لکھ کر چاٹ لے۔ تین روز اسی طرح کرے انشاء اللہ تعالیٰ شکایت دور ہو جائے گی۔ آیت یہ ہے: اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝

علاج برائے مرضِ یرقان (پیلیا)

سورۂ سبا لکھ کر یرقان کے مریض کو پلایا جائے یعنی سات ایام تک پانی پر دم کر کے پلایا جائے یا سورۂ سبا پڑھ کر دم کیا جائے۔ اور دم کیا ہوا پانی سے کچھ مریض پر چھڑکنے سے یرقان انشاء اللہ تعالیٰ دور ہوگا

نقش سورۂ سبا

۷۸۶

۸۴۴۷۴	۸۴۴۶۹	۸۴۴۷۶
۸۴۴۷۵	۸۴۴۷۳	۸۴۴۷۱
۸۴۴۷۰	۸۴۴۷۷	۸۴۴۷۲

دیگر جذام برص یرقان کے لئے سورۂ بیّنہ پوری لکھ کر گلے میں باندھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ یرقان دور ہوگا۔ جذام برص کے لئے بھی بہت مفید ہے انشاء اللہ بالکل آرام ہوگا۔

علاج برائے مرضِ خارش

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّیْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِیْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(پ۳ آل عمران ۵۴)

صبح کی نماز کے بعد یہ اکتالیس مرتبہ پڑھ کر تھتکار دے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

دیگر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ سات مرتبہ سورۂ اخلاص سورۂ فلق سورہ والناس گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر روغن گل اور گندھک پر دم کرکے روغن اور گندھک کو ملاکر سات روز ملے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی

علاج مرض داد کے لئے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ

اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ تک سات مرتبہ پڑھ کر ہر روز دم کرے انشاء اللہ جلد شفا ہوگی۔

ایضاً: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ معوذتین سب سات سات مرتبہ پڑھ کر پرانے گڑ پر دم کرے اور اس گڑ کو سات مرتبہ داد پر رکھے اٹھائے، اس کے بعد انجیر کا دودھ لگائے انشاء اللہ تعالیٰ کامل شفا ہوگی۔

بچہ کا زیادہ رونا اور خواب میں ڈرنا

سورۂ رعد کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے وہ کم روئے گا۔ اور خواب میں سوتے نہ ڈریگا۔ سورۂ رعد کا نقش یہ ہے

۷۸۶

۸۱۵۶۵	۸۱۵۶۰	۸۱۵۲۷
۸۱۵۶۶	۸۱۵۶۴	۸۱۵۶۲
۸۱۵۶۱	۸۱۵۶۸	۸۱۵۶۳

دیگر: سورہ ابراھیم کو حریر یعنی ریشمی کپڑے پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈالے تو زیادہ نہ روئے اور نہ خواب میں چونکے، نظرِ بد اور تمام آفات سے بچا رہے۔ سورۂ ابراھیم کا نقش یہ ہے

۶۱۴۵۴	۶۱۴۵۷	۶۱۴۶۰	۶۱۴۴۷
۶۱۴۵۹	۶۱۴۴۸	۶۱۴۵۳	۶۱۴۵۸
۶۱۴۴۹	۶۱۴۶۲	۶۱۴۵۵	۶۱۴۵۲
۶۱۴۵۶	۶۱۴۵۱	۶۱۴۵۰	۶۱۴۶۱

نومولود چھوٹے بچے کی عمدہ نشو ونما کے لئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلَّذِیْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِیْنٍ ۝ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ (پ۲۱ بدایہ بعد ع۱)

جب بچہ ۱ دن کا ہوجائے تو یہ آیت چینی کی رکابی میں گلاب وزعفران سے لکھ کر آبِ زمزم یا آبِ باران (بارش) کے پانی سے دھوکر دو حصہ کرے ایک حصہ تو بچہ کو دودھ یا شربت وغیرہ میں ملاکر پلادے اور ایک حصہ سات دن تک بچہ کو تھوڑا تھوڑا پلائے انشاء اللہ تعالیٰ بچہ خوب نشو ونما پائے گا۔

علاج مرض چیچک کے لئے

جب چیچک کے آثار معلوم ہوں تو نیلا دھاگہ لے اور سورۃ رحمٰن پڑھے جب فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ پر پہنچے اس دھاگہ پر ایک گرہ دے اور پھونک دے۔ اسی طرح ہر فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ پر گرہ لگادے اور پھونکے اور بچہ کے گلے میں ڈالے انشاء اللہ تعالیٰ چیچک سے محفوظ رہے گا۔

تمام امراض سے شفاء کے لئے علامہ بونیؒ کا مجربہ نسخہ

بحوالہ شمس المعارف ص۵۶۶ تا ص۵۶۷

ا	ل	ق	ا	د	ر
ل	ق	ا	ر	ر	ا
ق	ا	د	ز	ا	ل
ا	د	ر	ا	ل	ق
د	ر	ا	ل	ق	ا
د	ا	ل	ق	ا	د

ا	ل	م	ق	ت	و	ر
ل	م	ق	ت	د	ر	ا
م	ق	ت	د	ر	ا	ل
ق	ت	د	ر	ا	ل	م
ت	د	ر	ا	ل	م	ق
د	ر	ا	ل	م	ق	ت
ر	ا	ل	م	ق	ت	د

(نوٹ) ان دونوں مربع نقشوں کو پلیٹ پر لکھ کر شہد اور پانی سے دھوکر مریض کو پلائیں انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی

سیب نجات حضرت امام شافعیؒ

بحوالہ جواہر خمسہ کامل، دوسرا جزء ص۹۶

کسی نے امام شافعیؒ کو اُن کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا پوچھا

کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان پانچ درودوں کی برکت سے مجھ کو بخش دیا۔ اگرچہ میں لائق بخشش کے نہ تھا۔ وہ درود شریف یہ ہیں :

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰی عَلَیْہِ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ یُصَلِّ عَلَیْہِ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا اَمَرْتَنَا بِالصَّلٰوۃِ عَلَیْہِ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا یَنْبَغِی الصَّلٰوۃُ عَلَیْہِ وَصَلِّ عَلٰی جَمِیْعِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی مَلٰٓئِکَتِہِ الْمُقَرَّبِیْنَ وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصَّالِحِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ہ

نسخۂ اکسیر

اسپغول کے چھلکے سے خونی الادست کا علاج

از مجرباتِ مولانا احمد علی پنجگوری ثم کراچوی

اگر کسی چھوٹے یا بڑے کو دست آنا شروع ہو جائے یا کہ دست کے ساتھ مسلسل خون بھی آئے تو اس کا اکسیر علاج یہ ہے کہ ایک پاؤ دہی کے اندر تین چمچے اسپغول کا چھلکا ملا کر خوب حل کر کے صبح شام کھایا جائے انشاء اللہ تعالیٰ اسی دن ہی دست کا آنا بند ہوگا۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو پاؤ بھر دہی سے کم مقدار میں دو ڈیڑھ چمچہ اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھلایا جائے انشاء اللہ تعالیٰ جلد از جلد خونی

دست وغیرہ کنٹرول ہوگا۔ دورانِ علاج مریض چاول دہی استعمال کر سکتا ہے مگر روٹی سالن استعمال نہ کرے نقصان ہوگا۔

نوٹ : اسپغول کا چھلکا پیک شدہ دواخانوں کا ہو تو سب سے بہتر ہے اس لئے کہ اس میں صفائی زیادہ ہوتی ہے

اسپغول کے چھلکے کے مزید فوائد ملاحظہ ہوں :

مُدرِّ بول۔ مُسکِّن۔ مُلیِّن۔ بہترین قبض کُشا۔ بادکُشا۔ معدہ اور آنتوں کی خراش میں مفید ہے۔ معدہ یا آنتوں کی کمزوری کی وجہ سے دست آرہے ہوں تو اس کے استعمال سے رُک جاتے ہیں اور پیچش میں بھی مفید ہے۔ بواسیر خونی و بادی دونوں کے لئے مفید ہے۔ ایک سے دو چمچہ (چائے کا) اسپغول پانی کے ساتھ پھلنکے یا کسی ہلکے شربت کے ساتھ گھول کر پیئے پیچش کی صورت میں دہی یا لسی کے ساتھ ملا کر پیئے۔

علاج نسخہ اکسیر برائے نزلہ

از مجرباتِ مولانا احمد علی دھانی ثم پنجگوری ثم کراچوی

ایک اہل علم صاحب نے مہربانی فرما کر عاجز واثیم کو نزلہ کے لئے ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا تھا۔ وہ یہ ہے کہ ایک پاؤ کشمش اور ایک چھٹانک کالی مرچ دونوں کو کوٹ کر آدھا پاؤ شہد کے ساتھ ملایا جائے تو یہ ایک قسم کا معجون بنے گا صبح شام ایک ایک چمچہ استعمال کیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ نزلہ کے لئے کافی شافی ہے

دعائے امام مقاتلؒ برائے حاجتِ دینی ودنیوی

بحوالۂ جواہرِ خمسہ کامل۔ دوسرا جوہر۔ صـ۹

امام مقاتلؒ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بحضرتِ قادر ذوالجلال کوئی حاجت دینی یا دنیوی پیش ہو تو اس کو چاہیئے کہ جمعہ کی رات کو سوبار یہ دعا پڑھے (یعنی اس دعا کی ایک تسبیح پڑھے) اور اپنی حاجت چاہے، اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو مقاتل کی قبر پر لعنت کرے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَا دَائِمُ یَا فَرْدُ یَا وِتْرُ یَا اَحَدُ یَا مَالِكَ الْمُلْكِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَیْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ اَجْمَعِیْنَ

برائے اجتماعِ حشرات الارض

ازجواہرِ خمسہ کامل، تیسرا جوہر صـ۲۹۲

جو کوئی اس حرز کو جنگل میں جاکر تین بار پڑھے اور اپنے چہرے پر دم کرکے ایک دائرہ اپنے گرد کھینچ لے اور اس میں بیٹھ جائے اور پھر بے انتہا اس حرز کو پڑھتا رہے اور کہتا جائے کہ (بحقِ این حرز ہمہ ماران حاضر آیند) خدا کی قدرت سے بہت

سے سانپ اس جگہ جمع ہوجائیں گے۔ حرز یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ط وَمَنْ یَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا پ۲۸ بدایہ سورۃ الطلاق

برائے اجتماعِ طیور

حوالۂ بالا صـ۲۹۲ تا صـ۲۹۳

اگر کوئی چاہے کہ پرندوں کو جمع کرے تو اس حرز کو پوستِ گرگ پر لکھ کر بام خانہ پر ایک ڈورے میں باندھے اور کہے (بحق حرز یمانی ہمہ طیور جمع شوند) خداتعالیٰ کے حکم سے تمام پرند اس جگہ جمع ہوں گے حرز یہ ہے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ط وَمَنْ یَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا ۝ (پ۲۸ بدایہ سورۃ الطلاق)

علاج نسخہ اکسیر برائے مرض دمہ

از مجرباتِ حضرت مولانا محمد عمر سربازی مدظلہ العالی

راقم الحروف عاجز و اثیم کو بسماع مولوی عبدالغفور صاحب معلوم ہوا کہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب سربازی مدظلہ العالی (خلیفہ مجاز امام العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر محمد عبدالمالک صاحب صدیقی خانیوالی)

نے کسی اشاعت میں شائع کیا ہے کہ ایک عدد بڑی پیاز کاٹ کر آدھا کلو سرسوں کے کڑوے تیل میں ڈال کر خوب جوش دیا جائے، یہاں تک کہ آدھا کلو تیل میں سے ایک پاؤ رہ جائے اور دورانِ جوش میں پیاز کو خوب ہلایا جائے یہاں تک کہ پیاز کا جزء جزء تیل کے ساتھ مل کر حل ہو جائے۔ پھر یہ معجون جیسے بنے گا۔ پھر اس کی ترکیبِ استعمال یہ ہے کہ صبح و شام ایک ایک چمچہ بڑا والا استعمال کیا جائے۔ دمہ یعنی سانس کے مریض کے لئے انشاء اللہ تعالیٰ شافی وکافی ہے

علاج اُن جن و بھوت کا جو رات کو سونے کی حالت میں سینہ پر بیٹھ کر منہ دباتے رہتے ہیں (جس کو بلوچی میں وَسْپَوک کہا جاتا ہے)

عام طور سے رات کو اور کبھی دن کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جن خبیث بستر پر آکر انسان کے کسی عضو پر بیٹھ جاتا ہے اور کافی وزنی ہوتا ہے اور بعض اوقات سینہ پر بیٹھ کر منہ بھی بند کر کے دباتا رہتا ہے تاکہ سونے والا کچھ نہ بول سکے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ رات باوضو ہو کر سات مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھی جائے اور سات مرتبہ اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ الْعَظِیْمِ وَکَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَکْتُ بِالْعُرْوَۃِ الْوُثْقٰی لَا انْفِصَامَ لَھَا وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰہِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا

خَلَقَ یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیرا جائے سب سے پہلے اپنے قلب اور روح کو بھی دم کرے۔

ایضاً اس کا تعویذ بنا کر گلے میں بھی ڈالا جائے تو بھی مفید ہے۔

اسم اَلْخَبِیْرُ کے خواص و اعمال، پوشیدہ خزانوں اور کاموں کا کشف وایضاً برائے کند ذہن

بحوالہ شمس المعارف حصہ سوم ص۵۴۳

خبیر وہ ذات صاحب اسرار ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اُسے ہر ذی روح کی حرکت کی خبر ہوتی ہے۔ اسم الخبیر کی دعا یہ ہے یَا خَبِیْرُ اَخْبِرْنِیْ عَنْ کَذَا۔ خواب میں سب کچھ معلوم ہوگا۔ مؤکل اس کا قہریائیل ہے جو خزانوں اور پوشیدہ امور بتاتا ہے۔ اس اسم کو مشک و زعفران اور گلاب سے مع اسم مؤکل لکھ کر تکیے کے نیچے رکھیں تو خواب میں سب کچھ معلوم ہوگا۔ اور اگر برتن میں لکھ کر کند ذہن کو پلائیں تو وہ ذہین ہو جائے ذکر یہ ہے اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْخَبِیْرُ الْمُطَّلِعُ عَلٰی خَفَایَا الْمُلْکِ وَالْمَلَکُوْتِ الْعَالِمُ بِدَقَائِقِ عِلْمِکَ الْغَامِضِ اِلٰی بَاطِنِ خَفَایَا کُلِّ شَیْءٍ مِنْ عَالَمِ الشَّھَادَۃِ وَالْجَبَرُوْتِ، اَسْئَلُکَ بِخَبْرِیَّتِہٖ اَحَاطَتْکَ بَوَاطِنِ الْمَوْجُوْدَاتِ فَلَا تَتَحَرَّکُ ذَرَّۃٌ وَلَا تَنْشَقُّ حَبَّۃٌ اِلَّا وَقَدْ اَحَاطَ بِھَا نُفُوْذُ الْمَشِیَّاتِ اَسْئَلُکَ اَنْ تَکْشِفَ عَنْ قَلْبِیْ حِجَابَ

الظلمات في تنزيل انوار الم رافيته ليكون خير الاسرار
سرائر منائك متبهجا بشهود ذاتك اللهم ادخلني
في حصنك الحصين لامن به في جميع الاوقات والنواطن
يتعلمن بشئ بذالك اللهم احرسني بعينك التي لا
تنام واكنفني بركنك الذي لا يضام يا الله يا خير
عباده۔ (نقل شدہ از شمس المعارف ص۳۳)

لڑکی کی جلد شادی ہونے کا عمل

اگر چاندی کی تختی پر اسم علی کو کندہ کر کے جس لڑکی کا پیغام شادی نہ آتا ہو اس کے گلے میں ڈالنے سے جلد تر شادی ہو جائیگی (انشاء اللہ تعالیٰ)۔ ذکر اسم علی یہ ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللهم انت العلي الاعلى الذي لا يشابه علوك
علو المخلوقات ولا يماثل نورك نور الموجودات
والارض والسموات كرسيك القديم الذي وسع
جميع المخلوقات وعرشك العظيم العلي على علو
الدرجات العلويات وكل موجود فيه كذرة الذات
واما علو ذاتك فمنزه عن الحال والمكان ومقدس
عما وجد في الدهور والازمان لانه علو عظمة وجلال
وسمو كبرياء وكمال اسئلك بعلو رحمتك على كل
العلويات وسمو الهيتك على عظيم الجلالات ووحدانية

وحدانيتك على شرف تطهير الكمالات ان تعلي قدري
عندك بمحاسن الطاعات وتجعلني مخلصا فيه بوجهك
الكريم في جميع الاوقات الى الممات اللهم اجعلني في
في حصنك وامنع عني كل معاند وانزل قهر علوك
على من يريد ضرري من كل حاسد ومارد اللهم
خذ بقلبي الى علو رحمة استواءك وخذ بفؤادي
الى تجلي علو قدسك واجعلني اهلا لولايتك مع
رسلك وانبياءك يا الله يا علي۔

جو شخص اس ذکر کی ملازمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قدر ومنزلت بلند کرتا ہے اور نیکی کی توفیق دیتا ہے۔

نقش بدوح کی خاصیت۔ جہاں چاہو شادی ہو جائے

جمعہ کے دن طلوع آفتاب کے وقت شنگرف سے ہرن کی جھلی پر دو صورتیں بنا کر اس پر یہ مربع نقش لکھ کر لوبان عنبر اور ندر اسود کی دھونی دے کر دونوں صورتوں کو سفید ریشم میں لپیٹ کر ترش انار کے درخت کی ٹہنی میں جو شخص لٹکا دے طالب و مطلوب کا نام بھی مربع میں لکھنا چاہیے تو جلد تر مطلوب حاضر ہوتا ہے۔ اگر شادی بیاہ کے لئے جہاں پیغام دیا ہو نقش بدوح مع عزیمت لکھ کر سفید کبوتر کے پر میں باندھ کر کسی کے ذریعہ اس عورت کے گھر جس سے شادی چاہتے ہو اور یہ کبوتر لے جانے والا آدمی اس کے گھر پر آواز دے اس عورت کے

دروازے پر آواز دے کر اس کبوتر کو چھوڑ دے تو جتنی جلد وہ کبوتر اڑے گا اتنی ہی تیزی سے عورت اور اس کے گھر والوں کا دل شادی کرنے والے لڑکے سے ملنے کے لئے بے قرار ہو جاتا ہے۔ (بحوالہ شمس المعارف حصہ چہارم صفحہ ۶)

برائے بلڈ پریشر اور درد گردہ کے لیے

بلڈ پریشر اور پتھری درد گردہ کے لیے عرق گلاب ایک ایک پیالہ روزانہ دو چمچ اصلی شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ شافی و کافی علاج ثابت ہوگا۔ مؤلف کا مجرب المجرب عمل ہے۔

ہر ضرورت پوری کرنے کی دعاء

ہمارے شیخ عبداللہ قرشی جو عرب مصر کے بڑے شیخ ہیں فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات کی ہے اور چھ سو سے زیادہ مشائخ سے فیض حاصل کیا ہے اور فرمایا ایک دن میں حضرت ابو محمد مغاوری کی خدمت میں پہنچا انھوں نے فرمایا میں تم کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جب تم کو ضرورت ہو تم اس سے کام لو، میں نے کہا بہتر۔ فرمایا جب کوئی ضرورت ہو تو یہ دعا پڑھا کرو يَا وَاحِدُ يَا اَحَدُ يَا وَاجِدُ يَا جَوَادُ اَنْفَحْنَا مِنْكَ بِنَفْحَةٍ خَيْرٍ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
ارشاد ہے کہ جب سے میں نے یہ سنا میں اسی میں سے خرچ کرتا ہوں اور فرمایا میں نے قیامت دیکھی جس میں تمام مخلوق

کے مراتب، انبیاء علیہم السلام کے مقامات، اعمال کی صورتیں جو ان کے کرنے والوں پر ظاہر ہوں گی، برزخ اور مردوں کے احوال مجھ پر ظاہر ہوئے اور قرآن عظیم کے حقائق و معارف بھی منکشف ہوئے اور اسرار الٰہی سے بھی میں مطلع ہوا۔
(بحوالہ شمس المعارف حصہ چہارم صفحہ ۶۱۳)

کھیتی سے ٹڈی دور کرنے کے لئے

از مجربات امام سیوطی ؒ صفحہ ۲۰۲

حنظل سمندر کے پانی میں پکا کر اس کا پانی زراعت پر چھڑکنے سے ٹڈی پاس نہیں آتی۔ اگر کتے اور بھیڑیے کا پاخانہ انسان کے بول میں ملا کر اس راستہ پر چھڑک دیا جائے جہاں سے بھیڑیئے اور چیتے کھیتی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر یہ موذی پاس نہ پھٹکیں۔

چیونٹیوں اور مچھروں کے دور کرنے کے لئے
گائے کا پتہ طلا کرنے سے رک جاتی ہیں

آیت ذیل کاغذ کے پرچے پر لکھیں اور اس کے ساتھ نمک یا راکھ یا پانی شامل کر کے چیونٹیوں کی غار پر رکھ آویں یا پتھروں پر پھینک دیں انشاء اللہ تعالیٰ چیونٹیاں نکلیں گی اور پھر بھی بھاگ جائیں گے۔ آیت یہ ہے: قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰاَيُّهَا النَّمْلُ

اُدْخُلُوْا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ٥ پ ۱۹ نمل ع ۲، آیت ۱۸ یا نملات النمل ویا قطعات الشکل یبلغ لکم سیدنا سلیمان بن داؤد علیہما الصلاۃ والسلام وقال لکم اَقْبِلُوْا فی اقبال مَن عقدہٗ اشکال

زمین سے کیڑوں کو بھگانے کے لئے

کیز کے چار پتوں پر اسماء ذیل لکھ کر چاروں کونوں میں ایک ایک پتا دفن کیا کریں سب بھاگ جائیں گے اسماء یہ ہیں: یَا عَلِیْمُ یَا قَدِیْرُ مَالِیْ سِوَاكَ نَصِیْرٌ.

ظالم کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے

الرَّؤُوْفُ الْحَلِیْمُ الْحَنَّانُ وَالْمَنَّانُ ان اسمائے عظیمہ کے ذکر سے ہر بُرائی سے امن میں رہتا ہے۔ بعض اہل بصیرت نے مجھ سے کہا کہ جو شخص خلو معدہ میں ان اسماء کا اتنا ذکر کرے کہ حال غالب آجائے اور وہ ہاتھ میں آگ لے لے تو کوئی ضرر اسے نہ پہنچے گا۔ اگر جوش کھاتی ہنڈیا میں پھونک مار دے تو اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے۔ جو یہ اسماء لکھ کر کسی ظالم کے روبرو جائے جس سے ضرر کا خوف ہو تو اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا اور اس کا غصہ اس ذاکر کو دیکھتے ہی ٹھنڈا ہو جائیگا جو خواہشوں سے مغلوب ہو وہ یہ اسماء ذکر کرے تو اس کی

خواہشات کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔

(نقل شد از شمس المعارف ص۵۹۸)

برائے حفظِ مرکب یعنی ہر قسم کی سواری کی حفاظت کیلئے

گاڑی، گھوڑے، گدھے، خچر، ہوائی جہاز، کشتی، بحری جہاز، بیل، اونٹ، بھینس وغیرہ وغیرہ کے لئے۔ جانوروں کی گردن میں باندھا جائے اور پھر اگر جنگل میں چھوڑے انشاء اللہ کوئی مضرت نہ پہنچے گی۔

اور غیر جانوروں کے لئے فریم کر کے اگلے حصہ میں لٹکایا جائے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا پ ۲۸ بدایہ سورۃ الطلاق ع ۱

ایضاً اگر ان آیات کو لکھ کر اپنے بچے کو پلائے بچے ذہین ہوں اور حصولِ علم کے دروازے اس پر کشادہ ہو جائیں گے۔

خواص القرآن اور اعمال القرآن مع نقوش مربع و مثلث

سورۃ الفاتحۃ لوگوں کے دلوں میں رعب، حاجت براری دفع دردِ سر، بخار کے لئے، بچھو کے کاٹے کے لئے دعا قبول ہونے کے لئے موت کے سوا ہر چیز کی دوا، اهل وعیال کے لئے، ہر بلا سے جمعہ آئندہ تک محفوظ رکھنے کا عمل۔ حصولِ روزی، ہر مرض اور ہر کام کے لئے۔ اس سورت کے (عدد ۹۴۶۶ اور نقش معظم یہ ہے

۲۳۵۷	۲۳۷۱	۲۳۶۸	۲۳۶۵
۲۳۶۹	۲۳۶۴	۲۳۵۸	۲۳۷۰
۲۳۶۳	۲۳۶۶	۲۳۵۳	۲۳۵۹
۲۳۷۲	۲۳۶۰	۲۳۶۲	۲۳۶۷

خواص سورہ بقرہ حافظہ میں زیادتی، دل میں علم کا قرار معرفت چیچک، ہر حاجت کے لئے۔ جس دشمن کو شرعاً ایذاء پہنچانا جائز ہو باغ، درخت اور کھیتی کو جمیع آفات سے بچانے کے لئے۔ کشفِ علوم اور تسخیرِ جن وانسان۔ دفعِ غم کے لئے۔ پیٹ کے درد کا علاج

ﻠﮧ نوٹ: ان تمام نقوش کو چاہے گلے میں ڈالے جائیں یا سیدھے بازو پر باندھے جائیں دونوں کی اجازت ہے۔ مگر سورتوں کی تلاوت کا فائدہ بہت زیادہ ہے بڑی سورتیں نہیں یا کسی جا سکتیں اس لئے یہ ابجد کے حساب والے نقوش بھی بوقت ضرورت سورتوں کے تمام مقام سمجھے جاتے ہیں۔

بادشاہ یا حاکم کو رعیت پر مہربان کرنا، دافعِ اثرِ جادو و نظرِ بد کیلئے رات کو جس وقت چاہو آنکھ کھل جائے۔ خونی بواسیر کا علاج۔ خدا کی رحمت ہونے کا سبب۔ خاوند کی ناراضی دور کرنے کے لئے حاکم کی خفگی کا علاج۔ سانپ، بچھو، پسو اور مچھروں کا علاج، سونے میں شیطان سے محفوظ رہنا۔ بال بچوں اور مکان کی حفاظت، زیادتی رزق، اصلاحِ قلب، حاجت براری، دفع بلغم، مرگی کے لئے، جن کے جلانے، دشمن کی ویرانی کے لئے، ترقی حافظہ وحصولِ مراد کے لئے، برائے دفعیہ آفت۔ اس سورت کے اعداد (۹۴۷۶۰۹) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے

۲۳۶۸۹۴	۲۳۶۹۰۸	۲۳۶۹۰۵	۲۳۶۹۰۲
۲۳۶۹۰۶	۲۳۶۹۰۱	۲۳۶۰۹۵	۲۳۶۹۰۷
۲۳۶۹۰۰	۲۳۶۹۰۳	۲۳۶۹۱۰	۲۳۶۹۰۷
۲۳۶۹۰۹	۲۳۶۸۹۷	۲۳۶۸۹۹	۲۳۶۹۰۴

خواص سورہ آل عمران خاتمہ بالخیر ہونا۔ گمشدہ چیز ملنے کے لئے حفاظتِ حمل۔ برص، روزگار وشادی ہونے کے لئے، خفقانِ قلب کے لئے، دفع بخار کے لئے، قبولیتِ دعا کے لئے۔ اس سورت کے اعداد (۱۸۴۹۵۶) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۶۱۶۵۵	۶۱۶۴۸	۶۱۶۵۳
۶۱۶۵۰	۶۱۶۵۲	۱۶۶۵۴
۶۱۶۵۱	۶۱۶۵۶	۶۱۶۴۹

خواص سورۃ النساء | ہر مرض کے لئے، دشمن پر بحث میں غالب آنے کے لئے دولہا اور دلہن کی وجاہت کے لئے اور صحتِ اعتقاد کے لئے۔ اس سورت کے اعداد (۱۳۹۲۹۳) ہیں

۲۸۴۸۲۲	۲۸۴۸۲۶	۲۸۴۸۲۶	۲۸۴۸۱۵
۲۸۴۸۱۲۸	۲۸۴۸۱۲۱	۲۸۴۸۳۲	۲۸۴۸۲۷
۲۸۴۸۱۷	۲۸۴۸۲۱	۲۸۴۸۲۴	۲۸۴۸۲۱
۲۸۴۸۲۵	۲۸۴۸۲۰	۲۸۴۸۱۸	۲۸۴۸۸۳

خواص سورۃ المائدہ | اکل حرام اور شراب خوری سے نفرت ہونے کے لئے، وضو اور نماز میں وسوسے آنے سے بچنے، اور حبّ کے لئے، عداوت کے لئے، جھوٹ کی عادت چھڑانے کے لئے، وسعتِ رزق اور برکتِ مال کے لئے، قبولیتِ دعاء، بیمار کی صحت کے لئے۔ اس سورۃ کے اعداد (۸۴۸۵۴۶) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۲۱۳۱۳۶	۲۱۲۱۳۹	۲۱۲۱۴۲	۲۱۲۱۲۹
۲۱۲۱۴۱	۲۱۲۰۳۰	۲۱۲۱۳۵	۲۱۲۱۴۰
۲۱۲۱۳۱	۲۱۲۱۴۴	۲۱۲۱۳۷	۲۱۲۱۳۰۲
۲۱۲۱۳۸	۲۱۲۱۳۳	۲۱۲۱۳۲	۲۱۲۱۴۳۰

خواص سورۃ الانعام | دفعِ ریح و دفعِ تشنگی کے لئے، اندیشہ جان کے لئے، ذات الجنب، پھر پیتو کے دفع کرنے کے لئے، فراخی رزق کے لئے، دردِ دندان کے لئے، مفقود الخبر کے لئے، درختوں پر

پھل زیادہ آنے کے لئے۔ اس سورۃ کے (۹۳۵۳۲۹) ہیں اور نقش معظم یہ ہے۔

۲۳۳۸۳۲	۳۳۸۳۵	۲۳۳۸۳۰	۲۳۳۸۲۴
۲۳۳۸۳۷	۲۲۳۸۲۵	۲۳۱۲۸۳۱	۲۳۳۸۳۶
۲۳۳۸۲۶	۲۳۳۸۴۰	۲۳۳۸۳۳	۲۳۳۸۳۰
۲۳۳۸۳۴	۲۳۳۸۲۹	۲۳۳۸۲۷	۲۳۳۸۳۹

خواص سورۃ الاعراف | زیادتی معاش گناہوں کی مغفرت، دفعِ سحر، دشمن کی قید بڑھانے، فالج ولقوہ کے لئے، جادو کے اثر بخار، قساوتِ قلبی کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے اعداد (۲۵۲۵۵۲) ہیں۔ نقش یہ ہے۔

۶۳۳۹۷	۶۳۴۰۱	۶۲۴۰۴	۶۳۳۹۰
۶۳۴۰۳	۶۳۳۹۱	۶۳۳۹۶	۶۳۴۰۲
۶۳۳۹۲	۶۳۴۰۶	۶۳۳۹۹	۶۳۳۹۵
۶۳۴۰۵	۶۲۳۹۴	۶۳۳۹۳	۶۳۴۰۵

خواص سورۃ الانفال | مظفر و منصور رہنے، ہول دل عملِ شکست، عزت و ہیبت، محبت، مشکلات کی آسانی کے لئے مجرب ہے۔ اس سورۃ کی اعداد (۴۱۲۳۷۵) ہیں نقش معظم یہ ہے

۱۰۳۰۹۳	۱۰۳۰۹۶	۱۰۲۰۱۸	۱۰۳۰۸۹
۱۰۳۰۹۹	۱۰۳۰۸۷	۱۰۳۰۹۲	۱۰۳۰۹۷
۱۰۳۰۸۸	۱۰۳۱۰۲	۱۰۳۰۹۴	۱۰۳۰۹۱
۱۰۳۰۹۵	۱۰۳۰۹۰	۱۰۳۰۸۹	۱۰۳۱۰۱

خواص سورۃ التوبہ | سورہ برأت نفاق سے بچاتی ہے۔ چور اور بھاگا ہوا آجائے۔ تجارت میں ترقی، شفاعت نصیب ہونے کے لئے بہتر ہے اس سورۃ کے عدد (۷۰۳۶۱۵) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے

۱۷۵۸۹۶	۱۷۵۹۱۰	۱۷۵۹۰۶	۱۷۵۹۰۳
۱۷۵۹۰۷	۱۷۵۹۰۲	۱۷۵۸۹۷	۱۷۵۹۰۹
۱۷۵۹۰۱	۱۷۵۹۰۴	۱۷۵۹۱۲	۱۷۵۸۹۸
۱۷۵۹۱۱	۱۷۵۸۹۹	۱۷۵۹۰۰	۱۷۵۹۰۵

خواص سورۂ یونس | دنیا و آخرت کی مہمات، چور معلوم کرنے، قدر و منزلت، پنڈلی و پسلی کے درد، درد زہ، بدخوابی، ہر قسم کے امراض کے دفع کے لئے مجرب ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۵۵۱۰۸) ہیں اور نقش معظم یہ ہے

۱۳۷۵۱۹	۱۳۷۵۳۳	۱۳۷۵۳۰	۱۳۷۵۲۶
۱۳۷۵۳۱	۱۳۷۵۲۵	۱۳۷۵۲۰	۱۳۷۵۳۲
۱۳۷۵۲۴	۱۳۷۵۲۸	۱۳۷۵۳۵	۱۳۷۵۲۱
۱۳۷۵۳۴	۱۳۷۵۲۲	۱۳۷۵۲۳	۱۳۷۵۲۹

خواص سورۂ ہود | قوت و نصرت اور ذہن و حافظہ میں ترقی ہو غرق ہونے سے حفاظت۔ نکسیر کے لئے۔ سرکش غلام۔ ترقی رزق فرزند سعید اور ہر غم کے لئے مفید ہے اس سورۃ کے اعداد

(۵۱۴۷۸۱) ہیں اور نقش معظم یہ ہے

۱۲۸۶۸۷	۱۲۸۷۰۱	۱۲۸۶۹۸	۱۲۸۶۹۵
۱۲۸۶۹۹	۱۲۸۶۹۴	۱۲۸۶۸۸	۱۲۸۷۰۰
۱۲۸۶۹۳	۱۲۸۶۹۶	۱۲۸۷۰۳	۱۲۸۶۸۹
۱۲۸۷۰۲	۱۲۸۶۹۰	۱۲۸۶۹۲	۱۲۸۶۹۷

خواص سورۂ یوسف | حُبّ۔ دشمن سے خوف۔ حاجت روائی آنکھ دُکھنے، قید سے رہائی و سرعتِ اجابت کے لئے مجرب ہے، اس سورت کے عدد (۵۰۹۸۸۰) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے

۱۲۵۹۸۷	۱۲۶۰۰۱	۱۲۵۹۹۸	۱۲۵۹۹۴
۱۲۵۹۸۹	۱۲۵۶۹۳	۱۲۵۹۸۸	۱۲۶۰۰۰
۱۲۵۹۹۲	۱۲۵۹۹۶	۱۲۶۰۰۳	۱۲۵۹۸۹
۱۲۶۰۰۲	۱۲۵۹۹	۱۲۵۹۹۱	۱۲۵۹۹۷

خواص سورۂ رعد | ظالم حاکم کی معزولی۔ بچے کے رونے، اسقاطِ حمل۔ اگر لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں تو لڑکا پیدا ہونے کے لئے بانجھ عورت۔ کان کے ورم کے لئے بہت مفید ہے اس سورت کے عدد (۲۴۴۶۹۲) ہیں اور نقش معظم یہ ہے۔

۸۱۵۶۷	۸۱۵۶۰	۸۱۵۶۵
۸۱۵۶۲	۸۱۵۶۴	۸۱۵۶۶
۸۱۵۶۳	۸۱۵۶۸	۸۱۵۶۱

خواص سورۂ ابراھیم ہاتھ پیروں کے درد کے لئے۔ داد کے لئے، تمام آفات کے لئے، برکت کے لئے بے نظیر ہے۔ اس سورۃ کے عدد (٢٤٥٨١٨) ہیں اور نقش معظم یہ ہے۔

٦١٤٥٥	٦١٤٥٧	٦١٤٦٠	٦١٤٤٠
٦١٤٥٠	٦١٤٤٨	٦١٤٥٣	٦١٤٥٨
٦١٤٤٩	٦١٤٦٢	٦١٤٥٥	٦١٤٥٢
٦١٤٥٦	٦١٤٥١	٦١٤٥٠	٦١٤٦١

خواص سورہ حجر جان و مال کی حفاظت۔ قبولیتِ عام۔ حصولِ مراد کے لیے مجرب ہے۔ اس سورت کے اعداد یہ (١٧٦٧٠٩) ہیں اور نقش معظم یہ ہے۔

٥٤٩٠٤	٥٨٨٩٩	٥٨٩٠٦
٥٨٩٠٥	٥٨٩٠٣	٥٨٩٠١
٥٨٩٠٠	٥٨٩٠٧	٥٨٩٠٢

خواص سورۂ نحل اسقاطِ حمل کے لئے۔ اس سورت کے اعداد (٥٢٠١٨٨) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے

١٧٣٣٩٧	١٧٣٣٩٢	١٧٣٣٩٩
١٧٣٣٩٨	١٧٣٣٩٦	١٧٣٣٩٤
١٧٣٣٩٣	١٧٣٤٠٠	١٧٣٣٩٥

خواص سورہ بنی اسرائیل تیر کے خطا نہ کرنے۔ زبان میں لکنت ہونے۔ بھوت پلید کے لئے۔ عزت سے عمر بسر ہونے اور گونگے کے لئے۔ چوری سے امن۔ تنگدلی اور پریشان خواب کے لئے۔ نماز کے شوق کے لئے بہت مجرب ہے۔ اس سورۃ کے اعداد (٢٤٥٨١٨) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے

٦١٤٥٤	٦١٤٥٧	٦١٤٦٠	٦١٤٤٧
٦١٤٥٩	٦١٤٤٨	٦١٤٥٣	٦١٤٥٨
٦١٤٤٩	٦١٤٦٢	٦١٤٥٥	٦١٤٥٢
٦١٤٥٦	٦١٤٥١	٦١٤٥٠	٦١٤٦١

خواص سورہ کھف محتاجگی اور قرض سے بے خوف ہے۔ ظالم۔ دشمن کی تباہی۔ شیر وغیرہ کے حملہ سے بچنے۔ حمل نہ ساقط ہونے۔ سب آفتوں سے حفاظت رات کو کسی وقت اٹھنے کے لئے بہت مجرب ہے۔ اس سورت کے اعداد (٥١٥٥١٧) ہیں۔ نقش معظم ہے۔

١٢٦٣٧٩	١٢٦٣٨٢	١٢٦٣٨٥	١٢٦١٣٧١
١٢٦٣٨٤	١٢٦٣٧٢	٢٠٣٣٧٨	١٢٦٣٨٣
١٢٦٣٧٣	١٢٦٣٨٧	١٢٦٣٨٠	١٢٦٣٧٧
١٢٦٣٨١	١٢٩٣٧٦	١٢٦٣٧٤	١٢٦٣٨٦

خواص سورۂ مریم خوشی کے خواب۔ حمل رہنے کے لئے

ہر جگہ عزت و آبرو ہو۔ خوب پھل آنے کے لیے بہت مفید ہے۔
اس سورت کے عدد (۲۸۹۶۴۴) ہیں نقش معظم یہ ہیں

۹۶۵۴۹	۹۶۵۴۴	۹۶۵۵۱
۹۶۵۵۰	۹۶۵۴۸	۹۶۵۴۶
۹۶۵۴۵	۹۶۵۵۲	۹۶۵۴۷

خواص سورہ طٰہٰ پیغامِ نکاح میں کامیابی۔ عزت اور آبرو و کشادگی ذہن کے لیے۔ دنبل اور زخموں کے لیے، ترقی علم۔ شادی ہونے اور توانگری کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سورۃ کے اعداد (۳۹۹۲۸۳) ہیں اور نقش معظم یہ ہے

۹۹۸۲۰	۹۹۸۲۳	۹۹۸۲۷	۹۹۸۱۳
۹۹۸۲۶	۹۹۸۱۴	۹۹۸۱۹	۹۹۸۲۴
۹۹۸۱۵	۹۹۸۲۹	۹۹۸۲۱	۹۹۸۱۸
۹۹۸۲۲	۹۹۸۱۷	۹۹۸۱۶	۹۹۸۲۸

خواص سورۂ انبیاء قیامت کے دن حساب آسان ہونے۔ نیند آنے متکبر ظالم کی تباہی۔ دردِ زہ وغیرہ۔ جو شخص سحر کی وجہ سے عورت پر قادر نہ ہو رفع مصیبت۔ جنابی۔ اسم اعظم کے لئے مجرب ہے اس سورت کے اعداد (۳۸۲۲۱۹) اور نقش معظم یہ ہے۔

۹۵۵۵۴	۹۵۵۵۷	۹۵۵۶۱	۹۵۵۴۷
۹۵۵۶۰	۹۵۵۴۸	۹۵۵۵۳	۹۵۵۵۸
۹۵۵۴۹	۹۵۵۶۳	۹۵۵۵۵	۹۵۵۵۲
۹۵۵۵۹	۹۵۵۵۱	۹۵۵۵۰	۹۵۵۶۲

خواص سورۂ حج جہاز کو تباہی میں مبتلا کرنے۔ حفظِ حمل۔ بھاگے ہوئے غلام کی اور ظالم کی بربادی کے لیے مفید ہے۔ اس سورت کے اعداد (۳۸۲۳۴۴) ہیں۔ نقش یہ ہے۔

۱۲۷۴۴۹	۱۲۷۴۴۴	۱۲۷۴۵۱
۱۲۷۴۵۰	۱۲۷۴۴۸	۱۲۷۴۴۶
۱۲۷۴۴۵	۱۲۷۴۵۲	۱۲۷۴۴۷

خواص سورۂ مومنون شراب کی عادت چھوٹنے۔ عورت کے حاملہ ہونے۔ خارش۔ آسیب کے لئے مجرب ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۳۵۱۷۱۴) نقش معظم یہ ہے

۱۱۷۲۳۹	۱۱۷۲۳۴	۱۱۷۲۴۱
۱۱۷۲۴۰	۱۱۲۴۳۸	۱۱۷۲۳۶
۱۱۷۲۳۵	۱۱۷۲۴۲	۱۱۷۲۳۷

خواص سورۂ نور احتلام سے محفوظ رہنے۔ شامر وغیرہ کی زباں بندی۔ آشوب چشم اور بانجھ عورت کے لیے اکسیر ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۴۰۲۴۵۷ ہیں اور نقش معظم یہ ہے

۱۰۰۶۱۴	۱۰۰۶۱۷	۱۰۰۶۲۰	۱۰۰۶۰۶
۱۰۰۶۱۹	۱۰۰۶۰۷	۱۰۰۶۱۳	۱۰۰۶۱۸
۱۰۰۶۰۸	۱۰۰۶۲۲	۱۰۰۶۱۵	۱۰۰۶۱۲
۱۰۰۶۱۶	۱۰۰۶۱۱	۱۰۰۶۰۹	۱۰۰۶۲۱

خواص سورہ فرقان موذی جانوروں سے بچنے۔ درد سر شدید۔ بیوی بچوں کی دینداری کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سورہ کے عدد (۲۰۹۵۷۵) ہیں اور اس کا نقش معظم یہ ہے

۵۲۳۵۳	۵۲۳۹۶	۵۲۴۰۰	۵۲۳۸۶
۵۲۳۹۹	۵۲۳۸۷	۵۲۳۹۲	۵۲۳۹۷
۵۲۳۸۸	۵۲۴۰۲	۵۲۳۹۴	۵۲۳۹۱
۵۲۳۹۵	۵۲۳۹۰	۵۲۳۸۹	۵۲۴۰۱

خواص سورہ شعراء صدیق بننے کا ذریعہ۔ زہریلے جانور۔ سفر کی تکالیف سے بچنے۔ اگر کسی جگہ دفینہ کا شبہ ہو۔ اس سورۃ کے مدد (۴۰۳۷۳۸) ہیں نقش معظم یہ ہے

۱۰۰۹۳۴	۱۰۰۹۳۷	۱۰۰۹۴۰	۱۰۰۹۲۹
۱۰۰۹۳۱	۱۰۰۹۲۸	۱۰۰۹۳۳	۱۰۰۹۳۸
۱۰۰۹۲۹	۱۰۰۹۴۴	۱۰۰۹۳۵	۱۰۰۹۳۲
۱۰۰۹۳۶	۱۰۰۹۳۱	۱۰۰۹۳۰	۱۰۰۹۴۱

خواص سورۂ نمل نعمت منقطع نہ ہونے۔ اگر چیونٹیوں کی کثرت ہو۔ سوتے آدمی سے اس کے دل کا حال معلوم کرنے۔ عرق النساء۔ کھانسی۔ درد جگر وغیرہ کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے مدد (۳۴۰۹۶۲) ہیں اور نقش معظم یہ ہے

۱۱۳۶۵۵	۱۱۳۶۵۰	۱۱۳۶۵۷
۱۱۳۶۵۶	۱۱۳۶۵۴	۱۱۳۶۵۲
۱۱۳۶۵۱	۱۱۳۶۵۸	۱۱۳۶۵۳

خواص سورۂ قصص بھاگے ہوئے کو بلانے۔ جھوٹی گواہی سے اندیشہ کے لیے مفید ہے۔ خاص سورۃ کے عدد (۴۰۷۱۲۰) ہیں اور نقش معظم یہ ہے

۱۰۱۷۷۹	۱۰۱۷۸۳	۱۰۱۷۸۶	۱۰۱۷۷۲
۱۰۱۷۷۸	۱۰۱۷۷۳	۱۰۱۷۷۸	۱۰۱۷۸۴
۱۰۱۷۷۴	۱۰۱۷۸۸	۱۰۱۷۸۱	۱۰۱۷۷۷
۱۰۱۷۸۲	۱۰۱۷۷۶	۱۰۱۷۷۵	۱۰۱۷۸۷

خواص سورۂ عنکبوت چوتیہ کے لئے۔ حصول سرور کے لیے۔ اس سورۃ کے عدد (۲۷۵۲۹۷) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے

۶۸۸۲۴	۶۸۸۲۷	۶۸۸۳۰	۶۸۸۱۶
۶۸۸۲۹	۶۸۸۱۷	۶۸۸۲۳	۶۸۸۲۸
۶۸۸۱۸	۶۸۸۳۲	۶۸۸۲۵	۶۸۸۲۴
۶۸۸۲۶	۶۸۸۲۱	۶۸۸۱۹	۶۸۸۳۱

خواص سورۂ روم ظالم کو بیمار کرنے۔ فوت شدہ وظیفہ کی مکافات ظالم دشمن پر دہشت بٹھانے کے لیے۔ اس سورۃ کے عدد (۲۶۹۹۷۶) ہیں نقش معظم یہ ہے

۶۷۴۹۴	۶۷۴۹۷	۶۷۵۰۰	۶۷۴۸۴
۶۷۴۹۹	۶۷۴۸۷	۶۷۴۹۳	۶۷۴۹۸
۶۷۴۸۸	۶۷۵۰۲	۶۷۴۹۵	۶۷۴۹۲
۶۷۴۹۶	۶۷۴۹۱	۶۷۴۸۹	۶۷۵۰۱

خواص سورۂ لقمان پیٹ کی سب بیماریوں اور بخار اور طوفان کے واسطے مجرب ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۱۵۹۰۰۰) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

٥٣٠٠١	٥٢٩٩٦	٥٣٠٠٣
٥٣٠٠٢	٥٣٠٠٠	٥٢٩٩٨
٥٢٩٩٧	٥٣٠٠٤	٥٢٩٩٩

خواص سورۂ سجدہ سورۂ سجدہ کی قیامت کے روز عجیب کیفیت ہوگی بخار، دردسر، بچے کی عمدہ نشو ونما کے لیے مجرب ہے۔ اس سورۃ کے اعداد (۱۱۳۳۳۲) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

٢٨٣٣٢	٢٨٣٣٦	٢٨٣٣٩	٢٨٣٢٥
٢٨٣٢٨	٢٨٣٢٦	٢٨٣٣١	٢٨٣٣٧
٢٨٣٢٧	٢٨٣٤١	٢٨٣٣٤	٢٨٣٣٠
٢٨٣٣٥	٢٨٣٢٩	٢٨٣٣٨	٢٨٣٤٠

خواص سورۂ احزاب مشکور کے لقب سے پکارے جانے، لڑکیوں کے پیغام، ہیبت بٹھانے، خوب نیند آنے، جو ظالم کسی طرح ظلم سے باز نہ آئے اس کے لئے نہایت مجرب ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۳۵۵۲۵۲) ہیں نقش معظم یہ ہے

٨٨٨١٤	٨٨٨١٧	٨٨٨٢٠	٨٨٨٠٧
٨٨٨١٩	٨٨٨٠٨	٨٨٨١٣	٨٨٨١٨
٨٨٨٠٩	٨٨٨١٢	٨٨٨١٥	٨٨٨١٢
٨٨٨١٦	٨٨٨١١	٨٨٨١٠	٨٨٨٢١

خواص سورۂ سبا یرقان اور موذی جانوروں سے حفاظت کے لیے مفید ہے۔ اس سورۃ کے اعداد (۲۵۳۴۱۹) ہیں۔ نقشِ معظم یہ ہے۔

٨٤٤٧٤	٨٤٤٦٩	٨٤٤٧٦
٨٤٤٧٥	٨٤٤٧٣	٨٤٤٧١
٨٤٤٧٠	٨٤٤٧٧	٨٤٤٧٢

خواص سورۂ فاطر جنت میں جس دروازے سے چاہے جاوے نماز مقبول ہونے۔ طحال کے نکمیر والے کے لیے۔ حمل کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سورۃ کے اعداد (۲۴۲۷۷۳) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے

٦٠٦٩٣	٦٠٦٩٦	٦٠٦٩٩	٦٠٦٨٥
٦٠٦٩٨	٦٠٦٨٦	٦٠٦٩٢	٦٠٦٩٧
٦٠٦٨٧	٦٠٧٠١	٦٠٦٩٤	٦٠٦٩١
٦٠٦٩٥	٦٠٦٩٠	٦٠٦٨٨	٦٠٧٠٠

خواص سورۂ یٰسٓ جان کنی کی آسانی کے لیے گناہوں کی بخشش گفتگو میں غالب آنے۔ نظر بد۔ وضع حمل میں آسانی۔ بدزبان کی زبان بندی کے لئے ڈاڑھ کے درد کے لیے مجرب ہے۔ اس سورہ شریفہ کے عدد (۲۲۱۴۱۱) ہیں نقش معظم یہ ہے

٥٥٣٥١	٥٥٣٥٥	٥٥٣٥٩	٥٥٣٤٥
٥٥٣٥٨	٥٥٣٤٦	٥٥٣٥١	٥٥٣٥٦
٥٥٣٤٧	٥٥٣٦١	٥٥٣٥٣	٥٥٣٥٠
٥٥٣٥٤	٥٥٣٤٩	٥٥٣٤٨	٥٥٣٦٠

خواص سورۂ صٰفّٰت | آسیب زدہ جہاں سانپ بچھو کثرت سے ہوں اُس کے لئے مفید ہے اس سورۃ کے عدد (۲۶۴۷۵۲) ہیں نقش معظم یہ ہے

۶۶۱۸۸	۶۶۱۹۱	۶۶۱۹۴	۶۶۱۸۱
۶۶۱۹۳	۶۶۱۸۲	۶۶۱۸۷	۶۶۱۹۲
۶۶۱۸۳	۶۶۱۹۶	۶۶۱۸۹	۶۶۱۸۶
۶۶۱۹۰	۶۶۱۸۵	۶۶۱۸۴	۶۶۱۹۵

خواص سورۂ صٓ | ہر گناہ سے بچنے، الفت ہونے، کنویں وغیرہ کا پانی عمدہ نکلنے کے لئے مجرب ہے اس سورۃ کے عدد (۲۲۹۲۳۷) ہیں نقش معظم یہ ہے۔

۵۷۳۳۴	۵۷۳۳۷	۵۷۳۴۰	۵۷۳۲۹
۵۷۳۳۹	۵۷۳۲۷	۵۷۳۳۳	۵۷۳۳۰
۵۷۳۲۸	۵۷۳۴۲	۵۷۳۳۵	۵۷۳۳۰
۵۷۳۳۶	۵۷۳۴۱	۵۷۳۲۹	۵۷۳۳۱

خواص سورۂ زمر | مخلوق کی نظروں میں مقبول و محبوب ہونے کے لئے آں حضرت کو دنیا بھر سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے اس سورۃ کے عدد (۳۰۶۵۸۵) ہیں نقش معظم یہ ہے۔

۱۰۲۱۹۶	۱۰۲۱۹۱	۱۰۲۱۹۸
۱۰۲۱۹۷	۱۰۲۱۹۵	۱۰۲۱۹۳
۱۰۲۱۹۲	۱۰۲۱۹۹	۱۰۲۱۹۴

خواص سورۂ مؤمن | قرآن مجید کا خلاصہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک بلاؤں سے محفوظ۔ نظر بد سے حفاظت میں رہنے کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۳۶۸۵۲۴) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۹۲۱۳۰	۹۲۱۳۴	۹۲۱۳۷	۹۲۱۲۴
۹۲۱۳۶	۹۲۱۲۴	۹۲۱۲۹	۹۲۱۲۸
۹۲۱۲۵	۹۲۱۳۹	۹۲۱۳۲	۹۲۱۲۸
۹۲۱۳۳	۹۲۱۲۷	۹۲۱۲۶	۹۲۱۲۸

خواص سورۂ حٰمٓ سجدہ | آشوب اور ناخونہ وغیرہ۔ دفع خوف اور وسواس کے لئے بہت مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۲۴۵۸۲۷) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۶۱۲۵۹	۶۱۲۶۲	۶۱۲۶۵	۶۱۲۵۱
۶۱۲۶۴	۶۱۲۵۲	۶۱۲۵۸	۶۱۲۶۳
۶۱۲۵۳	۶۱۲۶۰	۶۱۲۶۰	۶۱۲۵۷
۶۱۲۶۱	۶۱۲۵۶	۶۱۲۵۴	۶۱۲۶۶

خواص سورۂ شوریٰ | لوگوں کے شر سے حفاظت۔ سریع الاجابت بارش ہونے کے لئے مجرب ہے اس سورۃ کے عدد (۲۰۱۳۳۹) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۶۷۱۱۴	۶۷۱۰۹	۶۷۱۱۶
۶۷۱۱۵	۶۷۱۱۳	۶۷۱۱۱
۶۷۱۱۰	۶۷۱۱۷	۶۷۱۱۲

خواص سورۂ زخرف | کھانسی، سفر کی آفتوں سے حفاظت آسیب کے خلل کے لیے بہت مجرب ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۲۶۰۶۹۷) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۸۶۹۰۰	۸۶۸۹۵	۸۶۹۰۲
۸۶۹۰۱	۸۶۸۹۹	۸۶۸۹۷
۸۶۸۹۶	۸۶۹۰۳	۸۶۸۹۸

خواص سورۂ دخان | ستر ہزار فرشتوں کی دعا اور استغفار۔ جنت میں ایک مکان بنے گا۔ دفینہ بچش کے لئے۔ دشمن پر غالب آنے کیلئے۔ نہایت مجرب ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۹۷۷۹۳) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۲۴۴۴۸	۲۴۴۵۱	۲۴۴۵۴	۲۴۴۴۰
۲۴۴۵۳	۲۴۴۴۱	۲۴۴۴۷	۲۴۴۵۲
۲۴۴۴۲	۲۴۴۵۶	۲۴۴۴۹	۲۴۴۴۶
۲۴۴۵۰	۲۴۴۴۵	۲۴۴۴۳	۲۴۴۵۵

خواص سورۂ جاثیہ | بچہ کی تمام موذی جانوروں سے حفاظت کیلئے بہت مفید ہے اس سورۃ کے عدد (۱۵۰۱۵) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۵۰۰۵۲	۵۰۰۴۷	۵۰۰۵۴
۵۰۰۵۳	۵۰۰۵۱	۵۰۰۴۹
۵۰۰۴۸	۵۰۰۵۵	۵۰۰۵۰

خواص سورہ احقاف | تمام جن و انس سے محفوظ رہے۔ جس کی

اولاد نافرمان ہو۔ جس وقت عورت کے بچہ پیدا ہونا مشکل ہو جائے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۷۳۷۴۸) ہیں نقش معظم یہ ہے۔

۱۸۴۴۳	۱۸۴۴۶	۱۸۴۴۹	۱۸۴۳۶
۱۸۴۴۸	۱۸۴۳۷	۱۸۴۴۲	۱۸۴۴۷
۱۸۴۳۸	۱۸۴۵۱	۱۸۴۴۴	۱۸۴۴۱
۱۸۴۴۵	۱۸۴۴۰	۱۸۴۳۹	۱۸۴۴۵

خواص سورۂ محمدؐ | لوگوں کی نظروں میں محبوب جو سن لے یاد رہے۔ تمام امراض کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۱۸۰۶۵۵) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۴۵۱۶۳	۴۵۱۶۶	۴۵۱۷۰	۴۵۱۵۶
۴۵۱۶۹	۴۵۱۵۷	۴۵۱۶۲	۴۵۱۶۷
۴۵۱۵۸	۴۵۱۸۲	۴۵۱۶۴	۴۵۱۶۱
۴۵۱۶۵	۴۵۱۶۰	۴۵۱۵۶	۴۵۱۷۰

خواص سورۂ فتح | تمام سال روزی فراخ رہے۔ لڑائی میں فتح۔ قبولیت عامہ کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۸۸۸۲۸) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۴۷۲۰۶	۴۷۲۱۰	۴۷۲۱۳	۴۷۱۹۹
۴۷۲۱۲	۴۷۲۰۰	۴۷۲۰۵	۴۷۲۱۱
۴۷۲۰۱	۴۷۲۱۵	۴۷۲۰۸	۴۷۲۰۴
۴۷۲۰۹	۴۷۲۰۳	۴۷۲۰۲	۴۷۲۱۴

خواص سورۂ حجرات | دفعیہ آسیب. حمل کی حفاظت کے لیۓ مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۱۰۲۸۹۲) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۲۵۷۲۲	۲۵۷۲۶	۲۵۷۲۹	۲۵۷۱۵
۲۵۷۲۸	۲۵۷۱۶	۲۵۷۲۱	۲۵۷۲۷
۲۵۷۱۷	۲۵۷۳۱	۲۵۷۲۳	۲۵۷۲۰
۲۵۷۲۵	۲۵۷۱۹	۲۵۷۱۸	۲۵۷۳۰

خواص سورۂ قٓ | دولت کی ہمیشگی. درد دندان. بینائی کی حفاظت کے لئے بہت مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۱۰۹۷۳۶) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۲۷۴۳۳	۲۷۴۳۷	۲۷۴۴۰	۲۷۴۲۶
۲۷۴۳۹	۲۷۴۲۷	۲۷۴۳۲	۲۷۴۳۸
۲۷۴۲۸	۲۷۴۴۲	۲۷۴۳۵	۲۷۴۳۱
۲۷۴۳۶	۲۷۴۳۰	۲۷۴۲۹	۲۷۴۴۱

خواص سورۂ ذاریات | مرض میں تخفیف۔ ولادت میں آسانی۔ اگر مرد عورت سے ہمبستری کرنے پر قادر نہ ہو اسکے واسطے نہایت مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۱۱۹۵۴۴) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۳۹۸۴۹	۳۹۸۴۴	۳۹۸۵۱
۳۹۸۵۰	۳۹۸۴۸	۳۹۸۴۶
۳۹۸۴۵	۳۹۸۵۲	۳۹۸۴۷

خواص سورۂ نجم | سب پر غالب آنے کے لئے بہت مفید ہے. اس سورۃ کے عدد (۱۱۴۳۴۷) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۲۸۵۹۳	۲۸۵۹۶	۲۸۵۹۹	۲۸۵۸۶
۲۸۵۹۸	۲۸۵۸۷	۲۸۵۹۲	۲۸۵۹۷
۲۸۵۸۸	۲۸۱۰۶	۲۸۵۹۴	۲۸۵۹۱
۲۸۵۹۵	۲۸۵۹۰	۲۸۵۸۹	۲۸۶۰۰

خواص سورۂ قمر | قیامت کے دن چودھویں رات کی چاند کی طرح چہرہ چمکنے. وجاہت حاصل کرنے. پیشاب کا بند کھلنے. بارش ہونے کے لئے مفید ہے. اس سورۃ کے عدد (۱۲۰۴۵۰) ہیں. نقش معظم یہ ہے.

۳۰۱۱۲	۳۰۱۱۵	۳۰۱۱۸	۳۰۱۰۵
۳۰۱۱۷	۳۰۱۰۶	۳۰۱۱۱	۳۰۱۱۶
۳۰۱۰۷	۳۰۱۲۰	۳۰۱۱۳	۳۰۱۱۰
۳۰۱۱۴	۳۰۱۰۹	۳۰۱۰۸	۳۰۱۱۹

خواص سورۂ رحمٰن | قرآن شریف کی دلہن. قرآن شریف حفظ ہونے چیچک. آشوب چشم. ورم اور بخار کے لئے مجرب ہے. اس سورۃ کے عدد (۱۳۱۲۱۴) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے.

۳۰۳۰۳	۳۰۳۰۶	۳۰۳۰۹	۳۰۲۹۶
۳۰۳۰۸	۳۰۲۹۷	۳۰۳۰۲	۳۰۳۰۷
۳۰۲۹۸	۳۰۳۱۱	۳۰۳۰۴	۳۰۳۰۱
۳۰۳۰۵	۳۰۳۰۰	۳۰۲۹۹	۳۰۳۱۰

خواص سورۂ واقعہ | سورۃ الغنا ہے۔ فاقہ نہ ہونے۔ بچہ بآسانی تولد ہونے۔ عسر البول کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (١٠٢٩٦٥) ہیں۔
نقش معظم یہ ہے

٢٥٧٣١	٢٥٧٤٤	٢٥٧٤٧	٢٥٧٣٣
٢٥٧٤٦	٢٥٧٣٤	٢٥٧٤٠	٢٥٧٤٥
٢٥٧٣٥	٢٥٧٤٩	٢٥٧٤٢	٢٥٧٣٩
٢٥٧٤٣	٢٥٧٣٧	٢٥٧٣٦	٢٥٧٤٨

خواص سورۂ حدید | دسوسے۔ تیر اور تلوار سے حفاظت اور بخار اور ورم کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (١٩٨٩٢٤) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

٦٦٣٠٩	٦٦٣٠٢	٦٦٣١١
٦٦٣١٠	٦٦٣٠٨	٦٦٣٠٦
٦٦٣٠٥	٦٦٣١٢	٦٦٣٠٧

خواص سورۂ مجادلہ | مریض کو نیند آنے۔ فلک کی حفاظت۔ بخار کے دفعیہ کے لئے مفید ہے اس سورۃ کے عدد (٣٤٢٢٧) نقش معظم یہ ہے۔

٨٥٥٩	٨٥٦٢	٨٥٦٥	٨٥٥١
٨٥٦٤	٨٥٥٢	٨٥٥٨	٨٥٦٣
٨٥٥٣	٨٥٦٧	٨٥٦٠	٨٥٥٧
٨٥٦١	٨٥٥٦	٨٥٥٤	٨٥٦٦

خواص سورۂ حشر | شہادت نصیب۔ اعضا کے درد۔ فالج زدہ کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (١٣٣٤٦١) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

٣٣٣٦٥	٣٣٣٦٨	٣٣٣٧١	٣٣٣٥٧
٣٣٣٧٠	٣٣٣٥٨	٣٣٣٦٤	٣٣٣٦٩
٣٣٣٥٩	٣٣٣٧٣	٣٣٣٦٦	٣٣٣٦٣
٣٣٣٦٧	٣٣٣٦٢	٣٣٣٦٠	٣٣٣٧٢

خواص سورۂ ممتحنہ | مرض طحال۔ کفار پر غالب آنے کے لئے مجرب ہے۔
اس سورۃ کے عدد (١٠١٣٥٠) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

٢٥٣٣٧	٢٥٣٤٠	٢٥٣٤٣	٢٥٣٣
٢٥٣٤٢	٢٥٣٣١	٢٥٣٣٦	٢٥٣٤١
٢٥٣٣٢	٢٥٣٤٥	٢٥٣٣٨	٢٥٣٣٥
.٢٥٣٣٩	٢٥٣٣٤	٢٥٣٣٣	٢٥٣٤٤

خواص سورۂ صف | رہزنوں اور آفتوں سے بچنے کے لئے مفید ہے۔
اس سورۃ کے عدد (٥٩٠٦٠) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

١٢٧٦٤	١٢٧٦٨	١٢٧٧١	١٢٧٥٠
١٢٧٧٠	١٢٧٥٨	١٢٧٦٣	١٢٧٦٩
١٢٧٥٩	١٢٧٦٢	١٢٧٦٦	١٢٧٦٣
١٢٧٦٧	١٢٧٦١	١٢٧٦٠	١٢٧٧٢

خواص سورۂ جمعہ وسوسہ شیاطین. برکت کے لئے مفید ہے. اس سورۃ کے عدد (۵۶۵۱۵) ہیں. نقش معظم یہ ہے۔

۱۵۲۷۳	۱۵۲۸۷	۱۵۳۵۴	۱۵۲۸۱
۱۵۲۸۵	۱۵۲۸۰	۱۵۲۷۴	۱۵۲۸۶
۱۵۲۸۹	۱۵۲۸۲	۱۵۲۸۹	۱۵۲۷۵
۱۵۲۸۸	۱۵۲۷۶	۱۵۲۷۸	۱۵۲۸۲

خواص سورۂ منافقون درد اور دنبل کے لئے مفید ہے اس سورۃ کے عدد (۵۳۲۵۶) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۱۷۷۵۵	۱۷۷۴۸	۱۷۷۵۳
۱۷۷۵۰	۱۷۷۵۲	۱۷۷۵۴
۱۷۷۵۱	۱۷۷۵۶	۱۷۷۴۹

خواص سورۂ تغابن ہر ظالم کے شر سے. طاعون اور ہیضہ کے لئے مفید ہے. اس سورۃ کے عدد (۷۹۷۴۱) ہیں. نقش معظم یہ ہے۔

۱۹۹۲۷	۱۹۹۴۸	۱۹۹۳۸	۱۹۹۳۵
۱۹۹۳۹	۱۹۹۳۳	۱۹۹۲۸	۱۹۹۴۱
۱۹۹۳۳	۱۹۹۳۶	۱۹۹۴۳	۱۹۹۲۹
۱۹۹۴۲	۱۹۹۳۰	۱۹۹۳۲	۱۹۹۳۷

خواص سورۂ طلاق سنت طریقہ پر موت اور سب حاجتوں کے لئے

مفید ہے. اس سورۃ کے عدد (۸۲۴۰۱۲) ہیں. نقش معظم یہ ہے۔

۲۰۵۹۹۵	۲۰۶۰۰۹	۲۰۶۰۰۶	۲۰۶۰۰۲
۲۰۶۰۰۷	۲۰۶۰۰۱	۲۰۵۹۹۶	۲۰۶۰۰۸
۲۰۶۰۰۰	۲۰۶۰۰۳	۲۰۶۰۱۱	۲۰۵۹۹۷
۲۰۶۰۱۰	۲۰۵۹۹۸	۲۰۵۹۹۹	۲۰۶۰۰۵

خواص سورۂ تحریم ہر مرض اور مرگی والے کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۴۹۲۳۲) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۱۲۳۰۰	۱۲۳۱۴	۱۲۳۱۱	۱۲۳۰۷
۱۲۳۱۲	۱۲۳۰۶	۱۲۳۰۱	۱۲۳۱۳
۱۲۳۰۵	۱۲۳۰۹	۱۲۳۱۶	۱۲۳۰۲
۱۲۳۱۵	۱۲۳۰۴	۱۲۳۰۳	۱۲۳۱۰

خواص سورۂ ملک شفاعت عذاب قبر سے بچنے. نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لئے مفید ہے. اس سورۃ کے عدد (۹۹۵۹۴) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے

۳۳۲۰۱	۳۳۱۹۴	۳۳۱۹۹
۳۳۱۹۶	۳۳۱۹۸	۳۳۲۰۰
۳۳۱۹۷	۳۳۲۰۲	۳۳۱۹۵

خواص سورۂ قلم فقر و فاقہ دور ہونے بچہ کے ہر آفت سے

محفوظ رہنے کے لئے مفید ہے اس سورۃ کے عدد (۹۳۷۰۸) ہیں۔
نقش معظم یہ ہے

۲۳۴۲۶	۲۳۴۳۰	۲۳۴۳۳	۲۳۴۱۹
۲۳۴۳۲	۲۳۴۲۰	۲۳۴۳۵	۲۳۴۲۱
۲۳۴۲۱	۲۳۴۳۵	۲۳۴۲۸	۲۳۴۲۴
۲۳۴۲۹	۲۳۴۲۳	۲۳۴۲۲	۲۳۴۳۴

خواص سورۃ حاقہ | حمل میں بچہ کی حفاظت۔ بچہ کی ذکاوت کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۸۱۷۰۹) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۲۰۴۲۹	۲۰۴۳۲	۲۰۴۳۶	۲۰۴۲۲
۲۰۴۳۵	۲۰۴۲۳	۲۰۴۲۸	۲۰۴۳۳
۲۰۴۲۴	۲۰۴۳۸	۲۰۴۳۰	۲۰۴۲۷
۲۰۴۳۱	۲۰۴۲۶	۲۰۴۲۵	۲۰۴۳۷

خواص سورۃ معارج | پریشان خواب اور جنابت سے محفوظ رہنے کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۸۲۴۰۱۲) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۱۸۳۸۱	۱۸۳۸۴	۱۸۳۸۷	۱۸۳۷۳
۱۸۳۸۶	۱۸۳۷۴	۱۸۳۸۰	۱۸۳۸۵
۱۸۳۷۵	۱۸۳۸۹	۱۸۳۸۲	۱۸۳۷۹
۱۸۳۸۳	۱۸۳۷۸	۱۸۳۷۶	۱۸۳۸۸

خواص سورۃ نوح | دفع رنج وغم۔ بارش و اولاد ہونے کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۷۴۳۱۴) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۱۸۵۷۸	۱۸۵۸۱	۱۸۵۸۴	۱۸۵۷۱
۱۸۵۸۳	۱۸۵۷۲	۱۸۵۷۷	۱۸۵۸۲
۱۸۵۷۳	۱۸۵۸۶	۱۸۵۷۷	۱۸۵۷۶
۱۸۵۸۰	۱۸۵۷۵	۱۸۵۷۴	۱۸۵۸۵

خواص سورۃ جن | دفع آسیب۔ قید سے رہا ہونے کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۶۰۶۳۳) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۲۰۲۱۲	۲۰۲۰۷	۲۰۲۱۴
۲۰۲۱۳	۲۰۲۱۱	۲۰۲۰۹
۲۰۲۰۸	۲۰۲۱۵	۲۰۲۱۰

خواص سورۃ مزمل | کشائش رزق غنا ظاہری و باطنی کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۶۸۴۶۶) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۲۲۸۲۳	۲۲۸۱۸	۲۲۸۲۵
۲۲۸۲۴	۲۲۸۲۲	۲۲۸۲۰
۲۲۸۱۹	۲۲۸۲۶	۲۲۸۲۱

خواص سورۃ مدثر | قرآن مجید حفظ یاد ہونے کے لئے۔ اس سورۃ کے عدد (۹۲۳۵۵) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۳۰۷۸۸	۳۰۷۸۱	۳۰۷۸۶
۳۰۷۸۳	۳۰۷۸۵	۳۰۷۸۷
۳۰۷۸۴	۳۰۷۸۹	۳۰۷۸۲

خواص سورۂ قیامۃ | قلب میں رقت ہونے کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۵۳۶۰۷) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۱۳۶۴۲	۱۳۶۵۸	۱۳۶۵۴	۱۳۶۵۱
۱۳۶۵۵	۱۳۶۵۶	۱۳۶۴۵	۱۳۶۵۷
۱۳۶۴۹	۱۳۶۵۲	۱۳۶۶۰	۱۳۶۴۶
۱۳۶۵۹	۱۳۶۴۷	۱۳۶۴۸	۱۳۶۵۳

خواص سورۂ دہر | زبان پر علمی باتیں جاری ہونے کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ کے عدد (۷۷۵۸۸) ہیں۔
نقش معظم یہ ہے

۱۹۳۸۹	۱۹۴۰۳	۱۹۴۰۰	۱۹۳۹۶
۱۹۴۰۱	۱۹۳۹۵	۱۹۳۹۰	۱۹۴۰۳
۱۹۳۹۴	۱۹۳۹۸	۱۹۴۰۵	۱۹۳۹۱
۱۹۴۰۴	۱۹۳۹۲	۱۹۳۹۳	۱۹۳۹۹

خواص سورۂ مرسلات | دنبل اچھے ہونے، دشمن مغلوب ہونے اور رعیت تابعدار ہونے کے لئے مفید ہے۔ اس سورۃ

کے عدد (۷۶۳۴) ہیں۔ نقش معظم یہ ہے۔

۱۷۶۵۱	۱۷۶۶۴	۱۷۶۶۱	۱۷۶۵۸
۱۷۶۶۲	۱۷۶۵۷	۱۷۶۵۲	۱۷۶۶۳
۱۷۶۵۶	۱۷۶۵۹	۱۷۶۶۶	۱۷۶۵۲
۱۷۶۶۵	۱۷۶۵۳	۱۷۶۵۵	۱۷۶۶۰

خواص سورۂ نبا | حاکم کا شر اور پیشاب کا بند کھلنے سے محفوظ رکھنے کے لئے مفید ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۱۳۳۵۴	۱۳۳۶۸	۱۳۳۶۲	۱۳۳۶۱
۱۳۳۶۵	۱۳۳۶	۱۳۳۵۵	۱۳۳۶۷ کسر
۱۳۳۵۹	۱۳۳۶۲	۱۳۳۷۰	۱۳۳۵۶
۱۳۳۶۹	۱۳۳۵۷	۱۳۳۵۸	۱۳۳۶۳

خواص سورۂ نازعات | دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے مجرب ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۱۶۸۵۴	۱۶۸۶۸	۱۶۸۶۵	۱۶۸۶۱
۱۶۸۶۶	۱۶۸۶۰	۱۶۸۵۵	۱۶۸۶۷
۱۶۸۵۹	۱۶۸۶۳ کسر	۱۶۸۷۰	۱۶۸۵۶
۱۶۸۶۱	۱۶۸۵۷	۱۶۸۵۸	۱۶۸۶۴

خواص سورۂ عبس | بچہ باآسانی پیدا ہونے۔ عمل کی رجعت راستوں

کے خطروں سے امن میں رہنے کے لئے مفید ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۱۳۳۳۷	۱۳۳۴۰	۱۳۳۴۴	۱۳۳۳۰
۱۳۳۴۳ کسر	۱۳۳۳۱	۱۳۳۳۶	۱۳۳۴۱
۱۳۳۳۲	۱۳۳۴۶	۱۳۳۳۸	۱۳۳۳۵
۱۳۳۳۹	۱۳۳۳۴	۱۳۳۳۳	۱۳۳۴۵

خواص سورۂ کورت | قوت بینائی۔ جالے اور آشوب چشم کیلئے مفید ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۱۰۳۶۸	۱۰۳۷۱	۱۰۳۷۴	۱۰۳۶۰
۱۰۳۷۳	۱۰۳۶۱	۱۰۳۶۷	۱۰۳۷۲
۱۰۳۶۲	۱۰۳۷۶	۱۰۳۶۹	۱۰۳۶۶
۱۰۳۷۰	۱۰۳۶۵ کسر	۱۰۳۶۳	۱۰۳۷۵

خواص سورۂ انفطار | قید سے رہا ہونے اور بخار کے لئے مفید ہے
نقش معظم یہ ہے۔

۶۶۷۳	۶۶۷۶	۶۶۷۹	۶۶۶۵
۶۶۷۸	۶۶۶۶	۶۶۷۲	۶۶۷۷
۶۶۶۷	۶۶۸۱	۶۶۷۴	۶۶۷۱
۶۶۷۵	۶۶۷۰ کسر	۶۶۶۸	۶۶۸۰

خواص سورۂ تطفیف | ذخیرہ کی دیمک وغیرہ سے حفاظت کیلئے

مفید ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۱۴۲۸۶	۱۴۲۸۹	۱۴۲۹۳	۱۴۲۷۹
۱۴۲۹۲ کسر	۱۴۲۸۰	۱۴۲۸۵	۱۴۲۹۰
۱۴۲۸۱	۱۴۲۹۵	۱۴۲۸۷	۱۴۲۸۴
۱۴۲۸۸	۱۴۲۸۳	۱۴۲۸۲	۱۴۲۹۴

خواص سورۂ انشقاق | ولادت کی آسانی اور نیش زدہ کے لئے مفید ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۸۲۳۴	۸۲۳۷	۸۲۴۰	۸۲۲۷
۸۲۳۹	۸۲۲۸	۸۲۳۳	۸۲۳۸
۸۲۲۹	۸۲۴۲	۸۲۳۵	۸۲۳۲
۸۲۳۶	۸۲۳۱	۸۲۳۰	۸۲۴۱

خواص سورۂ بروج | بچہ کا دودھ چھڑانے کے لئے مفید ہے۔
نقش معظم یہ ہے (گلے میں ڈالیئے)

۸۲۱۶	۸۲۱۹	۸۲۲۳	۸۲۰۸
۸۲۲۱	۸۲۰۹	۸۲۱۵	۸۲۲۰
۸۲۱۰	۸۲۲۴	۸۲۱۷	۸۲۱۴
۸۲۱۸	۸۲۱۳ کسر	۸۲۱۱	۸۲۲۲

خواص سورۂ طارق | احتلام۔ باؤلے کتے کے کاٹے۔ مکان میں

جن دفع کرنے کے لیے مفید ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۴۲۴۹	۴۲۵۳	۴۲۵۶	۴۲۴۲
۴۲۵۵	۴۲۴۳	۴۲۴۸	۴۲۵۴
۴۲۴۴	۴۲۵۸	۴۲۵۱ کسر	۴۲۴۷
۴۲۵۲	۴۲۴۶	۴۲۴۵	۴۲۵۷

خواص سورۂ اعلیٰ کان کی گونج رفع ہونے، نرینہ اولاد ہونے کے لیے مجرب ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۶۵۷۵	۶۵۷۸	۶۵۸۱	۶۵۶۸
۶۵۸۰	۶۵۶۹	۶۵۷۴	۶۵۷۹
۶۵۷۰	۶۵۸۳	۶۵۷۶	۶۵۷۳
۶۵۷۷	۶۵۷۲	۶۵۷۱	۶۵۸۲

خواص سورۂ غاشیہ کھانے کی برائی وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لئے مفید ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۹۳۶۲	۹۳۶۵	۹۳۶۸	۹۳۵۴
۹۳۶۷	۹۳۵۵	۹۳۶۱	۹۳۶۶
۹۳۵۶	۹۳۷۰	۹۳۶۳	۹۳۶۰
۹۳۶۴	۹۳۵۹ کسر	۹۳۵۷	۹۳۶۹

خواص سورۂ فجر اولاد نرینہ کے لئے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۱۲۲۹۴	۱۲۲۹۸	۱۲۳۰۱	۱۲۲۸۷
۱۲۳۰۰	۱۲۲۸۸	۱۲۲۹۳	۱۲۲۹۹
۱۲۲۸۹	۱۲۳۰۳	۱۲۲۹۶ کسر	۱۹۲۹۲
۱۲۲۹۷	۱۲۲۹۱	۱۲۲۹۰	۱۲۳۰۲

خواص سورۂ بلد بچہ کی پیچش وغیرہ کی حفاظت کے لئے۔ نقش معظم یہ ہے

۶۰۶۹	۶۰۷۲	۶۰۷۶	۶۰۶۲
۱۰۷۵ کسر	۶۰۶۳	۶۰۶۸	۶۰۷۳
۶۰۶۴	۶۰۷۸	۶۰۷۰	۶۰۶۷
۶۰۷۱	۶۰۶۶	۶۰۶۵	۶۰۷۷

خواص سورۂ والشمس واسطے حصول مرادات کے اس سورۃ کو طلوع آفتاب کے وقت ۷ بار پڑھے اور اس کا نقش واسطے سلامتی جان و مال کے لکھ کر اپنے گلے میں ڈالے۔ نقش معظم یہ ہے اس کے کل عدد ۱۹۲۹۹ ہیں

۴۸۷۴	۴۸۷۷	۴۸۸۱	۴۸۶۷
۴۸۸۰	۴۸۶۸	۴۸۷۳	۴۸۷۸
۴۸۶۹	۴۸۸۳	۴۸۷۵	۴۸۷۲
۴۸۷۶	۴۸۸۱	۴۸۷۰	۴۸۸۲

خواص سورۂ واللیل جب کوئی مشکل پیش آئے اس سورۃ کو ۱۸۰ بار پڑھے اور نقش واسطے حفاظت مال اپنے پاس رکھے۔ نقش یہ ہے:

۷۴۱۶	۷۴۱۹	۷۴۲۲	۷۴۰۹
۷۴۲۱	۷۴۱۰	۷۴۱۵	۷۴۲۰
۷۴۱۱	۷۴۲۴	۷۴۱۷	۷۴۱۴
۷۴۱۸	۷۴۱۳	۷۴۱۲	۷۴۲۳

خواص سورۂ والضحیٰ واسطے حاضر ہونے غائب کے اس سورہ کو دو ہزار مرتبہ پڑھے اور نقش اس کا لکھ کر نام بھاگے ہوئے کا نیچے لکھ دے اور جہاں قرآن میں سورۂ والضحیٰ ہے وہاں پر نقش لکھ دے اس کے کل اعداد ۱۳۳۲۲ ہیں۔

نقش یہ ہے

۳۳۳۰	۳۳۳۳	۳۳۲۶	۳۳۲۲
۳۳۳۵	۳۳۲۴	۳۳۲۹	۳۳۳۴
۳۳۲۵	۳۳۳۸	۳۳۳۱	۳۳۲۸
۳۳۳۲	۳۳۲۷	۳۳۳۶	۳۳۳۷

خواص سورۂ انشراح رنج و غم اور ہول رفع ہونے، بخار، درد دل، پتھری نکلنے کے لئے مفید ہے۔ نقش معظم یہ ہے:

۳۱۰۳	۳۱۰۶	۳۱۱۰	۳۰۹۶
۳۱۰۹	۳۱۹۷	۳۱۰۲	۳۱۰۸
۳۰۹۸	۳۱۱۲	۳۱۰۵ کسر	۳۱۰۱
۳۱۰۶	۳۱۰۰	۳۰۹۹	۳۱۱۱

خواص سورۂ والتین غلہ میں برکت اور حفاظت کے لئے۔

نقش معظم یہ ہے

۲۵۵۶	۲۵۶۰	۲۵۶۳	۲۵۴۹
۲۵۶۲	۲۵۵۰	۲۵۵۵	۲۵۶۱
۲۵۵۱	۲۵۶۵۰	کسر ۲۵۵۸	۲۵۵۴
۲۵۵۹	۲۵۵۳	۲۵۵۲	۲۵۶۳

خواص سورۂ علق سفر کی آفات سے حفاظت کے لئے۔

نقش معظم یہ ہے

۵۶۳۳	۵۶۳۷	۵۶۲۱	۵۶۲۷
کسر ۵۶۲۰	۵۶۲۸	۵۶۲۳	۵۶۳۸
۵۶۲۹	۵۶۲۳	۵۶۳۵	۵۶۳۴
۵۶۳۶	۵۶۲۱	۵۶۳۰	۵۶۳۲

خواص سورۂ قدر بینائی میں فرق نہ آئے۔ سچ بولنے کے لئے مفید ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۲۰۷۷	۲۰۸۰	۲۰۸۳	۲۰۷۰
کسر ۲۰۸۳	۲۰۷۱	۲۰۷۶	۲۰۸۷
۲۰۷۲	۲۰۸۶	۲۰۷۸	۲۰۷۵
۲۰۷۹	۲۰۷۴	۲۰۷۳	۲۰۸۵

خواص سورہ بیّنہ برص کے دور ہونے کے لئے مفید ہے۔

نقش معظم یہ ہے

۷۹۱۵	۷۹۱۸	۷۹۲۱	۷۹۰۸
۷۹۲۰	۷۹۰۹	۷۹۱۴	۷۹۱۹
۷۹۱۰	۷۹۲۳	۷۹۱۶	۷۹۱۳
۷۹۱۷	۷۹۱۲	۷۹۱۱	۷۹۲۳

خواص سورۂ زلزال نصف قرآن شریف کے برابر ثواب۔ لقوہ وغیرہ کے لئے مفید ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۴۳۴۹	۴۳۵۲	۶۳۵۶	۴۳۴۲
کسر ۴۳۵۵	۴۳۴۳	۴۳۴۸	۴۳۵۳
۴۳۴۴	۴۳۵۸	۴۳۵۰	۴۳۴۷
۴۳۵۱	۴۳۴۶	۴۳۴۵	۴۳۵۷

خواص سورۂ عادیات معاش اور امن وخوف کے لئے۔

نقش معظم یہ ہے

۳۳۴۱	۳۳۴۴	۳۳۴۸	۳۳۳۴
کسر ۳۳۴۷	کسر ۳۳۳۵	۳۳۳۰	۳۳۲۵
۳۳۳۶	۳۳۵۰	۳۳۴۲	۳۳۳۹
۳۳۴۳	۳۳۳۸	۳۳۳۷	۳۳۴۹

خواص سورۂ قارعہ روزی بڑھانے کے لئے۔

نقش معظم یہ ہے

٣١٦٦	٣١٧٠	٣١٧٣	٣١٥٩
٣١٧٢	٣١٢٠	٣١٦٥	٣١٧١
٣١.٦١	٣١٧٥	٣١٦٨ کسر	٣١٦٤
٣١٦٩	٣١٦٣	٣١٦٢	٣١٧٤

خواص سورۂ تکاثر ہزار آیتوں کا ثواب۔ دردسر اور درد شقیقہ۔ قبرستان میں پڑھنے کے لیے۔ نقش معظم یہ ہے۔

٢٥٩٦	٢٥٩٩	٢٦٠٢	٢٥٨٩
٢٦٠١	٢٥٩٠	٢٥٩٥	٢٦٠٠
٢٥٩١	٢٦٠٤	٢٥٩٧	٢٥٩٤
٢٥٩٨	٢٥٩٣	٢٥٩٢	٢٦٠٣

خواص سورۂ عصر دفن کیے ہوئے مال کی حفاظت کے لیے۔

نقش معظم یہ ہے

١١٨٤	١١٨٨	١١٩١	١١٧٧
١١٩٠	١١٧٨	١١٨٣	١١٨٩
١١٧٩	١١٩٣	١١٨٦٠ کسر	١١٨٢
١١٨٧	١١٨١	١١٨٠	١١٩٢

خواص سورۂ ہمزہ نظر بد۔ خوف اعداء سے حفاظت کے لیے۔

نقش معظم یہ ہے

٢٢٧٩	٢٢٨٢	٢٢٨٥	٢٢٧٢
٢٢٨٤	٢٢٧٣	٢٢٧٨	٢٢٨٣
٢٢٧٤	٢٢٨٧	٢٢٨٠	٢٢٧٧
٢٢٨١	٢٢٧٦	٢٢٧٥	٢٢٨٦

خواص سورۂ فیل دشمن پر غلبہ پانے کے لیے۔

نقش معظم یہ ہے

١٢٦٦	١٢٦٩	١٢٧٢	١٢٥٨
١٢٧١	١٢٥٩	١٢٦٥	١٢٧٠
١٢٦٠	١٢٧٤	١٢٦٧	١٢٦٤
١٢٦٨	١٢٦٣. کسر	١٢٦١	١٢٧٣

خواص سورۂ قریش زہر کے اثر۔ خفقان کے دفعیہ کے لیے۔

نقش معظم یہ ہے

١٥١٥	١٥١٨	١٥٢١	١٥٠٨
١٥٢٠	١٥٠٩	١٥١٤	١٥١٩
١٥١٠	١٥٢٣	١٥١٦	١٥١٣
١٥١٧	١٥١٣	١٥١١	١٥٢٢

خواص سورۂ ماعون سب چیزوں کی حفاظت کے لیے۔

نقش معظم یہ ہے

٢٣٠١	٢٣٠٥	٢٣٠٨	٢٢٩٤
٢٣٠٧	٢٢٩٥	٢٣٠٠	٢٣٠٦
٢٢٩٦	٢٣١٠	کسر ٢٣٠٣	٢٢٩٩
٢٣٠٢	٢٢٩٨	٢٢٩٧	٢٣٠٩

خواص سورۂ کوثر حضور پر نور کی زیارت کے لئے۔ تعزیق اعداء کے لئے۔ نقش معظم یہ ہے۔

٦٩٠	٦٩٣	٦٩٧	٦٨٣
کسر ٦٩٦	٦٨٤	٦٨٩	٦٩٤
٦٨٥	٦٩٩	٦٩١	٦٨٨
٦٩٢	٦٨٧	٦٨٦	٦٩٨

خواص سورۂ کافرون بچھو کے کاٹے فاسد عقیدوں سے حفاظت کے لئے مفید ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

٩٥٦	٩٦٠	٩٦٣	٩٤٩
٩٦٢	٩٥٠	٩٥٥	٩٦١
٩٥١	٩٦٥	کسر ٩٥٨	٩٥٤
٩٥٩	٩٥٣	٩٥٢	٩٦٤

خواص سورۂ نصر جال میں مچھلیاں خوب پھنسنے کے لئے مفید ہے۔

نقش معظم یہ ہے

١٥٣٠	١٥٢٢	١٥٣٧	١٥٢٣
١٥٢٦	١٥٢٤	١٥٢٩	١٥٣٥
١٥٢٥	١٥٣٩	کسر ١٥٣١	١٥٢٨
١٥٣٣	١٥٣٧	١٥٣٦	١٥٣٨

خواص سورۂ لہب درد کے دفعیہ کے لئے۔ نقش معظم یہ ہے۔

١٣٥٦	١٣٥٩	١٣٦٢	١٣٤٩
١٣٦١	١٣٥٠	١٣٥٥	١٣٦٠
١٣٥١	١٣٦٤	١٣٩٧	١٣٥٤
١٣٥٨	١٣٥٣	١٣٥٢	١٣٦٣

خواص سورۂ اخلاص تہائی قرآن شریف کا ثواب، بہشت میں دائیں جانب داخل ہونے۔ دوزخ سے بری ہونے کے لئے۔ نقش معظم یہ ہے

٢٥٠	٢٥٣	٢٥٦	٢٤٣
٢٥٥	٢٤٤	٢٤٩	٢٥٤
٢٤٥	٢٥٨	٢٥١	٢٤٨
٢٥٢	٢٤٧	٢٤٦	٢٥٧

خواص سورۂ فلق دم کرنے۔ جنوں اور آدمیوں کی نظر لگ جانے کے لئے مفید ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

۲۱۶۸	۲۱۷۱	۲۱۷۵	۲۱۶۱
۲۱۷۴	۲۱۶۳	۲۱۶۷	۲۱۷۲
۳۱۶۲	۲۱۷۷	۲۱۶۹	۲۱۶۲
۲۱۷۰	۲۱۶۵	۲۱۶۴	۲۱۷۶

خواص سورۂ ناس سب چیزوں کی دعا لینے کے لئے۔
نقش معظم یہ ہے

۱۳۲۳	۱۳۲۷	۱۳۳۰	۱۳۱۶
۱۳۲۹	۱۳۱۷	۱۳۲۲	۱۳۲۸
۱۳۱۸	۱۳۳۲	۱۳۲۵ کسر	۳۲۱
۱۳۲۶	۱۳۳۰	۱۳۱۹	۳۲۱

نقش تمام کلام مجید کا

۸۱۰۵۲۸۶	۸۱۰۵۲۷۹	۸۱۰۵۲۸۴
۸۱۰۵۲۸۱	۸۱۰۵۲۸۳	۸۱۰۵۲۸۵
۸۱۰۵۲۸۲	۸۱۰۵۲۸۷	۸۱۰۵۲۸۰

نقش کلام اللہ مع تمام بسم اللہ کے

۶۱۰۱۲۳۲	۶۱۰۱۳۲۵	۶۱۰۱۲۳۵	۶۱-۱۲۱۵
۶۱۰۱۲۳۰	۶۱۰۱۲۱۶	۶۱۰۱۲۲۱	۶۱۰۱۲۳۶
۶۱۰۱۲۱۷	۶۱۰۱۲۳۳	۶۱۰۱۲۲۳	۶۱۰۱۲۲۰
۶۱۰۱۲۲۴	۶۱۰۱۲۱۹	۶۱۰۱۲۱۸	۶۱۰۱۲۳۲

خواصِ اسمائے حسنیٰ

الموسوم بہ

تجلیاتِ ربانی و جمالِ رحمانی

دنیا و آخرت کے حاصل کرنے کے لئے صحیح اعمال کا صحیح ترین مجموعہ جسکو علامہ صوفی حضرت مولانا مولوی قاضی سید محمد جمال الدین شاہ صاحب دہلوی نے حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کے مجربات جمع فرماکر اپنے خاندانی مجربات کا اضافہ فرمایا تھا اور ایک قابل قدر کتاب بنائی تھی جسکا اصلی نسخہ نایاب تھا اہل معرفت اسکی تلاش میں پریشان تھے ہمکو اسکا ایک نہایت صحیح اصل قلمی نسخہ موصوف کے خاندان کے ایک بزرگ کے کتب خانہ میں محفوظ دستیاب ہوا جسکو بعونہ تعالیٰ مع حقوق ہم نے نہایت محنت سے طبع کیا

ناشر
المکتبۃ الحبیب دکھنی مسجد
پاکستان چوک کراچی

دلہن کی خوبصورتی میں اضافہ اور دوسرے خواص کے لئے

اگر ریشم پر لکھ کر دلہن اپنے پاس رکھے تو اس کی زیبائش بہت اچھی معلوم ہوگی۔ نیز دیگر ضروریات کی تکمیل کے لئے بھی اس میں اثرات ہیں۔ اس نقش کے گرد عوالم ثلثہ لکھ کر جس عمل کے لائق جو خوشبو ہو اس کی دھونی دینا چاہئے۔ ذیل میں نقش ملاحظہ ہو۔

نقش مالک الملک ذوالجلال والاکرام

عوالم ثلثہ — عوالم ثلثہ — عوالم ثلثہ — عوالم ثلثہ

م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م
ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م
ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا
ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل
ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک
ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا
م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل
ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م
ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل
ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک
و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ
ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و
ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا
ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل
ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج
ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل
ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا
و	ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل
ا	ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و
ل	ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا
ا	ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل
ک	ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا
ر	ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک
ا	م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر
م	م	ا	ل	ک	ا	ل	م	ل	ک	ذ	و	ا	ل	ج	ل	ا	ل	و	ا	ل	ا	ک	ر	ا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

اما بعد۔ یہ خادم دین **محمد جمال الدین** دہلوی غفراللہ ولوالدیہ اہل اللہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اسماء حسنیٰ کی شرح جو حضرت سید مولوی مولانا شمس المفسرین بدر المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے زبان فارسی میں لکھی ہے اور قبلہ شاہ حضرت سید قطب الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکا ترجمہ کیا ہے۔ آخر میں سے اس فقیر نے تمام خواص اسماء باری تعالیٰ جو حضرت شیخ رحمۃ نے شاہ عبدالرحمن چشتی کی شرح اور بعض مشائخ کرام کے مکاشفہ اور علم سے لکھے ہیں انتخاب کرکے اور ان کے سوا اپنی سند سے جو سینہ بسینہ اپنے بزرگوں سے ملے ہیں ان کو لکھ کے بعد تصحیح کے واسطے نفع اہل سنت قلم بند کیے اور پھر قاعدہ جفر کے موافق ہر اسم کے اعداد کے نقش مثلث اور مربع بنا کر اور معنی اعداد و عادت اور خواص مع اختصار و اختتام و شرائط اعمال و طریق دعوت مکمل کر کے رسالہ کا نام رکھا۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ۔ ترجمہ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں جو کوئی ان کو یاد کرے گا وہ داخل ہوگا بہشت میں اور جو کوئی شخص ان ناموں کے ذریعہ

دعا کریگا وہ دعا قبول ہوگی۔ پس جب کوئی دعا کرنا چاہے تو چاہیے کہ جمعرات کو روزہ رکھے اور جمعہ کو سحر کے وقت دعا کرے۔ قسم ہے اللہ کی جو بندہ مومن گڑگڑا کر ان ناموں کے واسطے سے دعا کریگا اگرچہ پانی پر چلنے یا ہوا پر اڑنے کی دعا کرے قبول ہوگی۔ یہ معلوم رہے کہ اللہ کے نام اذن شارع و سماع پر موقوف ہیں پس جو نام کہ شرع میں آیا ہو وہی کہنا چاہیے اپنی عقل و اٹکل سے نہ کہنا چاہیے گو دونوں ناموں کے ایک ہی معنی ہوں مثلاً اللہ تعالیٰ کو عالم کہیے نہ عاقل اور جواد کہیے نہ سخی اور شافی کہیے نہ طبیب پس مناسب ہے کہ ہر شخص جس قدر ہو سکے ان ناموں کے معانی اور مطالب پر غور کرے اور صفات اللہ تعالیٰ اپنے میں حاصل کرے کہ حدیث میں ہے تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ
ترجمہ۔ خدا کا سا خلق اپنے میں پیدا کرو۔ یعنی درگزر کرنیکا معاف کرنیکا نرمی کرنے کا وغیرہ۔

منقول ہے کہ ایک بزرگ کے پاس جب کوئی ارادہ بیعت کا آتا تو وہ اسکو حکم کرتے تھے کہ وضو کر جب وہ وضو کرکے حاضر ہوتا تو اس کے آگے اسماء جناب باری تعالیٰ کے پکار کر ساتھ خلوت ابتہال کے پڑھتے جس اسم کی تاثیر اس میں دیکھتے وہی تعلیم کرتے جاتے کہ اس سے کشود اسکو جلد ہوگا سو ایسا ہی ہوتا تھا یہی قاعدہ بسلسلہ اسماء جمالیہ میں خواص کے لئے لکھی ہے۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۔ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ اِلٰى سَبِيْلِ الرَّشَادِ۔ **واضح ہو** کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے نام تین قسم کے ہیں۔ جمالی۔ جلالی۔ مشترک۔ اسلئے ہر اسم کے ساتھ یہ بات لکھدی ہے اور اس کے تعین عدد قرأت بھی تحریر ہیں طالب صادق کو اس کے موافق عمل کرنا چاہیے اگر تعین ایام کسی جگہ نہ لکھی گئی ہو تو وہ یا چہل روز سمجھنا چاہیے یا اگر پورے عدد سے طبیعت گھبرائے یا کسی اسم کی دعوت دینے کا ارادہ ہو تو بموجب اس تحریر کے عمل کرے لیکن بغیر رہبری مرشد کامل کے کام چلانا دشوار ہے اور دعوت کا بھی احتمال ہے۔

عامل کی ہدایت کا بیان۔ عامل التقویٰ ہاتوں کا فرد لحاظ رکھے اکل حلال۔ صدق مقال۔ اخلاص۔ عجز و انکساری حضوری دل۔ پاک و خوشبودار کپڑے پہننا اکل حرام سے پرہیز کرنا۔ روزہ رکھنا۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھنا جس میں صرف لیٹ بیٹھ سکے۔ کسی سے بات کرنا۔ وقت معین کرنا اس سے نہ ٹلنا۔ باوضو رہنا مسواک کرنا۔ درود شریف کا ورد کرنا۔ قرآن کی تلاوت سے حصار کرنا۔ یا حصار تعلیل کمر کرکے ورد رہنا

خواہ کم ہو یا زیادہ یعنی عشق یا حسد خواہ کوئی نیت ہو یا منصب وغیرہ کی اور ترک جلالی ہو یا جمالی ہر دو جا
کے لئے یہ گیارہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر مصلے پر آیۃ الکرسی تین بار سورۂ مزمل تین بار چہار قل تین بار جدا جدا آخر میں تین بار
حرف تہجی یکسو ہر تین بار آیۃ الکرسی تین بار اخلاص تین بار صلوٰۃ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ
مُحَمَّدٍ [illegible] يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ يَا [illegible] بعد پھر اسماء
شروع کرے۔ **اسماء حسنیٰ کی دعوت کا بیان** واضح ہو کہ جب اسماء حسنیٰ میں سے کسی اسم کی
دعوت دینے پر مستعد ہو تو پہلے بہتر یہ ہے کہ اس اسم کو اسم ذات کے ساتھ مرکب کرے یعنی اسم ذات اللہ کو
اس اسم کے ساتھ جس کی دعوت دینے کا ارادہ ہے لائے جیسے اَللّٰہُ الصَّمَدُ، اَللّٰہُ الْبَاسِطُ، اَللّٰہُ الْمَلِکُ
ف۔ اے طالب معلوم کر اس بات کو کہ ہر اسم کی دعوت کے ساتھ اسم ذات کا ملانا بہتر و افضل ہے پھر ان دونوں
اسموں کے حروف اصلی گن کر جس قدر ان دونوں اسموں کے حروف ہوں اتنی ہی مرتبہ بہ نیت نصاب دونوں
ہی اسم بہ نیت زکوٰۃ مقرر کرے علاوہ اسی عدد کو دس پر ضرب دے کر بہ نیت عشر ہو اتنی ہی حرفوں کو شمار کر
کرکے بہ نیت قفل پڑھے پھر دونوں اسموں کے حروف ملفوظی کے ساتھ ملا کر بہ نیت دور دور پڑھے اور جس اسم کے
نیز تعداد تشدیدات اور جزم اور اعراب ہوں اتنی تعداد بہ نیت بذل وکیسا وہ جس قدر کہ دونوں اسموں کے حروف
ملفوظی ہوں اتنی تعداد بہ نیت ختم پڑھے پھر ان دونوں اسموں کے حروف کے شمار [illegible] انداز کے
ارقام کے ساتھ عدد بہ نیت سریع الاجابت عمل کرے بعد بہ نیت حاجت موافق عدد و ارقام ہر حرف اصلی
و ملفوظی اسم صفات کے ہر حرف ملفوظی کا عدد نکالے اور پھر ہر کل ساتھ نقش ہو کلمات حروف تہجی سے جو کسی
کتاب کے متداول ہیں معلوم کرے موافق عدد ملفوظی اسم حرف کے اول دوم اسم صفات کے ساتھ
ملا کر جمع کرے اسی طرح جتنے حروف اسم صفات کے ہوں اتنے ہی اعداد علیحدہ علیحدہ جمع کر کل ساتھ کے
ہر دو ترتیب یا فقرات کرے اور بقیہ حروف میں ترتیب مذکور کو جاری رکھے۔

تشریح اس مجملات کی یہ طور سے ہے کہ جیسا کہ اسم ذات سے علاوہ کسی اسم صفات سے
بعد جیسے دونوں کو ملا کر جیسے اَللّٰہُ الْمَلِکُ ہر ایک حروف اصلی اسم ذات کے چار اور ملک کی تین ہوئے تو مجموعی
تعداد اسم ذات و صفات کی سات ہوئی [illegible] خُذْ حَرْفًا قُلِ النَّارَ جس ایک حرف کے بدلہ [illegible]

بہ نیت نصاب سات ہزار بار، بہ نیت زکوٰۃ سات سو بار، بہ نیت عشر ستر بار، بہ نیت قفل یک صد چھیانوے بار، بہ نیت دور
دو سو پانسو چھتیس بار، بہ نیت بذل پچھتر بار، بہ نیت ختم بیس بار، بہ نیت سریع الاجابت چار ہزار سات سو ستانوے بار سات دن
تک پڑھے پھر بہ نیت حاجت اس طرح پڑھے پہلے یا جبرائیل یا مالک ۲ بار بعدہ یا عزرائیل یا مالک
۱۱ بار میرے [illegible] یا مالک ۱۱ بار اگر ہر قدر [illegible] کے [illegible] میں [illegible] اس ترتیب سے پڑھے
یا [illegible] یا اسرافیل [illegible] بھی [illegible]

اعتصام اور اختتام کا بیان منہاج الاعمال میں مشائخ علیہم الرحمۃ نے ارشاد کیا ہے کہ اعتصام و اختتام
ہر اسم ترتیب سے قرات کیا ہے کہ پہلے ھُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَۃِ ھُوَ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِیْمُ ھُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ پھر [illegible] شروع کیا [illegible]
یَا سَتَّارُ الَّذِیْ لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ وَّھُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَاِلَیْکَ الْمَصِیْرُ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ
النَّصِیْرُ حَسْبِیَ اللّٰہُ وَکَفٰی [illegible]
سُبْحَانَ اللّٰہِ [illegible] اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ [illegible] وَبَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ
[illegible] اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی [illegible] وَصَلِّ عَلٰی
جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِی الْاَجْسَادِ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ [illegible] بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ۔ قادری مشائخ کبار رحمۃ اللہ
علیہم نے فرمایا ہے اگر حروف [illegible] کے ساتھ تلاوت کیا جائے تو باعث سریع الاجابت ہے [illegible] دن کو
پڑھے [illegible] کے ساتھ پڑھے اور شب کو حروف [illegible] کے ساتھ پڑھتا ہے تو دعا جلد قبول ہو گی۔ پہلی بار اسماء حسنیٰ سے
ھُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ کے کچھ خواص لکھے جاتے ہیں۔ **خاصیت** یا اللّٰہُ [illegible] کے لئے ۵۰۰ بار
سریع الاجابت یا اللّٰہُ یا اسم ذات باری تعالیٰ کا ہے اور سلطان الاسماء ہے تمام اسماء حسنیٰ پر اس کو شرف
حاصل ہے اور یہ اسم بہت بزرگ جامع جمیع اسماء ہے کوئی چیز اس اسم سے باہر نہیں ہے یہی اسم اعظم ہے کہ یہی
[illegible] صفت [illegible] ابتدا [illegible] فنا کرنا
تمام پیدائش [illegible] موجودات تینوں صفات میں داخل ہے لیکن اس اسم کے معنی اور بھید کا [illegible] مشائخ
کے سوا کوئی واقف نہیں۔

خواہ کمرہ ہو یا ہو رسی مطلق یا سید خواہ زکوٰۃ کی نیت ہو یا نصاب وغیرہ کی اور ترک جلالی ہو یا جمالی فرض جماً
کے اندر بیٹھ کر اول دو رکعت پڑھ کر مصلے پر آیۃ الکرسی تین بار دعا ولی تین بار چہار قل تین بار حمد ایک بار تبین بار بعد
درود تبجی بسم اللہ تین بار آیۃ الکرسی تین بار اخلاص تین بار صلوٰۃ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ
مُحَمَّدٍ وَّاذْکُرْ مُجِیْبَ الدَّعَوَاتِ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالْقُرْبِ وَلَا تَکْبِیْرَ یَا وَھَّابُ چند بار بعد میں اعتصام
شروع کرے اسماء حسنیٰ کی دعوت کا بیان واضح رہے کہ جب اسماء حسنیٰ میں سے کسی اسم کی
دعوت دینے پر مستعد ہو تو پہلے بیت شرائط دعوت ہیں اسم کو اسم ذات کے ساتھ ترکیب کرے یعنی اسم ذات اللہ کو
اس اسم کے ساتھ جس کی دعوت دینے کا ارادہ ہو ملائے جیسے اَنْتَ الصَّمَدُ یا اَنْتَ الْبَاسِطُ یا اَنْتَ الْمَلِکُ
ف اے طالب معلوم کر کہ اسرار کہ ہر اسم کی دعوت کے ساتھ اسم ذات کا ملانا شرط ہے پھر ان دونوں
اسموں کے حروف ملفوظی گنے پھر جس قدر ان دونوں اسموں کے حروف ہوں اتنی ہی بار جلالی بیت نصاب وانتی
ہی بار بیت زکوٰۃ مقرر کرے بعد اسی حروف کو دس سے ضرب دے کر بیت عشر اور اسی حروف کو ضامن کر کے
ایک بیت قفل پڑھے پھر دونوں اسموں کے حروف ملفوظی کے ساتھ ملا کر بیت دو حصہ پڑھے اور جس قدر
نیز تعداد تشدیدات ہوں ضرب ہو اسی قدر بیت بذل ایک ساعت جس قدر دونوں اسموں کے حروف
ملفوظی ہوں اتنی بار بیت ختم پڑھے پھر ان دونوں اسموں کے حروفوں کے تماثیل ہوں کو گن کر ساتھ اعداد کے
ان دونوں کے ساتھ بطور تکسیر بیت سریع الاجابت عمل کرے بعد بیت حاجت موافق عدد قاعدہ کا ہر حرف اصلی
در مثل اسم صفات کے ہر حرف ملفوظی کو نکال کر عدد نکالے اور پھر ہر کل سالی نقش حرکات حروف تہجی سے جو اس
کتاب کے حصہ اول میں بسبب معلوم کرکے موافق عدد ملفوظی اسی حرف کے اول عدد اسم صفات کے ساتھ
ملا کر تم کرے اسی طرح سے حروف اسم صفات کے ہر حرف کے بعد علیحدہ علیحدہ ہر کل سالی کے
ہر دو ترتیب و ترکیب کرے اور باقی حروف میں ترتیب مذکورہ کو ادا کرے۔

تشریح اس مجملات کی یہ طور سے ہے کہ جیسے انت اسم ذات ہے اور ملک اسم صفات ہے
پس جب ان دونوں کو ترکیب دی تو انت الملک ہو گیا حروف ملفوظی اسم ذات کے چار اور ملک کی تین ہوئے تو مجموعی
تعداد اسم ذات اور صفات کی سات ہوئی پس ہر حرف کو خدا حروفاً فانی الفار جب ایک حرف کے بدلے میں پڑھ

بیت ضامن تین ہزار بار بیت زکوٰۃ سات سو بار بیت عشر ستر بار بیت قفل ایک سو چھیانوے بار بیت دو
عدد پانسو تیس بار بیت بذل تیس بار بیت ختم بیس بار بیت سریع الاجابت چار ہزار سات سو تیس بار بیت دو
تک پڑھے پھر بیت حاجت اسی طرح پڑھے پہلے روز بار دایاں کونا گھٹنے کا بعد دوسرے روز بایاں کونا
اور تیسرے روز بایاں کونا ملا ... اگر بر تقدیر اس عمل کے ختم کرنے میں تاخیر واقع ہو تو ترتیب پڑھے
یا قائیل یار فنا یا کل یا ملکا ایل کی بندگی ... سو بار ... جو ہم نے آپ کو بتایا ہے ... ترجمہ کریں

اعتصام اور اختتام کا بیان۔ منجملہ اعمال اور مشائخ طریقت نے اعتصام اور اختتام
اس طریقہ سے قرأت کیا ہے کہ پہلے ھُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَۃِ ھُوَ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِیْمُ ھُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ اَلْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ پر ختم کر کے پڑھے ... یا سامع
یا ستار الَّذِیْ لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ وَّھُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَاِلَیْکَ الْمَصِیْرُ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ
النَّصِیْرُ حَسْبِیَ اللّٰہُ وَکَفٰی سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ دَعَا لَیْسَ وَرَآءَ اللّٰہِ مُنْتَھٰی ... اعتصمت ... عن
سُبْحَانَ اللّٰہِ مَنْ لَّمْ یَزَلْ کَیْفَ وَلَا یَزَالُ رَحِیْمًا اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَبَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ
کَمَا بَارَکْتَ الْبَرَکَاتِ وَارْحَمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا رَحِمْتَ اَلرَّحْمَۃَ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِی الْاَرْوَاحِ وَصَلِّ عَلٰی
جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِی الْاَجْسَادِ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ فِی الْقُبُوْرِ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ۔ فائدہ شیخ اکبر رضی اللہ
عنہ نے فرمایا ہے اگر حروف نقطہ کے ساتھ تلاوت کیا جائے تو باعث سریع الاجابت ہے تو بہتر ہے ورنہ اگر کوئی دن کو
پڑھے بعد اسم کے ساتھ پڑھے اور شب کو حروف نقطہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو عامل بخیل ہو گی ... اسماء حسنیٰ
ھُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ کے کم خواص لکھے جاتے ہیں خاصیت یا اللہ شروع کرے سوا لاکھ بار
صرف اللہ یا اللہ یا اسم ذات باری تعالیٰ کا ہے اور سلطان تمام اسماء کا ہے اور تمام اسماء حسنیٰ پر اس کو شرف
فضیلت ہے اور یہ اسم بہت بزرگ جامع جمیع اسماء ہے کوئی چیز اس اسم سے باہر نہیں ہے کیونکہ اسم اعظم کے معنی یہ
کہ وہی صاحب تین صفت کا ہے یعنی صفت ایجاد یعنی پیدا کرنا، ابقاء باقی رکھنا زندہ رکھنا، فنا کرنا فنا کرنا،
تمام پیدائش اور کل موجودات ان تینوں صفات میں داخل ہیں لیکن اس اسم کے معنی اور بھید کا عین مشائخ
کے سوا کوئی واقف نہیں ہے

مفسرین کے نزدیک ہر چیز کا آغاز اور اختتام خاص اسی اسم پاک سے ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان یا اللّٰہ اکبر کہتے ہیں اور مرتے وقت لا الٰہ الا اللّٰہ کی تلقین کرتے ہیں اسی طرح قرآن کا افتتاح بسم اللّٰہ سے اور اختتام من الجنۃ والناس پر اور نماز کا افتتاح اللّٰہ اکبر اور اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللّٰہ [illegible] دخول جنت کا افتتاح بسم اللّٰہ سے اور اختتام الحمد للّٰہ پر ہو گا اور مفسرین کے نزدیک اس اسم کے ظاہر و باطن میں [illegible] ظاہر [illegible] حروف میں پانچ کے عدد کا خاصہ ہے کہ جیسے پانچ کو [illegible] ضرب کریں اور اس سے حاصل کو اسی میں ضرب کریں تو اول صورت پانچ کی [illegible] اسی واسطے ہر عدد کو [illegible] کہتے ہیں مثلاً حاصل ضرب پانچ کا ۲۵ ہوا اور حاصل ضرب ۲۵ کا اسی میں ۱۲۵ اور حاصل ضرب ۱۲۵ کا اسی پانچ میں ۶۲۵ وغیرہ۔

قاعدہ استخراج دیگر نام از اسم ذات

خدا کا ذاتی نام اللّٰہ ہے یہی اسم اعظم ہے اس اسم کی ظاہریت اور معبودیت اور مخلوق کے اسم کی عبدیت اور مظہریت [illegible] سے ظاہر ہوتی ہے [illegible] کہ اسم اللّٰہ کے جیسا ۶۶ عدد ہیں جس شے کے نام کو چاہیں کہ اس کے [illegible] اس شے کے نام کے عدد [illegible] عددوں کی تسکین کریں اور حاصل ہر ایک عدد [illegible] ضرب دیں [illegible] حاصل ضرب کو [illegible] تقسیم [illegible] باقی کو [illegible] ضرب کریں جیسا ۶۶ حاصل ہوگا یہی اسم اللّٰہ کا عدد ہے [illegible] اگر چاہیں کہ رسول کا اسم اللّٰہ کے عدد سے پیدا ہو تو ابجدی قاعدے سے رسول کے عدد نکالے (۲۹۶) ہوئے [illegible] تقسیم کیا باقی [illegible] (۳۰) [illegible] میں ضرب دیا ۶۶ ہوئے یہی جیسا ۶۶ عدد اللّٰہ کے ہیں [illegible] المطلب [illegible] غیر متناہیہ سے [illegible] ایک [illegible] شش [illegible] باقی [illegible] ضرب [illegible] یہ اس عمل کا مجمل ہے۔

اگر لام تعریف اللّٰہ کا حذف کیا جائے بعد اسکو جمع کریں تو کہا جائے گا اگر دونوں لام حذف کریں تو باقی رہ جائے [illegible] اور جبکہ [illegible] اسم [illegible] زبان [illegible] ہے [illegible] اس کی ہے اور جگہ [illegible] جیسے [illegible] اسماء کا اور

جیسے اسمائے صفات اسی کے سبب مشتق ہیں بخلاف دیگر اسماء کے کہ جب ان میں سے کوئی حرف ساقط کریں تو [illegible] حرف کے بعد وہ اپنے معنوں پر باقی نہیں رہتے مگر اسم اللّٰہ کہ جب اسکا کوئی حرف حذف کریں تو بقیہ اسکا اسی زبان [illegible] ہو جاتا ہے۔

مربع دیگر				نقش مربع				نقش مثلث			خاصیت	ترجمہ	اعداد	اسم
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۶۶	یا اللّٰہ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

خاصیت جو کوئی اسکو ہزار بار پڑھے گا صاحب یقین ہو گا جو ہر نماز کے بعد روز سو بار پڑھ لیا کرے گا صاحب کشف ہو گا اور جو کوئی چالیس دن تک ہر [illegible] ایک سو [illegible] نام کو لکھ کر [illegible] آٹے میں گولیاں باندھ کر دریا میں ڈالے گا مقصد پاوے گا جو کوئی [illegible] عشاء کی نماز کے بعد اَللّٰهُ الصَّمَدُ چار لاکھ بار پڑھے گا جو [illegible] رکھتا ہو گا [illegible] چالیس دن میں [illegible] یا مربع نقش لکھ کر آٹے میں گولیاں باندھ کر دریا میں [illegible] کر مچھلیاں کھائیں حاجت پوری ہو گی [illegible] تپ کی دفع کو اَللّٰهُ مربع نقش پڑھ کے صحت ہو گی جو ایک وقت مقرر کرکے یَا اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ پانسو بار پڑھ لیا کرے گا اس پر [illegible] روزی کشادہ ہو گا اور دعا مستجاب ہو گی جو یَا اَللّٰهُ یَا [illegible] یَا فَتَّاحُ یَا بَاسِطُ یَا رَزَّاقُ یَا غَنِیُّ یَا مُغْنِیْ [illegible] تہجد کی نماز کے بعد [illegible] آخر درود شریف کے ساتھ مداومت کرے [illegible] رزق میں بہت [illegible] پائے گا جو ذکر پاس انفاس کرے گا یعنی ہر سانس پر جو اندر جاتا ہے اَللّٰهُ اور باہر نکلے ھُوْ اس کے [illegible] جاری [illegible] افضل الاعمال ہے [illegible] آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف کے صبح و شام تین سو بار یَا اَللّٰهُ پڑھا کرے خدائے تعالیٰ کا ذوق و شوق روزی ہو گا جو کسی حاجت براری کو [illegible] باجماعت عصر کی نماز پڑھ کر ایک گوشہ میں مغرب تک یَا اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ پڑھے گا اسی طرح تین جمعہ کرے

مقصد پائیگا۔ دیرب ذوالعرش نے اپنے مجربات میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض خواص اس اسم شریف یہ ہے کہ واسطے
شفائے جملہ امراض کے اگر اسکو موافق اس کے عدد کے ۶۲ مرتبہ لکھیں اور اسکو دھو کر مریض کو پلا دیں تو وہ
شفا پائے گا۔ باذن اللہ تعالیٰ اور ہر آئے جو اگر نظر سے یا آسیب زدہ کے بھی یہی اسم لکھکر اور دھو کر پلا دیکھا
اور عمل واسطے حبس بیمار واشت جن کے ارادہ کریں کہ اس اسم کے حرفوں کو جن زدہ کے انگشتان دست پر لکھیں
تو وہ محبس ہو جائے گا یعنی وہ شخص جن سے محفوظ اور جن پاس سے باز ایستادہ رہے گا اور اگر ارادہ حرق جن کا
کریں یعنی اسکے جلانے کا ارادہ رکھے ہوں تو حروف اسم اللہ کو ایک نیلے کپڑے پر لکھیں اور ایک سرے
سے اسکو جلا دیں اور جن زدہ کو سونگھا دیں اس صورت میں اگر اس عمل کے مار ڈالنے کا یا جلا دینے کا ارادہ رکھتے
ہوں۔ تو اسکو کرنا چاہئے ہوں تو یہ بات اسی ماذون سے حاصل ہوں گی اور بعض علمائے سلف نے ذکر کیا ہے
کہ جبکہ یہ اسم اللہ کسی ظرف میں بلا عدد لکھ جس قدر اس ظرف میں گنجائش ہو لکھکر اور دھو کر اسکا پانی مصروع یعنی
آسیب زدہ پر چھڑکیں تو اسے تو شیطان اور سکا جل جاویگا اور بونی نے کہا کہ میں نے بھی یہ عمل ایک شخص کو بتایا
کہ وہ لڑکا تیس برس سے مصروع یعنی آسیب زدہ تھا اور اس عارضہ سے اسکو ہر اطباء نے عاجز کر دیا تھا چنانچہ
وہ شخص جن زدہ اس عمل پر آمادہ رہا اور آرام ہو گیا اور جو شخص محبت خدا کی وجہ سے اسکو پڑھیگا اور شک باطل
نکریگا وہ صدیقوں میں ہوگا۔ جو ہر نماز کے بعد سات بار بعد اعوذ الرحیم پڑھتا رہے گا اس کا ایمان سلب
نہوگا اور شر شیطان سے محفوظ رہیگا۔

۵۳	۶۶	۸۰	۹۶		۱۰۰	۹۵	۱۰۲	اے بہت بخشنے والے دنیا اور آخرت میں	[illegible]	یا رحیم	۲
۶۹	۹۵	۶۲	۶۸		۱۰۳	۹۹	۸۸				
۶۹	۸۲	۶۵	۶۲		۹۹	۲۲	۹۷				
۶۹	۷۱	۷۰	۸۱								

خاصیت جو کوئی صبح کی نماز کے بعد دو سو اٹھانوے بار پڑھے گا خدا اس پر بہت رحم کرے گا۔ جو
ہر نماز کے بعد الرحمٰن الرحیم کا سو بار وظیفہ کریگا ان شاء اللہ غفلت اور نسیان اور قساوت
اسکے دل سے دور ہو جاوے گی اور ہر ایک سختی سے اسے بچائیگا اور دشمن سے نجات پائے گا جو چاہے

یا کوئی اسکا نقش لکھے تو سب مخلوق دیکھے گا یا رحمٰن الدنیا والآخرۃ و رحیمہما اکتالیس اکتالیس بار
اکتالیس دن تک پڑھے گا اس کی ضروری حاجت بر آویگی جو شخص عاشق سے موافقت کرے اور نہ کر
سکے اور دیگر مردم آزار ہوں اس کو یہ اسم یا رحمٰن کل شیء و رحیمہ کو سفید حریر کے کاغذ پر یا اور پر
کے نام عاشق اور اسکی والدہ کا معشوق اور اسکی والدہ کا لکھے مشک اور زعفران سے لکھکر جس جگہ رہتا ہو
اس جگہ دفن کردے جو شخص اس جگہ سے دفن کر دیگا ناپاک جگہ کر دیگا خود ہلاک ہو جائیگا پھر جو کچھ عاشق کہے گا وہ سنیگا
مجرب ہے۔ اور جو شخص اکتالیس دن لکھ کر پڑھے اور اس کے بعد بزرگ عبادت بجالائے کے ساتھ یا ارحم
الراحمین مع بسم اللہ آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے پانسو بار روز پڑھے گا خدا اسے بہت دولت
دیگا اور محتاج نہ رہے گا۔ جو کسی حاکم کے سامنے یا رحمٰن الدنیا والآخرۃ و رحیمہما یا بدیع پڑھتا
جاوے اور دم کرتا جاوے وہ حاکم سختی نہ کرے گا۔

۹۳	۹۶	۷۰	۵۶	۸۷	۸۲	۸۹	[illegible]	[illegible]	۲۵۸۸	یا رحمٰن	۲
۴۹	۵۰	۹۳	۹۰	۸۹	۸۶	۸۴					
۵۹	۶۲	۴۵	۹۲	۸۳	۹۰	۸۵					
۹۴	۹۱	۹۰	۶۱								

خاصیت۔ جو کوئی ہر روز اس اسم کو پانسو بار پڑھے گا دولت پائیگا اور خلق اللہ مہربان اور شفیق
ہو گی جو کوئی صبح کی نماز کے بعد سو بار پڑھے تمام خلق اللہ اس پر شفقت اور مہربانی کریگی جو ہر وقت بھی
روز سو بار پڑھا کرے اسکو تمام خلقت عزیز رکھے اور آخرت میں بہت اجر ملے گا اور اس کے موافق ۲۹۸ دفعہ
اٹھارہ دن تک کوئی یہ نقش پڑھ کر کے آئینے میں [illegible] باندھ کر بیٹھیں اگر کوئی مسخر [illegible] نصرت پاوے جو
[illegible] نگینہ پر بسم اللہ یا رحمٰن جمعہ کے دن نقش کرے کہ کبھی دکھ نہ پاوے اور [illegible] منصور رہے
۵۵۵ بار پڑھے دعا صبح کی نماز کے بعد ہر حاجت غنی ہو اگر طلب۔

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۴۰	[illegible]	۳
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								

خاصیت: جو کوئی شخص اَلْمُقْتَدِرُ ستر بار اپنے وظیفہ میں رکھے جو مال رکھتا ہو اس کے مال
و ملک کو تمام دن رات کمی نہ ہوگی اور جو ملک نہ رکھتا ہو تو اس کا نفس اسکی اطاعت میں رہیگا اور خلق میں محترم رہے گا
حضرت شاہ عبد الرحمن نے اپنے تجربہ سے لکھا ہے کہ نو سو بار جو کوئی روزانہ اسکو پڑھے گا تونگر ہوگا جو نو سے
دن تک روزانہ نقش بھر ساتھ رہے ہرگز خالی نہ رہے جو سورج نکلنے کے وقت تین ہزار بار پڑھے گا جو مراد
مانگیگا حاصل ہوگی۔

۴۲	۳۵	۴۸	۳۵	۵۸	۵۲	۶۰	[illegible]	[illegible]	۱۱۱۰ عدد	[illegible]	۵
۴۷	۳۶	۴۱	۴۶	۵۹	۵۷	۵۴					
۳۷	۵۰	۴۳	۴۰	۵۳	۶۱	۵۶					
۴۴	۳۹	۳۸	۴۹								

خاصیت: جو کوئی ہر بار اس اسم کو پڑھے گا سب سے بے پرواہ ہوگا جو جمعہ کی نماز کے بعد اسم [illegible]
[illegible] روئی کے کپڑے پر لکھکر کھائے فرشتہ صفت ہو جو دشمن سے بچے کو بھاگتے وقت جس قدر
ہو سکے پڑھے محفوظ رہے جو سفر میں اسکی مداومت کرے کبھی رنج نہ دیکھیگا جو کوئی ہر روز زوال کے نزدیک سوا
پڑھا کرے اسکا دل صاف ہو جو تین سو ساٹھ بار شیرینی پر پڑھکر دشمن کو کھلا دے دشمن مہربان ہو جو کوئی
نقش اسکا ایک سو ستر مرتبہ روزانہ ہمیشہ یا ایک سو ستر دن تک لکھکر [illegible] گولیوں میں مچھلیوں کو کھلایا کرے
کسی کا محتاج نہ رہے۔

۳۳	۳۵	۳۹	۲۸	۴۵	۳۹	۴۱	بالالف	[illegible]	۱۱۳۱ عدد	[illegible]	۶
۳۶	۲۹	۳۱	۳۹	۳۶	۴۳	۴۱					
۲۷	۴۱	۴۳	۳۰	۳۰	۴۸	۴۲					
۴۴	۲۹	۲۵	۴۰								

خاصیت: جو ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد ہزار بار اس اسم کو پڑھے گا ملہم زبان ہوگا جو اکیس یا اکتیس بار یا
ایک سو اکتیس بار پڑھکر بیمار پر دم کرے گا بیمار صحت پاویگا۔ جو اسکا نقش رکھے یا پاس رکھے دشمن سے نڈر
رہے گا جو ایک سو گیارہ بار پڑھکر دم کرے بیمار شفایاب ہوگا اور خوف سے بچے جو ایک سو اکتیس
نقش ایک سو اکتیس دن تک بھرے گا ہر حاجت بسلامت پائے گا۔ جو چھ سو نوے بار شیرینی پر پڑھکر

دشمن کو کھلا دے دشمن مہربان ہو۔

۳۳	۳۷	۴۰	۲۹	۴۶	۴۱	۴۹	بالالف	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۷
۳۹	۲۷	۳۲	۴۶	۴۰	۴۵	۴۳					
۲۸	۴۲	۳۵	۳۱	۴۲	۵۰	۴۴					
۳۶	۳۰	۳۹	۴۱								

خاصیت: جو کوئی صاحب ہر روز یہ تیرہ بار پڑھے گا [illegible] جو پڑھے جب اپنے زمانہ کو [illegible] اسکو صبح اور ایک
تمام مال کے خزانے [illegible] اس میں رکھے گا اگر کوئی اسکو ہر وقت پڑھتا رہے ہر چیز ظاہر و باطن جانے گی اس میں مے
جو کوئی بہت اسکا ورد کرے خلقت اسکی مطیع و معتقد ہو آسمان سے فیض [illegible] بزرگی ملے جو ایک سو تین بار
پڑھکر اپنے اوپر دم کرے گا تندرستی پائے گا۔

۳۶	۳۹	۴۲	۲۸	۴۹	۴۴	۵۲	بالالف	[illegible]	۱۱۲۵ عدد	[illegible]	۸
۴۱	۲۹	۳۵	۴۰	۵۱	۴۸	۴۶					
۳۰	۴۴	۳۷	۳۴	۴۵	۵۳	۴۷					
۳۸	۴۳	۳۱	۴۳								

خاصیت: جو کوئی الٹے اکتیس بار پڑھے گا [illegible] پائیگا جو ہمیشہ پڑھتا رہے تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا
جو کوئی غسل کرکے اس اسم کو ایک سو تیرہ بار ایک سبد پڑھے گا باطن اور فرشتوں سے واقف اور پر نور ہو جائیگا
اور بہشتیوں کی جماعت میں شمار ہوگا جو [illegible] یا [illegible] ایک سو چھتیس دن تک اس اسم کے اعداد کے موافق
لکھے یا پڑھے محترم رہے گا۔

۲۳	۲۶	۲۹	۱۶	۳۲	۳۷	۲۵	بالالف	[illegible]	۹۴ عدد	[illegible]	۵
۲۸	۱۷	۲۲	۲۷	۳۴	۳۰	۳۹					
۱۸	۳۱	۲۴	۲۱	۲۸	۳۶	۳۰					
۲۵	۲۰	۱۹	۳۰								

خاصیت: اگر آخر شب میں خلقت جمع ہو کر دو دو ہزار بار پڑھے پانی برسے گا جو کوئی پڑھے سرسبز ہو گا اور [illegible]
غالب ہوگا جو یَا عَزِیْزُ [illegible] تمام خلق میں عزیز ہوگا جو ہر روز فجر کی نماز کے بعد
اکتالیس روز یا فجر کے فرض اور سنت کے بیچ میں پڑھے دنیا اور عقبیٰ میں کسی کا محتاج نہ ہوگا اس اسم میں عجیب

دو غریب خواص ہیں جو کوئی رات سے دن تک چوراسی مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرے مرض کا مرض دفع ہو جو چار رکعت دن بھکس مع قول ذکر دو سو بار مدد کے پڑھے اور سب کام پر کریں جو اکتالیس بار صبح کو روز حاکم کے پاس جانے کے وقت یا سو بار پڑھ لیا کرے حاکم مہربان ہو جو چاندی کی انگوٹھی پر چاندی کے نگینہ پر شرف قمر کے وقت جو ہر مہینے ہو جاوے ساعت پر کرے اس کو سعد ہو تو سب مربع نقش ذیل کندہ کرا کر مسلسل پہن کر کے احتیاط سے کسی مکسلہ ماہ میں حاکم کے حضور جانے وقت داہنی چھنگلی میں پہن کر جاوے مجرب ہے جو بعد عشاء دو ہزار مرتبہ کے اوپر دو سو بار یا عزیز یا عزیز سبز زمین پر کل عزیز ہزار دفعہ یا لطیف یا عزیز پڑھ لیا کرے خدا اوس کی زندہ جمع کرے گا۔

۵۱	۵۴	۵۷	۴۴	۶۰	۴۳	۴۲	جلالی	یا عزیز	۱۰۴	یا عزیز	۱۰
۵۶	۴۵	۵۰	۵۵	۶۱	۳۹	۴۴					
۴۶	۵۹	۵۲	۴۹	۶۵	۶۲	۴۸					
۵۳	۴۸	۴۷	۵۸								

خاصیت جو کوئی صاحب شبہات عشرہ کے بعد اکیس بار پڑھتا ہے قاتلوں کے شر سے بچے جو کوئی اوس کی مداومت کرے نسبت اس کے کوئی خلق سے نذر ہو۔ اللہ تعالیٰ حسنہ مہربان ہو اگر چاندی پر نقش کر کے پہنے خلق کے دل میں اس کی ہیبت اور شوکت پیدا ہو گی جو دو سو چھ نقش ہو سو چھ دن تک رکھے سلطنت پائیگا۔

۱۶۵	۱۶۰	۱۶۱	۱۶۰	۲۱۳	۲۱۵	۲۱۲	جلال	یا مصور	۳۳۶	یا مصور	۱۱
۱۴۰	۱۵۹	۱۶۵	۱۶۹	۲۱۸	۲۱۲	۲۱۹					
۱۷۰	۱۶۲	۱۶۳	۱۶۳	۲۱۴	۲۱۵	۲۲۰					
۱۶۴	۱۶۲	۱۶۵	۱۶۸								

خاصیت جو کوئی اپنے ملال بستر میں داخل ہونے سے پہلے دس بار پڑھے اللہ جل شانہ اسے پرہیزگار اور نیک فرزند عطا کرے گا جو ہر کام کے بتہ میں بہت پڑھیگا اس کا کام نیک کرے جو اکیس بار پڑھیگا

خواب میں نظر آوے جو چھ سو باسٹھ دن تک چھ سو باسٹھ روز نقش ہمیشہ پڑھے صاحب عرفان اور بہات ہو گا

۱۸۲	۱۸۵	۱۸۹	۱۷۵	۲۳۵	۲۳۹	۲۳۲	جلالی	یا خالق	۷۳۱	یا خالق	۱۲
۱۸۸	۱۷۷	۱۹۱	۱۸۷	۲۳۴	۲۳۴	۲۴۱					
۱۷۸	۱۹۱	۱۸۲	۱۸۰	۲۴۰	۲۳۸	۲۳۶					
۱۸۴	۱۷۹	۱۷۸	۱۹۰								

خاصیت حضرت شاہ عبد الرحمن نے لکھا ہے کہ جو کوئی رات کو یا الخالق پڑھے گا بخشا جائیگا اور اس کا دل اور منہ روشن ہو گا اور تمام کاموں پر قادر ہو گا۔ جو کوئی اوس کی مواظبت کرے گا حق تعالیٰ اوس کے لئے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے تاوہ قیامت تک اس بندہ کے لئے عبادت کرے اور اس کا دل اور منہ روشن کرا دے جو کوئی لڑائی میں تین سو بار پڑھے دشمن اس کا مغلوب ہو گا۔

۵۳	۵۹	۵۹	۴۵	۶۲	۴۷	۶۳	جلالی	یا باری	۲۱۳	یا باری	۱۳
۵۸	۴۶	۵۲	۵۷	۶۳	۶۱	۴۹					
۴۷	۶۱	۵۴	۵۱	۴۸	۶۵	۶۰					
۵۵	۵۰	۴۸	۶۰								

خاصیت جو کوئی ہفتہ میں سات سو بار پڑھے اللہ تعالیٰ اوس کو قبر میں نہ چھوڑے گا اور یا فرشتوں کی طرف سے بھیجیگا جو جمعہ کے دن دس بار صدقہ کرے گا خدا اس کو فرزند عطا فرمائے گا اگر کسی کی مدد طلب کرے گا اور اس کے ہاتھ میں شفا ہو گی۔

۸۳	۸۶	۹۰	۷۹	۱۱۳	۱۱۰	۱۱۵	جلالی یا مصور	یا مصور	۳۳۶	یا مصور	۱۴
۸۹	۷۷	۸۲	۸۸	۱۱۳	۱۱۲	۱۱۰					
۷۸	۹۲	۸۵	۸۱	۱۰۹	۱۱۴	۱۱۱					
۸۹	۸۰	۷۹	۹۱								

خاصیت جو بانجھ عورت سات روز روزہ رکھے اور افطار کے وقت اکیس بار المصور پڑھ کر پانی پر دم کرکے پی لیا کرے حق تعالیٰ اوس کو نیک اور نرینہ فرزند عطا کرے گا جو اس کے پڑھنے کی کثرت کرے اوس کے تمام مشکل کام آسان ہوں گے جو اسے پانی پر پڑھ کر دم کرے اور پئے اعلیٰ مرتبہ پائے گا۔

۱۵	یا غفّار	[illegible]	[illegible]	جلالی	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

خاصیت جو کوئی یَا غَفَّارُ اِغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ سو بار جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسکو بخش دیگا اور آخرت میں اسکو اپنی مغفرت اور اپنے لطف کا امیدوار کر دیگا جو یَا غَفَّارُ کی مداومت کریگا اسکے تمام گناہ معاف ہوں گے اور اس کے نفس کی خواہشات بد دور ہوں گی جو اسے پڑھا کرے گا ایمان کامل پاوے گا۔

۱۶	یا وھّاب	[illegible]	[illegible]	جلالی	۱۰۵	۹۸	۱۰۳	۶۹	۸۳	۷۹	۷۲
					۱۰۰	۱۰۲	۱۰۴	۵۰	۷۵	۷۰	۸۱
					۱۰۱	۱۰۶	۹۹	۷۴	۷۷	۸۴	۷۱
								۸۳	۷۲	۷۳	۷۸

خاصیت جو کوئی اسکو بہت پڑھے گا اللہ جل جلالہ دنیا کی محبت اسکے دل سے دور کر دیگا تاکہ دنیا کی رسوائی سے بچے اور اسکا خاتمہ بالخیر ہو اور حضرت کا شوق اور محبت اسکے دل میں جگہ پاوے جو کسی شغل کے واسطے سو بار پڑھے شغل حل ہو جو سو بار فرض و سنت کے درمیان دشمن کی تباہی کی نیت سے پڑھے گا دشمن مغلوب ہوگا۔

۱۷	یا وھّاب	[illegible]	[illegible]	جلالی	۷	۱	۶	۱	۹	۳	۴
					۳	۵	۷	۲	۳	۲	۵
					۴	۸	۲	۳	۱	۸	۳
								۷	۴	۱	۲

خاصیت جو کوئی فقر و فاقہ سے رنجیدہ ہو اسکی مداومت کرے خدا ئے برحق اسکو ایسی راحت دیگا کہ حیرت میں رہ جائیگا جو چاشت کی نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھکر سجدے میں سر رکھکر سات بار یَا وَھَّابُ پڑھے وہ خلقت سے بے پرواہ ہوگا جو اسکو لکھکر اپنے پاس رکھے گا ایسا ہی نیک میں پائیگا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اسکو اپنا مجرب عمل فرماتے ہیں کہ جو کوئی رزق کی فراخی کو

چاشت کے وقت چار رکعت پڑھے ہر سلام کے بعد سجدے میں جاکر یَا وَھَّابُ ایک سو چار بار جو فرصت نہ ہو تو پچاس بار پڑھے تونگر ہو جو کسی حاجت کو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں تین بار سجدہ کرکے ہاتھ اٹھاکر سو بار پڑھے یعنی سات سات بار اس کی حاجت روا ہو جو بعد عشا ساتھ گیارہ سو بار پڑھے مقروض نہ رہے جو سات بار روز پڑھے گا مستجاب الدعوات ہو گا جو بعد عشا کے چودہ سو چودہ بار پڑھے گا فراخ رزق ہوگا اور بعد عشا کے کسی کام یا جمعیت خاطر کو گیارہ ہزار یا گیارہ سو یا تین ہزار یا تین سو یا ایک سو گیارہ بار پڑھا کرے ہر حاجت کی تکمیل کے لئے بعد عشا کے بعد چار رکعت کے بعد کہ ہر رکعت میں بعد فاتحہ آیۃ الکرسی گیارہ یا پندرہ بار اور سورۂ اخلاص ۲۵ بار بعد سلام یَا وَھَّابُ ایک ہزار اکتالیس بار پڑھے مجرب ہے نام کو پڑھ لیجئے۔

۱۸	یا رزّاق	[illegible]	[illegible]	جلالی	۱۰۹	۹۸	۱۰۳	۹۶	۸۳	۸۰	۷۶
					۱۰۰	۱۰۳	۱۰۵	۸۱	۷۵	۸۰	۸۳
					۱۰۲	۱۰۶	۹۹	۷۴	۷۸	۸۵	۷۱
								۸۴	۷۲	۷۳	۷۹

خاصیت جو کوئی صبح صادق کے بعد نماز سے پہلے گھر کے چاروں کونوں میں دس دس بار یا دو دو سو بار اسکو پڑھا کرے تو اس گھر میں ہرگز مفلسی نہ ہوگی لیکن داہنے کونے سے شروع کرے مگر منہ قبلہ کی طرف رہے جو ایک سو بیس روز پڑھ لیا کرے گا محتاج نہ رہے گا جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان کچھ دن تک ساڑھے پانسو بار روز پڑھے گا دولت مند ہوگا مگر ناغہ نہ کرے اگر ناغہ ہو جائے تو پھر شروع سے پڑھنا پڑے گا اور اس کے اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ لیا کرے جو عشا کی نماز کے بعد شکر کرکے یَا رَزَّاقُ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ یَا رَزَّاقُ گیارہ گیارہ بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ اکتالیس بار روز پڑھا کرے گا فتوح رزق پائیگا جو اسے بہت پڑھے فراخ روزی ہوگا جو کوئی اسکو پانسو پینتالیس بار روز پڑھے گا رزق اس بندہ کا کشادہ ہو اور کوئی دو شنبہ کی صادق تیکی اور جو ہزار بار روز تنہائی میں پڑھا کرے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات حاصل ہوگی مگر اہل حلال کی شرط ہے۔

۱۹	یا فتاح	۴۸۹	[illegible]	بادی		

۱۲۲	۱۲۵	۱۲۹	۱۱۳
۱۲۶	۱۱۵	۱۲۱	۱۲۷
۱۱۶	۱۳۰	۱۲۳	۱۲۰
۱۲۵	۱۱۹	۱۱۶	۱۲۹

۱۶۴	۱۵۹	۱۶۶
۱۶۵	۱۶۳	۱۶۱
۱۶۰	۱۶۷	۱۶۲

خاصیت جو کوئی فجر کی نماز کے بعد دو دن ہاتھ سینہ پر رکھ کر ستر بار پڑھے گا اوس کے دل سے زنگ بادہ رہے گا اور صفائی اور نورانی ہوگی۔ جو کوئی اسکا ورد کرے ہر مشکل کے وقت دور ہو جاوے اور فتوح کے دروازے اس پر کھل جائیں گے جو کوئی سات بار پڑھے دل کی تاریکی جاتی رہے۔

۲۰	یا قابض	۹۰۳	[illegible] روزی تنگ کرنے والا	[illegible]		

۲۲۵	۲۲۸	۲۳۲	۲۱۸
۲۳۱	۲۱۹	۲۲۴	۲۲۹
۲۲۰	۲۳۴	۲۲۶	۲۲۳
۲۲۷	۲۲۲	۲۲۱	۲۳۳

۳۰۲	۲۹۷	۳۰۴
۳۰۳	۳۰۱	۲۹۹
۲۹۸	۳۰۵	۳۰۰

خاصیت جو کوئی اسے چالیس دن تک ہر روز چالیس نوالوں پر لکھ کر کھالیا کرے گا بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا جو ہر روز تیس بار پڑھا کرے دشمن پر فتح پاوے گا۔

۲۱	یا علیم	۱۵۰	[illegible]	[illegible]		

۳۷	۴۰	۴۳	۳۰
۴۲	۳۱	۳۶	۴۱
۳۲	۴۵	۳۸	۳۵
۳۹	۳۴	۳۳	۴۴

۵۱	۴۶	۵۳
۵۲	۵۰	۴۸
۴۷	۵۴	۴۹

خاصیت جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسکو معرفت دین و دنیا عطا فرمائیگا جو کوئی نماز کے بعد سو بار یا عالم الغیب کہے اللہ تعالیٰ اسکو صاحب کشف بنا دیگا جو پوشیدہ حال سے آگاہ ہونا چاہے شب جمعہ کو نماز کے بعد ستر بار سجدہ میں پڑھکر سوجائے مطلوبہ حال سے آگاہی پائیگا جو کوئی علم اور ہدایت کرنا چاہے اول دو رکعت نماز پڑھے پھر درود شریف پھر سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ستر بار پڑھکر یَا عَلِیْمُ عَلِّمْنِیْ یَا خَبِیْرُ أَخْبِرْنِیْ یَا مُبِیْنُ بَیِّنْ لِیْ ستر ستر بار پڑھکر اپنا مطلب تصور کر کے لیٹ رہے جو خواب میں دیکھے یا کسی مجمع میں چلا جائے وہاں لوگوں کی باتوں سے بطریق اشارہ مطلب معلوم کرے۔

۲۲	یا باسط	۷۲	[illegible]	[illegible]		

۱۷	۲۱	۲۴	۱۰
۲۳	۱۱	۱۶	۲۲
۱۲	۲۶	۱۹	۱۵
۲۰	۱۴	۱۳	۲۵

۲۵	۲۰	۲۷
۲۶	۲۴	۲۲
۲۱	۲۸	۲۳

خاصیت جو کوئی سحر کے وقت یا باسط بھی یا جبر بہائی دس بار ہاتھ اٹھا کر پڑھے گا اور ہاتھ منہ پر پھیرے گا وہ کسی سے کچھ مانگنے کی حاجت نہ پڑے گی جو چالیس بار پڑھے خلق سے بے پرواہ ہوگا جو کوئی بعد نماز آنکھیں بند کر کے گیارہ بار پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ منہ پر پھیرے صاحب بینائی ہو کر ان ہاتھوں کو دیکھے اور دن ہو کا نزلے کا بھی ہے گر بستر پر بار پڑھکر یہ بھی ہے اللّٰهُمَّ ... وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ جو کوئی ... یا باسط ... پڑھے امید ہے کہ رزق غیب سے پائیگا ... جو اکتالیس دن تک گیارہ سو بار اس طرح پڑھا کرے کہ فجر کی نماز کے بعد ... قبلہ کی طرف سو بار پڑھکر پھر ... مغربی و جنوبی گوشہ میں پھر ... مشرقی و جنوبی گوشہ میں پھر مشرق ... شمالی گوشہ میں پھر ... شمال و غرب میں پھر ایک سو بار زمین کی طرف پھر آسمان پھر اپنے اوپر پڑھکر دم کرے تو مگر ہوگا ہر مہم کو ہر نماز کے بعد ایک ہزار چالیس بار روز کا ورد رکھے کشائش رزق کے لئے بیس دن تک اور ہر روز یہ اسم پڑھے ایسا ہر روز مفید ہے۔

۲۳	یا خافض	۱۴۸۱	[illegible]	[illegible]		

۳۷۰	۳۷۳	۳۷۶	۳۶۲
۳۷۵	۳۶۳	۳۶۹	۳۷۴
۳۶۴	۳۷۸	۳۷۱	۳۶۸
۳۷۲	۳۶۷	۳۶۵	۳۷۷

۴۹۵	۴۹۰	۴۹۶
[illegible]	۴۹۳	[illegible]
۴۹۱	۴۹۷	۴۹۲

خاصیت جو کوئی تین روزے رکھے اور پھر چوتھے دن ایک مجلس میں چند آدمی ستر ستر بار پڑھیں دشمن پر فتح پائیگا جو کوئی اسے پانسو بار پڑھے دشمن کے صدمے سے امان میں رہیگا اور حفاظت الٰہی اسکی شامل حال رہے گی۔

۸۶	۹۰	۹۳	۸۰	۱۱۸	۱۱۳	۱۲۰	جلالی جمالی	[illegible]	۳۵۱	یا رافع	۲۴
۹۳	۸۱	۸۹	۹۱	۱۱۹	۱۱۶	۱۱۵					
۸۲	۹۴	۸۸	۸۵	۱۱۴	۱۲۱	۱۱۷					
۸۹	۸۴	۸۳	۹۵								

خاصیت جو کوئی صاحب اسے آدھی رات یا دوپہر کو سو بار پڑھے گا حق تعالیٰ اسکو تمام خلق میں برگزیدہ کرے گا اور تونگر اور بے نیاز ہو گا جو کوئی ہر روز بیس بار پڑھے گا مراد پائے گا۔

۲۹	۳۲	۳۵	۲۱	۴۰	۳۵	۴۲	جلالی	[illegible]	۱۱۷	یا معز	۲۵
۳۴	۲۲	۲۸	۳۳	۴۱	۳۹	۳۷					
۲۳	۳۶	۳۰	۲۶	۳۶	۴۳	۳۸					
۳۱	۲۶	۲۴	۲۹								

خاصیت جو کوئی شخص اسے بعد نماز عشاء یا سنت شب دو شنبہ یا شب جمعہ ایک سو چالیس بار پڑھے خلقت کی نظر میں اسکے لئے ایک ہیبت اور حرمت ظاہر ہو گی اور خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے گا اسی کی پناہ میں رہے گا۔

۱۹۸	۱۹۵	۱۹۹	۱۸۵	۲۵۸	۲۵۲	۲۶۰	جلالی	[illegible]	۷۷۰	یا مذل	۲۶
۱۹۴	۱۹۳	۱۹۱	۱۹۷	۲۵۹	۲۵۶	۲۵۴					
۱۹۶	۲۰۰	۱۹۸	۱۹۰	۲۵۳	۲۶۱	۲۵۹					
۱۹۳	۱۹۶	۱۹۲	۱۹۹								

خاصیت جو کوئی کسی ظالم یا حاسد سے خائف ہو پچھتر بار یا اکیس بار یَا مُذِلُّ بلا یا پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا الٰہی فلانے ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ حق تعالیٰ امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا جو سات سو ستر بار روز کوئی وقت معین کرکے یَا مُذِلُّ تُذِلُّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ بِقَھْرِ عَزِیْزٍ سُلْطَانُکَ پڑھ لیا کرے دشمن دفع ہو گا جو اس شخص کا تصور کر کے پڑھے وہ ہلاک ہو جائے گا۔

۷۵	۷۸	۸۱	۶۸	۱۰۲	۹۶	۱۰۴	جلالی	[illegible]	۱۸۰	یا سمیع	۲۷
۸۰	۶۹	۷۴	۷۹	۱۰۳	۱۰۱	۹۹					
۷۰	۸۳	۷۶	۷۳	۹۷	۱۰۵	۱۰۰					
۷۷	۷۲	۷۱	۸۲								

خاصیت جو کوئی اَلْبَصِیْرُ درست اعتقاد سے فجر کے فرض و سنت کے درمیان ایک سو ایک بار پڑھیگا حق تعالیٰ کی نظر عنایت کے ساتھ مخصوص ہو گا جو کوئی ہر روز عصر کے وقت سات بار پڑھ لیا کرے گا ناگہانی موت سے امن میں رہے گا جو جمعہ کے خطبے سے پہلے سو بار پڑھ لیا کرے گا منظور نظر الٰہی ہو گا۔

۴۴	۴۸	۵۱	۳۷	۶۱	۵۶	۶۳	جلالی [illegible]	[illegible]	۳۰۲	یا بصیر	۲۸
۵۰	۳۸	۴۳	۴۹	۶۲	۶۰	۵۸					
۳۹	۵۳	۴۶	۴۲	۵۷	۶۴	۵۹					
۴۷	۴۱	۴۰	۵۲								

خاصیت جو کوئی جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد پانچ سو بار اَلسَّمِیْعُ پڑھے گا اور جب ایک قول کے ہر روز سو بار پڑھا کرے گا اور پڑھنے کے وقت کلام نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے جو مانگے گا پائے گا۔

۱۶	۲۰	۲۳	۹	۲۳	۱۸	۲۶	جلالی [illegible]	[illegible]	۶۸	یا حکم	۲۹
۲۲	۱۰	۱۵	۲۱	۲۵	۲۳	۲۰					
۱۱	۲۵	۱۸	۱۴	۱۹	۲۷	۲۱					
۱۹	۱۳	۱۲	۲۴								

خاصیت جو کوئی اسکو جمعہ کی شب اور ایک روایت کے موافق آدھی رات میں اتنا پڑھے کہ بیہوش ہو جاوے حق تعالیٰ اسکے باطن کو خزانہ اسرار بنا دیگا جو پانچوں وقت ہر نماز کے بعد اسی بار پڑھ لیا کرے گا کسی کا محتاج نہ ہو گا۔

۲۵	۲۹	۳۲	۱۸	۳۶	۳۰	۳۸	جلالی	[illegible]	۱۰۴	یا عدل	۳۰
۳۱	۱۹	۲۴	۳۰	۳۷	۳۵	۳۳					
۲۰	۳۴	۲۷	۲۳	۳۱	۳۹	۳۴					
۲۸	۲۲	۲۱	۳۳								

خاصیت جو کوئی اَلْعَدْلُ ہر شب جمعہ میں روٹی کے بیس ٹکڑوں پر لکھ کر کھائے گا حق تعالیٰ تمام خلق کو اسکے لئے مسخر کر دے گا جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد ہزار بار پڑھے گا آسمانی بلاؤں سے نجات پائے گا۔

٢١	یَا لَطِیفُ	١٢٩ عدد	[illegible]	جلالی

٤٦	٣٩	٤٤
٤١	٤٣	٤٥
٤٢	٤٧	٤٠

٢٤	٣٨	٣٥	٣٢
٣٦	٣١	٢٥	٣٧
٣٠	٣٣	٢٨	٢٦
٣٩	٢٧	٢٩	٣٤

خاصیت جو کوئی تنگی و فاقہ میں تنگ ہو یا مسافری میں بے یار و مددگار یا بیماری میں گرفتار ہو کوئی اسکی مددگاری اور غمگساری نہ کرتا ہو یا بیٹی رکھتا ہو کوئی اس سے نکاح کی درخواست نہیں کرتا اچھی طرح وضو کرکے دو رکعت نماز پڑھے جس واسطے چاہے دل میں نیت کرکے دونوں نماز کے بعد سو بار پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ اوسکی مشکل آسان کردے گا۔ بیٹیوں کے نصیب کھلنے کیلئے اور امراض سے صحت اور حاجات کی کفایت کو ہر روز تحیۃ الوضو کے بعد سو بار پڑھ لیا کرے پیران عظام رحمۃ اللہ علیہم کا یہ عمل ہے کہ ہر دینی اور دنیوی مہم کے لئے خالی جگہ پر دعا کی شرائط کے ساتھ سو یا تین سو اکتالیس بار پڑھتے کرتے ہیں اور پڑھنے والے کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔

٢٢	یَا خَبِیرُ	٨١٢ عدد	[illegible]	[illegible]

٢٧٣	٢٦٩	٢٧٢
٢٧٠	٢٧١	٢٧٣
٢٦٠	٢٧٥	٢٧٦

١٩٥	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٢
٢٠٤	٢٠١	١٩٩	٢٠٨
٢٠٠	٢٠٣	٢١١	١٩٧
٢١٠	١٩٨	١٩٩	٢٠٥

خاصیت جو کوئی نفس امارہ کے ہاتھ گرفتار ہو یَا خَبِیْرُ بہت ہمیشہ ہر روز وظیفہ کر لیا کرے نجات پائے گا۔ استخارہ کے واسطے یَا خَبِیْرُ اَخْبِرْنِیْ پہلے تین سو ایک سو ایک یا اکیس بار روز اکتالیس دن تک پڑھے پھر جب ضرورت پڑے تین سو بار پڑھکر سو رہے نیک و بد حال سے اطلاع ہوگی۔

٢٣	یَا حَلِیمُ	٨٨ عدد	[illegible]	جلالی

٣٣	٢٤	٣١
٢٧	٢٩	٣٢
٢٨	٣٤	٢٦

١٤	٢٨	٢٥	٢١
٢٦	٢٠	١٥	٢٧
١٩	٢٣	٣٠	١٦
٢٩	١٧	١٨	٢٤

خاصیت جو کوئی اسکو کاغذ پر لکھکر پھر اسکو دھو دے اور اپنی کھیتی پر چھڑک دے زراعت

کی ہر آفت سے حفاظت رہیگی اور کمال کو پہونچیگی اور رزق میں برکت ہوگی۔ جو کوئی ہر روز ظہر کی نماز کے بعد نو دفعہ پڑھا کرے گا تمام خلقت میں سرخرو رہے گا جو دشمن یا ملی یا حاکم کے سامنے ہوتے ہی پانی سے ہاتھ بھگو کر گیارہ دفعہ یَا حَلِیْمُ پڑھکر منہ پر مل لیا کرے دشمن سختی نہ کر سکیگا اور حاکم نرمی و مہربانی سے پیش آئیگا۔ اور جو ہر وقت ورد رکھے نفع مند رہے گا ہر آفت سے بچے گا۔

٢٤	یَا عَظِیمُ	١٠٢٠ عدد	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

خاصیت جو کوئی ہر روز اس کی دل یا زبان سے مداومت کرے گا خلق کی نظر میں عزیز و مکرم ہو گا جو سات دفعہ پانی پر پڑھکر دم کرکے پانی پی لیوے اسکے پیٹ میں درد نہ ہو۔

٢٥	یَا غَفَّارُ	١٢٨١ عدد	[illegible]	جلالی

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

خاصیت جو تپ اور درد سر وغیرہ کا مریض یا کوئی غمگین ہو اس اسم کو کاغذ پر لکھکر روٹی پر اسکا نقش جذب کرکے کھلائے حق تعالیٰ اسکو شفا اور خلاصی بخشے گا جو بہت پڑھے گا اس کے دل سے سیاہی گھٹے گی اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی سجدہ کرکے اور سجدہ میں یَا رَبِّ اغْفِرْ لِیْ تین بار کہے گا اللہ جل جلالہ اوس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا جسکو درد سر یا کوئی بیماری یا غم پیش آجائے تین بار یَا غَفُوْرُ کی متعلقات لکھکر کھلائے شفا پائے گا۔

٢٦	یَا شَکُورُ	٥٢٦ عدد	[illegible]	جلالی

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

خاصیت جو کوئی معاش کی تنگی یا دل یا آنکھ کی تاریکی میں مبتلا ہو اکتالیس بار اسکو پڑھکر

پانی پر دم کرے اور پانی پی لے اور اسکو پہلے شفا پائے گا جو کشائش رزق کے لیے پڑھیگا تونگر ہو جائیگا
جو کوئی پانچ سو بار روز پڑھا کرے گا قیامت کے دن بلند مرتبہ ہوگا۔

۲۷	۳۰	۳۳	۲۰	۳۸	۳۲	۴۰	[illegible]	[illegible]	۱۱۲۱	یا مُعِیْدُ	۳۷
۳۳	۲۱	۲۹	۳۱	۳۹	۳۷	۳۴					
۲۲	۳۵	۲۸	۲۵								
۲۹	۲۴	۲۳	۳۴	۳۳	۴۱	۳۶					

خاصیت: جو کوئی اس اسم پر مداومت کرے گا یا اپنے پاس رکھیگا اگر خوار بے قدر ہوگا بزرگ ہو جائیگا
اگر فقیر ہوگا تونگر ہوگا جو مسافرت میں مبتلا ہوگا پھر وطن کو واپس پہنچے گا جو درد سر [illegible] پر
پڑھکر پھونکے گا صحت پائیگا۔

۵۷	۶۱	۶۴	۵۰	۷۱	۷۳	۸۱	[illegible]	[illegible]	۲۳۲	یا مُحْیِیْ	۳۸
۶۳	۵۱	۵۶	۶۲	۸۰	۷۷	۷۵					
۵۲	۶۶	۵۹	۵۵								
۶۰	۵۴	۵۳	۶۵	۷۴	۸۲	۷۹					

خاصیت: جو کوئی اسکو بہت پڑھے گا مالی تونگر ہوگا اگر حاکم یا بادشاہ اس اسم کی مداومت کرے
اسکا رعب بڑھے گا بہت [illegible] جو دفعہ کسی بیمار پر پڑھکر دم کرے بیمار تندرست ہو جائیگا
اور جو سو بار پڑھیگا [illegible] عزت رہے گا۔

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	یا [illegible]	۳۹
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

خاصیت: جو کوئی اسکو لکھکر دائیں بازو پر باندھے گا [illegible]
[illegible] کسی بیمار پر چالیس [illegible] ستر ستر بار روز پڑھکر دم کرے تندرست ہوگا [illegible]
[illegible] دودھ کم ہو گیا [illegible] نقش [illegible] لکھکر [illegible]
[illegible] بازو پر لکھکر باندھے بہت دودھ ہو جائے گا [illegible]

پڑھے۔ ہر طرح تندرست ہوگا کسی شہر یا گاؤں میں جاکر غریب ہو [illegible] ہر نماز مغرب کے بعد یا حافظ
یا حفیظ یا رقیب یا مجیب یا اللہ [illegible] کر کے پڑھے گا انشاء اللہ تعالیٰ روزی غیب سے
حاصل ہوگی (اکتالیس بار پڑھے)

۱۳۱	۱۲۰	۱۴۳	۱۳۰	۱۸۵	۱۷۹	۱۸۰	[illegible]	[illegible]	۵۵۰	یا مُغْنِیْ	۴۰
۱۴۲	۱۳۱	۱۳۹	۱۲۱	۱۸۴	۱۸۳	۱۸۱					
۱۲۳	۱۳۵	۱۲۸	۱۳۵								
۱۳۹	۱۳۴	۱۳۳	۱۲۴	۱۸۰	۱۸۸	۱۸۲					

خاصیت جس کی نیت شرع ہو اسکو [illegible] کرے دس بار پڑھکر دم کرے جو کسی کو غریب دیکھے یا خود
اسکو غریبی پیش آوے یا کوئی لڑکا بدخوئی کرے یا بہت روئے سات بار خالی آب خورہ وغیرہ پر پڑھکر
دم کرکے اس میں پانی ڈالے خود پیوے اور دوسرے کو پینے کو دیوے اگر روزہ دار کو بھوک کا خوف ہو
سو بار پھول پر پڑھکر سونگھے قوت پہنچے گی اور ہر روز روزہ رکھ سکے گا۔

۱۹	۲۳	۲۶	۱۲	۲۸	۲۲	۳۰	[illegible]	[illegible]	۸۰	یا حَسِیْبُ	۴۱
۲۵	۱۳	۱۸	۲۴	۲۹	۲۷	۲۴					
۱۴	۲۸	۲۱	۱۷								
۲۲	۱۹	۱۶	۲۷	۲۳	۳۱	۲۶					

خاصیت جو کوئی چور یا حاسد یا ہمسایہ یا دشمن یا چشم زخم یا بدنظر سے ڈرتا ہو ایک ہفتہ تک
ہر صبح و شام حَسْبِیَ اللّٰہُ الْحَسِیْبُ ستر ستر بار پڑھے اور پنجشنبہ سے ابتدا کرے اللہ تعالیٰ
ان کے شر سے حفاظت میں رکھے گا ہنوز ہفتہ نہ گزرے گا کہ تمام کام کی درستی ہو جائے گی جو ورد کیا
کرے گا ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔

۱۸	۲۱	۲۴	۱۰	۲۵	۳۰	۲۸	[illegible]	[illegible]	۷۳	یا جَلِیْلُ	۴۲
۲۳	۱۱	۱۶	۲۲	۲۷	۲۴	۲۲					
۱۲	۲۶	۱۹	۱۷								
۲۰	۱۵	۱۳	۲۵	۲۱	۲۹	۲۳					

خاصیت جو کوئی اس اسم کو مشک و زعفران سے لکھکر اپنے پاس رکھے یا دھو کر پیوے تمام

علاوہ اس کی تسلیم و توقیر کریں جو دس بار اپنے اسباب پر پڑھے چوری سے محفوظ و سلامت رہے۔

۴۳	یا عظیم	۲۷۰		جلالی

۹۱	۸۶	۹۳
۹۲	۹۰	۸۸
۸۷	۹۴	۸۹

۹۶	۷۰	۷۳	۹۰
۷۲	۹۱	۹۹	۷۱
۹۲	۷۵	۷۸	۹۵
۶۹	۹۴	۹۳	۷۳

خاصیت اگر اپنے بستر میں اس اسم کو بہت پڑھے گا یہاں تک کہ سو جائے فرشتے دعا کریں گے اور کہیں گے کہ خدا تجھ کو دنیا و آخرت میں عزت اور بزرگی عطا فرمائے اور سرخرو فرمائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس اسم کو بہت پڑھتے تھے یہی سبب ہے کہ اسی سبب سے کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔

۴۴	یا رقیب	۳۱۲		جلالی جمالی

۱۰۵	۱۰۸	۱۰۶
۱۰۶	۱۰۴	۱۰۲
۱۰۱	۱۰۰	۱۰۳

۷۷	۸۱	۸۴	۷۰
۸۳	۷۱	۷۶	۸۲
۷۲	۸۶	۷۹	۷۵
۸۰	۷۴	۷۳	۸۵

خاصیت جو کوئی اس اسم کو سات بار یا ستر بار اپنی بیوی اور فرزند اور مال پر پڑھ کر ان کے گرد دم کرے دیو پری اور تمام دشمنوں اور آفتوں سے نڈر ہوگا اور رعب اس کا پڑے گا۔ جو کوئی پھوڑے پھنسی پر تین بار پڑھ کر پھونک دے تو شفا حاصل ہوگی۔

۴۵	یا مجیب	۵۵		جلالی جمالی

۱۹	۱۴	۲۲
۲۱	۱۸	۱۶
۱۵	۲۳	۱۷

۱۳	۱۹	۲۰	۳
۱۹	۷	۱۳	۱۶
۸	۲۲	۱۴	۱۱
۱۵	۱۰	۹	۲۱

خاصیت جو کوئی اس اسم کو ہمیشہ ورد رکھے جلدی قبول ہوگی مشکل آسان ہوگی جو اپنے پاس لکھ کر رکھے گا نقصان سے محفوظ رہے گا اور جو کوئی درد سر کے وقت گیارہ بار پڑھ کر دم کرے گا درد سر دور ہوگا۔

۴۶	یا واسع	۱۳۷		جلالی جمالی

۴۷	۴۱	۴۹
۴۸	۴۶	۴۳
۴۲	۵۰	۴۵

۳۲	۳۷	۴۰	۲۸
۳۹	۲۷	۳۳	۳۸
۲۸	۴۲	۳۵	۳۲
۲۹	۳۱	۳۶	۴۱

خاصیت جسکو بچھو کاٹ لے ستر بار پڑھ کر دم کرے زہر اثر نہ کرے گا۔ جو کوئی اس اسم کی مداومت کرے گا حق تعالیٰ اس کو دولت قناعت سے مالا مال کر دے گا اور مراد کو پہنچے گا جو کشائش کے واسطے جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی موثر ہوگا۔

۴۷	یا حکیم	۷۸	اسرافیل	جلالی

۲۷	۲۲	۲۹
۲۸	۲۶	۲۴
۲۳	۳۰	۲۵

۱۹	۲۲	۲۵	۱۲
۲۴	۱۳	۱۸	۲۳
۱۴	۲۷	۲۰	۱۷
۲۱	۱۶	۱۵	۲۶

خاصیت جس کو کوئی ایسا کام پیش آئے کہ اس سے اس کا سرانجام نہ ہو سکتا ہو اس اسم کی مداومت کرے اس کی مہم انجام پائے گی۔ جمعہ ظہر کی نماز کے بعد ۱۰۰ بار پڑھ لیا کرے تمام خلق میں سرخرو رہے گا۔

۴۸	یا ودود	۲۰		جلالی

نقش مثلث

۸	۲	۱۰
۹	۷	۴
۳	۱۱	۶

نقش مربع


۹	۴	۶	۱
۵	۳	۸	۴
۴	۸	۱	۷
۲	۶	۵	۷


خاصیت جو مربع نقش بالا اسم کو عورت اپنے بازو پر باندھے تو مرد اس کا تابعدار ہوگا۔ جو مرد اپنے بازو پر باندھے تو عورت اس کی فرمانبردار ہوگی۔ اگر میاں بیوی میں ناموافقت ہو اور دشمنی پڑے اس اسم کو ودود کو ایک ہزار بار طعام پر پڑھ کر جس جانب سے ناموافقت ہو اسے کھلا دیں دونوں میں محبت و الفت ہو جائے گی۔ جس کا فرزند بدراہ ہو جمعہ کے بعد ایک ہزار ایک بار یا ودود لطیف شیرینی پر پڑھ کر دم کرے اور رو بقبلہ ہو کر دو رکعت نماز ادا کرے اور وہ شیرینی اس کو کھلا دے ان شاء اللہ ہدایت پکڑے گا۔


جو کوئی تسخیر کے لئے زکوٰۃ دینی چاہے وتر اور فرض کے بیچ میں اول دن سو بار دوسرے دن دو سو بار گیارہ دن تک ایک ایک تسبیح یا ودود کے اضافہ کرے گیارہ دن کے بعد اکتالیس دن تک گیارہ سو بار روز پڑھا کرے بعد اسکے سو بار روز کا ورد رکھے جس دن کسی کو اپنا مطیع کرنا چاہے پڑھ کر دم کرے کامیاب ہوگا۔ یعنی ادائے زکوٰۃ کے بعد مطلب کے لئے صرف سو بار پڑھنا کافی ہے۔


تسخیرات وغیرہ


بروز یکشنبہ روزہ داشتہ بت ریگ سہ روز نقش ہر کرشنا لنزل پرکند و یک نوشتہ بدید محبت پیدا شود
اگر صد نقش پر کند بادشاہ مسخر شود وغیرہ بطریق تمدید ہر گاہ بت نقش ہا داوت کند ہر عالم مسخر شود
اگر صد نقش پر کند دشمن زیر شود اگر زن را فرزند نشدن شصت روز نقش پر کند بعد فرزند نرینہ شود نقش
بخوف طوالت داشتہ برای نقش لکھتا نہ دم کہیں ہم ہر جگہ راقم الاحقر ...





























۱۳	۱۶	۲۰	۹	۲۰	۱۵	۲۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۴۹
۱۹	۴	۱۲	۱۰	۲۱	۱۹	۱۷					
۸	۲۲	۱۵	۱۳	۱۴	۲۳	۱۸					
۱۲	۱۴	۹	۲۱								

خاصیت جسکو آبلہ یا سوزاک یا جذام یا برص ہو یا ہمیشہ بیمار رہتا ہو روزے رکھے اور افطار کرکے
یہ اسم بیست پڑھے اور پانی پر دم کرکے پیوے شفا پائیگا۔ جسکو اپنے ہم جنسوں میں عزت و حرمت نہ ہو
ہر صبح کو نماز سے ۱۱۱ بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے عزت و حرمت حاصل ہوگی یقینی اسم پڑھ کر ... بچے
بزرگ و برخوردار ہوگا۔ جو کوئی مصیبت میں اسے پڑھے انشاء اللہ سب سے بسلامت رہیگا۔

۱۳۸	۱۳۶	۱۱۹	۱۳۵	۱۹۲	۱۸۶	۱۹۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵۰
۱۳۰	۱۲۹	۱۳۳	۱۳۲	۱۹۳	۱۹۱	۱۸۹					
۱۳۴	۱۵۱	۱۳۳	۱۳۱	۱۸۸	۱۹۵	۱۹۰					
۱۳۵	۱۳۰	۱۲۹	۱۵۰								

خاصیت جو کوئی سات بار پڑھ کر اپنے بدن پر پھونکے اور حاکم کے روبرو جاوے حاکم مہربان ہو

جو کوئی چاہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر اس اسم کو ایک سو بار پڑھے اللہ جل شانہٗ اسکا مردہ دل زندہ کر دیگا اور دل میں روشنی بخشے گا جو اسکا ورد کرے خوف الٰہی اس پر غلبہ کرے گا

۷۹	۸۲	۸۶	۷۲	۱۰۷	۱۰۲	۱۱۰	جلالی [illegible]	[illegible]	۳۱۹ عدد	یَا شَہِیْدُ ۵۱
۸۵	۷۳	۷۸	۸۳	۱۰۹	۱۰۶	۱۰۴				
۷۴	۸۸	۸۰	۷۷	۱۰۳	۱۱۱	۱۰۵				
۸۱	۷۶	۷۵	۸۷							

خاصیت جس کا بیٹا نافرمان ہو یا بیٹی غیر صالح ہو صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے اکیس بار یَا شَہِیْدُ کہے حق تعالیٰ اسکو صالح کر دے گا۔ جو اس اسم پر مواظبت کرے گا گناہوں سے پرہیزگاری نصیب ہو گی۔

۲۹	۳۰	۳۳	۱۶	۳۷	۳۲	۳۹	جلالی [illegible]	[illegible]	۱۰۸ عدد	یَا حَقُّ ۵۲
۳۲	۲۰	۲۵	۳۱	۳۸	۳۶	۳۴				
۲۱	۳۵	۲۸	۲۴	۳۳	۴۰	۳۵				
۲۹	۲۳	۲۲	۳۴							

خاصیت جس کا اسباب جاتا رہا ہو ایک کاغذ کے چاروں کونوں پر یہ اسم لکھے اور کاغذ کے بیچ میں اس گمشدہ اسباب کا نام لکھے اور آدھی رات کو ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف نظر کر کے اسکے واسطے گمشدہ اسباب پائیگا یا اسکی خبر پائیگا۔ تحقیق آدمی جو قید میں ہو رات کو ننگے سر ہو کر ایک سو آٹھ بار پڑھیگا قید سے خلاصی پائیگا۔

۱۶	۱۹	۲۲	۹	۲۳	۱۸	۲۵	جلالی	[illegible]	۶۶ عدد	یَا وَکِیْلُ ۵۳
۲۱	۱۰	۱۵	۲۰	۲۴	۲۲	۲۰				
۱۱	۲۴	۱۷	۱۴	۱۹	۲۶	۲۱				
۱۸	۱۳	۱۲	۲۳							

خاصیت کہ بجلی یا آگ یا پانی یا مانند اس کے خوف ہو اس اسم کو پناہ کرے امان پائے گا۔ اگر خوف کی جگہ بہت پڑھے نڈر ہو گا۔ جو کوئی ہر روز عصر کے وقت سات بار پڑھے گا پناہ میں رہے گا جو اسے بہت پڑھے گا اللہ تعالیٰ بالکل اسکے کاموں کو ذمہ دار بنائیگا اور اسکو اسکی خواہشوں پر پہنچائیگا۔ جو بہت کاموں سے تنگ ہو دس بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور لکھ کر پانی میں پیوے بڑے کام سے نجات ہو گی۔

۲۸	۳۲	۳۵	۲۱	۴۰	۳۴	۴۲	جلالی	[illegible]	۱۱۶ عدد	یَا قَوِیُّ ۵۴
۳۴	۲۲	۲۷	۳۳	۴۱	۳۹	۳۶				
۲۳	۳۷	۳۰	۲۶	۳۵	۴۳	۳۸				
۳۱	۲۵	۲۴	۳۶							

خاصیت جس کا دشمن قوی ہو کہ اسکے دفعیہ سے عاجز ہو تھوڑا خمیری آٹا لے کر اس کی ایک ہزار ایک سو چنے کے برابر یا اگر زیادہ گولیاں بنا کر ایک ایک گولی پر یَا قَوِیُّ پڑھ کر دشمن کے دفع کی نیت سے مرغ کے آگے ڈالے یہاں تک کہ سب اسی طرح ختم کر دے حق تعالیٰ اس کے دشمن کو مقہور کر دے گا۔ اگر بدھ کی دوسری ساعت میں بہت پڑھے گا نسیان جاتا رہے گا۔

۱۲۴	۱۲۸	۱۳۱	۱۱۷	۱۶۸	۱۶۲	۱۷۰	جلالی	[illegible]	۵۰۰ عدد	یَا مَتِیْنُ ۵۵
۱۳۰	۱۱۸	۱۲۳	۱۲۹	۱۶۹	۱۶۷	۱۶۴				
۱۱۹	۱۳۳	۱۲۶	۱۲۲	۱۶۳	۱۷۱	۱۶۶				
۱۲۷	۱۲۱	۱۲۰	۱۳۲							

خاصیت جس بچہ کا دودھ چھڑایا ہو اور وہ بچہ صبر نہ کرے یا دودھ پلانے والی کے دودھ میں نقصان ہو چاہیے کہ لکھ کر اس بچہ کو دے اور دودھ والی کو بھی پلا دے تاکہ بچہ صبر کرے اور دودھ والی کا دودھ زیادہ ہو۔ اگر کوئی کسی مشکل کام میں سے کچھ چاہے اتوار کے دن اول ساعت میں اس نیت سے تین سو بار پڑھے وہ منصب پائے گا جو بہت پڑھے گا مشکل آسان ہو گی۔

۱۱	۱۴	۱۷	۴	۱۶	۱۱	۱۹	جلالی	[illegible]	۴۶ عدد	یَا وَلِیُّ ۵۶
۱۶	۵	۱۰	۱۵	۱۸	۱۵	۱۳				
۶	۱۹	۱۲	۹	۱۲	۲۰	۱۴				
۱۳	۸	۷	۱۸							

خاصیت۔ جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھیگا خلق کے دل کی باتوں پر آگاہ ہو گا اور یگانہ خدا کا ولی ہو گا۔ جس کی لونڈی یا بی بی کہ اسکی سیرت سے خوش نہ ہو جس وقت اس کے آگے جانا چاہے یا نزدیک ہو تو اس اسم کو بہت پڑھے حق تعالیٰ اسکو نیک سیرت کر دے گا۔

۱۵	۱۸	۲۱	۸	۲۲	۱۶	۲۴	بادی	[illegible]	۶۲	یَا حَمِیْدُ	۵۷
۶	۹	۱۴	۱۹	۲۳	۲۱	۱۸					
۲	۲۳	۱۶	۱۳	۱۷	۲۵	۲۰					
۱۷	۱۳	۱۱	۲۲								

برائے بدزبانی

خاصیت جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا پسندیدہ افعال ہوگا جس پر نفس و بدزبانی غالب آئے اسماء سے نہ کے الحمید پیالہ پر لکھے بعضوں نے فرمایا ہے ۹۰ بار پیالہ پر پڑھے اور ہمیشہ اس پیالہ میں پانی پیا کرے نفس کشی سے امان پائے گا۔

۳۶	۴۰	۴۳	۲۹	۵۱	۴۵	۵۳	خاکی	[illegible]	۱۴۸	یَا مُحْصِیْ	۵۸
۴۲	۳۰	۳۵	۴۱	۵۲	۴۹	۴۷					
۳۱	۴۵	۳۸	۳۴	۴۶	۵۴	۴۸					
۳۹	۳۳	۳۲	۴۴								

برائے عذاب قبر

خاصیت جو کوئی جمعہ کی شب کو ایک ہزار بار پڑھے قبر اور قیامت کے عذاب سے بے خوف رہے۔ جو کوئی دس بار پڑھا کرے اللہ کی حفاظت و پناہ میں رہے۔

۱۳	۱۷	۲۰	۶	۲۰	۱۴	۲۲	بادی	[illegible]	۵۶	یَا مُبْدِیُ	۵۹
۱۹	۷	۱۲	۱۸	۲۱	۱۹	۱۷					
۸	۲۲	۱۵	۱۱	۱۵	۲۳	۱۸					
۱۶	۱۰	۹	۲۱								

برائے اسقاط حمل

خاصیت جس کی بیوی کو حمل ہو اور اسقاط حمل سے ڈرتا ہو یا دیر تک حمل رہتا ہے چاہیے کہ اس کا ملازم سحر کے وقت نوے بار پڑھ کر شہادت کی انگلی پیٹ کے گرد یا شکم پر پھیرا دے حمل ساقط نہ ہو اور خلاصی پاکر فرزند پیدا ہو جو کوئی اس پر مداومت کرے جو کچھ اس کی زبان پر جاری ہو بصدق و صواب ہو۔

۳۰	۳۳	۳۷	۲۴	۴۳	۳۷	۴۵	آبی	[illegible]	۱۲۴	یَا مُعِیْدُ	۶۰
۳۹	۲۳	۲۵	۳۵	۴۴	۴۱	۳۹					
۳۵	۲۹	۳۲	۲۸	۳۸	۴۹	۴۰					
۲۲	۲۷	۳۶	۳۸								

برائے واپسی مسافر

خاصیت جو اپنے غائب کی خبر چاہے یا اس کا آنا چاہے جس وقت اس کے گھر کے لوگ سوتے ہوں

اس اسم کو گھر کے چاروں کونوں میں ستر ستر بار پڑھ کر کے یَا مُعِیْدُ کہے کہ پھر پھر سات دن گزرنے نہ پائیں گے کہ غائب آجاوے گا یا اس کی خبر آوے گی اگر کچھ مال اسباب گم ہوا ہو اس اسم کو بہت پڑھے پا جاوے۔

۱۶	۳۰	۲۳	۹	۲۴	۱۸	۲۶	[illegible]	[illegible]	۶۸	یَا مُحْیِیْ	۶۱
۲۲	۱۰	۱۵	۲۱	۲۵	۲۳	۲۰					
۱۱	۲۵	۱۴	۱۲	۱۹	۲۷	۲۲					
۱۹	۱۳	۱۲	۲۴								

برائے درد دل و زندہ دل

خاصیت جو کوئی درد دل یا کسی عضو کے ضائع ہونے سے خائف ہو اس اسم یَا مُحْیِیْ سات بار پڑھے حق تعالیٰ محفوظ اور تندرست رکھے گا جو ہفت اندام کے درد کے رفع کے واسطے سات روز تک سات سات بار پڑھ کر دم کرے گا تندرست ہوگا۔ جو اس کی ایک ہزار ایک بار مداومت کرے گا اس کا دل زندہ ہو جائے گا اور بدن میں تقویت پیدا ہوگی۔

۱۲۲	۱۲۵	۱۳۰	۱۱۵	۱۶۵	۱۶۰	۱۶۷	بادی	[illegible]	۴۹۰	یَا مُمِیْتُ	۶۲
۱۲۷	۱۱۶	۱۲۱	۱۲۶	۱۶۶	۱۶۳	۱۶۱					
۱۱۷	۱۳۰	۱۲۳	۱۲۰	۱۶۰	۱۶۸	۱۶۲					
۳۴	۱۱۹	۱۱۸	۱۲۹								

برائے مخالفت نفس

خاصیت جو کوئی نفس پر قادر نہ ہو کہ تابعت میں غلبہ کرے سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر اسم اَلْمُمِیْتُ کو یہاں تک پڑھے کہ سو جائے حق تعالیٰ اس کے نفس کو فرمانبردار کر دے گا۔ جو سات بار پڑھ کر دم کرے گا تو جادو اثر نہ کرے گا۔

ح	ی	ھ	ح	۳	۹	۹	ی	۷	۲	۹	خاکی	[illegible]	۱۸	یَا حَیُّ	۶۳
ـ	ی	ح	ح	۸	۱	۲	۷	۸	۶	۴					
ح	ـ	ح	ی	۲	۱۱	۴	۱	۳	۱۰	۵					
=	ح	ح	ـ	۵	ی	۲	۶								

۸	۳	۹	۱
۵	۲	۷	۴
۳	۸	۱	۹
۲	۵	۴	۷

برائے صحت بیمار

خاصیت جو کوئی بیمار ہو اس اسم کو بہت یا ہزار بار پڑھے گا صحت پائے گا جو کوئی اور شخص بیمار پر پڑھے گا اس کی عمر دراز ہوگی اور قوت روحانیہ اس کی زیادہ ہوگی۔ جو اور کسی حاجت برآری کے لئے تمام کے اعداد کے موافق مع اول و آخر درود شریف کے ایک

برائے حاجت

دن متواتر کرے یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَا اَللّٰہُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ پڑھا کرے محروم نہ رہے جو کوئی دنیاوی ہم میں ناکام ہو اور مال بسبب کم ہو جسے گر تین روز روزہ رکھے بہتر ورنہ خیرات کرے تین دن بلا ناغہ روزانہ ایک ہزار بار سفید کاغذ پر یا سبع لکھ کر ہر ایک اسم کو صرف کے برابر کرکے گیہوں کے آٹے میں گولیاں بنا کر تین دن تک روز مچھلیوں کو کھلا دیا کرے کامیاب ہوگا۔

۳۸	۴۲	۴۵	۳۰	۵۳	۴۸	۵۵	[illegible]	[illegible]	۱۵۶ [illegible]	یَا قَیُّوْمُ	[illegible]
۴۴	۳۲	۳۷	۴۳	۵۴	۵۲	۵۰					
۳۳	۴۶	۴۰	۳۶	۴۹	۵۶	۵۱					
۴۱	۳۵	۳۴	۴۶								

خاصیت سحر کے وقت جو کوئی بہت بلند آواز سے اسکو پڑھے گا اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا یعنی لوگ اسکو دوست رکھیں گے جو بہت پڑھے گا اسکی حاجات حسب دلخواہ پوری ہوں گی۔ جو کوئی اکتالیس بار بعد یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ اَنْ تُحْیِیَ قَلْبِیْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِکَ اَبَدًا اسکا مردہ دل زندہ ہوگا۔

۴	۳	۶	۱	۶	۱	۷	[illegible]	[illegible]	۱۴ [illegible]	یَا وَاجِدُ	۶۵
۵	۲	۳	۴	۶	۵	۳					
۳	۸	۱	۲	۲	۸	۴					
۲	۱	۴	۷								

خاصیت جو کوئی کھانا کھانے کے وقت ہر نوالے کے ساتھ اس کو پڑھے گا وہ کھانا پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ جو کوئی تنہائی یعنی خلوت میں اسکو بہت پڑھے گا تونگر ہوگا۔ جس کو ایک بار بانذر ہے دم کرکے پڑھے وہ محبت کرے مجبوراً بہت پڑھے گا اس کا دل غنی ہوگا۔

۱۲	۱۵	۱۸	۳	۱۷	۱۲	۱۹	[illegible]	[illegible]	۴۸ [illegible]	یَا مَاجِدُ	۶۶
۱۷	۵	۱۰	۱۶	۱۸	۱۶	۱۴					
۶	۲۰	۱۳	۹	۱۳	۲۰	۱۵					
۱۴	۸	۷	۱۹								

خاصیت جو کوئی خلوت میں اسکو اتنا پڑھے کہ بیہوش ہو جائے انوار الٰہی اوس کے دل پر

ظاہر ہوں گے جو بہت پڑھے مخلوق کی آنکھ میں عزیز و بزرگ ہوگا جو دس بار شربت پر پڑھ کر پلائے تو بیمار نہ ہوگا۔

۷	۳	۹	[illegible]	۷	۲	۱۰	[illegible]	[illegible]	۱۹ [illegible]	یَا وَاحِدُ	۶۷
۸	۱	۶	۴	۹	۶	۴					
۲	۱۱	۱	۵	۳	۱۱	۵					
۲	۴	۳	[illegible]								

خاصیت جو تنہائی سے کوئی پریشان ہو اکیلا ایک ہزار ایک بار اس اسم کو پڑھے گا اوس کے دل سے خوف جاتا رہے گا مغفرت کا اثر بہت عزیز ہوگا۔ اگر فرزند کا طلبگار ہو یہ اسم لکھ کر اپنے ساتھ رکھے فرزند پیدا ہوگا۔

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

۴	۳	۵	۱	۴	۱	۸	[illegible]	[illegible]	۱۳ [illegible]	یَا اَحَدُ	۶۸
۴	۲	۳	۴	۵	۵	۳					
۳	۷	۱	۲	۲	۷	۴					
۲	۱	۴	۶								

خاصیت جو کوئی اس اسم کو دو مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے عزت اور سرفرازی پائے گا۔ اگر سانپ کے کاٹے پر ایک سو ایک بار اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ پڑھ کر دم کرے سانپ کا کاٹا ہوا مریض تندرست ہو جائے گا جو تنہا ایک ہزار بار پڑھے گا فرشتہ خصلت ہو جائے گا۔

۳۳	۳۹	۳۹	۲۹	۴۶	۴۰	۴۸	[illegible]	[illegible]	۱۳۴ [illegible]	[illegible]	۶۹
۳۸	۲۶	۳۳	۳۷	۴۷	۴۵	۴۳					
۲۸	۴۱	۳۴	۳۱	۴۱	۴۹	۴۴					
۳۵	۳۰	۲۹	۴۰								

خاصیت جو کوئی سو بار آدھی رات کو سجدہ کرکے اور ایک سو پندرہ بار اس اسم کو پڑھے صادق الحال داخل ہوگا اور کسی ظالم کے ہاتھ میں گرفتار نہ ہوگا۔ اگر بہت پڑھے گا بہرہ نہ رہے گا۔ اگر وضو سے پڑھا کرے گا بے پرواہ رہے گا جو ایک ہزار بار پڑھا کرے گا دشمن پر فتح پائے گا۔

٧٦	٦٩	٥٢	٧٥	١٠٣	٩٧	١٠٥	سبحال	[illegible]	٣٠٥ عدد	يَا قَادِرُ
٨١	٧٩	٦٥	٥٠	١٠٤	١٠٢	٩٩				٦٠
٦٠	٥٤	٦٦	٦٣	٩٨	١٠٩	١٠١				
٦٨	٦٣	٦١	٥٣							

خاصیت: اگر وضو کرتے وقت ہر عضو کو دھوتے وقت اسم اَلْقَادِرُ پڑھا جائے کسی کام کے ہاتھ میں گرفتار نہ ہوگا اور کوئی دشمن اس پر فتح نہ پائے گا۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے اکتالیس بار پڑھے وہ کام مددِ حق پاکر آسان ہو جائے گا۔

١٠٥	١٠٩	١٩٢	١٦٨	٢٣٩	٢٤٣	٢٥١	سبحال	[illegible]	٧٤٤ عدد	يَا مُقْتَدِرُ
١٩١	١٨٩	١٧٣	١٩٠	٢٥٠	٢٤٨	٢٤٩				٦١
١٨٠	١٨٣	١٨٦	١٨٣	٢٤٥	٢٥٣	٢٤٦				
١٨٨	١٨٢	١٨١	١٩٣							

خاصیت: اگر اس نام کو ہوشیاری کے ساتھ اکثر پڑھتا رہے تو اسکی غفلت دور ہوگی۔ جو سوتے سے اٹھتے وقت اسم اَلْمُقْتَدِرُ ذکر بیس بار روز پڑھے گا تو اس کے سب کام میں خدا کی مدد شامل ہوگی۔ جو جمعرات کو روزانہ بیس مرتبہ درود کے ساتھ رحمت الٰہی میں رہے گا۔

٤٥	٤٩	٥٢	٣٨	٤٢	٥٧	٦٥	سبحال	[illegible]	١٨٤ عدد	يَا مُقَدِّمُ
٥١	٣٩	٤٤	٥٠	٦٤	٦١	٥٩				٦٢
٤٠	٥٤	٤٧	٤٣	٥٥	٦٦	٦٠				
٤٨	٤٢	٤١	٥٣							

خاصیت: جو جنگ کے سفر میں اسکو پڑھے گا یا اپنے پاس رکھے گا اس کو کچھ زخم و رنج نہ پہنچیگا۔ جو بہت پڑھے گا اطاعت الٰہی میں اسکا نفس فرمانبردار ہوگا۔ جو اسکو دفعہ شیرینی پر پڑھکر کسی کو کھلا دے تو وہ اس سے محبت کریگا۔

٢١١	٢٠٣	٢١٨	٢٠٣	٢٠٣	٢٤٨	٢٠٥	سبحال	[illegible]	٨٤٦ عدد	يَا مُؤَخِّرُ
٢١٩	٢١٥	٢١٠	٢٠٥	٢٠٦	٢٨٣	٢٨٠				٦٣
٢٠٩	٢١٦	٢١٣	٢٠٨	٢٤٩	٢٥٢	٢٥١				
٢١٣	٢٠٢	٢٠٧	٢١٨							

خاصیت: جو اس نام کو کسی نماز کے بعد سو بار پڑھے گا محبت حق کے سوا اسکا دل آرام نہ پکڑے گا۔ جو ہر روز سو بار پڑھتا رہے تو اسکے سب کام پایۂ تکمیل کو پہنچیں گے۔ جو اکتالیس بار پڑھے گا اسکا نفس مطیع ہوگا۔ جو بہت پڑھے گا اسکا دشمن مقہور ہوگا۔ جو اکتالیس دن تک روزانہ ہزار بار پڑھا کرے گا جو چاہے گا پائے گا۔

٩	١٣	١٥	١	١٣	٨	١٦	سبحال	[illegible]	٣٧ عدد	يَا اَوَّلُ
١٤	٢	٨	١٣	١٥	١٢	١٠				٦٤
٣	١٦	١٠	٤	٩	١٤	١١				
١١	٦	٣	١٦							

خاصیت: اگر کسی کے فرزند نہ ہوتا ہو چالیس بار روز چالیس دن تک بعد نماز عشاء پڑھے مراد پوری ہوگی۔ فرزند یا غائب ہو یا تونگری کیلئے یا کسی طرح کی حاجت کے لئے چاہے تو چالیس شب جمعہ شب کو بعد از نماز عشاء ہزار بار پڑھے تمام حاجتیں پوری ہونگی۔ جو ہر روز گیارہ بار پڑھے گا تمام خلقت اس پر مہربان رہے گی۔ جو سو بار پڑھا کرے گا اسکی بیوی اس سے محبت کرے گی۔

٢٠٠	٢٠٣	٢٠٩	١٩٣	٢٦٠	٢٤٣	٢٤٠	سبحال	[illegible]	٨٠١ عدد	يَا آخِرُ
٢٠٥	١٩٣	١٩٩	٢٠٣	٢٦٩	٢٤٦	٢٤٥				٦٥
١٩٣	٢٠٨	٢٠١	١٩٨	٢٤٧	٢٤١	٢٩٩				
٢٠٣	١٩٦	١٩٥	٢٠٦							

خاصیت: جس کی عمر آخر کو پہنچی اور نیک اعمال نہ رکھتا ہو یہ عمل کا ورد کرے حق تعالیٰ اسکی عاقبت بخیر کرے گا۔ اور جو کوئی کسی جگہ جائے اور اس اسم کو پڑھے وہاں عزت اور توقیر پائے گا۔ جو دفع دشمن کیلئے پڑھے گا کامیاب ہوگا۔

٢٨٦	٢٥٩	٢٨٢	٢٤٩	٣٦٠	٣٤٣	٣٤٧	سبحال	[illegible]	١١٠٦ عدد	يَا ظَاهِرُ
٢٨١	٢٦٠	٢٦٥	٢٨٠	٣٦١	٣٤٩	٣٥٧				٦٦
٢٨٠	٢٥٢	٢٨٨	٢٦٣	٣٤٥	٣٤٣	٣٥٠				
٢٦٨	٢٦٢	٢٧٠	٢٨٢							

خاصیت۔ جو اسکو پانسو بار اشراق کی نماز کے بعد پڑھے گا حق تعالیٰ اسکی آنکھیں روشن کردیگا اگر سینہ وغیرہ کا خوف ہو تو بہت پڑھے امن پائے گا۔ اگر گھر کی دیوار پر لکھے دیوار سلامت رہے گی جو سر پر گیارہ بار پڑھکر سر اسکھوں میں لگائے لوگ اسپر مہربانی کریں گے۔ جو جمعہ کے دن پانچ بار پڑھے گا اسکا اندرون پُرنور ہو گا اور دشمن مغلوب ہو گا۔

۷۷	یَا بَاطِنُ	۶۲	اے ظاہر پوشیدہ نظروں سے	جلالی	۲۴	۱۹	۲۲	۸	۲۱	۱۸	۱۵
					۱۸	۲۱	۲۳	۱۹	۱۴	۹	۳۰
					۲۰	۲۵	۱۶	۱۳	۲۴	۲۳	۱۰
								۲۲	۱۱	۱۲	۱۷

خاصیت۔ جو کوئی سینتیس بار پڑھے گا صاحب اسرار الٰہی سے ہو گا۔ اگر اسکی مداومت کرے یعنی ہر نماز کے بعد پڑھے ۳۳ بار تو جو اسکو دیکھے گا محبت کریگا۔ جو کوئی اپنے دل میں یا زبان سے تین سو ساٹھ بار اس کا ورد عشاء یا صبح یا کسی نماز کے بعد روزانہ کرے گا صاحب باطن اور واقف اسرار الٰہی ہو گا اور جو کسی کے پاس امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے یا اسم اَلْبَاطِنُ لکھ کے ساتھ رکھدے کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے گا۔ جو روزانہ ۳۳ بار کسی نماز کے بعد اسکو پڑھے گا واقف اسرار الٰہی ہو گا۔

۷۸	یَا وَالِیُ	۴۷	اے کارساز	جلالی	۱۹	۱۱	۱۶	۴	۱۸	۱۴	۱۱
					۱۳	۱۶	۱۸	۱۵	۱۰	۵	۱۲
					۱۵	۲۰	۱۲	۹	۱۳	۲۰	۲
								۴	۱۲	۲۰	۲

خاصیت۔ جو کوئی اپنا یا اور کسی کا گھر ہوا یا سینہ یا اور کسی آفت سے محفوظ رکھنا چاہے اسم اَلْوَالِیُ ایسے کوزے پر جو پانی سے استعمال شدہ نہو لکھکر اپنا اور اس پر لکھے یا پڑھے پھر اس میں پانی بھر کرکے در و دیوار پر چھڑک دے وہ گھر سلامت رہے گا۔ جو کسی کو تسخیر کرنے کی نیت سے گیارہ بار پڑھے گا وہ آدمی اسکا مطیع و منقاد ہو گا۔ جو کوئی اپنا یا اور کسی کا گھر بربادی سے بچانا چاہے تین سو بار اسم اَلْوَالِیُ پڑھے وہ گھر محفوظ رہے گا۔

۷۹	یَا مُتَعَالِیُ	۵۵۱	اے بلند مرتبہ	جلالی	۱۷۷	۱۸۹	۱۸۵	۱۳۰	۱۴۴	۱۴۰	۱۳۷
					۱۸۱	۱۸۴	۱۸۶	۱۴۱	۱۳۹	۱۳۱	۱۴۲
					۱۸۳	۱۸۸	۱۸۰	۱۳۵	۱۴۸	۱۳۶	۱۳۲
								۱۴۵	۱۳۳	۱۳۴	۱۳۹

خاصیت۔ جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا جو دشواری درپیش ہو گی آسان ہو گی۔ بعضوں کا قول ہے کہ جو بدفعل عورت ایام کی حالت میں اس اسم کو بہت پڑھے گی تو وہ اپنی بدفعلی سے نجات پائیگی جو شخص پنجشنبہ کی شب کے وقت غسل کر کے آسمان کو منہ کر کے اسکو تین بار پڑھ کر دعا مانگے قبول ہوگی۔

۸۰	یَا بَرُّ	۲۰۲	اے بہت احسان کرنے والے	جلالی	۷۱	۶۳	۶۸	۴۳	۵۶	۵۳	۵۰
					۶۵	۶۷	۷۰	۵۴	۴۹	۴۴	۵۵
					۶۶	۶۲	۷۴	۴۸	۵۱	۵۸	۴۵
								۵۷	۴۶	۴۷	۵۲

خاصیت۔ جو اس کو ہوا وغیرہ آفتوں کے ڈر سے پڑھے امن میں رہے۔ جو کوئی ایک سانس میں سات بار اپنی لڑکے پر پڑھکر اس طفل کو خدائے تعالیٰ کے سپرد کر دے بلوغت تک امن میں رہے گا۔ بعض کا فرمان ہے کہ جو کوئی شراب خوری یا بدعادتوں میں مبتلا ہو ہر روز سات بار یہ اسم پڑھے اسکا دل اس سے سرد ہو گا۔ جو تنہ بہت پڑھے گا منظور احسان حق و خلق رہتا ہو گا۔

۸۱	یَا تَوَّابُ	۴۰۹	اے توبہ قبول کرنے والے	جلالی	۱۳۹	۱۳۳	۱۳۷	۹۴	۱۰۸	۱۰۵	۱۰۲
					۱۳۴	۱۳۶	۱۳۹	۱۰۷	۱۰۱	۹۵	۱۰۶
					۱۳۵	۱۴۱	۱۳۳	۱۰۰	۱۰۳	۱۱۰	۹۷
								۱۰۹	۹۷	۹۹	۱۰۳

خاصیت۔ جو کوئی صاحب چاشت کی نماز کے بعد تین سو ساٹھ بار اسکو پڑھے گا حق تعالیٰ اسکو توبہ نصوح عطا فرمائیگا۔ جو اسکو بہت پڑھے گا اس کے سب کام اصلاح پذیر ہوں گے اور نفس خاعت میں آرام پکڑے گا یعنی توبہ کے قبول ہونے کی توقع رکھے جو کوئی چاشت کی نماز کے بعد اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ وَتُبْ عَلَیَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ کہے اس کے گناہ بخشے جاویں گے۔ جو اکتالیس دن تک تین سو بار روز پڑھے گا کا بروز ابلیں کی نعمت سے غنی ہو گا۔

۴۹	۵۳	۵۶	۴۲	۶۸	۶۳	۷۰	جلالی	نعمت عطا کرنے والا	عدد ۲۰۰	یَا مُنْعِمُ	۸۲
۵۵	۴۳	۴۰	۵۲	۶۹	۶۷	۶۴					
۴۴	۵۸	۵۱	۴۷	۶۳	۷۱	۶۶					
۵۴	۴۶	۴۵	۵۷								

خاصیت۔ جو کوئی اسم اَلْمُنْعِمُ کی مداومت کرے گا ہرگز کسی کا محتاج نہ ہوگا۔

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

۱۵۶	۱۴۰	۱۶۳	۱۵۰	۲۱۱	۲۰۶	۲۱۳	جلالی	بدلہ لینے والا نافرمانوں سے	عدد ۶۳۰	یَا مُنْتَقِمُ	۸۳
۱۶۲	۱۵۱	۱۵۹	۱۴۱	۲۱۲	۲۰۰	۲۰۸					
۱۵۱	۱۴۵	۱۵۸	۱۶۵	۲۰۷	۲۱۴	۲۰۹					
۱۵۹	۱۵۰	۱۵۳	۱۶۳								

خاصیت۔ جو کوئی دشمن کا نام دو ہما کے تین جمعوں تک اسکی مداومت کرے دشمن مغلوب یا دوست بن جائیگا۔ جو کوئی آدھی رات کو کسی نیت سے پڑھے گا وہ کام سرانجام پائے گا۔ جو شخص اسکے ساتھ مندرجہ ذیل ہم کو یعنی یَا قَهَّارُ یَا مُذِلُّ یَا مُنْتَقِمُ بعد نماز عشاء چالیس یوم تک ایک ہزار ایک بار پڑھے تو ظالم ہلاک ہو جائیگا۔ جو اسے بہت پڑھا کرے گا اسکی آنکھ ہرگز نہ دکھے گی۔

۳۸	۴۲	۴۵	۳۱	۵۳	۴۸	۵۵	جلالی	معاف کرنے والا گناہوں کا	عدد ۱۵۶	یَا عَفُوُّ	۸۴
۴۴	۳۲	۳۷	۴۳	۵۴	۵۲	۵۰					
۳۳	۴۷	۴۰	۳۶	۴۹	۵۶	۵۱					
۴۱	۳۵	۳۴	۴۶								

خاصیت۔ جو بہت گنہگار ہو یعنی جس کے بہت گناہ ہوں اس اسم کا ورد کرے حق تعالیٰ اوسکے تمام گناہ بخشے گا جو اسے تین جمعہ اپنا ورد کرے گا سب دشمن اوسکے دوست ہو جاوینگے اور لوگوں میں معزز ہوگا۔

۷۱	۷۴	۷۷	۶۳	۹۶	۹۱	۹۹	جلالی	مہربان بہت	عدد ۲۸۷	یَا رَءُوفُ	۸۵
۷۶	۶۵	۷۰	۷۵	۹۸	۹۵	۹۳					
۶۶	۷۳	۷۲	۶۹	۹۲	۱۰۰	۹۴					
۷۳	۶۸	۶۷	۷۰								

خاصیت۔ جو کسی مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑانا چاہے یَا رَءُوفُ دس بار پڑھے وہ ظالم اسکی شفاعت قبول کریگا۔ جو کوئی اسپر مداومت کرے گا ظالم کا دل اوسپر مہربان ہوگا اور سب لوگ دوست رکھیں گے اور اسپر مہربان ہوں گے۔

۵۲	۵۶	۵۹	۴۵	۷۲	۶۶	۷۴	جلالی	اے مالک بادشاہی کے	عدد ۲۱۲	یَا مَالِکَ الْمُلْکِ	۸۶
۵۸	۴۶	۵۱	۵۷	۷۳	۷۱	۶۸					
۴۷	۶۱	۵۳	۵۰	۶۷	۷۵	۷۰					
۵۵	۴۹	۴۸	۶۰								

خاصیت۔ جو اس اسم پر بہت مداومت کرے گا تونگر ہوگا اور اس کے دونوں جہان کے مہمات بدرستی انجام پائیں گے۔ کامل فرماتے ہیں کہ جو یَا مَالِکَ الْمُلْکِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ بہت پڑھے گا اگر فقیر ہو گا تو غنی ہو جائے گا مگر یہ اسم کمال جلال رکھتا ہے۔

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۶۶	۳۶۰	۳۶۸	جمالی	اے صاحب بزرگی اور بخشش کے	عدد ۱۰۹۳	یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ	۸۷
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۶۷	۳۶۵	۳۶۳					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۶۱	۳۶۹	۳۶۴					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								

خاصیت۔ بعض اسکو اسم اعظم کہتے ہیں جو شخص یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ بِیَدِکَ الْخَیْرُ وَاَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ سو بار پڑھ کر پانی پر دم کرے تو وہ پانی بیمار کو پلا دے گا بیمار شفا پائے گا۔ اگر دل محزون ہو اس عمل سے مسرور ہوگا۔

۵۰	۵۳	۵۶	۴۳	۶۸	۶۳	۷۱	جمالی جلالی	نیکی کرنے والا	عدد ۲۰۲	یَا بَرُّ	۸۸
۵۵	۴۴	۴۷	۵۲	۷۰	۶۶	۶۵					
۴۵	۵۸	۵۱	۴۸	۶۴	۶۲	۶۶					
۵۷	۴۶	۴۹	۵۰								

خاصیت۔ جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا خدا وند کریم کے الطاف میں محفوظ ہوگا۔ جو کسی کا فرزند اور قرابتی کہیں گرفتار ہوں گھر کے گرد ایک خط کھینچے اور ہر روز ایک سو تیس بار پڑھے تاکہ وہ خلاصی پائیں۔

۵۲	۵۵	۵۸	۴۴	۷۱	۶۵	۷۳	جمالی	انصاف کرنے والا	۲۰۹ عدد	يَا مُقْسِطُ	۸۹
۵۷	۴۵	۵۱	۵۶	۷۲	۷۰	۶۷					
۴۶	۶۰	۵۳	۵۰								
۵۴	۴۹	۴۷	۵۹	۶۶	۷۴	۶۹					

خاصیت۔ جو کوئی اس اسم کو سو بار پڑھے گا شیطان کے شر اور وسوسے سے نڈر ہوگا جو ستر بار پڑھے گا جو مقصود کر رکھا ہو حاصل ہوگا۔ جو کسی رنج میں مبتلا ہو ہر روز ستر بار پڑھے رنج سے نجات پائے گا۔ جو اسے لکھ کر گلے میں رکھے شر شیطان سے بچ جائے گا۔

۲۸	۳۱	۳۴	۲۱	۳۹	۳۴	۴۱	جمالی	جمع کرنے والا	۱۱۴ عدد	يَا جَامِعُ	۹۰
۳۲	۲۲	۲۷	۳۳	۴۰	۳۸	۳۶					
۲۳	۳۶	۲۹	۲۶	۳۵	۴۲	۳۷					
۳۰	۲۵	۲۴	۳۵								

خاصیت۔ جس کے اہل و اقارب اور تابعدار پراگندہ و متفرق ہو گئے ہوں چاشت کے وقت غسل کرکے آسمان کی طرف منہ کرکے اور دس بار اس اسم کو پڑھے اور ہر بار میں ایک انگلی بند کرتا جاوے پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے تھوڑے عرصہ میں سب جمع ہو جائیں گے۔ اور جس شخص کی کچھ چیز جاتی رہے یَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ عَلَيَّ حَاجَتِيْ پڑھا کرے وہ چیز مل جائے گی۔

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۵۴	۳۴۹	۳۵۷	جمالی	بے پرواہ	۱۰۶۰ عدد	يَا غَنِيُّ	۹۱
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۵۶	۳۵۳	۳۵۱					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۵۰	۳۵۸	۳۵۲					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								

خاصیت۔ جو کوئی کسی قسم کی بلا میں مبتلا ہو اسم الغنی کو اپنے ہر عضو پر پڑھے اور ہاتھ پھیرے تو حق تعالےٰ اسکی بلا دفع کرے گا۔ جو کوئی ہر روز ستر بار پڑھے گا اس کے مال میں برکت ہوگی اور وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ جو کوئی جمعرات کے دن ہزار بار پڑھے گا دولت پائے گا جو اسکا ورد کرے گا اس کے اعضا کا درد جاتا رہے گا۔

۲۶۴	۲۶۸	۲۸۱	۲۹۶	۳۶۷	۳۶۳	۳۷۰	جمالی	بے نیاز کرنے والا	۱۱۰۰ عدد	يَا مُغْنِيُ	۹۲
۲۸۰	۲۷۵	۲۷۳	۲۶۹	۳۶۹	۳۶۶	۳۶۲					
۲۷۹	۲۶۳	۲۷۶	۲۶۲	۳۶۴	۳۶۵	۳۷۱					
۲۶۶	۲۶۱	۲۶۰	۲۶۳								

خاصیت۔ جو کوئی دس جمعوں تک ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ صرف اللہ اور دس بار یہ اسم پڑھے گا خلق سے بے پرواہ ہوگا۔ جو کوئی زرد کی کے وقت ستر بار پڑھے بہت اسکے ہوگا۔ جو بہت مفلس ہو فجر کے وقت فرض و سنت کے درمیان دو سو بار اور دو سو بار ظہر اور دو سو بار عصر اور دو سو بار مغرب اور تین سو بار عشا کی نماز کے بعد روز پڑھا کرے غنی ہوگا۔ روزگار کو حاصل طریقہ ہے جو گیارہ سو بار روز پڑھا کرے صفائی قلب حاصل ہوگی۔ جو کشائش رزق کے واسطے گیارہ سو بار یَا مُغْنِیْ اور یا اسمیہ گیارہ سو بار لَاحَوْلَ اور بے قسیہ سو بار درود شریف اور دو دفعہ سورہ مزمل پڑھا کرے انعدشم پائیگا مجرب ہے سینہ بسینہ مولوی سید خلیفہ مولوی نصیر الدین دہلوی سے ہے۔ جو کسی جگہ دکھ ہو یہ اسم پڑھکر اپنے ہاتھوں پر دم کر کر اُس جگہ پر ملے تندرست ہو جائے گا۔

۳۲	۳۵	۳۸	۲۴	۴۴	۳۹	۴۶	جلالی جمالی	عطا کرنے والا	۱۲۹ عدد	يَا مُعْطِيُ	۹۳
۳۷	۲۵	۳۱	۳۶	۴۵	۴۳	۴۱					
۲۶	۴۰	۳۳	۳۰	۴۰	۴۷	۴۲					
۳۴	۲۹	۲۷	۳۹								

خاصیت۔ جو کوئی یا معطی کو اپنا ورد کرے یا یَا مُعْطِيَ السَّائِلِيْن کو بہت پڑھے گا کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ جو کسی سے اپنا مال نہ ملے تو عشا کی نماز کے بعد ایک ہفتہ تک اکتالیس بار روز یَا مُعْطِيُ كُلَّ شَيْءٍ پڑھے گا اور پھر دعا کریگا تو وہ مال مل جائے گا۔

۴۰	۴۳	۴۶	۳۲	۵۵	۴۹	۵۷	جلالی	روکنے والا	۱۶۱ عدد	يَا مَانِعُ	۹۴
۴۵	۳۳	۳۹	۴۴	۵۶	۵۴	۵۱					
۳۴	۴۸	۴۱	۳۸	۵۰	۵۸	۵۳					
۴۲	۳۷	۳۵	۴۷								

خاصیت۔ جب میاں بیوی میں خفگی اور نزاع واقع ہو جس وقت کہ سونے پر جائے بیٹھا

اسکو پڑھے حق تعالیٰ اس غصہ کو دفع کرے گا جب پڑھے گا جو دس جمعہ برابر پڑھے گا تونگر ہو جائے گا۔

۹۵	یا ضارّ	۱۰۰۱ اعداد	[illegible]	جلالی	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

خاصیت۔ جسکو ایک مال و مقام میسر ہو سو بار جمعہ کی شبوں میں اس اسم کو پڑھے حق تعالیٰ اسکو اس مقام میں ثابت رکھیگا اور اہل قرب کے مرتبہ میں پہنچائے گا اس مرتبے کے آگے کوئی کمال کی پہچان نہیں۔ جسکی عزت کم ہو ہر شب جمعہ ایام بیض میں سو بار بعد نماز عشاء پڑھا کرے محترم رہیگا۔

۹۶	یا نافع	۲۰۱ اعداد	[illegible]	جلالی	۷۰	۶۳	۶۸	۴۲	۵۶	۵۳	۵۰
					۶۵	۶۷	۶۹	۵۴	۴۹	۴۳	۵۵
					۶۶	۷۱	۶۴	۴۸	۵۱	۵۸	۴۴
								۵۷	۴۵	۴۷	۵۲

خاصیت۔ جو کوئی کشتی میں بیٹھے اور اسم النافع پر مداومت کرے اسکو کوئی آفت نہ پہنچیگی جو ہر کام کے شروع میں اکتالیس بار پڑھ لیا کرے سب کام اسکے حسب دلخواہ انجام پائیں گے۔ جو ماہ جبیں با اسکا ورد کرے اسرار الٰہی سے آگاہ ہوگا۔ جو چار روز جہانتک ہو سکے پڑھے گا کبھی کسی غم میں نہ پھنسے گا۔ جو سفر میں اسے پڑھا کرے بخیر گھر واپس آئیگا۔

۹۷	یا نور	۲۵۶ اعداد	[illegible]	جلالی	۸۹	۸۱	۸۶	۵۶	۷۰	۶۶	۶۳
					۸۳	۸۵	۸۸	۶۸	۶۲	۵۷	۶۹
					۸۴	۹۰	۸۲	۶۱	۶۵	۷۲	۵۸
								۷۱	۵۹	۶۰	۶۶

خاصیت۔ جو کوئی جمعہ کی شب میں سات سو بار سورہ نور اور پھر ایک ہزار بار یہ اسم پڑھے گا اسکے دل میں نور پیدا ہوگا۔ جو مرد صبح کے وقت مداومت کرے گا اسکا دل روشن ہوگا۔

۹۸	یا ہادی	۲۰ اعداد	[illegible]	جلالی	۱۰	۲	۸	۲	۶	۳	۹
					۴	۷	۹	۳	۸	۳	۵
					۶	۱۱	۳	۷	۱	۸	۴
								۷	۵	۴	۳

خاصیت۔ جو کوئی آسمان کی طرف منہ کرکے ہاتھ اٹھا کر اس اسم کو بہت پڑھے گا اور پھر دونوں ہاتھ اپنے منہ اور آنکھوں پر پھیرے گا اہل معرفت کا مرتبہ پائیگا اسرار الٰہی اس پر کھلیں گے جو کوئی گیارہ سو بار یَا هَادِیْ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے وہ کسی حاجت میں محتاج نہ رہے گا۔

۹۹	یا بدیع	۸۶ اعداد	[illegible]	جمالی	۳۲	۲۴	۳۰	۱۴	۲۷	۲۴	۲۱
					۲۷	۲۹	۳۱	۲۵	۲۰	۱۵	۲۶
					۲۸	۳۳	۲۵	۱۹	۲۲	۲۹	۱۶
								۲۸	۱۷	۱۸	۲۳

خاصیت۔ جسکو کوئی غم یا مہم پیش آئے ستر ہزار بار پڑھے اور ایک روایت میں ہے کہ بارہ ہزار بار پڑھے ستر بار یَا بَدِیْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ پڑھے گا وہ مہم سر انجام پائے گا۔ جو باوضو قبلہ کی طرف منہ کرکے اتنی بار پڑھے گا کہ سو جائے جو کچھ دیکھنا چاہے خواب میں دیکھ لے گا۔ تمام معاملات درویشی دینی و دنیوی فوائد و کمالات کے لیے بارہ سو بارہ روز یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَیْرِ پڑھ لیا کرے۔ محبت کو عروج اور میں مصری منہ میں رکھ کر عشاء کے بعد وتر سے پہلے بتصور صورت ایک ہی جگہ روزانہ سو بارہ مرتبہ پڑھے یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَیْرِ یَا بَدِیْعُ بلا کی دشمن کے لئے ترشی منہ میں رکھ کر اسی طرح پڑھا کرے اور یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْقَهْرِ بھی آیا ہے خواہ اسطرح پڑھا کرے۔ سب میں باوضو ہونا چاہیے اور وقت کا تعین کرنا اپنے اختیار پر ہے۔

۱۰۰	یا باقی	۱۱۳ اعداد	[illegible]	جلالی	۴۱	۳۳	۳۹	۲۰	۳۴	۳۱	۲۸
					۳۵	۳۸	۴۰	۳۲	۲۷	۲۱	۳۳
					۳۷	۴۲	۳۴	۲۶	۲۹	۳۶	۲۲
								۳۵	۲۳	۲۵	۳۰

خاصیت۔ جو کوئی جمعہ کی شب بعد نماز عشاء سو بار یہ اسم پڑھے گا اس کے تمام عمل قبول ہونگے اور کسی سے اسکو رنج نہ پہنچے گا اگر ہفتے کے دن دشمن کی مغلوبی کی نیت سے مداومت کی تو

کسی وقت با وضو بعد دو رکعت نفل یا بعد نماز ظہر سو بار پڑھے گا دشمن اسکے مطیع و فرمانبردار ہوں گے جو سورج نکلنے سے پہلے سو بار روز پڑھے ۲۴۲ مرگ کو دکھ نہ پائے گا اور عاقبت میں بخشا جائے گا۔

۱۰۱	یا وارث	۷۰۷ عدد	اسم الاعداد	جلال	۲۲۹ ۲۳۱ ۲۲۶ / ۲۲۳ ۲۲۹ ۲۲۸ / ۲۲۵ ۲۲۷ ۲۲۲	[illegible]

خاصیت۔ جو سورج نکلتے وقت سو بار پڑھے گا اسکو کچھ رنج نہ پہنچے گا جو اس کو بہت پڑھیگا اسکے سب کام پورے آویں گے اور امن میں رہے گا جو اسکا ورد کرے گا اسکی عمر دراز ہوگی۔

۱۰۲	یا رشید	۵۱۴ عدد	اسم الاعداد	جلال	۱۶۵ ۱۷۷ ۱۷۲ / ۱۷۹ ۱۷۱ ۱۶۴ / ۱۷۰ ۱۶۹ ۱۶۸	۱۲۱ ۱۳۴ ۱۳۱ ۱۲۸ / ۱۳۲ ۱۲۶ ۱۲۴ ۱۳۳ / ۱۲۷ ۱۲۹ ۱۳۶ ۱۲۳ / ۱۲۶ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۳۰

خاصیت۔ جو کوئی اپنے کام کی تدبیر نہ جانے یہ اسم شام اور عشا کی نماز کے بعد ہزار بار پڑھے جو کچھ تدبیر ٹھیک ہوگی دماغ پر ظاہر ہوگی اور باطن منور ہو گا اگر مداومت کرے گا بے سعی اسکی مہمات سرانجام پاویں گے اور کل کام درست ہوں گے۔

۱۰۳	یا صبور	۲۹۸ عدد	اسم الاعداد	جلال	۱۰۳ ۸۵ ۱۰۰ / ۹۶ ۹۹ ۱۰۲ / ۹۸ ۱۰۴ ۹۷	۷۹ ۸۰ ۷۷ ۶۳ / ۶۰ ۶۳ ۷۶ ۶۹ / ۷۱ ۶۶ ۸۲ ۷۸ / ۸۱ ۷۹ ۶۰ ۶۹

خاصیت۔ جسکو درد یا رنج یا مصیبت پیش آئے تینتیس بار اس اسم کو پڑھے اطمینان حاصل ہوگا اگر آدمی رات کو یا دوپہر کو مداومت کرے گا دشمنوں کی زبان بندی اور خوشنودی اور بادشاہ کی رضامندی حاصل ہوگی اور دوسروں کے غضب و رنج و غم دور کرنے کی خاصیت رکھتا ہے جو کسی تردد یا مشکل میں ہو ہزار بار پڑھے خلاصی پائے گا۔

۱۰۴	[illegible]	۱۹۵ عدد	اسم الاعداد	جمال	۶۸ ۶۱ ۶۶ / ۶۳ ۶۵ ۶۷ / ۶۴ ۶۹ ۶۲	۴۱ ۵۵ ۵۶ ۴۸ / ۵۳ ۴۷ ۴۲ ۵۴ / ۴۶ ۴۹ ۵۶ ۴۳ / ۵۱ ۴۴ ۴۵ ۵۰

خاصیت۔ جو اس اسم پر مداومت کرے گا اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو یہ عادت جاتی رہے گی اور اگر بات کو بے ترغیب کہتا ہے ایسی باتیں ظاہر کرے گا۔

۱۰۵	یا [illegible]	۲۴۱ عدد	اسم الاعداد	جلال	[illegible]	[illegible]

خاصیت۔ جو سو بار کسی نماز کے بعد پڑھا کرے اوس کی عیب پوشی ہوگی۔

خواص اسمائے مقدسہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

صوفیائے کرام کا متفقہ فیصلہ اور تجربہ ہے کہ جو شخص ان ناموں کو با وضو سونے سے قبل ہر شب اپنے بستر پر شوق و محبت اور آداب کے ساتھ حضور سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھنے کی نیت سے ایک مرتبہ بار بار دیکھا کرے پڑھے کہ نیند آنے لگے اور سو جائے تو ایسے شخص کو بباعث عقیدہ و محبت پر ہیزگاری خواب میں رسول کریم کی زیارت جلد یا دیر میں ضرور ہوگی۔ ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے نام مبارک محمد کے اول میں سیدنا اور اسکے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا دے اور پھر سب سے آخری نام مبارک ولی کے اول سیدنا اور آخر میں وہ درود جو اسکے بعد درج ہے پڑھ لیا کرے سارا باقی کل نام مبارک فقط سیدنا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھا لینا کافی ہے اور اگر کل ناموں کے ساتھ فقط سیدنا و صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا لے تو بہتر ہے ورنہ اول و آخر کے ساتھ کافی ہے۔

﴿ اسمائے مبارکہ مندرجہ ذیل ہیں ﴾

اسمائے مقدسہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مُحَمَّدٌ	اَحْمَدُ	حَامِدٌ	مَحْمُودٌ	قَاسِمٌ	عَاقِبٌ	فَاتِحٌ

خَاتِمٌ	حَاشِرٌ	مَاحٍ	دَاعٍ	سِرَاجٌ	رَشِيْدٌ	مُنِيْرٌ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	نیک	[illegible]
بَشِيْرٌ	نَذِيْرٌ	هَادٍ	مَهْدِيٌّ	رَسُوْلٌ	نَبِيٌّ	طٰهٰ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	رسول	نبی	[illegible]
يٰسٓ	مُزَّمِّلٌ	مُدَّثِّرٌ	شَفِيْعٌ	خَلِيْلٌ	كَلِيْمٌ	حَبِيْبٌ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	دوست
مُصْطَفٰى	مُرْتَضٰى	مُجْتَبٰى	مُخْتَارٌ	نَاصِرٌ	مَنْصُوْرٌ	قَائِمٌ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
حَافِظٌ	شَهِيْدٌ	عَادِلٌ	حَكِيْمٌ	نُوْرٌ	حُجَّةٌ	بُرْهَانٌ
[illegible]	گواہ	[illegible]	[illegible]	نور	دلیل	[illegible]
اَبْطَحِيٌّ	مُؤْمِنٌ	مُطِيْعٌ	مُذَكِّرٌ	وَاعِظٌ	اَمِيْنٌ	مَدَنِيٌّ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
عَرَبِيٌّ	هَاشِمِيٌّ	تِهَامِيٌّ	حِجَازِيٌّ	نِزَارِيٌّ	قُرَشِيٌّ	مُضَرِيٌّ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
اُمِّيٌّ	عَزِيْزٌ	حَرِيْصٌ	رَءُوْفٌ	رَحِيْمٌ	يَتِيْمٌ	غَنِيٌّ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	بے پرواہ
جَوَادٌ	فَتَّاحٌ	عَالِمٌ	طَيِّبٌ	طَاهِرٌ	مُطَهَّرٌ	خَطِيْبٌ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
فَصِيْحٌ	سَيِّدٌ	مُتَّقِيٌّ	اِمَامٌ	بَارٌّ	شَافٍ	مُتَوَسِّطٌ
[illegible]	سردار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سَابِقٌ	مُقْتَصِدٌ	مَهْدِيٌّ	حَقٌّ	مُبِيْنٌ	اَوَّلٌ	آخِرٌ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	اول	[illegible]
ظَاهِرٌ	بَاطِنٌ	رَحْمَةٌ	مُحَلِّلٌ	مُحَرِّمٌ	آمِرٌ	صَادِقٌ
[illegible]	[illegible]	رحمت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
مُصَدِّقٌ	نَاطِقٌ	صَاحِبٌ	مَكِّيٌّ	نَاهٍ	شَكُوْرٌ	قَرِيْبٌ
[illegible]	[illegible]	صاحب	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
مُنِيْبٌ	مُبَلِّغٌ	طٰسٓ	حٰمٓ	حَبِيْبٌ	اَوْلٰى	وَصُلٌ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

اللهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

[illegible]

برائے حلِ مشکلات

طریقۂ خواندن مسبعاتِ عشر

مسبعاتِ عشر سے مراد دس دعائیں ہیں جو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کے ساتھ سات سات مرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔

(۱) سورۃ الحمد شریف ۷ بار (۲) سورۃ ناس ۷ بار

(۳) سورۃ فلق ۷ بار (۴) سورۃ اخلاص ۷ بار

(۵) سورۃ کافرون ۷ بار (۶) آیۃ الکرسی ۷ بار

(۷) کلمۂ تمجید ۷ بار اس طرح:-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔ (سات بار) پھر پڑھے: عَدَدَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَزِنَةَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَمِلْاَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ (تین بار) پھر پڑھے: تَبَرَّأْتُ مِنْ حَوْلِيْ وَقُوَّتِيْ وَالْتَجَأْتُ اِلٰى حَوْلِ اللّٰهِ وَقُوَّتِهٖ فِيْ جَمِيْعِ اُمُوْرِيْ (ایک بار)

(۸) درود شریف اول ۷ بار اور آخر میں سات بار۔ اس طرح:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

(۹) پھر یہ دعاء بار پڑھے :- بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَارْحَمْھُمَا کَمَا رَبَّیَانِیْ
صَغِیْرًا وَاغْفِرِ اللّٰھُمَّ لِجَمِیْعِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْیَاءِ مِنْھُمْ وَالْاَمْوَاتِ
بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔

(۱۰) پھر یہ دعاء بار پڑھے :- بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔
اَللّٰھُمَّ یَا رَبِّ افْعَلْ بِیْ وَبِھِمْ عَاجِلًا وَّاٰجِلًا فِی الدِّیْنِ
وَالدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ مَا اَنْتَ لَہٗ اَھْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا یَا
مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَہٗ اَھْلٌ اِنَّکَ غَفُوْرٌ حَلِیْمٌ جَوَادٌ کَرِیْمٌ
مَلِکٌ بَرٌّ رَؤُوْفٌ رَّحِیْمٌ۔

پھر پڑھے :-
اَللّٰھُمَّ اھْدِنِیْ بِرَاْفَتِکَ یَا نَافِعُ وَرَافِعُ تَوَفَّنِیْ
مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ (۲ بار)

پھر ۱۱ مرتبہ یَا جَبَّارُ پڑھے، اور پھر آخر میں درود شریف سات
بار پڑھے۔

نقش برائے دفع اثرِ آسیب وسحر (جانبِ مشرق میں لگایا جائے)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا
وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِکِ النَّاسِ اِلٰہِ النَّاسِ مِنْ
شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ
مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ ۝

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ وَحْدَہٗ وَکَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ
وَاسْتَمْسَکْتُ بِالْعُرْوَۃِ الْوُثْقٰی لَا انْفِصَامَ لَھَا وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ
عَلِیْمٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ
اَعُوْذُ بِکَلِمٰتِ اللّٰہِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ یَا حَفِیْظُ
یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا اللہ	یا باسط	یا رحیم
یا اللہ	یا باسط	یا رحیم
یا اللہ	یا باسط	یا رحیم
یا اللہ	یا باسط	یا رحیم

نقش برائے وسعت رزق از غیب

فریم کر کے گھر میں لٹکایا جائے یا گلے میں ڈالا جائے

[illegible]

۳۲۳۷۰ کشتگان ۲۱۰	۳۲۳۸۳ خنجر ۲۲۴	۳۲۳۸۰ تسلیم را ۲۲۰	۳۲۳۷۷ ہر زمان ۲۱۴
۳۲۳۸۱ خنجر ۲۲۱	۳۲۳۷۶ تسلیم را ۲۱۶	۳۲۳۷۱ ہر زمان ۲۱۱	۳۲۳۸۳ از غیب ۲۲۳
۳۲۳۷۵ تسلیم را ۲۱۵	۳۲۳۷۸ ہر زمان ۲۱۸	۳۲۳۸۶ از غیب ۲۲۹	۳۲۳۷۲ جانے ۲۱۲
۳۲۳۸۵ ہر زمان ۲۲۵	۳۲۳۷۳ از غیب ۲۱۳	۳۲۳۷۴ جانے ۲۱۴	۳۲۳۷۹ دیگر است ۲۱۹

بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیٔ فی الارض ولا فی السماء وھو السمیع العلیم بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض و السموٰت۔ خداوندا گر منظور داری حاجتم را بر آری [illegible] ... بسم اللہ الرحمٰن الرحیم محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ [illegible] ... اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیھم غیر المغضوب علیھم ولا [illegible] ... یخرج من بطونھا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس و ننزل من القرآن ما ھو شفاء و رحمۃ [illegible]

نسخہ اکسیر برائے ازالہ اثر آسیب و سحر (گلے میں ڈالا جائے)

از مجربات حضرت مولانا احمد علی چنگوری

[illegible]

نوشتہ دربینے دھد آسیب ظاہر شود

(لکھ کر آسیب زدہ کو دکھائیں وہ ظاہر ہو گا)

یاحی یاقیوم بحق ایاک نعبد وایاک نستعین وبحق کھیعص
حم عسق وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام الغا استفتح
استفتح فھوش نھوش قرشت قرشت برھابرھا برھا احضروا
من جانب المشارق وللمغارب ومن جانب الایمن والایسر
بحق لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ

برائے خرید و فروخت مکان / دوکان

۳۲	۳۱	۴۳	۴۳	۵۳	۵۴	۲	۱
۳۰	۲۹	۴۱	۴۲	۵۵	۵۶	۴	۳
۴۹	۵۰	۶	۵	۲۸	۲۷	۴۷	۴۸
۵۱	۵۲	۸	۷	۲۶	۲۵	۴۵	۴۶
۱۰	۹	۶۱	[illegible]	۳۵	۳۶	۲۴	۲۳
۱۲	۱۱	۶۳	۶۴	۳۳	۳۴	۲۲	۲۱
۳۹	۴۰	۲۰	۱۹	۱۴	۱۳	۵۷	۵۸
۳۷	۳۸	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۵۹	۶۰

برائے دفع دردِ سر و نیم سر

۷۸۶

۳	۱	۸
۶	۷	۲

برائے ازالۂ بخار

(۱)

سورۃ فاتحہ (الحمد شریف) چالیس۴۰ بار پانی کے پیالے پر پڑھے اور بخار والے کے منہ پر چھینٹا مارے تو حق تعالیٰ اس کو فائدہ بخشے۔

(۲)

قرآن مجید کی یہ چھ آیتیں ہیں جن کا نام آیات شفاء ہے بیمار کے واسطے ان کو ایک برتن پر لکھے اور پانی سے دھو کر پلائے:-

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ۔

(۳)

لاعلاج مرض کے واسطے چینی کی سفید طشتری (پلیٹ) یا برتن پر یہ اسم لکھے۔ یَا حَیُّ حِیْنَ لَا حَیَّ فِیْ دَیْمُوْمَۃِ مُلْکِہٖ وَبَقَآئِہٖ یَا حَیُّ پھر اسکو پانی سے دھو کر چالیس دن پئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ اس اسم پر سورۃ فاتحہ بھی لکھتے تھے

(۴)

بخار کے ازالہ کے واسطے ہر روز عصر کے بعد سورۃ مجادلہ (پ ۲۸) بخار والے پر تین بار پڑھے۔ (اور دم کرے) انشاء اللہ بخار دفع ہو گا۔

خزینۃ الاسرار ص ۲۸۰

(۵)

بخار کے دفع کے لئے حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہٗ اور مولانا محمد اسحٰق صاحب رحمۃ اللہ علیہ گلے میں باندھنے کے لئے یہ لکھ دیتے تھے۔ قُلْنَا یَا نَارُ كُوْنِیْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓی اِبْرٰهِیْمَ. اور پینے کے لئے ہر بیماری کے دفع کے لئے یہ لکھ دیتے تھے۔ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ۔

(۶)

ہر مرض کی شفاء کے لئے یَا سَلَامُ کا نقش اور یہ آیت لکھ کر پلادے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مر	لا	س
س	مر	لا
لا	س	مر

(۷)

پرانے بخار کے واسطے اتوار کے دن سات تار پاک دھاگے کے لے اور اَلْحَمْدُ شریف اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (آخر تک) پڑھ کر اس دھاگے پر سات گرہ دے اور مریض کے گلے میں باندھے ان شاء اللہ العزیز بخار دفع ہو جائیگا۔

(۸)

بخار کے واسطے ایک پاک کاغذ پر دو تعویذ تیار کرے ایک سیدھی

کلائی میں اور دوسرا الٹے ہاتھ کی کلائی میں باندھے۔ تعویذ یہ ہے۔

هارات	هاروت
ملات	ماروت

(۹)

ہر ایک مریض کے لئے پہلے اوّل و آخر درود شریف پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِالْعَلِیْلِ دَوَاءٌ وَّ بِالْمَرِیْضِ شِفَاءٌ وَّ بِالْغَرِیْبِ اَنِیْسٌ وَّ بِالْفَقِیْرِ جَلِیْسٌ یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ. تین دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر اور دوا اور غذا پر صبح و شام دم کرے ان شاء اللہ العزیز شفا کامل عطا ہو گی۔

(۱۰)

ہر آفت و مصیبت و بیماری سے محفوظ رہنے کے لئے اس تعویذ کو لکھ کر گلے میں یا بازو پر باندھے تعویذ مکرم یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَیْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّعَیْنٍ لَامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

(۱۱)

بخار کے واسطے یہ تعویذ لکھ کر بازو پر باندھے یا گلے میں لٹکائے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. یَا نَارُ كُوْنِیْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰی

اِبْرٰهِیْمَ وَاَرَادُوْا بِهٖ کَیْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِیْنَ۔

(۱۲)

باری کے بخار کے واسطے پیپل کے تین پتوں پر لکھے اور بخار کے چڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر بعد ایک ایک پتہ چاٹ لے۔ مجرب ہے۔

۷۸۶		
۴	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

۷۸۶		
۶	۱۱	۳
۴	۷	۹
۱۰	۲	۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یٰنَارُ کُوْنِیْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰۤی اِبْرٰهِیْمَ وَاَرَادُوْا بِهٖ کَیْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِیْنَ۔







(۱۳)

جاڑے کے بخار کے واسطے اس آیت شریف کو سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور مریض کو پلا دے۔ فَلَمَّا تَجَلّٰی رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَکًّا وَّخَرَّ مُوْسٰی صَعِقًا۔

(۱۴)

بخار کے واسطے یہ تعویذ لکھ کر دے مجرب ہے مریض اپنے بازو پر باندھے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قُلْنَا یٰنَارُ کُوْنِیْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰی

اِبْرٰهِیْمَ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یُرِیْدُ اللّٰهُ اَنْ یُّخَفِّفَ عَنْکُمْ یَا غَفُوْرُ یَا رَحِیْمُ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ذٰلِكَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ ۔ یَا غَفُوْرُ یَا غَفُوْرُ یَا غَفُوْرُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْکُمْ یَا غَفُوْرُ۔

(۱۵)

ہر درد اور بیماری کے دفع کے واسطے اوّل و آخر درود شریف پڑھے اور ایک بار سورۂ فاتحہ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ یَا اَللّٰهُ اِشْفِ یَا رَحْمٰنُ اِشْفِ یَا رَحِیْمُ اِشْفِ یَا کَرِیْمُ اِشْفِ یَا غَفَّارُ اِشْفِ یَا سَتَّارُ اِشْفِ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ مِنْ جَمِیْعِ الدَّآءِ وَالْبَلَآءِ بِفَضْلِكَ وَکَرَمِكَ لَا بِعَمَلِنَا وَلَا بِعَمَلِهٖ۔ پھر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے خدا تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔

(۱۶)

بخار کے واسطے مریض پر یہ دعا پڑھ کر دم کرے اور لکھ کر ایک پاک کاغذ پر تعویذ بنا کر بازو پر باندھے وہ دعا یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الْکَبِیْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِیْمِ مِنْ شَرِّ کُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ۔

(۱۷)

جو شخص بیمار ہو تو اس کے بدن پر داہنا ہاتھ پھیرا جائے اور یہ دعا پڑھتا جائے دو چار روز کے عمل سے ان شاء اللہ العزیز بیمار بالکل تندرست ہو جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے۔

اِذْهَبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِیْ

لَا شِفَآءَ اِلَّا شِفَآؤُكَ شِفَآءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا۔

(۱۸)

داہنے ہاتھ میں داہنا پہونچا مریض کا پکڑ کر یہ پڑھے اور دم کرے انشاء اللہ العزیز بہت جلد شفا ہوگی۔ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ۔

(۱۹)

اس دعا کو پڑھ کر مریض پر دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا پائے گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَّعَيْنِ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ۔

(۲۰)

جس شخص کو جاڑے سے بخار آتا ہو اس کے واسطے یہ عمل نہایت مجرب ہے چاہیے اول روز بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مُحِيْطُ لکھ کر سیدھے ہاتھ کی کلائی پر باندھے اگر دوسرے روز پھر آوے تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مُحِيْطُ لکھ کر سیدھے ہاتھ کی کلائی پر باندھے اور پہلا تعویذ کھول کر اُلٹے ہاتھ کی کلائی پر باندھے اگر خدانخواستہ تیسرے روز پھر آئے تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مُحِيْطُ لکھ کر سیدھے ہاتھ کی کلائی پر باندھے اور وہ دونوں تعویذ اُلٹے ہاتھ میں باندھے پھر انشاء اللہ العزیز بخار نہ آوے گا۔

برائے محبت برنبرہ پان ہفت بار خواند تف نمودہ خوردن دہد با تسمیہ

ختم اللہ علیٰ قلوبہم وعلیٰ سمعہم غشاوۃ

برائے عداوت نوشتہ بسوزد

۷۸۶

٨	٣	۴
١	۵	٩
٦	٧	٢

برائے استخارہ بر سر نہد

۷۸۶

۱۰۹۲	۱۰۸۵	۱۰۹۰
۱۰۸۷	۱۰۸۹	۱۰۹۱
۱۰۸۸	۱۰۹۳	۱۰۸۶

برائے اجرائے دوکان وخرید وفروخت بسیار کردمیکے بدکان او بزدو دیگر جنس

۷۸۶

۷۴۸	۷۴۳	۷۵۰
۷۴۹	۷۴۷	۷۴۵
۷۴۴	۷۵۱	۷۴۶

عمل برائے استخارہ

بعد نماز عشار دو رکعت نماز نفل پڑھ کر اس کا ثواب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور اپنے باپ دادا کی روح کو پہنچائے اس کے بعد سورۂ ا۔

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ٥ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٥
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ٥

پندرہ ۱۵ مرتبہ پڑھے اور ا۔

يَا عَلِيمُ عَلِّمْنِي مِنَ الْحَالِ الْفُلَانِي:

تین سو ساٹھ ۳۶۰ مرتبہ پڑھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سو جائے

( )

عمل برائے استخارہ

اس نقش کو لکھ کر سر کے نیچے رکھ کر سو رہے۔ خواب میں ہر بات کا جواب ملے گا۔

۸	۱۱	۸۸۳	۱
۸۸۲	۲	۷	۱۲
۳	۸۸۵	۹	۶
۱۰	۵	۴	۸۸۴

برائے عزت وہیبت در قلوب مردمان

[illegible]

ایں نقش تسمیہ را نزد خود محفوظ بدارید

نماز استسقاء

استسقاء کی نماز کے لئے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رئیس (یا امام) عیدگاہ میں برابر تین دن باہر نکلے اور پیادہ پا جانا بہتر ہے اور پُرانا اور استعمال شدہ کپڑا پہن کر نکلے اور عید کی طرح زینت اور آرائش نہ کرے اور خشوع و خضوع اور شرمندگی کے ساتھ عیدگاہ میں جائے اور دو رکعت نماز نفل پڑھے اور قرأت پکار کر پڑھے اور اس کے بعد خطبہ پڑھے اور دعا کرے اور گناہوں سے بہت توبہ اور استغفار کرے اور چاہئے کہ امام اپنی چادر کے نیچے کا کنارہ اوپر کرے اور اوپر کا کنارہ نیچے کرے اور داہنی طرف کا کنارہ بائیں طرف اور بائیں طرف کا کنارہ داہنی طرف اور نہایت تضرع و زاری کے ساتھ دُعا کرے اور حدیث میں جو دُعا آئی ہے وہ پڑھے اور وہ دُعا یہ ہے:- اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مُرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ۔

نماز کسوف و خسوف

اس کی ترکیب یہ ہے کہ جمعہ کا امام لوگوں کے ساتھ دو رکعت نفل نماز پڑھے جس طرح اور دوسری نفل پڑھی جاتی ہے اسی ترکیب سے پڑھے اور قرأت پوشیدہ یعنی آہستہ پڑھے اور جس قدر زیادہ قرأت ہو بہتر ہے اور اس کے بعد دُعا اور استغفار میں مشغول رہے اس وقت تک کہ ماہتاب یا آفتاب روشن ہو۔

دورانِ وضو کی دُعائیں اور اُن کا حکم

① عین الہدایہ میں ہے کہ ہر عضو کے دھونے کے وقت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھی جائے۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہر عضو کے وقت کلمہ شہادت اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ پڑھے۔

② ہر عضو کے دھونے کے وقت درود شریف پڑھنا چاہئے (التبیین)

③ شرح الطحاوی، تبیین، عینی وغیرہ میں ہے کہ ذیل کی دعائیں مقامات ذیل میں پڑھی جائیں:

مضمضہ یعنی کلی کرتے وقت اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، یعنی الٰہی مجھے تلاوتِ قرآن، اپنے ذکر، شکر اور عمدگی عبادت کی طاقت عطا فرما۔

اور استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِیْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِیْ رَائِحَةَ النَّارِ۔

یعنی الٰہی مجھے جنت کی خوشبو میں نصیب فرما اور دوزخ کی بدبو سے بچا،

اور چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ بَیِّضْ وَجْهِیْ یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوْهُ اَوْلِیَائِكَ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُ اَعْدَائِكَ۔

یعنی الٰہی میرا چہرہ منور فرما جس روز تیرے اولیاء کے چہرے روشن ہوں گے، اور تیرے دشمنوں کے منہ کالے ہوں گے۔

داہنا ہاتھ دھونے کے وقت یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ کِتَابِیْ بِیَمِیْنِیْ وَحَاسِبْنِیْ حِسَابًا یَّسِیْرًا۔

یعنی اے اللہ میرا نامۂ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں عطا کیجئے اور میرا حساب کتاب آسان فرمائیے۔

بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھے:

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِیْ کِتَابِیْ بِشِمَالِیْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِیْ

یعنی اے اللہ میرا اعمالنامہ میرے بائیں ہاتھ یا پیچھے (پشت) کی جانب سے نہ دیجئے۔

سر کے مسح کے وقت یہ پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِیْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ یَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ

یعنی اے اللہ مجھے ایسے وقت اپنے عرش کے سایہ میں رکھئے جبکہ بجز تیرے سایۂ عرش کے کہیں سایہ نہ ہوگا۔

اور کانوں کے مسح کے وقت یہ دعا مانگے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الَّذِیْنَ

یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ۔

یعنی اے اللہ! مجھے اپنا حکم سن کر اپنے بہترین ماننے والوں میں داخل کر دیجئے۔

گردن کے مسح کے وقت یہ دعا مانگے۔

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِیْ مِنَ النَّارِ۔

یعنی الٰہی! میری گردن جہنم سے آزاد فرما دے۔

دایاں پاؤں دھوئے تو یہ پڑھے:

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِیْ عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

یعنی اے اللہ! میرے قدم سیدھی راہ پر جمائے رکھیے جس روز لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں۔

بایاں پاؤں دھونے کے وقت یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِیْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْیِیْ مَشْکُوْرًا وَّتِجَارَتِیْ لَنْ تَبُوْرَ

یعنی اے بارِ الٰہ! میرے گناہ بخشیے اور میری جدوجہد کامیاب اور میری تجارت بے خسارہ فرما۔

(۴) اور وضو سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیئے

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَیْكَ۔ (نسائی) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (متفق علیہ) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ (الترمذی وفیہ ضعف)

یعنی اے اللہ! تیرے لئے پاکیزگی اور ہر طرح کی ستائش ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،

اور آپ سے توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک بازوں میں داخل فرمالیجیے۔

⑤ بعض کتابوں میں ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۔

اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے چوکوں سے اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے:
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّؤْمِ وَالْهَلَاكَةِ ۔

یعنی اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں سعادت اور برکت کا اور پناہ مانگتا ہوں نحوست اور ہلاکت سے۔

⑥ ختم وضو پر تین بار سورۂ قدر پڑھے

فائدہ

حدیث مبارکہ میں ابتدائے وضو کے متعلق ذکر ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "جس شخص نے وضو کے وقت اللہ تعالےٰ کا نام نہیں لیا یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو نہیں ہوا (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، دارمی)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابتدائے وضو میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے مگر جمہور علماء کے نزدیک سنت یا مستحب ہے، سنن وضو میں اس کی بحث کی جاچکی ہے۔

(ب) نیز ہر عضو کے دھونے کی ایک ابتداء ہے اور ہر نیک کام کے ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا حدیث میں وارد ہے، اس لئے بعض علماء نے ہر عضو کے دھونے کے وقت بھی بسم اللہ کو پڑھنا مستحسن قرار دیا ہے۔

(ج) ختم وضو پر ذیل کلمات بھی احادیث سے ثابت ہیں:
سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ۔ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ جیسا کہ حوالجات میں گذر چکے ہیں۔

اور حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اسباغ وضو[1] کے بعد کہے اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله تو اس کیلئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہوجائے (مسلم)

(د) دیگر جو درمیان وضو وغیرہ سے متعلق دعائیں ذکر ہیں ان کے متعلق امام نووی نے روضہ میں کہا کہ ان ادعیہ کی کچھ اصل نہیں، یعنی وضو میں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، امام شافعی اور جمہور نے بھی کچھ ذکر نہیں کیا، اور صاحب شرح مہذب بھی لکھتے ہیں کہ متقدمین نے بھی

[1] مکمل وضو کے بعد

ان کو ذکر نہیں کیا، ابن الصلاح کی رائے ہے کہ اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن رافعی کہتے ہیں کہ یہ خبر صالحین سے مروی ہے،

بہر حال صالحین کے معمول کی وجہ سے ان ادعیہ کا معمول بنانا تو جائز ہے لیکن ان کے متعلق سنت ہونے کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے

اگرچہ فقہاء نے ان دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ لکھا ہے چنانچہ نور الایضاح کے حاشیہ میں مذکورہ ساری دعائیں لکھی گئی ہیں

ملنے کے پتے

۱۔ المکتبۃ الحبیب دکھنی مسجد
پاکستان چوک کراچی ۱
۲۔ مولانا احمد علی مقیم ریلوے ریسٹورنٹ
بلڈنگ، پہلی منزل فلیٹ ۵ متصل دکھنی مسجد
پاکستان چوک کراچی ۱

قرآن پاک کا ایصال ثواب

عقلاً و نقلاً دونوں طرح ثابت ہے۔
چنانچہ علامہ عینی شرح بخاری میں تحریر فرماتے ہیں۔

(۱) رَوَى أَبُو بَكْرٍ النَّجَّارُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ أَحَدَ عَشَرَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ الْأَجْرَ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ۔

ابو بکر النجار نے کتاب السنن میں روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان میں جا کر قل ہو اللہ احد گیارہ بار پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو سب مردوں کو اس کا ثواب پہنچا دیا جائے گا۔

---

(۲) وَفِي سُنَنِهِ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يٰسٓ خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ۔

دوسری روایت اسی کتاب میں حضرت انسؓ سے مرفوعاً بیان کی گئی ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قبرستان میں جا کر سورہ یٰسین پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن تمام اہل قبور کے (جو اس قبرستان میں مدفون ہیں) عذاب میں تخفیف فرمائیں گے۔

---

(۳) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرَ

سیدنا حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کی یا صرف باپ کی یا ماں کی قبر کی زیارت کر کے

نزہۃ الاسرار کالی ۲۹

وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا يَقْرَاءُ عِنْدَهُمَا اَوْ عِنْدَهٗ يٰسٓ غُفِرَ لَهٗ۔

ان دونوں کے یا ایک کے نزدیک سورۃ یٰسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مُردوں کی مغفرت فرمادیں گے یعنی اس کے ماں باپ کو یا جس کی قبر پر سورہ یٰسین پڑھی گئی اپنے فضل سے حق تعالیٰ ان کو بخش دیں گے۔

یہ تو اسناد حدیث ہیں۔

مگر عقلی طور پر بھی اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ صوم وصلوٰۃ، حج وصدقہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ تو پھر قرآن پاک کا ثواب پہنچنے میں کیا چیز مانع ہے جیسے صوم وصلوٰۃ وغیرہ اعمال خیر کا ثواب پہنچتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک عمل خیر ہے۔ اس کا بھی ثواب پہنچے گا۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ "کتاب الروح" میں تحریر فرماتے ہیں۔

وَسِرُّ الْمَسْئَلَةِ اَنَّ الثَّوَابَ مِلْكٌ لِلْعَامِلِ فَاِذَا تَبَرَّعَ بِهٖ وَاَهْدَاهُ اِلٰى اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ اَوْصَلَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ كَمَا الَّذِيْ خَصَّ مِنْ هٰذَا ثَوَابَ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَحَجَرَ عَلَى الْعَبْدِ اَنْ يُّوْصِلَهٗ اِلٰى اَخِيْهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ ثواب نیکی کرنیوالے کی ملک ہے تو جب وہ اپنی خوشی کے ساتھ دوسرے مسلمان کو دیدیتا ہے۔ اور اس کو بخش دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو (محض اپنے فضل سے) اس شخص کی طرف پہنچا دیتے ہیں پس کوئی وجہ اس کی ہمیں نہیں ملتی کہ تلاوتِ قرآن کے ثواب کو اس کلیہ سے مستثنیٰ کر دیا جائے اور ثواب پہنچانے کے لئے پر اس قسم [illegible] پابندی لگا دی جائے کہ وہ اپنا ثواب اپنے بھائی کو نہ بخشے۔

عملیات وتعویذات

حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ

حل مشکلات کیلئے سورۂ یٰسین کا ورد

سورۃ یٰسین یوں پڑھے کہ ہر مُبین پر یَا اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ گیارہ دفعہ پڑھے اور جب کلمہ کُن پر پہنچے تو یَا اَللّٰهُ یَا غَنِیُّ یَا مُغْنِیُّ یَا فَتَّاحُ۔ پڑھ کر ختم کردے۔ انشاء اللہ سب تکالیف کا خاتمہ ہوجائے گا۔

برائے دفع بلیات

مصائب دور کرنے کے لئے مندرجہ ذیل دعا بارہ ہزار دفعہ روزانہ بارہ دن متواتر اس طرح پڑھنی چاہیئے کہ اگر دن میں یہ تعداد پوری نہ ہوسکے تو شام کے بعد نیند سے پہلے پوری کرلے۔ یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَیْرِ یَا بَدِیْعُ۔

برائے قضائے حاجات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ههه هه ۷۸۶ ٥

٦٦٦ ٦٦٦ ٦

* و ہ م ص

اکتالیس عدد باوضو دیسی روشنائی سے لکھیں۔ ایک عدد موم جامہ

کرکے مریض کو پہنائیں اور روزانہ ایک عدد تازہ پانی سے دھو کر علی الصباح نہار منہ پلایا کریں۔

آسیب دائم المرض مزمن کے لئے ایک تعویذ گلے میں ڈالیں اور چالیس عدد پلائیں۔ رات کو نیند نہ آئے اور خواب متوحش نظر آئیں تو سات آٹھ تعویذ پلائیں اور ایک تعویذ گلے میں ڈال دیں۔

برائے حُبّ و بغض

یہ بیت ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑھی جائے۔ اوّل و آخر سو سو مرتبہ درود شریف پڑھا جائے ؎

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِىْ تُرْجٰى شَفَاعَتُهٗ
لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْاَهْوَالِ مُقْتَحِمٖ

دم برائے تکالیف جسمانی

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اِذْهَبِ الْبَاْسَ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ اِشْفِ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا۔ صبح اور عشاء کے بعد سات مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کرے اور جہاں تک ممکن ہو بدن پر ملے

یا اللہ — آسیب معلوم کرنا

۴۸۶

۸	۶	۴	۲
۲	۴	۶	۸
۶	۸	۲	۴
۴	۲	۸	۶

یہ تعویذ لکھ کر مریض کو دکھایا جائے۔ اگر مریض دیکھ لے تو سمجھ لیا جائے کہ آسیب کا اثر نہیں ہے اور اگر نہ دیکھے تو سمجھو کہ آسیب کا اثر ہے۔

برائے مار گزیدہ، کژدم گزیدہ، زنبور گزیدہ وغیرہ

سُوْرَۃُ النَّاس با بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھتے جائیں اور دم کرتے جائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پانچ منٹ تک شفا کامل ہو جاتی۔

یہی سورہ شریفہ نمک پر دم کرکے مار گزیدہ (سانپ کے ڈسے ہوئے) کو کھلایا جائے۔ تین مرتبہ یا گیارہ مرتبہ جتنا مناسب ہو۔

علم کی ترقی کے لئے

(۱) عشاء کی نماز کے بعد تین تسبیح رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا پڑھا کریں اور بعد میں درود شریف پڑھیں۔

(۲) کتاب کھولتے وقت پہلے درود شریف پھر "رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا" ایک بار۔ پھر درود شریف پڑھ کر کتاب پڑھنی شروع کریں۔



فراخیٔ رزق کا وِرد

جو شخص یہ پڑھے گا دنیا اُس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی ترکیب یہ ہے کہ سو بار طلوعِ فجر کے بعد نمازِ فجر سے پہلے یہ دُعا پڑھے :-
سُبْحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ

کشائشِ رزق و ادائیگیٔ قرض

کشائشِ رزق اور ادائیگی قرض کے لئے صبح کی سُنتوں اور فرضوں کے درمیان سات بار یہ آیت اس کے اوّل آخر درُود شریف تین بار پڑھیں اور اپنے آپ پر دَم کرلیں لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ؕ

تمام حاجات کے لئے خاص وِرد

حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ دُعا صبح کی نماز کے بعد تیس بار اور اوّل آخر تین دفعہ درُود شریف پڑھیں، جمیع حاجات کے لئے مفید اور مجرب ہے۔ دُعا مبارک یہ ہے ۔ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ لَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ وَلَا اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّ اَصْلِحْ لِيْ شَاْنِيْ كُلَّهٗ ؕ

اَمراض سے حفاظت کا وِرد

صبح کی نماز کے بعد اس دُعا کو سات بار پڑھ لینا جسم کو تمام امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ ؕ

دشمنوں کے شر سے حفاظت کا وِرد

جو شخص فجر کی نماز کے بعد اس دُعا کو سات مرتبہ پڑھے گا، دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو گا۔ تجربہ کر کے دیکھئے، دُعا یہ ہے :-
حَسْبِيَ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْقَوِيُّ لِمَنْ بَغٰى عَلَيَّ حَسْبِيَ اللّٰهُ الشَّدِيْدُ لِمَنْ كَادَنِيْ بِسُوْٓءٍ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ؕ

سحر اور ہر تکلیف کے لئے

سحر اور ہر تکلیف سے بچنے کے لئے صبح و شام تین تین بار یہ دُعا پڑھے محفوظ رہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ؕ

کشائشِ رزق و غنائے قلبی

کشائشِ رزق و غناء قلبی کے لئے مندرجہ ذیل دُعا بہت مجرب ہے

انشاء اللہ اس کا اثر جلد ہی معلوم ہوگا۔ عشاء اور فجر کی نماز کے بعد سو بار پڑھنی چاہئے۔ اَللّٰھُمَّ کَمَا صُنْتَ وَجْھِیْ عَنِ السُّجُوْدِ لِغَیْرِكَ فَصُنْ وَجْھِیْ عَنِ الْمَسْئَلَةِ لِغَیْرِكَ ؕ

تمام حاجات کے لئے

جو شخص سات بار صبح اور سات بار شام کو یہ دعا پڑھے گا اس کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ حَسْبِیَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ؕ

روزی اور حفاظت کے لئے

وسعتِ رزق اور ہر شر سے حفاظت کے لئے صبح اور مغرب کے بعد ایک سو بار یہ دعا پڑھیں۔ یَا بَاسِطُ یَا حَفِیْظُ اول اور آخر تین بار درود شریف۔

ہر مشکل اور ہر حاجت کے لئے

ہر مشکل اور ہر حاجت کے لئے ایک خاص ورد یہ ہے۔ صبح اور مغرب کی نماز کے بعد ایک سو بار یہ دعا پڑھیں:۔
یَا رَحْمٰنُ اَغِثْنِیْ اول آخر درود شریف تین تین بار پڑھے۔

ہر تکلیف، بیماری اور حاجت کے لئے زود اثر ورد

ہر قسم کی پریشانی، بیماری، مصیبت اور روزی کی تنگی، دشمن کے ایذا کا ڈر۔ غرضیکہ جس ضرورت کے لئے یہ کلام مبارک پڑھا جائے وہ ضرورت اور مراد انشاء اللہ پوری ہو کر رہے گی۔ انشاء اللہ پہلے ہی دن اثر ہوگا۔ صبح کی نماز کے بعد معمولات سے فارغ ہو کر تین بار پہلے درود شریف پڑھے اور درمیان میں کم از کم سات بار یا زیادہ سے زیادہ سو بار یہ کلام پڑھیں پھر آخر میں تین بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔

درود شریف قادریہ سلسلہ یہ ہے۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ؕ

کلام مبارک یہ ہے یَا غِیَاثِیْ عِنْدَ کُلِّ کُرْبَةٍ وَّ مُجِیْبِیْ عِنْدَ کُلِّ دَعْوَةٍ وَ مُوْنِسِیْ عِنْدَ کُلِّ وَحْشَةٍ وَمَعَاذِیْ عِنْدَ کُلِّ شِدَّةٍ وَرَجَائِیْ حِیْنَ تَنْقَطِعُ حِیْلَتِیْ ؕ

فراخیٔ رزق کے لئے

کشائش رزق اور ادائیگی قرض کے لئے مندرجہ ذیل وظیفہ پڑھنے کی اجازت عام ہے نہایت ہی مجرب ہے۔ اوّل آخر تین مرتبہ درود شریف اور درمیان میں یہ آیت کریمہ ایک سو بار پڑھ کر اپنے اوپر

دَم کرلیں یہ عمل صبح کی نماز کے بعد معمولات سے فارغ ہو کر کریں۔
آیت کریمہ یہ ہے۔ اَللّٰہُ لَطِیْفٌۢ بِعِبَادِہٖ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ ۚ وَھُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ ؏

کلمہ طیبہ کے فضائل

تلاوتِ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ذکر لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ہے یہ وِرد اس طرح پڑھے کہ ایک سانس میں لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ پڑھتا رہے جب سانس اُکھڑنے تو ایک بار مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ کہہ دے۔ اسی طرح سو بار روزانہ پڑھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ روزانہ ایک ہزار بار تک پڑھا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ہے اور سب سے افضل دُعا الحمد للہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ پڑھ کر ایمان تازہ کیا کرو (یعنی کثرت سے پڑھو)۔

استغفار کا فائدہ اور الفاظ

ایک مختصر استغفار۔ کثرتِ رزق اور ہر غم دُور کرنے اور ہر حاجت کے لئے کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَیْرُ الرّٰحِمِیْنَ (اے رب بخش دے اور رحم کر اور تُو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے)۔ اس دُعا سے حصولِ مُراد کے ساتھ تلاوتِ قرآن مجید، استغفار اور دُعا کے تینوں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

وُسعتِ رزق کے لئے خاص وِرد

وُسعتِ رزق کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کا یہ ایک خاص وِرد ہے۔ بعد نماز عشاء گیارہ سو بار یَامُغْنِیُ (گیارہ تسبیح) پڑھیں۔ اور سورہ مُزّمّل سات بار روزانہ اس طریقہ سے پڑھیں کہ ہر پانچوں نمازوں کے بعد ایک بار اور صبح کی سُنّت اور فرض کے درمیان دُو بار پڑھیں۔ اس طرح دن رات میں سورہ مُزّمّل سات بار ہو گئی۔ اگر صبح کی سنّت اور فرض کے درمیان وقت کی کمی کے باعث نہ پڑھ سکے تو فرض کے بعد تین بار سورہ مُزّمّل پڑھ لے۔

شادی کرنے اور اہل وعیال کے نیک ہونے کے لئے دُعا

اگر شادی کرانے کا خواہش مند ہو یا چاہے کہ اہل وعیال نیک بن جائیں تو یہ دُعا پڑھے:۔
رَبَّنَا ھَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّیّٰتِنَا قُرَّۃَ اَعْیُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا ؏

ہر مصیبت اور ہر حاجت کا مجرب ورد

ہر مصیبت اور حاجت کے لئے حضرت یونس ؑ کی دعا نہایت مجرب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان بھی حضرت ذوالنون علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ جب انھوں نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب تعالیٰ کو پکارا تھا کہ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ جو دعا بھی کرے گا وہ قبول ہوگی۔

ہر قسم کے شر سے حفاظت اور وسعتِ رزق کے لئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۭ وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ○ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ اِنَّ وَلِيِّۦَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۡ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ○ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ○

(آیاتِ قطب)

ہر مقصد اور حفاظت کے لئے

ہر دینی اور دنیاوی مقصد حاصل کرنے اور جان و مال و عزت کی حفاظت کے لئے اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لئے یہ ورد مجرب ہے۔

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۭ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۭ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۭ يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۭ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۭ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

جب قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ پر پہنچے تو دل میں اپنے مقصد کا خیال رکھے، علم میں اضافہ کا یا شادی کا یا حج یا ذہانت کا جو چاہے خیال رکھے یہ بہت ہی مجرب ورد ہے۔

مصیبت پر صبر کے لئے خاص ورد

اگر کسی عزیز کے فوت ہونے پر غم زیادہ ہو تو دل کو صبر دلانے کے لئے یہ آیات تین تین بار پڑھ کر ہاتھوں پر دَم کر کے دل پر صبح و شام پھیر لیا کرے۔

۱- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ

۲- سورۃ الم نشرح مکمل۔

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ○ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ○ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ○ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ○ۭ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ○ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○ۭ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ○ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ○

۳- اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ○

کلونجی کے فوائد

حدیث نبوی ص ۱-۳۴۹ مشکوٰۃ شریف۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کالا دانہ (کلونجی) موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ [illegible] بخاری و مسلم (طب نبوی)

حکیم جالینوس کا قول ہے کہ کلونجی [illegible] کو تحلیل کرتی ہے اور اس کا کھانا [illegible] مفید ہے۔

② [illegible] سرکہ میں پیس کر لگانے سے نزلہ زکام اور [illegible] دور ہو جاتا ہے ------

③ اگر خشکی کی وجہ سے بدن پر پھنسیاں سی پڑتی ہوں تو اسے کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں ------

④ اگر بدن پر تل پیدا ہو جائیں تو اسے لگانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے ------

⑤ دہی کے ساتھ کھانے سے معدے کا درد دور ہو جاتا ہے ------

⑥ پیشاب بند ہونے کی صورت میں کلونجی کا استعمال پیشاب کو کھول دیتا ہے ------

⑦ سرکہ میں ملا کر کھانے سے [illegible] ہو جاتا ہے ------

⑧ روغن زیتون میں ملا کر [illegible] گھٹنے کا درد جاتا رہتا ہے ------

⑨ کلونجی سرد اور بلغمی [illegible] کے لئے مفید ہے ------

⑩ [illegible] دھونی دینے سے [illegible] مکمل ختم ہو جاتے ہیں ------

⑪ دماغ کی بیماری کے لئے ۲۱ دانے [illegible] پانی میں [illegible] پہلے دن [illegible] دو قطرے اور [illegible] ایک [illegible] تین دن [illegible] بالکل شفا ہو جائے گی۔

⑫ شہد کے ساتھ کھانے سے پتھری نکل جاتی ہے ------

⑬ اس کو جلا کر کھانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے ------

⑭ سرکہ میں ملا کر [illegible] برص اچھا ہو جاتا ہے ------

⑮ اگر [illegible] سرکہ میں ملا کر لگائیں [illegible] ہوگا ------

⑯ اس کو مہندی میں ملا کر لگانے سے سر کے بال مضبوط ہوتے ہیں اور [illegible] ختم ہو جاتا ہے ------

⑰ سکنجبین کے ساتھ کھانے سے [illegible] بلند [illegible] ہو جاتا ہے ------

⑱ [illegible] کی بیماری [illegible] استعمال کرنے سے راحت ملتی ہے ⑲ [illegible] خشک [illegible] کو بحال کرتی ہے ⑳ حیض کی رکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ [illegible] شہد میں ملا کر [illegible] بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر [illegible] تو بہت سی بیماریاں ختم ہو جائیں گی ان شاء اللہ ------

نسیان کا علاج

کچھ چیز بھول جائے یا نسیان کا غلبہ ہوجائے تو نسیان کو دُور کرنے کے لئے ابنِ تیمیہؒ نے فرمایا کہ یہ وِرد مجربات میں سے ہے:
اسی طرح قرآن مجید کا اور حدیث شریف کا مفہوم حل نہ ہوتا ہو تو ۴۱ بار یہ دُعا روزانہ صبح پڑھا کرے۔

یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ
بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ۔

(اے زندہ اے قائم رکھنے والے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں میں تیری رحمت کے واسطہ سے مدد مانگتا ہوں)۔
اسی طرح مبلّغ تقریر سے پہلے اور کتاب پڑھنے سے پہلے مندرجہ بالا دُعا ۷ سات بار پڑھے تو تقریر کی آمد ہوجائے۔ اور کتاب حل ہوجائے۔

نیند نہ آنے کا علاج

اگر پریشانی یا خشکی کی وجہ سے نیند نہ آئے تو سات دفعہ سَر پر ہاتھ رکھ کر یہ آیت پڑھے۔
فَضَرَبْنَا عَلٰٓی اٰذَانِهِمْ فِی الْكَهْفِ۔
اِس سے آگے نہ پڑھے۔

ملنے کا پتہ
المکتبۃ الحبیب

قصیدہ موت کی یاد میں

ضَیَّعْتَ عُمْرَكَ یَا مَغْرُوْرُ فِیْ غَفَلٍ ۔ قُمْ لِلتَّلَافِیْ فَاَنْتَ الْیَوْمَ فِیْ مَهَلٍ
اے فریب خوردہ تو نے غفلت میں عمر برباد کردی ۔ اُٹھ کچھ تلافی کر کہ آج بھی تجھے مہلت نصیب ہے

وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِمَّا فَاتَ مِنْ زَمَنٍ ۔ وَانْدَمْ بِتَوْبٍ عَلٰی اَیَّامِكَ الْاُوَلِ،
جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اُس پر آنسو بہا ۔ اور اپنی گذشتہ زندگی پر شرمسار ہوکر، توبہ کر،

بَادِرْ اِلٰی صَالِحِ الْاَعْمَالِ مُجْتَهِدًا ۔ فَالنُّجْحُ فِی الْجِدِّ وَالْحِرْمَانُ فِیْ كَسَلٍ
کمرِ ہمت باندھ کر اعمالِ صالحہ کی جانب سبقت کر، ۔ کیونکہ محنت میں کامیابی ہے اور سستی کا انجام محرومی ہے

كُنْ لَا مُحَالَةَ فِی الدُّنْیَا كَمُغْتَرِبٍ ۔ عَلٰی رَحِیْلٍ دَنٰی اَوْ عَابِرِ السُّبُلِ،
دنیا میں ایسا رہ گویا تو سفر کے لئے ۔ پابرکاب ہے، بلکہ راستہ سے گذر رہا ہے

دَارُ الْخُلُوْدِ مَقَامًا دَارُ اٰخِرَةٍ ۔ اِنَّ الْاِقَامَةَ فِی الدُّنْیَا اِلٰی اَجَلٍ
ہمیشہ کی اقامت گاہ تو صرف آخرت ہے ۔ دنیا میں قیام تو صرف میعادِ مقرر تک ہے

وَكُلُّ مَنْ حَلَّ فِی الدُّنْیَا فَمُرْتَحِلٌ ۔ یَوْمًا لِمَنْزِلِهٖ فِیْ اِثْرِ مُرْتَحِلٍ
دنیا میں جتنے لوگ آئے انہیں یکے ۔ بعد دیگرے اپنی منزل کی طرف کوچ کرنا ہے

هَلَّا اعْتَبَرْتَ فَكَمْ حَلُّوْا وَكَمْ رَحَلُوْا ۔ وَاِنَّمَا النَّاسُ فِیْ حَلٍّ وَّمُرْتَحَلٍ
یہاں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے مگر تجھ کو کچھ بھی ۔ عبرت نہ ہوئی اور یہاں تو جو بھی آیا کوچ کرنے کو آیا

اِذَا تَهَجَّمَ اَمْرٌ لَا مَرَدَّ لَهٗ، ۔ لَمْ یُغْنِ عَنْكَ اَثْنَاءُ الْمَالِ وَالْخَوَلِ
جب تجھے وہ حادثہ (موت) پیش آئے گا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو مال و دولت اور حشم و دولت تجھے کچھ بھی کام نہ آئیں گے

يَقُومُ عَنْكَ الْأَطِبَّاءُ وَالصَّدِيقُ إِذَا ‏ وَقَدْ طَوَوْا صُحُفَ التَّدْبِيرِ وَالْحِيَلِ
حتیٰ کہ حکیم، ڈاکٹر اور دوست احباب (تجھے بچانے کی) ساری تدبیریں ختم کر کے تیرے پاس سے اُٹھ کھڑے ہوں گے

يُدْرِجُونَكَ فِي الْأَكْفَانِ مُنْتَزِعًا ‏ عَنْكَ الثِّيَابَ مِنَ الْأَبْرَادِ وَالْحُلَلِ
تیرے جسم سے لباسِ فاخرہ اُتار کر تجھے کفن کی چادروں میں لپیٹ دیں گے

وَيُودِعُونَكَ تَحْتَ الْأَرْضِ مُنْفَرِدًا ‏ وَيَتْرُكُونَكَ مَحْجُوبًا مِنَ الْمُقَلِ
تجھے زمین کی تہ میں تنہا چھوڑ دیں گے اور نظروں سے اوجھل کر دیں گے۔

وَقَائِلٍ مِنْهُمْ قَدْ كَانَ خَيْرَ أَبٍ ‏ وَقَائِلٍ مِنْهُمْ قَدْ كَانَ خَيْرَ وَلِي
کوئی کہے گا بڑا اچھا باپ تھا ‏ کوئی کہے گا بڑا اچھا دوست تھا

وَقَائِلٍ قَدْ حَبَاهُ اللّٰهُ مَغْفِرَةً ‏ وَقَائِلٍ طَابَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الرَّجُلِ
کوئی کہے گا اللہ مغفرت فرمائے ‏ کوئی کہے گا دنیا میں بڑی اچھی زندگی گذار گیا

فَبَعْدَ ذٰلِكَ لَا يَدْرُونَ مَا فَقَدُوا ‏ وَهَمُّهُمْ فِي اقْتِسَامِ الْإِرْثِ بِالْجَدَلِ
اور اس لفاظی (مع خرچ) کے بعد انہیں یہ بھی خبر نہ ہوگی کہ کون چلا گیا، ان کی ساری
توجہ میراث کی تقسیم میں لڑنے مرنے پر لگی ہوگی

وَبَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ فِي مُخَاصَمَةٍ ‏ وَأَنَّهُمْ كَبَيْنَ مَنْصُورٍ وَمُنْخَذِلِ
وہ ایک دوسرے سے خصومت اور مقدمہ بازی کریں گے اور پھر کوئی جیت گیا، کوئی ہار گیا

وَيَأْخُذُونَ قَرِيبًا فِي مَعَايِشِهِمْ ‏ لَا يَذْكُرُونَكَ فِي خَلْوٍ وَمُحْتَفَلِ
اور پھر بہت جلد پیٹ کے دھندے میں لگ جائیں گے، وہ تجھے خلوت و جلوت میں کبھی یاد نہیں کریں گے

يَا أَيُّهَا الْغِرُّ لَا تَغْرُرْكَ صُحْبَتُهُمْ ‏ خَيْرُ الْمَصَاحِبِ عِنْدِي صَالِحُ الْعَمَلِ
اے دھوکے میں پڑے ہوئے! ان کی مصاحبت سے دھوکہ نہ کھا سب سے اچھا مصاحب نیک عمل ہے

فِيمَ التَّغَافُلُ وَالْأَيَّامُ دَائِرَةٌ ‏ فِيمَ ... التَّكَاسُلُ وَالْأَحْوَالُ فِي حَوَلِ
دن گذر رہے ہیں آخر یہ غفلت کیوں ہے۔ ‏ حالات بدل رہے ہیں یہ سستی اور کسلمندی کیسی؟

فِيمَ الْعَوِيلُ لَدَى دَارٍ خَلَتْ وَعَفَتْ ‏ فِيمَا الْبُكَاءُ عَلَى الْآثَارِ وَالطَّلَلِ
ایسے گھر پر کیا رونا اور فریاد کرنا جو خالی ہو گیا اور جس کے نشان مٹ گئے اور یادگاروں اور کھنڈروں پر رونا کیسا!

فِيمَ التَّصَابِي وَأَيَّامُ الصِّبَا غَبَرَتْ ‏ فِيمَ النَّسِيبُ وَلَا إِبَّانَ لِلْغَزَلِ
بچپن کا وقت گذر چکا پھر یہ بچپنا کیسا! ‏ غزل گوئی کا وقت بیت گیا پھر یہ شعر و شاعری کیسی!

وَكَيْفَ تَلْعَبُ وَالْخَمْسُونَ قَدْ كَمَلَتْ ‏ وَكَيْفَ تَلْهُو وَنَارُ الشَّيْبِ فِي شُعَلِ
پچاس کی عمر ہو چکی پھر کھیل کود کا کیا مطلب؟ ‏ بڑھاپے کی آگ بھڑک گئی پھر لہو و لعب کا کیا معنی!

فَدَعْ ذِكْرَ لَيْلٰى وَلُبْنٰى وَازْدِيَارَهُمَا ‏ ثُمَّ ادَّرِعْ حَالَهُمَا مِنْ هٰذِهِ الْحُلَلِ
لیلیٰ، لبنیٰ اور ان کے وصال اور ہجر و فراق کے تذکروں کو اب جانے دے

تِلْكَ الْغَوَانِي وَإِنْ أَخْلَصْنَ خُلَّتَهَا ‏ وَاللّٰهِ لَسْنَ بَرِيئَاتٍ مِنَ الدَّخَلِ
یہ بتانِ بے وفا خواہ کتنا ہی خلوص و محبت جتائیں، مگر واللہ یہ کھوٹ سے خالی نہیں۔

حُبُّ الْحَبَائِبِ حِرْمَانٌ وَمَنْدَمَةٌ ‏ فَالْغَوْلُ عَاقِبَةٌ لِلشَّارِبِ الثَّمِلِ
ان نازنینوں کی محبت سراپا بدنصیبی ندامت ہے ‏ نشہ شراب کا انجام بدمستی و مدہوشی کے سوا اور کیا ہے

اِبْرَأْ إِلٰى كُلِّ حِبٍّ مِنْ مَحَبَّتِهِ ‏ وَثِقْ بِحُبِّ رَسُولِ اللّٰهِ وَاتَّكِلِ
ہر محبوب کی محبت سے دستبردار ہو کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتۂ الفت استوار کر اور اسی پر بھروسہ کر

هُوَ الَّذِي حُبُّهُ فَوْزٌ وَمَكْرُمَةٌ ‏ وَحُبُّهُ آيَةُ الْإِيمَانِ فَاكْتَمِلِ
آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت کامیابی، عزت و کرامت اور علامتِ ایمان ہے اس کی تکمیل کر

وَحُبُّهُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ‏ وَلَا انْفِصَامَ لِحَبْلٍ مِنْهُ مُتَّصِلِ
اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت وہ مضبوط رسی ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی اور جو رشتہ آپ سے وابستہ ہو وہ الوٹ ہے

يَا حَبَّذَا حُبُّهُ أُنْسٌ لِمُنْفَرِدٍ ‏ ذُخْرٌ لِمُدَّخِرٍ زَادٌ لِمُسْتَعِلِ
سبحان اللہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت انسان کے لئے سامانِ انسیت ہے، ذخیرہ اندوز
کے لئے بہترین ذخیرہ اور عازمِ سفر کے لئے توشہ ہے

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ اَشْكُرُ لِقَائِلِهٖ　　وَذَاكَ وَعْدٌ بِلَا خُلْفٍ وَلَا خَطَلٖ

اس فرمانِ عالی کا احسان مند ہوں جس نے فرمایا: آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کی، یہ تعلق وہ ہے جس میں کوئی دو رنگی نہیں

اُحِبُّهٗ وَلِذَا اَرْجُوْ شَفَاعَتَهٗ　　اِنَّ الْمُحِبَّ مِنَ الْمَحْبُوْبِ فِيْ اَمَلٖ

مجھے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت ہے اسی بنا پر آپکی شفاعت کا امیدوار ہوں، محب کو محبوب سے امید ہوتی ہے

سِنُّ السَّلَامِ لَهَا الْاِسْنَانُ بَاسِمَةٌ　　فَاَنْعَمَ اللّٰهُ سِنَّ السِّيْنِ بِالْقُبَلٖ

سینِ سلام کے دانت کھل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سین کے دانتوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے

شُغُلُ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامِ كَفٰى　　فَبَارَكَ اللّٰهُ لِيْ فِيْ ذٰلِكَ الشُّغُلٖ

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود و سلام بھیجنے کا شغل کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس شغل میں برکت دے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا　　عَلٰى نَبِيِّكَ طٰهٰ سَيِّدِ الرُّسُلٖ

اے اللہ! ہمیشہ ہمیشہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما　　اپنے نبی طٰہٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر

قصیدہ ۲

لَيْسَ الْغَرِيْبُ غَرِيْبَ الشَّامِ وَالْيَمَنِ　　اِنَّ الْغَرِيْبَ غَرِيْبُ اللَّحْدِ وَالْكَفَنِ

شام و یمن کا مسافر درحقیقت مسافر نہیں　　البتہ گور و کفن کا مسافر واقعۃً مسافر ہے

لَا تَنْهَرَنَّ غَرِيْبًا حَالَ غُرْبَتِهٖ　　اَلدَّهْرُ يَنْهَرُهٗ بِالذُّلِّ وَالْمِحَنِ

کسی اجنبی کو بحالتِ غربت ہرگز نہ جھڑکو　　زمانہ نے اسے ذلت و مشقت کیساتھ خود ہی جھڑک رکھا ہے

اِنَّ الْغَرِيْبَ لَهٗ حَقٌّ لِغُرْبَتِهٖ　　عَلَى الْمُقِيْمِيْنَ فِي الْاَوْطَانِ وَالسَّكَنِ

اجنبی مسافر کا حق ہے ان لوگوں پر　　جو اپنے گھر اور اوطان میں اقامت پذیر ہیں

سَفَرِيْ بَعِيْدٌ وَزَادِيْ لَنْ يُبَلِّغَنِيْ　　وَقُوَّتِيْ ضَعُفَتْ وَالْمَوْتُ يَطْلُبُنِيْ

میرا سفر آن دیکھے راستوں کا ہے میرا زادِ سفر منزل تک پہنچنے کے لئے ناکافی ہے، میری قوت کمزور ہو چکی ہے اور موت میری تلاش میں ہے

وَلِيْ بَقَايَا ذُنُوْبٍ لَسْتُ اَعْلَمُهَا　　اَللّٰهُ يَعْلَمُهَا فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ

اور میرے پاس گناہوں کا انبار ہے جو خود میرے علم میں بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اُن کے پوشیدہ اور ظاہر کو خوب جانتے ہیں۔

مَا اَحْلَمَ اللّٰهُ عَنِّيْ حَيْثُ اَمْهَلَنِيْ　　وَقَدْ تَمَادَيْتُ فِيْ ذَنْبِيْ وَيَسْتُرُنِيْ

اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھو کہ ان گناہوں کے باوجود مجھے مہلت دے رہا ہے اور میں گناہ کئے جا رہا ہوں اور وہ میری پردہ پوشی فرما رہا ہے

تَمُرُّ سَاعَاتُ اَيَّامِيْ بِلَا نَدَمٍ　　وَلَا بُكَاءٍ وَلَا خَوْفٍ وَلَا حَزَنِ

میرے زندگی کے لمحات ندامت و گریہ اور خوف و حُزن کے بغیر گذر رہے ہیں۔

اَنَا الَّذِيْ يُغْلِقُ الْاَبْوَابَ مُجْتَهِدًا　　عَلَى الْمَعَاصِيْ وَعَيْنُ اللّٰهِ تَنْظُرُنِيْ

میں وہی ہوں کہ گناہ کرتے ہوئے مکان کے دروازے اچھی طرح بند کر لیتا ہوں حالانکہ اللہ کی آنکھ مجھے تب بھی دیکھ رہی ہوتی ہے

يَا زَلَّةً كُتِبَتْ فِيْ غَفْلَةٍ ذَهَبَتْ　　يَا حَسْرَةً بَقِيَتْ فِي الْقَلْبِ تُحْرِقُنِيْ

آہ! کتنی لغزشیں غفلت میں سرزد ہو کر داستانِ ماضی بن گئیں اور کتنی حسرتیں دل میں اٹک کر میرے لئے آتشِ سوزاں بن گئیں۔

دَعْنِيْ اَنُوْحُ عَلٰى نَفْسِيْ وَاَنْدُبُهَا　　وَاَقْطَعُ الدَّهْرَ بِالتَّفْكِيْرِ وَالْحَزَنِ

مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے نفس پر نوحہ کروں　　اور زندگی فکر و غم میں بسر کروں

كَاَنَّنِيْ بَيْنَ تِلْكَ الْاَهْلِ مُنْطَرِحٌ　　عَلَى الْفِرَاشِ وَاَيْدِيْهِمْ تُقَلِّبُنِيْ

وہ منظر گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں بسترِ مرگ پر اہل و عیال کے درمیان بے جان پڑا ہوں اور اُن کے ہاتھ مجھے کروٹیں دلاتے ہیں

كَأَنَّنِي وَحَوْلِي مَنْ يَنُوحُ وَمَنْ　　يَبْكِي عَلَيَّ وَيَنْعَانِي وَيَنْدُبُنِي

ہاں وہ منظر بھی گویا میرے سامنے ہے کہ میرے گرد نوحہ گروں کی بھیڑ ہے، میری موت کا اعلان ہو رہا ہے اور مجھے مردہ حالت میں پکارا جا رہا ہے۔

وَقَدْ أَتَوْا بِالطَّبِيبِ كَيْ يُعَالِجَنِي　　وَلَمْ أَرَ الطِّبَّ الْيَوْمَ يَنْفَعُنِي

میرے علاج معالجہ کے لئے طبیب کو بلایا گیا　　لیکن آج طبیب کی چارہ گری میرے کس کام آئیگی؟

سَيَخْرُجُ الرُّوحُ مِنِّي فِي تَغَرْغُرِهَا　　وَصَارَ رِيقِي مَرِيرًا حِينَ غَرْغَرَنِي

نزع کے وقت میری روح نکل جائے گی　　اور غرغرہ کے وقت لعاب دہن تلخ ہو جائیگا

وَاشْتَدَّ نَزْعِي وَصَارَ الْمَوْتُ يَجْذِبُهَا　　مِنْ كُلِّ عِرْقٍ بِلَا رِفْقٍ وَلَا هَوَنِ

بوقتِ نزع مجھ پر شدت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور موت بغیر کسی رو رعایت کے رگ و ریشہ سے روح کو کھینچنے لگی۔

وَسُلَّ رُوحِي وَظَلَّ الْجِسْمُ مُنْطَرِحًا　　بَيْنَ الْأَهَالِي وَأَيْدِيهِمْ تُقَلِّبُنِي

لیجئے روح نکال لی گئی اور میرا جسم اہل و عیال کے درمیان بے حس و حرکت پڑا ہے اور ان کے ہاتھ مجھے الٹ پلٹ رہے ہیں

وَغَمَّضُونِي وَشَدُّوا الْحَلْقَ وَانْصَرَفُوا　　بَعْدَ الْإِيَاسِ وَجَدُّوا فِي شِرَى الْكَفَنِ

گھر کے لوگوں نے میری آنکھیں بند کر دیں، جبڑوں پر کپڑا باندھ دیا اور مایوسی کے بعد جا کر فوراً کفن خریدنے لگے

وَصَارَ مَنْ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ فِي عَجَلٍ　　نَحْوَ الْمُغْتَسَلِ يَأْتِينِي لِيُغَسِّلَنِي

جو شخص مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا وہ بڑی جلدی سے جائے غسل کی طرف لپکا اور مجھے غسل دینے کی تیاری کرنے لگا

وَأَضْجَعُونِي عَلَى الْأَلْوَاحِ مُنْطَرِحًا　　وَقَامَ فِي الْحَالِ مِنْهُمْ مَنْ يُغَسِّلُنِي

مجھے تختہ میت پر لٹا کر کچھ لوگ مجھے فوراً غسل دینے لگے

وَأَسْكَبَ الْمَاءَ مِنْ فَوْقِي وَغَسَّلَنِي　　غُسْلًا ثَلَاثًا وَنَادَى الْقَوْمَ بِالْكَفَنِ

میرے اوپر پانی ڈالا تین بار غسل دیا۔ اور لوگوں کو آواز دی: کفن لاؤ

وَأَلْبَسُونِي ثِيَابًا لَا كِمَامَ لَهَا　　وَصَارَ زَادِي حَنُوطِي حِينَ حَنَّطَنِي

اور مجھے بغیر آستینوں کے چند کپڑے پہنا دیئے اور کافور لگا دیا، لیجئے یہی کافور میرا توشہ سفر ٹھیرا

وَأَخْرَجُونِي مِنَ الدُّنْيَا فَوَا أَسَفًا　　عَلَى رَحِيلٍ بِلَا زَادٍ يُبَلِّغُنِي

اور لیجئے انہوں نے مجھے دنیا سے نکال دیا ہائے افسوس! سفر پہ جا رہا ہوں مگر نہ توشہ ہے نہ زادِ راہ

وَحَمَلُونِي عَلَى الْأَكْتَافِ أَرْبَعَةٌ　　مِنَ الرِّجَالِ وَخَلْفِي مَنْ يُشَيِّعُنِي

اور چار آدمیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھایا　　باقی لوگ رخصت کرنے کے لئے پیچھے ہوئے

وَقَدَّمُونِي إِلَى الْمِحْرَابِ وَانْصَرَفُوا　　خَلْفَ الْإِمَامِ وَصَلَّى ثُمَّ وَدَّعَنِي

مجھے جنازہ گاہ میں لائے لوگ امام کے پیچھے صف آرا ہوئے اور اس نے جنازہ پڑھ کر مجھے رخصت کر دیا

صَلَّوْا عَلَيَّ صَلَاةً لَا رُكُوعَ لَهَا　　وَلَا سُجُودَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْحَمُنِي

مجھ پر ایسی نماز پڑھی جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرمائے

وَأَنْزَلُونِي إِلَى قَبْرِي عَلَى مَهَلٍ　　وَقَدَّمُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ يُلَحِّدُنِي

اور آہستہ سے مجھے قبر میں اتار دیا　　اور ایک شخص نے مجھے لحد میں اتار دیا

وَكَشَّفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِي لِيَنْظُرَنِي　　وَأَسْبَلَ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنَيْهِ وَقَبَّلَنِي

اس نے آخری دیدار کے لئے میرا منہ کھولا　　آنکھوں سے آنسو بہائے اور مجھے چوما

فِي ظُلُمَاتِ قَبْرِي لَا أُمِّي وَلَا أَحَدٌ　　وَلَا أَبِي وَلَا أَخٌ مَنْ يُؤْنِسُنِي

اور میری تاریک قبر میں نہ میری ماں ہے نہ باپ، نہ بھائی، نہ کوئی اور جو میرا دل بہلا سکے

وَهَالَنِي إِذْ رَأَتْ عَيْنَايَ إِذْ نَظَرَتْ　　مِنْ هَوْلِ مُطَّلَعٍ إِذْ كَانَ أَفْزَعَنِي

یہ تنہائی یہ تاریکی اور یہ وحشت ہی کیا کم آفت تھی کہ اچانک میری آنکھوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا

مِنْ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ مَا اَقُوْلُ لَهُمْ   قَدْ هَالَنِيْ اَمْرُهُمْ جِدًّا فَاَفْزَعَنِيْ

یعنی منکر نکیر جیسا کہ شکل ہی خوفناک ہے اے اللہ میں ان کو کیا کہوں ان کی ہولناکی نے تو میرے ہوش و حواس گم کر دیئے

وَاَقْعَدُوْنِيْ وَجَدُّوْا فِيْ سُؤَالِهِمْ   مَالِيْ سِوَاكَ اِلٰهِيْ مَنْ يُّخَلِّصُنِيْ

انہوں نے مجھے بٹھا لیا اور سختی سے جواب طلبی کرنے لگے   بار الہا! تیرے سوا کوئی میرا نہیں جو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے

فَامْنُنْ عَلَيَّ بِعَفْوٍ مِنْكَ يَا اَمَلِيْ ،   اُمْنُنْ عَلٰى تَارِكِ الْاَوْلَادِ وَالْوَطَنِ

اے میری امید! عفو و درگذر کے ساتھ مجھ پر احسان فرما، اس غریب الوطن پر احسان فرما جو

اہل و عیال اور وطن سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا

تَقَاسَمُوْا اَهْلِيَ الْمِيْرَاثَ وَانْصَرَفُوْا   وَصَارَ وِزْرِيْ عَلٰى ظَهْرِيْ يُثْقِلُنِيْ

گھر کے لوگ واپس جا کر میری میراث بانٹنے لگے اور گناہوں کے بوجھ کی گرانباری میری پشت پر آپڑی

اِسْتَبْدَلَتْ زَوْجَتِيْ بَعْدًا لَهَا بَدَلِيْ   وَحَكَّمَتْهُ فِي الْاَمْوَالِ وَالسَّكَنِ

میری بیوی نے نیا شوہر کر لیا   اور گھر بار کا حکمراں اسے بنا دیا

وَصَيَّرَتْ اِبْنَهَا عَبْدًا لِيَخْدِمَهٗ   وَصَارَ مَالِيْ لَهُمْ حِلًّا بِلَا ثَمَنِ

اس نے اپنے بیٹے کو نئے شوہر کا غلام اور خادم بنا دیا اور میرے مال پر مال

مفت دل بے رحم کے انداز میں تصرف کیا

فَلَا تَغُرَّنَّكَ الدُّنْيَا وَزُخْرُفُهَا   اُنْظُرْ اِلٰى فِعْلِهَا بِالْاَهْلِ وَالْوَطَنِ

دنیا والو! دنیا کی زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس نے بیوی بچوں اور وطن کیساتھ

جو کچھ کیا اس پر نظر رکھو

اُنْظُرْ اِلٰى مَنْ حَوَى الدُّنْيَا بِاَجْمَعِهَا   هَلْ رَاحَ مِنْهَا بِغَيْرِ الْحَنُوْطِ وَالْكَفَنِ

دیکھو جن لوگوں نے دنیا بھر کی دولت سمیٹ رکھی تھی وہ یہاں سے کافور اور کفن

کے علاوہ بھی کچھ لے کر گئے؟

خُذِ الْقَنَاعَةَ مِنْ دُنْيَاكَ وَارْضَ لَهَا   لَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيْهَا اِلَّا رَاحَةُ الْبَدَنِ

اپنی دنیا سے زہد و قناعت لو، اسی پر راضی رہو   خواہ راحت بدن کے سوا تمہیں کچھ میسر نہ آئے

يَا نَفْسُ كُفِّيْ عَنِ الْعِصْيَانِ وَاكْتَسِبِيْ   فَضْلًا جَمِيْلًا لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْحَمُنِيْ

اے میرے نفس نافرمانی سے باز آ اور اللہ کا فضل جمیل حاصل کر اللہ تجھ پر ضرور رحم فرمائیگا

يَا نَفْسُ وَيْحَكِ تُوْبِيْ وَاعْمَلِيْ حَسَنًا   عَسٰى تُجَازَيْنَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالْحَسَنِ

اے میرے نفس تیرا برا ہو، تو اپنے گناہوں سے توبہ کر اور کوئی نیک کام کر امید ہے


تجھے نیک کام کرنے کی جزا ضرور دی جائے گی

ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُخْتَارِ سَيِّدِنَا   مَا لَاحَ ضَاءَ الْبَرْقُ فِيْ شَامٍ وَفِيْ يَمَنِ

پھر ہمارے آقا سرور کائنات پر درود بھیج   جب تک بجلیاں شام و یمن میں چمکتی رہیں

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مُمْسِيْنَا وَمُصْبِحِنَا   بِالْخَيْرِ وَالْعَفْوِ وَالْاِحْسَانِ وَالْمِنَنِ

اور صبح و شام اللہ کا شکر ادا کر جو ہمیں خیر کی توفیق دیتا، معاف کرتا اور احسان کرتا ہے



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة
مقياسا للحلال والحرام وأنار لها معالم وأعلاما
يهتدي بها المتخبطون في غياهب الديجور و
دركات الظلام وأقام لها أمة قائمين بأمر الله
لا يضرهم من خذلهم ولا يخافون في الله مضيات
الملام ثم أخلفهم في كل عصر جماعة يحفظون
الدين وينقلون الأحكام فطوبى لهم من حملة العلوم
وورثة الأنبياء العظام والصلوة والسلام على من
أرسله بالتوحيد حين ما أظلمت الدنيا بالشرك
وأحاطت بما حنا دنس الشرك ورجس الأصنام ليقيم
الملة الإبراهيمية التي بنيت على التوحيد واستيصال
عبادة الأصنام وليطهرها عن دنس الكفر ونجاسة
الأنصاب والأزلام فبين صلوات الله وسلامه عليه

أصول التوحيد وفروعه حتى صار القرآن هداية
لمن تمسك به وضل من أعرض عنه وعلى آله وأصحابه
الذين هم خلاصة العرب العرباء الذين قاموا
لرفع لواء التوحيد في الأقطار والآفاق. أما بعد
فإن كتاب الله هو أصل للشريعة ومناط للدين
القيم وأودع الله سبحانه فيه كل شيء. إني
قرأت الترجمة والتفسير على سيدنا قدوة السالكين
العلماء والعارفين مولانا حسين علي رحمة الله عليه
وكنت أجتني من قطوفه الدانية وفرائده الغالية
وواظبت على هديه وصنيعه فأجازني وألح على أن
أقوم لنشر القرآن وترجمته فتصديت وصية الشيخ
وبعد. فإن الأخ الصالح البار المولوي **أحمد علي**
بن **شاه دوست** المتوطن **پنجگور** من مضافات بلوچستان
قد دخل دار العلوم تعليم القرآن ببلدة راولبندي
التي هي مركز العلوم الدينية ومدارها ومنها
يتفجر أنهارها وبهارها في شهر... رجب المرجب سنة
سبع وثمانين بعد الألف وثلاث مائة من الهجرة النبوية
على صاحبها ألف ألف سلام وتحية... للترجمة والتفسير وأقام
عندنا شهورا عديدة يسعى ويجتهد ويعتني مما
ألقي عليه ويلتقط مما أملي عليه فالآن طلب منا الإجازة
فأجزناه حسب ما أجازني شيخي وأستاذي وأرجو منه

[illegible]

١٩٦٦

اَنْ يُقْبِلَ عَلٰی اِصْلَاحِ نَفْسِهٖ وَالْاِقْبَالِ عَلٰی دِيْنِهٖ فَكَتَبْتُ لَهٗ
هٰذِهِ الْوَرَقَةَ لِتَكُوْنَ سَنَدًا وَتَذْكِرَةً عِنْدَ مَسِّ الْحَاجَةِ وَ
اُوْصِيْهِ اَنْ يَتَّقِيَ اللهَ سِرًّا وَعَلَنًا وَيَتَّبِعَ السُّنَّةَ السَّنِيَّةَ
وَاَنْ يَنْشُرَ الْقُرْاٰنَ لَفْظًا وَمَعْنًى وَاَنْ يَصْرِفَ اَنْفَاسَ عُمْرِهٖ
فِی التَّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ فِیْ مَعَانِی الْقُرْاٰنِ وَاَنْ لَا يَجْعَلَهٗ مَطْعَمًا
وَمَطْمَعًا وَاَنْ يُشْرِكَنَا فِیْ صَالِحِ دَعْوَاتِهٖ وَاللهُ الْمُوَفِّقُ
وَالْمُعِيْنُ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

تحریرًا فی ثلاثة وعشرین من شهر رمضان المبارک
سنة سبع وثمانین بعد الالف و ثلاث مائة من الهجرة النبویة
علی صاحبها الصلاة والسلام

امضاءات المدرسین الکرام والاراکین العظام بدار العلوم

لاشیٔ
غلام الله خان

١٩٦٦

١١/٩٠

شهادة المدرسة العربية الإسلامية

علامه بنوری تاؤن کراچی ۵

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل القرآن الحكيم هدى وشفاء والسنة المحمدية نورا وضياء فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة خالصة من كل سمعة ورياء فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله النجباء وصحبه السعداء الذين جاهدوا في الله حق جهاده وفتحوا ينابيع الرشد في جميع الأرجاء ونشروا ألوية الإسلام ورايات العلوم النبوية بكل إخلاص ونشاط ولم يحل دون عزيمتهم مكابدة وعناء.

أما بعد: فإن القرآن الحكيم وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والعلوم الدينية الإسلامية المستنبطة من تلك المنابع الصافية بها قوام الدين وإصلاح نظام العالم. وبها تهذيب النفوس البشرية وتزكية القلوب وأن العلوم المصطفوية بها نجاة الأمة و

سعادتها ومنها تنشق ينابيع الحكمة والرشاد ومنها تنبع مكارم الأخلاق وبها يصلح نظام البشر في المبدأ والمعاد- وما يحتاجون إليه من نظام الأسرة والمدينة وحكومة البلاد وبها يستقيم نظام المعاشرة والاقتصاد من سياسة الممالك إلى تدبير المنزل و إصلاح العائلة وتربية الأولاد ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من إقامة العوج ولم الشعث وإصلاح الفساد وإن هذه الوراثة الدينية قصاراها أولا بالإخلاص وثانيا بالصلاح والتقوى وثالثا بكمال الكفاءة والأهلية ورابعا بالصبر على المكاره و العزيمة والثبات كما وقعت إليه الإشارة في التنزيل العزيز في سورة العصر بالآيات البينات بشهادة تاريخ البشر وأنباء العالم وحوادث الكائنات وقد أنشئت بحول الله وقوته وتوفيقه في [illegible] هذه المدرسة العربية الإسلامية في عاصمة هذه البلاد في أمل كبير لتعليم القرآن والسنة والعلوم الدينية أمام هذه المقاصد الحكيمة من غير أن يعكر صفوها آمال الدنيا الدنيئة راجين من فضل الله وكرمه أن يكللها بكل فوز وفلاح. وقد دخل هذه المدرسة أحمد على بن شاه دوست البنجكوري فمكث فيها مشتغلا بالاستفادة من سنة ١٣٨٢هـ إلى سنة ١٣٩٠هـ

وَقَرَأَ فِيهَا الْأُمَّهَاتِ الَّتِي وَغَيْرَهَا مِنَ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ الدِّينِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَفَازَ فِي الْاِمْتِحَانِ السَّنَوِيِّ النِّهَائِيِّ فِي الدَّرَجَةِ الْوُسْطٰى وَاسْتَحَقَّ أَنْ يَنَالَ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ وَنُوصِي الْأَخَ الْكَرِيمَ أَنْ يَجْعَلَ خِدْمَةَ الدِّينِ إِمَامَهُ وَالْإِخْلَاصَ نَصْبَ عَيْنَيْهِ وَأَمَامَهُ وَالتَّقْوٰى رَائِدَهُ وَالصِّدْقَ قَائِدَهُ وَالدِّينَ شِعَارَهُ وَالْعِلْمَ دِثَارَهُ وَأَنْ لَا يَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَنْ يَصْرِفَ جُهْدَهُ فِيمَا يَقْتَضِيهِ مَصَالِحُ الْعَصْرِ الدِّينِيَّةِ بِالْحِكْمَةِ وَالتَّدْبِيرِ الْمُلَائِمِ وَنَدْعُو اللهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِيَّاهُ لِمَا فِيهِ فَلَاحُ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَأَنْ يُسَدِّدَ خُطَانَا وَيُكَلِّلَ بِالنَّجَاحِ أَمَلَنَا وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَسَعَادَةٍ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

ا ل ت و ق ي ع ا ت

محمد یوسف البنوری عفا اللہ عنہ
مدیر
المدرسة العربية الاسلامية
نیوٹاؤن کراچی ٥

سید مصباح اللہ شاہ عفا اللہ عنہ

محمد ادریس غفر لہ

ولی حسن ٹونکی غفر اللہ لہ

فضل محمد عفی عنہ

محمد بدیع الزمان عفا اللہ عنہ

بسم الله الرحمن الرحيم

شهادة حسن السيرة والسلوك

تشهد ادارة المدرسة العربية الاسلامية بكراتشی ان السيد المولوی احمد علی بن شاه دوست البنجپوری (باكستان) قد درس بها ٨ سنوات وفی خلال هٰذه المدة وجد متحليًا بالأخلاق الفاضلة وذا سيرة طيبة وسلوك حسن وندعوا الله له بالتوفيق لأكثر من هٰذا

ورجاؤنا من الجهات التی يتعلق بها أمره قبول هٰذه الكلمات كشهادة منا له بحسن السيرة والسلوك مع الشكر الواجب والاحترام اللائق من الادارة.

توقيع المدير (نانا تدیلات)

۱۹۷۵



سَنَدُ القُرآنِ العَظِيمِ
بروايةِ حفص

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه الذى لم يزل بصفاته واسمائه الذى انزل الكتاب على عبده ورسوله مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عليه وسلّم وآله واصحابه الكبار أمّا بعدُ : فيقولُ العبدُ المسكينُ الملتجى الى عفوِ ربِّه البارى محمّد عبد الحق بن الحافظ المولوى محمد عبد الحفيظ خان الرامفورى (بلد من بلاد الهند) لما فتح الله سُبحانه وتعالى على العزيز الخليل القارى احمد على بن شاه دوست الفنجفورى لِقراءة القرآن قرأ علىّ ختمةً كاملةً بالنظر من أوّلها إلى آخرها برواية الحفص عن عاصم الكوفى بالتحدير والتجويد وقرأ الكتب الدراسيّة اعنى جمال القرآن وفوائد مكيّه ومقدّمة الجزريّة فاستجازنى فأجزتُه بأن يقرأ ويُقرِئ فى أىّ مكانٍ شاءَ بشروطه المعتبرة بشروطه المعتبرة عند علماء هذا الأثر كما أجازنى شيخى وأستاذى المقرى المولوى الحافظ محمّد كامل بن نعمت على خان الميرثى من مضافات بجنور

فى الهند وأجازه المقرى المولوى الشيخ عبد الله مراد آبادى وأجازه المقرى الشيخ ضياء الدين أحمد اله آبادى والشيخ المقرى عبد الرحمن المكى ثم اله آبادى وأجازه أخوه فخر العرب والعجم شيخ الشيوخ حضرة العلامة الحاج المقرى الشيخ عبد الله المكى المدرس الأول بالمدرسة الصولتية الواقعة فى مكة المكرمة قال أخذت القرآن عن الشيخ إبراهيم سعد بن على المصرى المكى وهو عن الشيخ حسن بدير وهو عن الشيخ محمدٍ المتولى وهو عن الشيخ سيد أحمد التهامى وهو عن الشيخ سلمونه وهو عن الشيخ سيد إبراهيم العبيدى وهو عن مشائخ منهم الشيخ عبد الرحمن الأجهورى وهو عن مشائخ منهم الشيخ أحمد البقرى وهو عن الشيخ محمدٍ البقرى وهو عن الشيخ عبد الرحمن اليمنى وهو عن والده الشيخ شحاذه وهو عن مشائخ منهم الشيخ ابن عبد الحق السنباطى وهو عن شيخ الإسلام زكريا الأنصارى وهو عن الشيخ رضوان العقبى وهو عن الشيخ محمدٍ النويرى وهو عن الشيخ محمدٍ الجزرى محرّر الفن وهو عن شيخ الإمام الأزهر ابن لبان وهو عن الشيخ أحمد صهر الشاطبى وهو عن الشيخ ابن الشيخ على بن هذيل وهو عن الشيخ أبى داؤد سليمان بن نجاح وهو عن عثمان أبى عمرو الدانى وهو عن أبى الحسن طاهر بن غلبون المقرى وهو عن أبى الحسن على بن محمد بن صالح الهاشمى وهو عن أبى العباس احمد بن سهل

الأشناني وهو عن أبي مُحمّد عُبَيد بن صباح وهو عن حفص صاحب الرواية وهو عن الامام عاصم بن ابى النجود التَّابِعِي وهو عن زر بن حُبَيش بن الأسدى وعن عبد الله بن حبيب أسلمى وهما عن سيدنا عثمان وعلى وزيد بن ثابت وابن مَسْعُود وأبي بن كعب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهم عن النبي الأمّي صلى الله عليه وسلم الآخذ عن جبريل الأمين عليه السلام عن الله رب العلمين عز وجل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأحبابه ومقرئ القرآن وعلى أئمة المجتهدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين ه

عبد الحق

٣٠ ربيع الثاني سنة ١٣٨٦هـ
مطابق ١٧ اگست ١٩٦٦ء

محمد يوسف البنوري عفي عنه
مدير
المدرسة العربية الاسلامية
نيو ٹاؤن كراچي ٥

ختم المدرسة



سند
برواية ورش

اجازة القراءات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى اورثنا كتابه ووفقنا لحفظه من بين عباده والصلاة والسلام على سيدنا محمد مهبط الوحي والتنزيل ومؤسس قواعد التجويد والتنزيل وعلى آله وصحبه الذين حملوا القرآن فوعوا وجاهدوا في حفظه وعلمه فرووا وبعد:


فيقول العبد الفقير الى ربه المحتاج إلى عفوه ولطفه ابراهيم بن مراد عبد الله امده الله بعونه مبعوث الأزهر الشريف لتدريس القرآن الحكيم وعلومه بباكستان ان الموفق من الله الحميد القارى احمد على بن شاه دوست الفنجغورى زاده الله حرصا وشغفا فى كتابه المجيد قد قرأ علىّ القرآن الكريم كله من اوله الى آخره برواية ورش عن الامام نافع المدنى عن طريق الشيخ الشاطبى وطلب منى الاجازة ولما وجدته أهلا لذلك فقد اجزته بان يقرأ بهذه الرواية ويقرئ غيره مراعيا

قَوَاعِدِ التَّجوِيدِ مُجتَنِبًا كُلَّ مَا يُخِلُّ بآدَابِ القِراءَاتِ مُدَاوِمًا عَلَى تِلَاوَةِ القرآنِ قَاصِدًا بِهِ وَجهَ اللهِ تَعَالَى وَأَجَزتُهُ بِأَنِّي تَلَقَّيتُ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ شُيُوخِي بِمَعهَدِ القراءات بالأزهر الشريف بِأسَانِيدِهِمِ الصَّحِيحَةِ وَأسأَلُ اللهَ تعالىٰ أَنْ يَرزُقَنَا القَبُولَ وَأَنْ يَجعَلَ جَمِيعَ أعمالنا خَالِصَةً لِوَجهِهِ الكَرِيمِ وَيُوَفِّقَنَا لِخِدمَةِ العِلمِ وَالدِّينِ وَأسأَلُكَ يَا أَخِي أَنْ لَا تَنسَانِي مِنْ صَالِحِ الدُّعَاءِ وَاللهُ حَسبُنَا وَنِعمَ الوَكِيلُ وَلَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ۔

وَآخِرُ دَعوَانَا أَنِ الحَمدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِينَ

ختم المجيز وتوقيعه
ابراهيم مراد عبد الله

ختم المجيز وتوقيعه



ختم المدرسة

ختم المدرسة



توقيع المدير
محمد يوسف البنوري عفا الله عنه

توقيع المدير

مطبوع
المدرسة العربية الاسلامية
نيو ٹاؤن کراچی نمبر ۵

بندہ نوافل کے ذریعے سے مقربینِ بارگاہ بن جاتا ہے

اولیائے امت کے متعلق ارشادِ نبوی ملاحظہ ہو۔ خداوندِ عالم اپنے بندوں کو کس قدر رحمت و رافت کی نگاہ سے دیکھتا ہے:

"إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبدًا دَعَا جِبرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرضِ" [۱]

حدیثِ قدسی نے بندگانِ الٰہی کے تقرب و تخلق (باخلاق اللہ) کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

"لَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ عَبدِي بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحبَبتُهُ كُنتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبطِشُ بِهَا وَرِجلَهُ الَّتِي يَمشِي بِهَا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعطِيَنَّهُ وَلَئِنِ استَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ" [۲]

حدیثِ قدسی۔

مَن عَادٰى لِي وَلِيًّا فَقَد	جس نے میرے دوست سے عداوت کی۔
بَارَزَنِي بِالحَربِ	اس نے میرے ساتھ اعلانِ جنگ کر دیا۔ [۳]

---

[۱] ۔ موطا امام مالک باب فی المتحابین فی اللہ ص ۷۴۵

[۲] ۔ ترجمہ: میرا بندہ نوافل کے ذریعہ قرب حاصل کرنے میں کمی نہیں کرتا یہاں تک کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ جب وہ میرا دوست بن جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چھوتا ہے اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے پورا کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں (بخاری شریف باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ فصل اول)

[۳] منقول از منصبِ امامت مصنفہ شاہ اسماعیل شہیدؒ باب اول ذکر کمالات انبیاء علیہم السلام۔

حکیم الامت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے اولیاء کرام کا تعارف کرایا ہے۔

[1] بندۂ مومن سرافیلی کند / بانگِ او ہر کہنہ را برہم زند
بندۂ صاحب نظر پیرِ اُمم / چشمِ او بینائے تقدیرِ اُمم
رَز و از اندیشۂ آں پختہ کار / حادثات اندر بطون روزگار

[2] خدا تمہیں سعادت بخشے۔ تم پر واضح ہو کہ لفظ ولی بالعموم مشہور ہے اور کتاب و سنت بھی اس کے لیے گواہ ناطق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِیَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَعِبَادًا یَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِیَاءُ وَالشُّهَدَاءُ۔ قِیْلَ مَنْ هُمْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا لَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ۔ قَالَ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ مِنْ غَیْرِ اَمْوَالٍ وَلَا کَسَابٍ وُجُوْهُهُمْ نُوْرٌ عَلٰی مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ لَا یَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا یَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ ثُمَّ تَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ

ذکر اللہ کے برکات وثمرات

اس باب میں چند نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا پیش کرنا ضروری ہے تاکہ ذکر الٰہی کی فضیلت واضح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام میں کائنات کی سعید روحوں کو اپنے تقرب کی دعوت حسب ذیل الفاظ میں دی ہے:۔

[3] فَاذْکُرُوْنِیْۤ اَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوْا لِیْ وَلَا تَکْفُرُوْنِ — پس تم میرا ذکر کرو اور تم میرا شکر ادا کرو اور کفرانِ نعمت نہ کرو۔

---

[1] ۔ مثنوی مسافر ص ۲۵۔ علامہ اقبال علیہ الرحمۃ ۔ بر مزار حضرت احمد شاہ بابا علیہ الرحمۃ

[2] ۔ حضرت علی ہجویری علیہ الرحمۃ کشف المحجوب ص ۲۴۳ مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز ۔ لاہور

[3] ۔ سورہ البقرہ آیت ۱۵۲ ، ۲ : ۱۵۲

[1] وَاذْکُرْ رَّبَّکَ کَثِیْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِیِّ وَالْاِبْکَارِ — اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام تسبیح بیان کرو۔

محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو حکم ہوتا ہے۔

[2] وَلَا تَطْرُدِ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْهَهٗ — اور جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کر، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں

وَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ

[3] اُدْعُوْا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْیَةً اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ۔ وَلَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ۔ — اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو اس کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہیں اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اسے ڈر اور طمع سے پکارو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔

[4] اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُکِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِیْمَانًا وَّعَلٰی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُوْنَ۔ — بے شک ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جائیں اور جب اس کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

---

[1] ، سورہ البقرہ ۲ آیت ۱۵۲۔

[2] سورۃ آل عمران ۳ آیت ۴۱

[3] سورۃ الانعام رکوع ۶ آیت ۵۲۔

[4] سورۃ الاعراف ۷ آیت ۵۵ ، ۵۶۔

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (سورہ نور ۲۴:۳۷)	ایسے آدمی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٭ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٭	اور جو شخص اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو اپنی طرف ہدایت کر دیتے ہیں مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے
(سورہ الرعد ۱۳، آیت ۲۷، ۲۸)	دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔

چند احادیث مقدسہ کا بھی ضمن میں شامل مقالہ کرنا موضوع زیر بحث کی توثیق و تحسین کا باعث ہوگا۔

۶ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالَى فِيهَا۔

۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي۔ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ۔ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔

علاوہ ازیں بزرگانِ ملت نے بھی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ مشہور عالم محدث حافظ ابن قیم کی تصنیف "الوابل الصیب" میں فضائل ذکر کی تعداد سو کے قریب ہے۔

۶۔ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِي وَالْبَيْهَقِي۔

۷۔ مشکوٰۃ شریف باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ فصل اول ۱۹۶ مطبع سعید ی کراچی۔

۲۔ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے
ہستی مری مٹا دے۔ خاک بے جان کر دے

۳۔ خاکساران جہان را بحقارت منگر
تو چہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

ترجمہ:۔ دنیا کے غربا، درویش لوگوں اور سادہ پوش صالحین کو نفرت کی نگاہ سے مت دیکھئے۔ تجھ کو کیا خبر ہے کہ اس گروہ میں کوئی محبوبِ خدا بھی ہو۔

۴۔ بندہ آمد از برائے بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی

ترجمہ:۔ انسان کو دنیا میں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا۔ اگر زندگی بسر کرنے والا معبودِ حقیقی کی بندگی کی اہمیت نہیں جانتا تو ایسی زندگی باعثِ شرم ہے۔

۵۔ ایں سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

ترجمہ:۔ یہ خیر و یمن انسان کی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں۔ یہ خدائے دو جہاں کی عطا ہے۔

۶۔ رنگی کو نارنگی کہیں اور دودھ کرے کو کھویا
چلتی کو گاڑی کہیں دیکھ کبیرا رویا

۷۔ قال را بگذار مردِ حال شو
پیش مردے کاملے پامال شو

ترجمہ:۔ زبان سے اظہارِ محبت کو ترک کر دے۔ تیری حالت ہی سے صاحبِ فراست معلوم کر لے کہ تو یادِ الٰہی میں مستغرق ہے۔ اور اس مجذوبانہ کیفیت کی طلب ہے تو کسی مردِ کامل کی صحبت میں طالبِ صادق بن کر زندگی بسر کر۔

۸۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

ترجمہ:۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا سو سال کی بے ریا عبادت سے اولیٰ تر ہے۔

۹۔ دوستاں را کجا کنی محروم
تو کہ با دشمناں نظر داری

ترجمہ۔ اے رب کریم۔ تو اپنے چاہنے والوں کو رحمت سے محروم نہیں رکھتا تیرا تو دستور ازل ہے کہ تو مخلوق میں اپنے نافرمانوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔

۱۰۔ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔

۱۱۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

ترجمہ۔ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے وہ کسی صورت میں اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔

۱۲۔ چشم بند و گوش بند و لب ببند
گر نہ بینی سرِ حق بر ما بخند

ترجمہ۔ آنکھیں بند کرو، لایعنی کلام سننے کی عادت چھوڑ دو اور واہی تباہی باتوں کو کرنا ترک کر دو اور نہایت توجہ سے ذکر الٰہی میں مشغول ہو جاؤ اگر اس سعی کا نتیجہ دیدارِ الٰہی پر منتج نہ ہو تو میری نصیحت کو بے شک بے سود جانو۔

۱۳۔ وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

۱۴۔ آنچہ شیراں را کند روباہ مزاج
احتیاج است احتیاج است احتیاج

ترجمہ۔ شیروں جیسے غیور انسان کو جو خوشامدی بناتی ہے وہ فقط مفلسی غریبی ہے۔

۱۵۔ خارِ ہستی کچھ سہی لیکن یہی پایا گیا
بے خبر ہنستے رہے اور باخبر رو دیا کئے

تجلیات مرشد عالم کاپی ۲۵

منجانب

مسدس از خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ

تمنائے دل ادب کاتب بشریعت حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی

تیرے سوا معبودِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں
تیرے سوا مقصودِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں
تیرے سوا موجودِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں
تیرے سوا مشہودِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں
اب تو یہی بس تا دمِ آخر وردِ زباں ہے میرے الٰہ
لا الٰہ الا اللہ لا الٰہ الا اللہ

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے
تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانۂ دل آباد رہے
سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے ترے دل شاد رہے
سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے
اب تو یہی بس تا دمِ آخر وردِ زباں ہے میرے الٰہ
لا الٰہ الا اللہ لا الٰہ الا اللہ

مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر ترا اے میرے خدا
نکلے میرے ہر بُنِ مو سے ذکر ترا اے میرے خدا
اب تو کبھی چھوٹے نہ چھوٹے ذکر ترا اے میرے خدا
حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر ترا اے میرے خدا
اب تو یہی بس تا دمِ آخر وردِ زباں ہے میرے الٰہ
لا الٰہ الا اللہ لا الٰہ الا اللہ

پہلو میں ہو جب تک دل ہے اور تن میں ہو جب تک جان رہے
لب پہ ترا ہی نام رہے اور دل میں ترا ہی دھیان رہے
جذب میں گو نہ ہوش رہے اور عقل بڑی حیران رہے
لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ مرا اک آن رہے
اب تو یہی بس تا دمِ آخر وردِ زباں ہے میرے الٰہ
لا الٰہ الا اللہ لا الٰہ الا اللہ

شیخ العرب والعجم جامع الشریعت والطریقت اعلیٰ حضرت الحاج الزاہد غلام حبیب صاحب کا جامعہ اسلامیہ عطاء العلوم شاہ جمال ضلع ڈیرہ غازیخان میں

ورود مسعود کے موقع پر نذرانہ عقیدت

[illegible]

آئینگے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک
چاک بھرنے آتا ہے چکوال سے اپنا طبیب
چار رجب چارشنبہ چودہ سو اور پانچ سن
ہجری نبوی مبارک آمد حضرت حبیب

الحمدللہ آج کتنے ہوئے فرح شد	پیر مغاں کے فیض سے خرسند و بہرہ مند
شیخ طریق دین نے کیا ہم کو ارجمند	عزت ہمارے قدس کی پہلے سے دہ چند
تشریف لائے وہ جو ہیں اللہ کو پسند	اور اسوۂ حبیب خدا پر ہیں کاربند
عشق نبی میں سوختہ ہے انکا بند بند	اللہ کا نقش دل میں بسائے ہے نقشبند
اب تا قیام مدرسہ بلا کیوں ہوں دردمند	دکھ درد دور ہو گئے کیا نصیب ہے

آیا بیمارداری کو حاذق طبیب ہے
عبد منیب ہے یہ غلام حبیب ہے

اُن کی دعائے نیم شبی میں اثر اثر	ہمت سے ان بزرگوں کی قائم ہیں بحر و بر
جود و سخاوت و مہر و مروت سے بہرہ ور	شفقت بھری نگاہ تو رحمت نظر نظر
دیں جس طرف توجہ آباد ہوں نگر	سو کے شجر ہرے ہوں تو شاخیں ثمر ثمر
ان کا کرم ہے ابر بہاراں سے بیشتر	اُن کا وجود ارد گل سے ہے خوب تر
گویا بہار آئی مدرسہ میں سر بسر	شاخوں میں برگ و بر لگیں، جھومے شجر شجر
مرد خدا کی جان! خوشی کا نقیب ہے	مرد عجیب ہے یہ دلوں کا طبیب ہے

عبد منیب ہے یہ غلام حبیب ہے

منجانب (طلبہ) قاضی شمیم (مہتمم) جامعہ اسلامیہ عطاء العلوم شاہ جمال اڈہ زکی ڈیرہ غازیخان





شهادة المدرسة العربية

سند نمبر ۱۱ سنہ [illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

أما بعد، [illegible]

[illegible] ١٣٨٢ هـ [illegible]

[illegible] الوسطى [illegible]

[illegible]

التوقيعات

[illegible]

اجازت نامہ

حضراتِ نقشبندیہ مجددیہ عثمانیہ فضلیہ

یٰاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ وَابْتَغُوْٓا اِلَیْہِ الْوَسِیْلَۃَ
وَجَاھِدُوْا فِیْ سَبِیْلِہٖ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ (پ ۶ ع ۱۰ آیت ۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اس کی طرف قریب ہونے کے لئے ذریعہ تلاش کرو اس کی راہ میں جہاد کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے۔

اَلْمُجَاھِدُ مَنْ جَاھَدَ نَفْسَہٗ فِیْ طَاعَۃِ اللّٰہِ

ترجمہ: مجاہد وہ ہے کہ جو خدا کی فرمانبرداری میں اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی حَبِیْبِہٖ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہِ الطَّیِّبِیْنَ وَاَصْحَابِہِ الطَّاھِرِیْنَ اَجْمَعِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ اَمَّا بَعْدُ: میگوید فقیر لاشی محمد عبد المالک کہ ایں عاجز خاکسار ذرہ بے مقدار در خاندانِ نقشبندیہ مجددیہ عثمانیہ فضلیہ داخل شدہ علم سلوک تمام تا دائرہ لاتعین از حضرت فیاض عالم قطب الارشاد مولانا مولوی محمد فضل علی صاحب قریشی ہاشمی عباسی حاصل نمودہ شرف لباس از آنحضرت ذاتِ فیوضہ یافتہ برائے تحقیق سلسلہ شریفہ موجود ہست پس ازیں عاجز لاشی برادر طریقت الحاج مولانا غلام حبیب صاحب ابن برکات الدین محی الدین مرحوم و مغفور را علم سلوک بہ جذب و حالات و واردات صحیحہ حاصل نمودہ برائے تعلیم اسم ذات و علم سلوک برائے طالبان حق و برائے خدمت اسلام بموجب ضرورت باراداتِ حضرت فیاض عالم اجازت دادہ شد، طالبان راہ حق جل و علا را مناسب است کہ زود فیض ظاہری و باطنی ازیں شیخ کامل حاصل نمایند و ہیچ شک و خطرہ در دل نیارند کہ جناب خلیفہ صاحب موصوف لشرفی اللہ خدمتِ اسلام و برادرانِ اسلام کنند۔

تاریخ ۲۹ ماہ شعبان المعظم ۱۳۵۲ھ یوم دوشنبہ وقت عصر
مقام احمد پور شرقیہ دستخط محمد عبد المالک صدیقی عفی عنہ بقلم خود

اجازت دہندہ محمد عبد المالک صدیقی عفی عنہ از کرہ احمد خاں احمد پور شرقیہ ریاست بہاولپور (پنجاب) حال مقیم مسکین پور شریف نزد موضع پسوندہ ڈاکخانہ ملک نگر تحصیل غازی آباد میرٹھ

اجازت نامہ حضرات نقشبندیہ مجددیہ عثمانیہ

یٰاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ وَابْتَغُوْٓا اِلَیْہِ الْوَسِیْلَۃَ وَجَاھِدُوْا
فِیْ سَبِیْلِہٖ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ (پ ۶ ع ۱۰ آیت ۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اس کی طرف پہنچنے کے لئے ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو یقیناً تم کامیاب ہوگے۔

اَلْمُجَاھِدُ مَنْ جَاھَدَ نَفْسَہٗ فِیْ طَاعَۃِ اللّٰہِ

مجاہد وہ ہے کہ جو خدا کی فرمانبرداری میں اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی حَبِیْبِہٖ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَاٰلِہِ الطَّاھِرِیْنَ وَاَصْحَابِہِ الطَّیِّبِیْنَ اَجْمَعِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ اَمَّا بَعْدُ

میگوید فقیر حقیر لاشی محمد فضل علی قریشی ہاشمی عباسی کہ ایں عاجز خاکسار ذرہ بیمقدار در خاندان نقشبندیہ مجددیہ عثمانیہ داخل شدہ علم سلوک تمام دوبارہ تا دائرہ لاتعین از حضرت قبلہ عالم حاجی حافظ مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحب دامانی حاصل نمودہ و شرف اجازت از آنحضرت قبلہ یافتہ برائے تحقیق سلسلہ شریف موجود ہست پس ازیں عاجز لاشی برادر طریقت مولوی حافظ غلام حبیب صاحب ولد غلام محی الدین ساکن کرڈھی، علم سلوک بہ جذب و حالات و واردات صحیحہ حاصل نمودہ برائے تعلیم اسم ذات و علم سلوک برائے طالبان مولیٰ و برائے خدمت اسلام بموجب ضرورت اجازت دادہ شد۔ طالبان راہِ حق جل و علیٰ را مناسب است کہ زود فیض ظاہری و باطنی ازیں شیخ کامل حاصل نمایند و ہیچ خطرہ و شک در دل نیارند کہ جناب خلیفہ صاحب موصوف لشرفی اللہ خدمت اسلام و برادرانِ اسلام کند فقط

دستخط محمد فضل علی قریشی عباسی ہاشمی۔ تاریخ ۲۹ ماہ شعبان ۱۳۵۲ھ یوم دوشنبہ
وقت قریب عصر مقام مسکین پور شریف

خاکسار ذرہ بیمقدار محمد فضل علی قریشی ہاشمی عباسی۔ از فقیر پور شریف

مؤلف کا شجرۂ نسب پیدائش ۱۹۴۴ء

احمد علی بن شاہ دوست بن ہمک بن ہرنی بن شاہ دوست بن گل محمد بن رستم میرے والد بزرگوار کے تین بھائی تھے۔ ان کے اسماء ملاحظہ ہوں: شاہ دوست، اخ بجار، لال جمعہ، گل محمد۔ میرے والدین اصلاً ایرانی ہیں اور خالص بلوچ اور شریف خاندان سے وابستہ ہیں۔ پنجگور میں ہماری نسل اس طرح سے پھیلی کہ ہمارے دادا جان ہمک جب ایران سے پنجگور تشریف لائے تو غیر خاندان میں شادی کی جس کی وجہ سے دیگر رشتہ دار ناراض ہو گئے کہ غیر کفو میں کیوں شادی کی؟ ہمارے دادا جان ایران کے خالص شریف خاندان کے بلوچ تھے اور دھقانی[1] تھے۔ جننک اور سرلوان کے باشندوں میں سے تھے۔ البتہ ہماری نانی صاحبہ اور دادی صاحبہ آسکانی تھیں، جو ایران میں ایک جگہ کا نام ہے۔ میرے چچا بجار صاحبؒ اور ان کے بڑے صاحبزادے کریم بخش بقید حیات ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا ایران کے اندر اپنی قوم و قبیلہ میں معزز شریف اور باانر لوگ تھے مؤلف کی جائے پیدائش پنجگور بلوچستان موضع تسپ ہے۔

مؤلف کی دینی تعلیم کا سبب مذہبی عشق کی بھڑکتی ہوئی آگ بنی

مؤلف کی ابتدائی تعلیم پنجگور بلوچستان سے شروع ہوئی۔ پنجگور میں مڈل اسکول عیسیٰ اور تسپ میں ہمیں اور ساتویں کلاس تک پڑھتا رہا۔ صبح کی شفٹ میں اسکول اور سہ پہر کی شفٹ میں دینی تعلیم حضرت حاجی مولانا لو صاحبؒ کے مدرسہ میں پڑھتا رہا۔ اور ان کی روحانی دعائیں بھی لیتا رہا۔ یہ اپنے وقت کے ولی صفت بزرگ تھے۔ حضرت حاجی صاحبؒ کے مدرسہ میں قرآن پاک اور فارسی پڑھتا رہا۔ اور جب ۱۹۶۲ء کو پینہ کا مرض پنجگور میں پھیلا جس سے بیشمار اموات ہوئے۔ اسی دوران میں علماء حضرات لوگوں کو وعظ و تقریر کی ترغیب دیتے رہے اس طرز والہم کے تب و تکرار میں دینی اور مذہبی ایک جوش اُٹھنے لگا اور مذہبی عشق کی آگ بھڑک گئی۔ نتیجۃً ۱۹۶۲ء کے سال رواں کے اواخر میں کراچی دکھن مسجد میں آکر مذہبی تعلیم قرآن پاک اور فارسی حضرت مولانا عبدالقادر صاحبؒ سے تکمیل کی اور پھر ۱۹۶۵ء میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی ۵ میں داخلہ لیکر آٹھ سال کا کورس پورا کیا۔ ۱۹۷۲ء کو حضرت بنوریؒ کی شفقت سے دورۂ حدیث کی تکمیل کی پھر ۱۹۷۲ء کو شادی ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت صاحب اور امیر صاحب شریعت و طریقت بھی ہوئے۔

[1] دھقانی ایران میں حاکم لوگ ہوتے تھے

سند

بروایہ ورش

اجازۃ القراءات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ الذی اورثنا کتابہ وفقہنا من بین عبادہ والصلوۃ والسلام علی سیدنا محمد صاحب الحق وتنزیلہ ومؤسس قواعد التجوید وتنزیلہ وعلی آلہ وصحبہ الذین حملوا القرآن موعوا وبلغوہ فی صفحۃ عملہ فوزوا ونعمۃ فیقول العبد الفقیر الی رحمۃ ربہ الغنی والملقب ابراہیم بن مروع عبداللہ المدرس بجامعۃ الازہر الشریف لتدریس القرآن الحکیم وعلومہ بباکستان انا وفق من اللہ الصمد تعالی لمحمد علی بن شاہ دوست البنجگوری شاد اللہ حرسا وشفقا لکتابہ المجید قد قرأ علی القرآن الکریم کلہ من اولہ الی آخرہ بروایۃ ورش عن الامام نافع المدنی من طریق الشیخ الشاطبی ووقف علی بالجہالۃ وقلتا وجدتہ اہلا لذلک فقد اجزتہ بان یقرأ ابعض دان وبہ ویقری غیرہ مراعیا قواعد التجوید مجتنبا کل ما یخل باداب القراءات مداوما علی تلاوۃ القرآن فاحداہ رحمہ اللہ تعالی واجزتہ بان تثبیت ہذہ الروایۃ من شیوخی بمعہد القراءات بالازہر الشریف باسانیدہم الصحیحۃ واسأل اللہ تعالی ان یرزقہ القبول وان یجعل جمیع اعمالنا خالصۃ لوجہہ الکریم ویوفقنا لخدمۃ العلم والدین وان یثبت باحسن الثواب من صالح الدعاء واللہ حسبنا ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

توقیع المدیر	ختم المدرسہ	ختم المجیز وتوقیعہ
المدرسۃ العربیۃ الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن کراچی		

مولانا احمد علی صاحب کی تصنیفات و تالیفات کی فہرست مع اجمالی تعارف

اس عاجز و اثیم نے ۱۹۷۰ء کو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہونے کے بعد ۱۹۷۱ء کو حضرت مولانا محمد اسحاق سندیلوی مدظلہ کی سرپرستی میں درجہ تخصص فی الفقہ میں نویسی کام کیے اور حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب نے مقالہ کی صورت میں مضامین لکھوائے تو بندہ نے سب سے پہلے ارکانِ اسلام کو مقالہ کی شکل میں لکھ کر تصحیح کرا کر ۱۹۸۰ء میں زیورِ طبع سے آراستہ کیا، جس کا نام ارکانِ اسلام رکھا گیا۔ اور اسی طرح سے کتاب الحج کو بھی بندہ نے نیو ٹاؤن میں عربی سے ترجمہ کر کے اردو میں منتقل کر دیا جس کی تصحیح حرفاً حرفاً حضرت مولانا محمد اسحٰق صاحب نے کی ہے جس طرح ارکانِ اسلام کی تصحیح فرمائی ہے اور ارکانِ اسلام کی تقریظ حضرت مفتی ولی حسن صاحب مدظلہ العالی نے کی ہے جو ۱۰۴ صفحات پر مشتمل ہے۔

انتخاب الجواہر یہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحبؒ کی تفسیر جواہر القرآن کا لبّ لباب ہے۔ جتنے اختلافی مسائل ہیں سب کی تشریح و توضیح اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب بھی ۱۹۸۰ء کو ارکانِ اسلام کے بعد چھپ گئی جو کہ ۱۳۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ انتخاب الجواہر میں علماء دیوبند کی آراء جمع کر دی گئی ہیں اختلافی مسائل میں یہی رائے ہے جو حضرت بنوری اور جو میرے پیر و مرشد کی رائے ہے

سنن المرسلین یعنی داڑھی اور انبیاء علیہم السلام کی سنتیں یہ کتاب



سند القرآن العظيم برواية حفص

۱۹۸۲ء میں چھپ گئی۔ اس میں خالصۃً داڑھی ہی کے مسائل ہیں۔ اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ سنت کا معنی طریقہ۔ چونکہ داڑھی رکھنے کا طریقہ جمیع انبیاء علیہم السلام اور صحابہ، تابعین وغیرہم سے چلا آرہا ہے ورنہ داڑھی رکھنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ بغیر داڑھی کے وہ نماز ہی کیا ہوگی (اللہ تعالیٰ بچائے) سنن المرسلین یعنی داڑھی اور انبیاء کی سنتیں جو ۱۹۲ صفحات پر مشتمل ہے

مجالس حبیب مسمّٰی بہ ارشاد المرشد | یہ کتاب ۸۰۰ صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب ہے۔ بارہ برس کی موتیاں بندہ نے اس میں پرو دیا ہے پورے قرآن پاک اور حضرت شیخ کا طرزِ بیان اس کتاب میں مکتوب ہے۔ حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ مجالسِ حبیب میں روحانیت ہی روحانیت ہے۔ اگر اس کی روحانیت اور نورانیت کسی بد ذوق کو محسوس نہ ہو تو اس کا اپنا قصور ہے۔ ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء کو محرم الحرام کے مہینہ میں چھپ گئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کتاب دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گئی ہے۔ جہاں پر حضرت شیخ کی رسائی ہے وہاں تک مجالسِ حبیب کی رسائی ہے۔

الحجج القاطعة على المسائل الخلافية | اس کتاب کی ضخامت ۱۰۸ صفحات ہے۔ شوال المکرم ۱۴۰۶ھ میں چھپ چکی ہے جو کئی رسائلِ مفیدہ پر مشتمل ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں غیر مقلدوں کا آپریشن کیا گیا ہے۔ ان رسائل کے نام جو اس کتاب میں شامل ہیں ملاحظہ ہو:
(۱) حجۃ القاطعہ یعنی دلائل السلوک (۲) توضیح عقائد علماء دیوبند (۳) عقائد و نظریاتِ اہل سنت والجماعت (۴) انتخاب السیرۃ منصور حلاج و من لمحات الانس

(۵) شرح ہفت مسئلہ (۶) نماز مکمل و مدلل (۷) اسلام اور موسیقی (۸) اوثق العریٰ فی تحقیق الجمعۃ فی القریٰ (۹) انتخاب النفائس المرغوبۃ فی حکم الدعاء بعد المکتوبۃ (۱۰) تحقیق مسئلہ تراویح (۱۱) اجتہاد و تقلید کی شرعی حیثیت (۱۲) انتخاب دلیل الخیرات فی ترک المنکرات مع خیر الصلوٰۃ فی حکم الدعاء للاموات (۱۳) مسلک علماء دیوبند۔ (نوٹ) یہ تیرہ نمبر در اصل ۱۲ پر تھا مگر غلطی سے رہ گیا۔

مجالسِ ذکر | یہ رسالہ عالمِ رؤیا میں حضرت شیخ کے حکم پر تحریر کیا گیا ہے۔ یہ رسالہ ۱۴۰۱ھ میں لکھا گیا ہے مہینہ یاد نہیں۔ کتابت سے رہ گیا ہے۔

صحبۃ الاولیاء یعنی اہل اللہ کی صحبت اور اس کے ثمرات | اس رسالہ میں صحبتِ اولیاء کرام کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث سے واضح کیا گیا ہے کہ اصلاحِ نفس فرض ہے یہ رسالہ ۱۴۰۸ھ جمادی الاول میں چھپ کر منظرِ عام پر آگیا ہے۔

شجرۂ طیبہ حبیبیہ | شجرۂ طیبہ میں بندہ نے ۹۶ صفحات سے ۱۱۲ صفحات کر دیئے ہیں۔ اس کے آخر میں مفید اضافے کر دیئے گئے ہیں۔ یہ شجرہ طیبہ کئی مرتبہ چھپ چکا ہے مگر بے ڈھنگ طریقہ پر چھپ چکا ہے نہ کوئی صحیح عنوان تھا اور نہ فہرست تھی۔ عاجز نے خالی صفحات کو عنوان دیکر پُر کیا ہے۔ اسی طرح جہاں پر عنوان نہ تھا عنوان قائم کیا۔ کتاب بے فہرست تھی مستقل اس کی فہرست تیار کی۔ خوشنما، دیدہ زیب ٹائیٹل کے ساتھ حسب الارشاد حضرت شیخ سرانجام دیا گیا۔

وصیت نامہ حضرت شیخ | یہ کراچی میں حضرت شیخ کی آخری تقریر تھی۔ دورانِ بیان پورے مجمع پر گریہ طاری تھا۔ یہ عاجز بھی رو رہا تھا۔ غرضیکہ حضرت

شیخ محمد یعقوب صاحب کے کہنے سے میں نے ترتیب دی اور رمضان المبارک ۱۴۰۹ھ م ۱۹۸۹ء کو چھپ گیا۔ وصیت نامہ یہ تو اشتہار کی شکل میں گئے کے اوپر چھپ چکا اسی مضمون کو بندہ نے رسالہ کی شکل میں "نصیحت بشکلِ وصیت" کے نام کا الگ چھپوایا۔ غرضیکہ ① وصیت نامہ۔ ② نصیحت بشکل وصیت ③ شجرۂ طیبہ باہتمام شیخ محمد یعقوب صاحب ایجوکیشنل پریس میں چھپ کر منظرِ عام میں آگئے اور یہ رسائل بلا معاوضہ جماعت کی خدمت میں پیش کر دیئے گئے

گلدستہ چہل احادیث النبوی صلے اللہ علیہ وسلم | یہ چہل احادیث کا ایک گلدستہ ہے۔ کسی بندۂ خدا کے اصرار سے رمضان المبارک ۱۴۰۹ھ میں چھپ گئی۔ پہلی مرتبہ ڈیڑھ ہزار چھپ گئی، طبع دوم میں دو ہزار چھپے

جواہر السلوک | سلوک کے جواہرات اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور یہ کتاب زیرِ طبع ہے عنقریب طبع ہو کر منظرِ عام پر آجائے گی۔

رسالہ ایصالِ صواب | یہ رسالہ ایصالِ ثواب کے ثبوت میں ہے اور معترضین کے اشکالات کے جوابات تسلی بخش طریقہ سے دیئے گئے ہیں۔ یہ رسالہ عنقریب طباعت کے زیور سے آراستہ ہو جائیگا۔ (زیرِ طبع ہے)

عالمِ برزخ | یہ رسالہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ مہتمم دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادیؒ نے عالم برزخ پر سوال کیا تھا حضرت قاری صاحبؒ نے ثبوتِ عالم برزخ کو بہترین انداز سے سمجھایا۔ اس کو بندہ نے بامرِ حضرت شیخ ۱۴۰۹ھ کو چھپوایا اور اس رسالہ کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دیا۔

نورانی قاعدہ | یہ حضرت قاری فتح محمد صاحبؒ کا ہے جس کو المکتبۃ الحبیبیہ نے ۱۴۰۹ھ میں چھپوا کر شائع کیا۔ یہ المکتبۃ الحبیبیہ حضرت شیخ مدظلہ کی طرف منسوب ہے۔ اور یہ مکتبہ کا اعزاز ہے۔

مختصر تعارف

تالیفاتِ مولانا احمد علی صاحب پنجگوری

خلیفۂ مجاز مرشدِ عالم حضرت مولانا حافظ پیر غلام حبیب شاہ صاحب نور اللہ مرقدہٗ مہتمم دار العلوم حنفیہ چکوال (پاکستان)

حقوق الوالدین (زیرِ طبع) | جس میں والدین کے حقوق کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے والدین کے حقوق کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔

ثبوتِ ایصالِ ثواب (زیرِ طبع) | اس کتاب میں ایصالِ ثواب کو از قرآن و حدیث ثابت کر دیا گیا ہے اور منکرین کے شکوک و شبہات کا دندان شکن جوابات دیئے گئے ہیں۔

گلدستۂ چہل احادیث | جس میں چالیس احادیث کا تذکرہ ہے۔ عمدہ ترین اور اہم ترین احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی احادیث، ان کا ترجمہ اور مختصر خلاصہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ پڑھنے کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی احادیث خود بخود یاد ہوتی رہتی ہیں۔

شجرۂ طیبہ (جدید اضافہ کیساتھ) شجرہ طیبہ جو برسوں سے چھپتا رہا مگر نہ صحیح عنوان قائم تھا اور نہ فہرست مضامین کا نام ونشان عاجز واثیم نے جدید اضافہ کے ساتھ اس کو شائع کیا۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ حضرت شیخ نے تو بہت ہی پسند فرمایا تھا۔

نصیحت بشکل وصیت حضرت شیخ کی کراچی کی آخری تقریر تھی جس نے پوری جماعت کو رُلایا۔ غرضیکہ شیخ محمد یعقوب صاحب کی درخواست پر بندہ عاجز واثیم نے قلم اٹھایا اس تقریر کو ترتیب دی۔ چونکہ اس کی تحریر تو دوران بیان ہی ہوچکی تھی۔ الحمد للہ یہ رسالہ پوری سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی جماعت کا پسندیدہ ہے۔ الحمد للہ جس چیز کو حضرت شیخ پسند فرماتے تھے تو وہ چیز مقبول عام بن جاتی اور ہر دل عزیز ہوجاتی۔ میری تمام تصانیف حضرت شیخ کے پسندیدہ تھیں۔ یہ رسالہ پمفلٹ کی شکل میں چھپا ہے اب اس مرتبہ اس کے مضامین میں وصیت کے متعلق چند احادیث کا اضافہ کیا گیا ہے

وصیت نامہ یہ بھی وہی "نصیحت بشکل وصیت" والا مضمون ہے البتہ اس میں اضافہ کم کیا گیا ہے اور یہ لمبے چوڑے گتے پر چھپا ہے۔ اب جدید ایڈیشن میں آپ کو دستیاب ہوگا۔ شیخ محمد یعقوب اللہ تعالیٰ ان کے اہل وعیال مال

و دولت میں برکت ڈالیں، ان کے اہتمام سے یہ چھپتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت حاجی صاحب کے لئے ان کو ذخیرۂ آخرت بنادیں آفاتِ ارضی وسماوی سے ان کی حفاظت فرمادیں۔

تشریحِ لطائف جس میں اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (پ۱۳ - رعد - ع ۴) کی تشریح اور شش اسباق کی تفصیل اور لطائف کی وضاحت کی گئی ہے۔

رسالہ اصلی گھر یعنی مراقبۂ موت و درسِ عبرت جس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ خلیفۂ حضرت تھانویؒ کے مجذوبانہ اشعار کو عاجز واثیم نے ترتیب دی ہے۔ مزید برآں عربی قصائد عمدہ ترین اور بہترین انداز سے ترتیب دی گئی ہیں۔

شجرہ خاندان نقشبندیہ مجددیہ عثمانیہ فضلیہ اس رسالہ میں تمام بزرگانِ دین جو سلسلۂ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے رہبر ورہنما تھے سب کی سنہ ولادت اور سنہ وفات درج ہے۔

مجالس حبیب مسمّٰی بہ ارشاد المرشد جس میں حضرت شیخ کے کراچی اور پنجاب کے وعظ وبیان کا قرآنی مجموعہ

ہے جو بہترین انداز سے جمع کر دیئے گئے ہیں۔ "تشریح لطائف" "گنجینۂ مجربات"، "اصلی گھر یعنی مراقبۂ موت"، "شجرۂ خاندانِ نقشبندیہ مجددیہ عثمانیہ فضلیہ" یہ سب "مجالسِ حبیب" کے اجزاء ہیں۔ مجالسِ حبیب ان سب کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ اس قدر مقبولِ خاص و عام ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گئی ہے۔

الحجج القاطعة علی المسائل الخلافیة

جس میں تصوف و سلوک پر جتنے سوالات کئے گئے ہیں سب سوالات کے جوابات از قرآن و حدیث دیئے گئے ہیں۔ اور تصوف و سلوک کو خالصۃً قرآن و حدیث سے ہی ثابت کیا گیا ہے۔ اور یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ تصوف و سلوک عین شریعت ہیں۔ یا یوں سمجھئے گا کہ شریعت ایک سیدھا راستہ ہے طریقت اس راستے پہ چلنے کا نام ہے یا یوں کہیئے گا کہ شریعت پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔

خلاصۃ المہند علی المفند

اس میں علماء دیوبند کے عقائد و نظریات درج ہیں۔ جن کی تصدیقات حرمین شریفین، دمشق، مصر، قاہرہ کے علماء و مفتیانِ کرام کر چکے ہیں اور سب کی مُہریں بھی ثبت ہیں

خلاصہ عقائد علمائے دیوبند

اس رسالہ میں علمائے دیوبند کے عقائد و نظریات پر تصدیقاتِ قدیمہ کے علاوہ تصدیقاتِ جدیدہ بھی شامل کر دیئے گئے ہیں۔ علمائے دیوبند کے جید فاضل حضرات کے فتوے بمعہ مہر موجود ھیں۔

انتخاب السیرة منصورِ حلاج ومن نفحات الانس

اس رسالہ میں منصورِ حلاج کے عقائد و نظریات کو واضح کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ علمائے متبحرین کی تحقیقات کو بھی تحریر میں لایا گیا ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ منصور اپنے زمانے کے ولی کامل تھے۔

شرح فیصلہ ہفت مسئلہ

اس رسالہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکیؒ کی تحقیق ہفت مسائل کے بارے میں جس کی تفصیل کتاب میں ملاحظہ فرمادیں۔

نماز مکمل و مدلل

یہ رسالہ تکبیر تحریمہ سے لیکر تشہد اور سلام تک کے جتنے مسائل نماز کے اندرونی یا بیرونی ہیں اور جو بھی اختلافی مسائل ہیں اور مخالفین کے سوالات ہیں سب کا دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔

خلاصۂ اسلام اور موسیقی

اس رسالہ میں موسیقی اور گانا گانے کو از روئے شرع شریف حرام ثابت کر دیا گیا ہے۔ اس سے قلب کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔

انتخاب الوثوق العری فی عدم جواز الجمعۃ فی القری اس رسالہ میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز دیہات اور قریوں میں جائز نہیں بلکہ جمعہ کی شرائط میں سے شہر کا ہونا از حد ضروری ہے

انتخاب النفائس المرغوبۃ فی حکم الدعاء بعد المکتوبۃ اس رسالہ میں ثابت کردیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد رفع یدین کے ساتھ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ السَّلَام الخ دعاء ثابت ہے اور اس کے علاوہ بھی اس سے قبل نبی علیہ السلام اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے جیسے کہ مشکوٰۃ میں تصریح ہے، ملاحظہ فرماویں

انتخاب دلیل الخیرات فی ترک المنکرات مع خیر الصلاۃ فی حکم الدعاء للاموات جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا خلاف سنت ہے۔ دفنانے کے بعد موافق سنت ہے بشرطیکہ ہاتھ اٹھانے کو کوئی ضروری نہ سمجھے اس لئے کہ غیر ضروری حکم کو ضروری سمجھنا مستقل بدعت اور گمراہی ہے۔ یہی مسلک علماءِ دیوبند کا ہے اور اس پر مفتیانِ کراچی کا فتویٰ ہے۔

رسالہ تحقیق مسئلہ تراویح جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ بیس رکعت تراویح سنتِ صحیحہ سے ثابت ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان

عشرین رکعۃ والوتر (الحدیث) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے بذات خود بیس رکعت تراویح پڑھی ہے۔

اجتہاد و تقلید کی شرعی حیثیت جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ تقلید شخصی اور تقلید غیر شخصی و اجتہاد کا بین ثبوت نص قطعی اور دلیل ظنی اور دیگر علماء حق کی توضیح سے ثابت ہے اور یہ سلسلۂ تقلید اور اجتہاد زمانۂ نبوت یعنی خیر القرون سے ہی چلا آرہا ہے کما صرح امام العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بالآیۃ الکریمۃ فَاسْئَلُوْآ اَھْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (پ۱۴ ج ع۱)

خلاصۃ "المھند علی المفند" سے لیکر "اجتہاد و تقلید کی شرعی حیثیت" تک یہ رسالے "حجۃ القاطعہ یعنی دلائل السلوک" کے اجزاء ہیں۔ "حجۃ القاطعہ" ان رسائل کے مجموعہ کا نام ہے۔

مجربات مشائخ جس میں اکابرین علماء دیوبند کے ممتاز ترین شخصیتوں کے عملیات، مجربات قلمبند کردیئے گئے ہیں۔ اسی طرح ہے حضرت مرشد عالم دیگر علماء باطن، مشائخ عظام کے مجربات بھی بطور تبرک شامل کردیئے گئے ہیں۔

گنجینۂ مجربات یہ مجالسِ حبیب کا جزو و حصہ ہے جس میں سلاسلِ اربعہ کے عاملینِ کرام اور مشائخ عظام اور علماء کرام کے روز آزمودہ نسخہ اور ورد وظائف تعویذ و گنڈے کا ایک بہترین اور مفید ترین مجموعہ ہے